

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيُزِيلُ الْعَذَابَ عَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اور تمہارے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہم چیز کارون میں بیان ہے

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُبَشِّرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ

فہارس

بیان القرآن

جلد سیزدہم

ناشر

فرید بکسٹال ۳۸۔ اردو بازار لاہور


Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



تصحیح : حافظ اختر حبیب اختر
مطبع : رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : جولائی 1431ھ / مئی 2010ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک سٹال ۳۸۔ اُردو بازار لاہور

فون نمبر ۰۹۲۔۴۲۔۷۳۱۲۱۷۳۔۷۱۲۳۴۳۵

فیکس نمبر ۰۹۲۔۴۲۔۷۲۲۴۸۹۹

ای۔میل : info@faridbookstall.com

ویب سائٹ : www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

تبیان القرآن (جلد سیزدہم)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	ماں باپ کے حصول لذت کے نتیجہ میں اولاد ہوئی پھر ان کا کیا احسان ہے؟ اس کا جواب امام رازی سے	15	5	تمہید	1
18	اس سوال کا جواب صاحب تبیان سے	16	5	تبیان القرآن کی تصنیف کی ڈاڑی	2
19	تفسیر قرطبی اور تبیان القرآن	17	6	تبیان القرآن جلد ثامن کی مفصل ڈاڑی	3
20	ہڈی کے پاک و ناپاک ہونے سے متعلق امام قرطبی کی تحقیق و دلائل اور مذہب مالکیہ کی ترجیح	18	8	تفسیر کبیر اور تبیان القرآن	4
20	ہڈی کے پاک و ناپاک ہونے سے متعلق صاحب تبیان کی تحقیق و دلائل اور مذہب احناف کی ترجیح	19	9	حصول جنت کے لیے موت کی تمنا کرنے پر یہود کے اعتراض کا جواب امام رازی سے	5
21	تفسیر روح المعانی اور تبیان القرآن	20	9	حصول جنت کے لیے موت کی تمنا پر یہود کے اعتراض کا جواب صاحب تبیان القرآن سے	6
23	انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے مدد مانگنے کے متعلق روح المعانی کی عبارت	21	10	مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے سے متعلق امام رازی کی تحقیق	7
24	انبیاء کرام و اولیاء عظام سے مدد مانگنے کے متعلق قاضی شوکانی اور نواب بھوپالی کا نظریہ	22	11	مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے سے متعلق صاحب تبیان القرآن کی تحقیق	8
24	مذکورہ صدر علماء کی عبارات پر صاحب تبیان کا محققانہ رد اور مذہب اہل سنت کی ترجیح	23	12	اہل بدر کی مغفرت سے متعلق احادیث صحیحہ پر امام رازی کی تحقیق	9
25	جدید تفاسیر اور تبیان القرآن	24	12	اہل بدر کی مغفرت سے متعلق احادیث صحیحہ پر صاحب تبیان کی بحث	10
27	اسلام کے نظریہ جہاد پر مستشرقین کا اعتراض اور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ کا جواب	25	13	فرعون کے منہ میں جبریل کے مٹی ڈالنے کی حدیث پر امام رازی کی تحقیق	11
27	نظریہ جہاد پر مستشرقین کا اعتراض اور شیخ امین احسن اصلاحی کا جواب	26	14	حدیث مذکورہ پر صاحب تبیان کی بحث و تحقیق	12
28		27	15	متقی کا مصداق کون؟ اس بارے میں امام رازی کی تحقیق	13
		17	17	متقی کے مصداق پر صاحب تبیان کی تحقیق	14

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
137	تبیان القرآن جلد پنجم (نمبر 5)	5		نظریہ جہاد پر اعتراض اور مفتی شفیع دیوبندی کا جواب	27
165	تبیان القرآن جلد ششم (نمبر 6)	6	28		
185	تبیان القرآن جلد ہفتم (نمبر 7)	7		مذکورہ صدر علماء کے جوابات پر صاحب تبیان کی بحث و نظر اور اعتراض مذکور کا مفصل جواب	28
211	تبیان القرآن جلد ہشتم (نمبر 8)	8	28		
235	تبیان القرآن جلد نہم (نمبر 9)	9		التوبہ: ۷۵ کے مصداق حضرت ثعلبہ بن حاطب ہیں یا ثعلبہ بن ابی حاطب؟ اس بارے میں معاصر مفسرین کی تحقیق	29
262	تبیان القرآن جلد دہم (نمبر 10)	10			
284	تبیان القرآن جلد یازدہم (نمبر 11)	11	32		
312	تبیان القرآن جلد دوازدہم (نمبر 12)	12	33	عنوان مذکور پر صاحب تبیان القرآن کی تحقیق	30
				صاحب تبیان کی اس مفصل تحقیق کی تائید میں راقم کی طرف سے ایک دلیل	31
			36		
				شیخ مودودی کی حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ تحقیق کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہیں	32
			38		
				صاحب تبیان کی تحقیق کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے اور شیخ مودودی کا دلائل سے رد	33
			39		
				نااہل شخص کو سند یا لائسنس جاری کرنا شہادت کا ذبہ ہے یا ظلم اور کذب؟ اس بارے میں مفتی محمد شفیع دیوبندی کی تحقیق	34
			41		
				نااہل کو سند یا لائسنس دینے سے متعلق صاحب تبیان کی تحقیق اور تحقیق مذکورہ کا دلائل سے رد	35
			42		
				نااہل شخص کو ووٹ دینا کیوں ناجائز ہے؟ اس بارے میں مفتی محمد شفیع دیوبندی کی تحقیق	36
			44		
				نااہل کو ووٹ دینے کے عدم جواز پر صاحب تبیان کی تحقیق اور تحقیق مذکور کا مدلل رد	37
			45		
				فہارس تبیان القرآن (جلد 12) مکمل	★
			47	تبیان القرآن جلد اول (نمبر 1)	1
			77	تبیان القرآن جلد دوم (نمبر 2)	2
			98	تبیان القرآن جلد سوم (نمبر 3)	3
			117	تبیان القرآن جلد چہارم (نمبر 4)	4



تمہید

شرح صحیح مسلم کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ کے قلم سیال کا ایک عظیم و قابل قدر کارنامہ ”تبیان القرآن“ ہے جو کہ قرآن حکیم کی ایک ضخیم، مبسوط اور جامع تفسیر ہے۔ علامہ صاحب نے ۱۰ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ بمطابق ۲۱ فروری ۱۹۹۳ء کو اس تفسیر کا آغاز کیا تھا اور تاحال مصروف تحریر ہیں۔ ابتداء سے سورہ بنی اسرائیل تک کی تفسیر ۶ ضخیم جلدوں کی صورت میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ سورہ الکہف سے لے کر سورہ القصص تک کی تفسیر (ساتویں اور آٹھویں جلد کی صورت میں) زیر طبع ہے۔ اور نویں جلد (از سورہ العنکبوت تا الصفت) زیر تحریر ہے۔

گذشتہ صفحات میں میں نے تفصیلی گفتگو کے ذریعے شرح صحیح مسلم کے مقام اور مرتبہ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اولاً ارادہ بھی یہی تھا کہ شرح صحیح مسلم کے مقام کو واضح کیا جائے، بعد میں خیال آیا کہ علامہ صاحب مدظلہ العالی کی تازہ ترین اور زیر تحریر تصنیف و تالیف ”تبیان القرآن“ کا بھی مختصر تعارف پیش کر دیا جائے، تاکہ احقر کی یہ تحریر علامہ صاحب کی دونوں شاہکار تصانیف کے تعارف سے آراستہ اور مزین ہو جائے۔

اصل بحث پر گفتگو سے قبل یہ بھی واضح کر دوں کہ صاحب تبیان القرآن کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی تفسیر کی ہر جلد کی مکمل تفصیل یکجا کرنے کے لئے مسودہ کے آغاز میں ایک ڈائری مرتب کی ہے، جس میں ہر جلد کے آغاز اور اختتام کی تاریخ، تصنیف کی کل مدت اور دیگر ضروری باتیں بیان کی ہیں۔ اس ڈائری سے جہاں اور دیگر باتیں معلوم ہوتی ہیں وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تفسیری کام میں تاریخ اور دنوں کا کیا تناسب ہے۔ قارئین کی معلومات کے لئے تفسیری ڈائری پیش خدمت ہے:

تبیان القرآن کی تصنیف کی ڈائری

تبیان کی جلد نمبر	فہرست اور ماخذ کے بغیر مسودہ کے صفحات	مطبوعہ صفحات	تصنیف کی کل مدت	ابتداء کی تاریخ	انتهاء کی تاریخ
۱	۹۸۸	۱۰۹۳	۵۶۱۸	۲۱-۲-۹۳	۱۰-۸-۹۵
۲	۷۹۸	۹۰۸	۵۶۱۴	۱-۹-۹۵	۱۸-۹-۹۶
۳	۶۷۹	۷۲۰	۵۶۱۲	۲۲-۱۱-۹۶	۱۸-۹-۹۷
۴	۷۰۴	۷۳۳	۵۶۱۴	۱-۱۲-۹۷	۱۴-۳-۹۹
۵	۷۹۷	۸۹۹	۵۶۱۲	۱۷-۳-۹۹	۱۵-۳-۲۰۰۰
۶	۷۵۲	۸۳۲	۵۶۱۳ دن	۱۸-۳-۲۰۰۰	۲۰-۱۲-۲۰۰۰
۷	۸۱۱		۵۶۱۵ دن	۲۸-۱۲-۲۰۰۰	۱۲-۹-۲۰۰۰
۸	۷۶۵		۵۶۱۹ تین دن	۱۷-۹-۲۰۰۱	۲۰-۶-۲۰۰۲

اسی طرح صاحب تبیان کا یہ طریقہ ہے کہ آپ تبیان القرآن کی کسی بھی جلد کو شروع کرنے سے پہلے یہ تخمینہ لگاتے ہیں کہ اس جلد میں کتنی سورتیں آئیں گی ان کی مجموعی آیات کتنی ہوں گی اور مسودہ کے مجموعی صفحات کتنے ہوں گے۔ پھر یہ تخمینہ لگاتے ہیں کہ ایک آیت کی تفسیر اوسطاً کتنے صفحات تک ہوگی پھر اس کے مطابق تفسیر لکھتے ہیں۔ کسی آیت کی تفسیر زیادہ ہو جائے تو دوسری جگہ اس میں اختصار کر کے مطلوبہ اوسط کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہ طور مثال 'تبیان القرآن جلد ثامن کی تفصیلی ڈائری ملاحظہ ہو:

تبیان القرآن جلد ثامن کی مفصل ڈائری

ہجری تقویم	دن	عیسوی تقویم	صفحات کی تعداد	صفحات کی کل تعداد	مدت	مطلوبہ اوسط ۱۰۳۹ موجودہ اوسط
۲۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ	اتوار	۱۷ ستمبر ۲۰۰۱ء				
۱۲ رجب ۱۴۲۲ھ	پیر	۳۰ ستمبر ۲۰۰۱ء	۴۶	۴۶	۱۳ دن	4.6
شعبان ۱۳ھ	بدھ	۱۳ اکتوبر ۲۰۰۱ء	۹۰	۱۳۶	ایک ماہ	2.47
رمضان ۱۴ھ	جمعہ	۳۰ نومبر ۲۰۰۱ء	۱۰۰	۲۳۶	ایک ماہ	1.57
شوال ۱۵ھ	پیر	۳۱ دسمبر ۲۰۰۱ء	۹۶	۳۳۲	//	1.23
ذیقعدہ ۱۶ھ	جمعرات	۳۱ جنوری ۲۰۰۲ء	۹۵	۴۲۷	//	1.18
ذی الحجہ ۱۴ھ	جمعرات	۲۸ فروری ۲۰۰۲ء	۵۰	۴۷۷	//	1.29
محرم ۱۴۲۳ھ ۱۶	اتوار	۳۱ مارچ ۲۰۰۲ء	۸۵	۵۶۲	ایک ماہ	1.45
صفر ۱۶ھ	منگل	۳۰ اپریل ۲۰۰۲ء	۵۶	۶۱۸	ایک ماہ	1.33
ربیع الاول ۱۸ھ	جمعہ	۳۱ مئی ۲۰۰۲ء	۷۰	۶۹۸	ایک ماہ	1.68
النور	۶۳ آیات	۲۰ جون ۲۰۰۲ء	۶۷	۷۶۵	۲۰ دن	1.40
الفرقان	۷۷ آیات					

					۲۲۷ آیات	الشعراء
					۹۳ آیات	النمل
					۸۸ آیات	القصص
					۵۲۹	المیزان

شرح صحیح مسلم کے حوالہ سے گذشتہ اوراق میں جن خصوصیات پر میں نے روشنی ڈالی ہے، وہ تمام خصائص ”تبیان القرآن“ میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً مفسر زید مجدہم نے تفسیر آیات کے ضمن میں کئی مسائل پر تحقیقی اور تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، جیسے: آیت کریمہ:

نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ. (آل عمران: ۳)

اللہ نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔

کے تحت تورات اور انجیل کا ۲۰ صفحات پر مفصل اور تحقیقی تعارف۔ (تبیان القرآن ج ۲ ص ۳۸)

آیت مبارکہ:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. (الاعراف: ۵۴)

پھر اس نے (اپنی شان کے لائق) عرش پر استواء فرمایا۔

کے تحت ۱۰ صفحات پر استواء علی العرش کی تفصیل و تحقیق (تبیان القرآن ج ۲ ص ۱۵۸)

معروف آیت مبارکہ:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

تو تم اہل علم سے پوچھا کرو اگر تم نہیں جانتے

(النحل: ۴۳)

کے تحت ۲۰ صفحات پر مسئلہ تقلید کی جامع تحقیق (تبیان القرآن ج ۶ ص ۲۳۲) وغیر ذالک۔

اسی طرح دورِ حاضر کے بعض جدید مسائل پر بھی گفتگو فرمائی ہے، مثلاً: ہوائی جہاز اور ریل گاڑی میں نماز کا حکم (تبیان القرآن ج ۱ ص ۵۳۰) لاٹری اور انعامی بانڈز کا حکم (تبیان القرآن ج ۱ ص ۸۱۶ ج ۵ ص ۷۱۳) انگریزی دواؤں اور پرفیومز کا شرعی حکم (تبیان القرآن ج ۳ ص ۳۰۰) وغیر ذالک۔

اسی طرح مذہبِ حق اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات پر بھی بکثرت دلائل پیش کئے ہیں اور مخالفین کا محققانہ اور مدلل اور مہذب رد فرمایا ہے۔ جیسے: آیت کریمہ:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحہ: ۳)

ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں

کے تحت انبیاء کرام و اولیاء عظام سے توسل و استمداد کے جواز میں ۲۲ صفحات پر تفصیلی اور تحقیقی بحث (تبیان القرآن ج ۱ ص ۱۹۵)

آیت کریمہ:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (النحل: ۲۰)

اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں

کے تحت اولیاء کرام کے حاجت روا ہونے انہیں مدد کے لیے پکارنے اور یا غوث وغیرہ کہنے کے ثبوت میں ۱۰ صفحات پر تحقیقی بحث اور

شیخ مودودی کا مدلل رد (بیان القرآن ج ۶ ص ۳۸۲)

آیت مبارکہ:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. (الاعراف: ۱۸۷)

لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب
آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کو ہے۔
کے تحت رسول اللہ ﷺ کے علم غیب اور نافع و دافع ہونے کے ثبوت میں ۴۵ صفحات پر مفصل اور مدلل بحث (بیان القرآن
ج ۴ ص ۴۴۷) وغیر ذالک من الامثال۔

اختصار کے پیش نظر، میں ذکر کردہ خصائص پر کوئی تبصرہ کئے بغیر اس مقام پر فقط بیان القرآن اور قدیم و جدید تفاسیر کے تقابلی
جائزہ کے طور پر چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی روشنی میں قارئین پر تفسیر بیان القرآن کی جامعیت اور مقام واضح ہو جائے گا۔
ہر چند کہ یہ تفسیر علماء مفسرین و محققین کی چودہ سو سالہ کاوشوں کا نچوڑ اور عمدہ تلخیص ہے، تاہم متعدد مقامات پر اس کی اباحت، معتبر اور
معروف ترین تفاسیر پر فائق نظر آتی ہیں۔ ذیل میں اس سلسلے کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

تفسیر کبیر اور بیان القرآن

تفسیر کبیر، امام المتکلمین، سند المفسرین، امام فخر الدین رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ کی لکھی ہوئی عظیم تفسیر ہے، اس کے مضامین بہت
مدلل اور محققانہ ہونے کے ساتھ ساتھ مبسوط اور مستند بھی ہیں۔ یہ تفسیر احناف کے مقابلہ میں شوافع کے لئے اور باطل فرقوں کے مقابلہ
میں جمیع اہل سنت کے لیے مایہ افتخار ہے۔ انتہائی منظم، مرتب اور سیر حاصل اباحت، اس تفسیر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس تفسیر میں امام
رازی نے زیادہ تر معتزلہ کے عقائد کا رد کیا ہے اور معتزلہ کا رد کرتے ہوئے آپ کا میلان جبریہ کی طرف ہو گیا ہے، دلائل میں منطق،
فلسفہ اور مناظرہ کا زیادہ رنگ ہے۔ عقائد میں آپ نے دہریت کا بہت رد کیا ہے اور فقہی مسائل میں فقہ شافعی کو ترجیح دی ہے اور زیادہ
تر علامہ ابو بکر جصاص حنفی کے دلائل کو ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ آیات کی تفسیر میں بہت زیادہ علمی نکات بیان کیے ہیں۔
آیات کے شان نزول میں اکثر تفسیر ابن جریر اور واحدی کی تفسیر الوسیط سے استفادہ کیا ہے۔ بلاغت کے مباحث میں اور روایات کے
درج کرنے میں علامہ زحشری کی تفسیر الکشاف کو پیش نظر رکھا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پر چونکہ عقلیات کا غلبہ زیادہ تھا اس لئے بسا
اوقات جو احادیث، خواہ صحیح ہوں ان کے نزدیک عقلی اعتراضات کا موجب ہوتی ہیں ان کو مسترد کر دیتے ہیں اور بعض اوقات بہت
ضعیف روایات کو بھی تفسیر میں ذکر فرمادیتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر صحیح احادیث وارد کرتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کی عظمت و محبت اور اہل
بیت اور صحابہ کرام کی فضیلت میں آیات سے استنباط و استخراج کرتے ہیں، تمام ائمہ کا بہت تعظیم سے ذکر کرتے ہیں۔ الغرض یہ بہت
سارے محاسن و کمالات کی جامع تفسیر ہے۔ لیکن ہماری حراما نصیبی کہ آپ اس تفسیر کو مکمل نہ فرما سکے اور قول مشہور کے مطابق سورۃ الانبیاء
تک تفسیر لکھ کر وصال فرما گئے۔ علامہ خفاجی حنفی علیہ الرحمۃ نے اسی طرح لکھا ہے۔ (کلمۃ الدارنی بدلیۃ التفسیر الکبیر ج ۱ ص ۶)

اور حاجی خلیفہ نے لکھا ہے کہ اس کو علامہ نجم الدین احمد بن محمد القموی المتوفی ۷۷۲ھ نے مکمل کیا۔ (کشف الظنون ج ۱ ص ۱۷۵۶)

هذا ما افاده صاحب التبیان لهذا الفقیر۔

بیان القرآن کے بنیادی مآخذ میں ایک اہم ماخذ یہ تفسیر بھی ہے۔ متعدد مقامات پر اس سے استفادہ کیا گیا ہے اور دلائل و
براہین کو اس کے حوالوں سے مزین کیا گیا ہے۔ تاہم بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ کئی مقامات پر صاحب بیان

القرآن نے تفسیر کبیر سے زیادہ دل آویز تفسیر کی ہے۔ اور بعض مقامات پر تفسیری نکات کے حوالہ سے امام رازی رحمہ اللہ سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اختلاف بھی فرمایا ہے۔ ذیل میں اس سلسلے کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

حصول جنت کے لیے موت کی تمنا کرنے پر یہود کے اعتراض کا جواب امام رازی سے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ (البقرہ: ۹۵-۹۴)

آپ کہہ دیجئے! اگر تمام لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لئے ہی دار آخرت (کی راحتیں) اللہ کے ہاں مخصوص ہیں تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچ کہتے ہو ۝ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے اور اللہ ظالموں کو خوب

جاننے والا ہے ۝

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک سوال قائم کیا ہے کہ یہودی پلٹ کر یہی سوال سیدنا محمد ﷺ پر کر سکتے تھے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ جنت صرف آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر آپ موت کی تمنا کر لیں اور آئیے ہم آپ کو اور آپ کی امت کو قتل کر دیتے ہیں؟

اس سوال کو قائم کرنے کے بعد خود اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں:

انہم لو قلبوا الکلام علی محمد ﷺ لزمہ ان یرضی بالقتل قلنا الفرق بین محمد علیہ السلام و بینہم ان محمدا کان یقول انی بعثت لتبلیغ الشرائع الی اهل التواتر وهذا المقصود لم یحصل بعد فلاجل هذا الارضی بالقتل واما انتم فلستم کذالك فظہر الفرق.

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۰۷، ۶۰۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)

یہی سوال پلٹ کر اگر وہ سیدنا محمد ﷺ پر قائم کرتے تو ہم جواباً یہ کہیں گے کہ سیدنا محمد ﷺ اور یہود کے درمیان (اس حوالہ سے) فرق ہے اور وہ یہ کہ سیدنا محمد ﷺ کہہ سکتے تھے کہ مجھے قیامت تک متواتر رہنے والی امت کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ مقصد اس کے بعد حاصل نہ ہوگا، اس لئے میں اپنے قتل کئے جانے پر راضی نہیں ہوں، جب کہ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا فرق واضح ہو گیا۔

امام فخر الدین رازی کا یہ جواب بلاشبہ اپنے مقام اور مرتبہ پر ہے، لیکن صاحب تبیان القرآن نے ذکر کردہ سوال کا جو جواب دیا ہے وہ بہت قابل تحسین اور لائق تعریف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

حصول جنت کے لیے موت کی تمنا پر یہود کے اعتراض کا جواب صاحب تبیان القرآن سے

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر یہودی مسلمانوں سے یہ کہیں کہ اگر تم اسلام کے دین حق ہونے اور دخول جنت کے مدعی ہو تو تم موت کی تمنا کرو، حالانکہ تم موت کی تمنا نہیں کرتے بلکہ تمہارے نبی نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صرف ہمارے نبی کے پیروکار جنت میں جائیں گے، بلکہ ہر نبی کے سچے پیروکار جنت میں جائیں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ نے دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے اور اللہ سے ملاقات، جنت اور شہادت کے حصول کے لیے موت کی تمنا کی ہے۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۲، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت واقع کر۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۴، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو بھی مرنے کے بعد ثواب مل جائے وہ دنیا میں واپس جانا نہیں چاہتا سوا شہید کے، کیونکہ شہادت کی فضیلت دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں جا کر اللہ کی راہ میں مرنا چاہتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۲، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۴۳، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ)

ان احادیث میں اس چیز کی تصریح ہے کہ اللہ سے ملاقات، جنت اور شہادت کے لئے موت کی تمنا صحیح ہے اور رسول اللہ ﷺ نے خود اور صحابہ نے یہ تمنا کی ہے، البتہ دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس نے ضرورتاً تمنا کرنی ہو تو یوں کہے اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۴۲، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ)

(تبیان القرآن ج ۱ ص ۷۶)

مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے سے متعلق امام رازی کی تحقیق

قرآن حکیم میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ دعا نقل کی گئی:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي
وَالصَّالِحِينَ. (یوسف: ۱۰۱)

اے میرے رب! تو نے مجھے یہ ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے
باتوں کے انجام کا علم سکھایا، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے
والے! تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے، مجھے اس حالت
میں وفات دے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے نیک بندوں کے

ساتھ ملا دے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی اور انہوں نے
قائدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے رب سے ملنے کی دعا کی اور ان سے پہلے کسی نبی نے موت کی دعا نہیں کی اور اکثر
مفسرین کا یہی مختار ہے، پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہر صاحب عقل زندگی کے مقابلہ میں موت کو ترجیح دے گا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں زائل

ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں، دنیا کی بڑی لذتیں کھانے، جماع کرنے اور حکومت اور اقتدار میں ہیں۔ کھانے کی لذت بہت عارضی ہے بس جتنی دیر انسان لقمہ چباتا ہے، حلق سے لقمہ نکلنے کے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہی، اور لذت جماع بھی عارضی ہے اور اس کے نتیجے میں بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں انسان تا حیات مشقت میں مبتلا رہتا ہے اور حکومت اور اقتدار کی لذت کے ساتھ ان گنت مسائل، پریشانیاں اور خطرات ہیں اور جب صاحب عقل ان معانی پر غور کرے گا تو وہ یہی تمنا کرے گا کہ حیات جسمانیہ زائل ہو جائے۔ امام رازی فرماتے ہیں: میرا بھی یہی حال ہے، میں جسمانی لذات کے معائب سے واقف ہوں اور میں چاہوں تو ان کے عیوب بیان کرنے میں بڑی ضخیم کتابیں لکھ سکتا ہوں اور اب اکثر اوقات میں، میں حضرت یوسف کی، کی ہوئی دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔

(تفسیر کبیر ج ۶ ص ۵۱۷، ۵۱۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)

مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے سے متعلق صاحب تبیان القرآن کی تحقیق

صاحب تبیان القرآن نے امام رازی کی اس تحقیق سے اختلاف کیا ہے اور اس پر دلائل دیئے ہیں کہ مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے اور یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی بلکہ یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ! جب تو میری روح کو قبض فرمائے تو حالت اسلام پر میری روح کو قبض فرمانا۔ آپ لکھتے ہیں:

میں امام رازی کے علوم و معارف اور ان کی نکتہ آفرینیوں کی گور راہ کو بھی نہیں پہنچتا، میں ان کی تحقیقات اور تدقیقات سے استفادہ کرتا ہوں، ان کے دسترخوان علم کا ایک ادنیٰ ریزہ خوار ہوں اور ان کا روحانی شاگرد ہونا اپنے لئے باعث فخر گردانتا ہوں، اس کے باوجود بھدا ب مجھے امام رازی کی اس تحقیق سے اختلاف ہے، میرے نزدیک موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی اور نہ اس کی دعا کی تھی بلکہ ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ! جب تو میری روح کو قبض فرمائے تو حالت اسلام پر میری روح کو قبض فرمانا، اس میں مرنے کی دعا نہیں ہے بلکہ تا حیات اسلام پر جینے کی دعا ہے۔

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اے اللہ! مجھ سے اسلام کو سلب نہ کرنا حتیٰ کہ مجھے موت عطا کرے، اور ابن عقیل کہتے تھے کہ حضرت یوسف نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کی موت صفت اسلام پر آئے اور اس دعا کا معنی یہ ہے کہ جب تو مجھے موت عطا فرمائے تو حالت اسلام پر موت عطا فرمانا۔

(زاد المسیر ج ۴ ص ۲۹۲، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہو تو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۷۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۰۸، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۹۷۱، سنن نسائی رقم

الحدیث: ۱۸۱۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۶۵، مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۶۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور زندگی مومن میں صرف

نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۵، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۸۱۸) (تبیان القرآن ج ۵ ص ۸۶۸)

اہل بدر کی مغفرت سے متعلق احادیث صحیحہ پر امام رازی کی تحقیق

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تمام اصحابِ نبی ﷺ کے لیے مغفرت اور بخشش کا اعلان فرمادیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب بن ابی بلتعہ کے کفار مکہ کو جنگی اقدامات سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھنے پر ان کو قتل کرنے کی اجازت چاہی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انہ قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله ان
بے شک یہ بدر میں حاضر ہوا ہے اور تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ
يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم
اہل بدر پر متوجہ ہوا اور فرمایا: تو جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا
فقد غفرت لكم۔
ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۷، صحیح مسلم فضائل الصحابہ رقم الحدیث: ۱۶۱، (۲۳۹۳)۔ (۶۲۸۳) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۵۰، سنن
ترذی رقم الحدیث: ۳۳۱۶، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۵۸۵) (بحوالہ تبیان القرآن ج ۴ ص ۷۰۰)

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے اس حدیث صحیحہ پر اشکال وارد کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ بدری صحابہ جو
چاہیں کریں تو لازم آئے گا کہ ان سے احکام شرعیہ کا مکلف ہونا ساقط ہو گیا اور کوئی عقلمند یہ بات نہیں کہے گا۔ امام رازی کے اس
اشکال سے متعلق مکمل وضاحت اور تفصیل حسب ذیل ہے:

رسول اللہ ﷺ کی امت سے قبل کسی کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جب جنگ بدر کا دن تھا تو مسلمان مال غنیمت کے
حلال ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مال غنیمت اٹھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:
لَوْ لَا كَتَبُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ
اگر پہلے سے (مال غنیمت کو حلال کرنے کا) حکم لکھا ہوا نہ ہوتا
عَذَابٌ عَظِيمٌ (الانفال: ۶۸)
تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہوتا۔

یہاں سوال یہ ہے کہ بلا اذن مال غنیمت لینے کے باوجود عذاب الہی نہ آنے کا کیا سبب تھا؟ اس کا ایک جواب جو ظاہر ہے وہ یہ
ہے کہ چونکہ لوح محفوظ میں پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس امت پر مال غنیمت حلال ہے اس وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس
کی تائید درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے بنو آدم میں سے کسی کے لئے مال غنیمت حلال
نہیں کیا گیا، آسمان سے ایک آگ نازل ہو کر مال غنیمت کو کھا جاتی تھی اور جب جنگ بدر کا دن تھا تو مسلمان مال غنیمت کے حلال
ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مال غنیمت اٹھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اگر پہلے سے (یہ حکم) لکھا ہوا نہ ہوتا تو
جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہوتا۔ (الانفال: ۶۸)

(مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۷۳۳۷، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۳ ص ۳۸۸-۳۸۷، طبع کراچی، سنن کبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۲۰۹، السننی
رقم الحدیث: ۱۰۷۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۰۶، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۶ ص ۲۹۱-۲۹۰، التمهید لابن عبد البر ج ۶ ص ۴۵۷)

ذکرہ کردہ سوال کا دوسرا جواب وہ ہے جو ابتداء میں ذکر کردہ حدیث سے ظاہر ہے، یعنی چونکہ اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام بخشش اور مغفرت کا اعلان فرمادیا تھا، اس لئے بلا اذن مال غنیمت لینے کے باوجود عذاب نازل نہیں ہوا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلا اذن مال غنیمت لینے کے باوجود عذاب الہی نہ آنے کے مذکورہ دونوں سبب صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ لیکن امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ذکر کردہ احادیث صحیحہ پر اعتراض اور اشکال وارد کیا ہے۔ پہلی حدیث (جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ذکر کی گئی) پر اعتراض وارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وهو مشكل لان تحليل الغنائم والفداء هل كان حاصلًا في ذلك الوقت او ما كان حاصلًا في ذلك الوقت؟ فان كان التحليل والاذن حاصلًا في ذلك الوقت امتنع انزال العذاب عليهم لان ما كان ماذو نافية من قبل لم يحصل العقاب على فعله وان قلنا ان الاذن ما كان حاصلًا في ذلك الوقت كان ذلك الفعل حرامًا في ذلك الوقت.

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۱۱)

دوسری حدیث پر اشکال وارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هذا ايضا مشكل لانه يقتضى ان يقال انهم ما منعوا عن الكفر والمعاصي والزنا والخمر وما هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح وذلك يوجب سقوط التكاليف عنهم ولا يقوله عاقل وايضا فلو صاروا كذلك فكيف اخذهم الله تعالى في ذلك الموضوع بعينه في تلك الواقعة بعينها وكيف وجه عليهم هذا العتاب القوي؟

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۱۲) سے ان پر عتاب کیوں آیا؟

بلا اذن مال غنیمت لینے کے باوجود عذاب نہ آنے کے جو دو سبب صحیح احادیث کی روشنی میں ذکر کئے گئے، ان پر امام رازی نے اعتراضات اور اشکالات وارد کرنے کے بعد خود ایک جواب ذکر کیا ہے، جو کہ ان کی اپنی رائے پر مبنی ہے اور اس کو معتمد بھی قرار دیا ہے (جیسا کہ عنقریب واضح ہوگا)۔ (تبیان القرآن ج ۳ ص ۷۰۰-۶۹۹، ملخصاً و موضحاً)

اہل بدر کی مغفرت سے متعلق احادیث صحیحہ پر صاحب تبیان کی بحث

صاحب تبیان القرآن نے امام رازی علیہ الرحمۃ کے احادیث صحیحہ پر وارد کردہ اشکالات کا جواب دیا ہے اور ان کے اپنی ذاتی رائے پر مبنی جواب دینے کے سلسلے میں ان سے بہت احترام کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

امام رازی کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے اور میں ان کی گوردراہ کے بھی برابر نہیں ہوں تاہم امام رازی کے اس اشکال کا جواب یہ

ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بدری صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ اپنی مغفرت کے متعلق تشویش میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کفر صادر ہونے نہیں دے گا اور گناہ کبیرہ سے بھی ان کو محفوظ رکھے گا اور اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تو مرنے سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اور ان کا بلا اجازت مال غنیمت لینا اور پھر اس کے باوجود ان پر عذاب نہ آنا تو اس حدیث کے موید اور موافق ہے کیونکہ درخت تک عذاب آنے کے باوجود ان پر اسی لیے عذاب نہیں آیا کہ وہ بدری صحابہ تھے اور لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بدری صحابہ مغفور ہیں۔ رہا یہ کہ پھر ان کو ملامت کیوں کی گئی اور عتاب کیوں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں عتاب ہونا آخرت میں مغفرت کے منافی نہیں ہے۔

امام رازی نے خود اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ازل میں یہ حکم نہ کیا ہوتا کہ وہ اس واقعہ کو معاف کر دے گا تو ان کو بڑا عذاب پہنچتا اور یہ حکم اگرچہ تمام مسلمانوں کے لئے ثابت ہے لیکن اہل بدر کی عبادات بہت عظیم تھیں۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور سیدنا محمد ﷺ کی اطاعت کی، بغیر ہتھیاروں اور تیاری کے کفار کے اپنے سے تین گنا لشکر سے مقابلہ کیا تو یہ کہنا بعید نہیں کہ وہ بلا اجازت مال غنیمت لینے کے جس گناہ کے مرتکب ہوئے اور اس گناہ کی وجہ سے وہ جس عذاب کے مستحق ہوئے وہ ان کی عبادات کے ثواب کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ان کا ثواب اس عذاب سے بہت زیادہ ہے تو اس گناہ کے معاف ہونے کی زیادہ توقع ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۱۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ پہلے دو جواب جو احادیث صحیحہ پر مبنی ہیں ان پر امام رازی نے اعتراضات کیے اور ان کو مسترد کر دیا اور جو جواب اور جو تفسیر ان کی رائے پر مبنی ہے اس کو انہوں نے معتمد قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ امام رازی کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے علم کی ان کے علم کے ساتھ وہی نسبت ہو سکتی ہے جو ذرہ کو آفتاب کے ساتھ اور قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ کہنے میں کوئی تاثر نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک اس باب میں وہی تفسیر معتمد ہے جو رسول اللہ ﷺ کی احادیث پر مبنی ہے۔ (تبیان القرآن ج ۳ ص ۷۰۰)

فرعون کے منہ میں جبریل کے مٹی ڈالنے کی حدیث پر امام رازی کی تحقیق

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے اس کا پیچھا کیا۔ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا:

اٰمَنْتُ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہٖ بَنُوۡ
اِسْرٰٓئِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیۡنَ (یونس: ۹۰)

ایمان لائے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں ○

اس واقعہ کے متعلق حدیث صحیح میں وارد ہے کہ نبی ﷺ نے ذکر فرمایا:

ان جبریل جعل یدس فی فی فرعون الطین
خشية ان يقول لا اله الا الله فيرحمه الله.
سے کہ وہ کہہ دے گا: لا اله الا الله تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۰۸، مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۲۱۵، المسند رک ج ۲ ص ۲۳۰، شعب الایمان رقم

الحدیث: ۹۳۹۱) (بحوالہ تبیان القرآن ج ۵ ص ۶۲)

حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے حسب سابق اس حدیث صحیح کے مضمون کو تسلیم نہیں کیا اور اس پر مختلف اعتراضات

وارد کئے ہیں۔ عبارت ملاحظہ ہو:

هل يصح ان جبريل عليه السلام اخذ يملا
فمه من الطين لئلا يتوب غضبا عليه. والجواب:
الاقرب انه لا يصح لان في تلك الحالة اما ان يقال
التكليف كان ثابتا او ما كان ثابتا فان كان ثابتا لم
يجز على جبريل عليه السلام ان يمنعه من التوبة
بل يجب عليه ان يعينه على التوبة وعلى كل طاعة
لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
على الاثم والعدوان وايضا فلو منعه بما ذكره
لكانت التوبة ممكنة لان الاخرس قد يتوب بان
يندم بقلبه و يعزم على ترك معاودة القبيح وحينئذ
لا يبقى لما فعله جبريل عليه السلام فائدة وايضا
لو منعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر
والرضا بالكفر كفر وايضا فكيف يليق بالله تعالى
ان يقول لموسى وهرون عليهما السلام فقولا له
قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ثم يامر جبريل عليه
السلام بان يمنعه من الايمان. (تفسير كبير ج ٦ ص ٢٩٤)

کیا یہ صحیح ہے کہ جبریل علیہ السلام فرعون پر غصہ کی وجہ سے
اس کے منہ میں مٹی بھرنے لگے تاکہ وہ توبہ نہ کر سکے؟ جواب یہ ہے
کہ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ڈوبتے وقت
فرعون ایمان لانے کا مکلف تھا یا نہیں تھا۔ اگر مکلف تھا تو جبریل
کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اس کو توبہ سے روکتے، بلکہ ان پر لازم تھا کہ
توبہ کرنے میں اس کی معاونت کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
نیکی اور پرہیزگاری کے کام پر تعاون کرو اور گناہ اور سرکشی کے کام
میں تعاون نہ کرو۔ نیز اگر جبریل امین نے فرعون کو توبہ سے روکا
ہوتا تب بھی توبہ ممکن تھی، کیونکہ گونگا آدمی بھی محض دل سے نادم ہو
کر اور برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کر کے تائب ہو جاتا ہے (یعنی
زبان سے توبہ کرنا ضروری نہیں ہے) پھر جبریل امین کے مٹی
ڈالنے کا کیا فائدہ؟ نیز اگر جبریل نے فرعون کو توبہ سے روکا ہوتا تو
(لازم آیا کہ) وہ فرعون کے کفر پر راضی ہوئے اور کسی کے کفر پر
راضی رہنا بھی کفر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے یہ لائق ہے کہ وہ
ایک طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام سے فرمائے:
تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل
کرے یا اللہ سے ڈرے (اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
چاہتا تھا کہ فرعون ایمان لے آئے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ)
دوسری طرف جبریل کو حکم فرمائے کہ فرعون کے منہ میں مٹی ڈال دو
تاکہ وہ ایمان نہ لاسکے۔

حدیث مذکور پر صاحب تبیان کی بحث و تحقیق

صاحب تبیان القرآن نے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ کے ذکر کردہ اعتراضات کا یہاں بھی جواب دیا ہے اور ان کے
حدیث صحیح سے ثابت ہونے والے مضمون کو تسلیم نہ کرنے پر ان سے اختلاف کیا ہے، آپ لکھتے ہیں:
امام رازی کے یہ اعتراضات بہت قوی ہیں لیکن ہم احادیث کا خادم ہونے کی حیثیت سے ان احادیث کا تحفظ کریں گے اور
ان کے اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ فرعون اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر کے اس
درجہ پر پہنچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پھر بھی اس کے ایمان کو قبول نہ کیا جاتا، اس لئے جبریل کو اس وقت اس کے منہ میں مٹی
ڈالنے کے لئے بھیجا تا کہ اس پر یہ واضح کر دیا جائے کہ توبہ راندہ درگاہ ہو چکا ہے اور اب تیرا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔

(تبیان القرآن ج ٥ ص ٢٦٣)

تبیان القرآن کی ساتویں جلد (جو عنقریب چھپ کر آنے والی ہے) میں بھی مفسر زید مجدہم نے امام رازی رحمہ اللہ کے اعتراض کو بیان کیا ہے اور زیادہ تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

امام رازی نے ان احادیث پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو نقل کیا گیا ہے کہ جبریل اس کے منہ میں اس خوف سے کچھ ڈال رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئے گا یہ بعید ہے کیونکہ ایمان لانے سے منع کرنا فرشتوں اور نبیوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۸ ص ۸۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی کا ان احادیث پر یہ بہت قوی اعتراض ہے لیکن چونکہ میں نے اپنی زندگی احادیث کے پڑھنے پڑھانے اور احادیث کی خدمت کرنے میں گزار دی ہے اس لئے میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ کہتا ہوں کہ فرعون اللہ تعالیٰ کی متعدد آیتوں کا انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل تکبر اور سرکشی کر کے لوگوں پر ناحق بے دریغ ظلم کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں شدید گستاخیاں کر کے اس سزا کا مستحق ہو چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پھر بھی اس کا ایمان قبول نہ کیا جاتا، اس کی نظیر وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ.

اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔

(البقرہ: ۷)

بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ بہت کم ایمان لائیں گے ○

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ○ (النساء: ۱۵۵)

اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پس وہ ایمان نہیں

وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

(التوبة: ۹۳) لائیں گے ○

اسی طرح النمل: ۱۰۸، محمد: ۱۶، الاعراف: ۱۰۰، یونس: ۷۴، الاعراف: ۱۰۱، الروم: ۵۹، المؤمن: ۳۵، التوبة: ۸۷ اور المنافقون: ۳ میں کفار و منافقین اور جاہلوں اور معاندوں کے دلوں پر مہر لگانے کا ذکر ہے۔ اسی نوح پر جبریل کو اس وقت فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے کے لیے بھیجا، تاکہ اس پر یہ واضح کر دیا جائے کہ تو اب راندہ درگاہ ہو چکا ہے اور اب تیرا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ امام رازی نے یونس: ۹۲ میں بھی اس اعتراض کا ذکر کیا ہے اور وہاں بھی میں نے اس اعتراض کا جواب لکھا ہے (تبیان القرآن ج ۵ ص ۲۶۳) لیکن یہاں پر میں نے زیادہ تحقیق کی ہے۔ (مسودہ تبیان القرآن ج ۷ ص ۲۳۵)

متقی کا مصداق کون؟ اس بارے میں امام رازی کی تحقیق

قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. (النحل: ۳۰)

اور متقین سے کہا گیا: تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟

انہوں نے کہا: اچھا (کلام)۔

اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے متقی کے معنی و مصداق پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس آیت میں متقی سے مراد وہ شخص ہے جو کفر و شرک سے بچنے والا اور کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنے والا ہو اور فی الحقیقت متقی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کفر و شرک سے بچے اور کلمہ طیبہ پر یقین رکھے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر حرام کام سے بچنے والا اور ہر نیک کام کا کرنے والا ہو۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

قاضی نے کہا کہ متقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر فعل حرام کو ترک کرنے والا اور ہر واجب کو کرنے والا ہو اور اسی کو مومن کامل کہتے ہیں۔ جب کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ متقی کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ وہ شرک سے بچے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھے۔ میں کہتا ہوں: یہ بات قاضی کے قول سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ کسی پر قاتل یا ضارب کے درست اطلاق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی کو قتل کر دے یا کسی کو مار دے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ قتل اور ضرب کی تمام انواع و اقسام کو ادا کرے تب اسے قاتل یا ضارب کہا جائے گا۔ اسی طریق پر یہ آیت بھی ہے جس میں فرمایا گیا: للذین اتقوا۔ یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا کوئی ایک کام بھی کر دے ہاں اس پر ہمارا اجماع ہے کہ متقی کے لیے کفر و شرک سے بچنا لازم ہے۔ سو اس قید پر مزید کسی اور قید کا اضافہ نہ کیا جائے ورنہ اس سے قاعدہ کلیہ کے برخلاف مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا جو کہ خلاف اصل ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے دعویٰ پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ مشرکین اور کفار کے مقابلہ میں فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ متقی سے مراد وہ شخص ہو جو کفر و شرک سے بچنے والا ہو۔

قال القاضی بدخل تحت التقوی ان یكون تارکاً لكل المحرمات فاعلاً لكل الواجبات ومن جمع بین هذین الامرین فهو مومن کامل الایمان وقال اصحابنا یرید الذین اتقوا الشرک وایقنوا انه لا اله الا الله محمد رسول الله واقول هذا اولی مما قاله القاضی لانا بینا انه یکفی فی صدق قوله فلان قاتل او ضارب کونه اتیا بقتل واحد وضرب واحد ولا یتوقف صدق هذا الکلام علی کونه اتیا بجمع انواع القتل و جمع انواع الضرب فعلی هذا قوله وقیل للذین اتقوا یتناول کل من اتی بنوع واحد من انواع التقوی الا انا اجمعنا علی ان لا بد من التقوی عن الکفر والشرک فوجب ان لا یزید علی هذا القید لانه لما کان تقييد المطلق خلاف الاصل کان تقييد المقید اکثر مخالفة للاصل وایضا فلانه تعالیٰ انما ذکر هؤلاء فی مقابلة اولئک الذین کفروا وشرکوا فوجب ان یكون المراد من اتقی عن ذالک الکفر والشرک.

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۲۰۰) ہو۔

متقی کے مصداق پر صاحب تبیان کی تحقیق

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی اس تحقیق کے برخلاف صاحب تبیان القرآن کی تحقیق یہ ہے کہ ایسا شخص جو کفر اور شرک سے بچنے والا ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہو اس کو متقی نہیں کہا جاسکتا بلکہ اس پر ”مومن“ کا اطلاق کر دینا کافی ہے اور متقی کے اطلاق کے لئے کفر و شرک سے بچنے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ مزید کچھ قیود کا اضافہ کرنا ہوگا ورنہ محض مومن اور محض متقی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آپ لکھتے ہیں:

ہماری رائے یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک سے مجتنب ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور ان میں برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں سے اتصاف کی اور قیود کا لحاظ نہ کیا جائے تو ان پر مومنین کا اطلاق کر دینا کافی ہے، لیکن جب ان پر متقین کا اطلاق کیا جائے گا تو اس میں مزید قیود کا اضافہ کرنا اور تقویٰ کے مزید افراد کا بھی لحاظ کرنا ہوگا ورنہ پھر محض مومنین اور محض متقین میں کوئی فرق نہیں رہے گا، امام رازی نے اس سلسلہ میں قاتل اور ضارب کی جو مثال دی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس مقام پر عالم اور مفتی کی مثال درست ہے، عرف میں اس شخص کو عالم نہیں کہتے جس کو صرف ایک مسئلہ کا علم ہو نہ اس شخص کو جسے تمام مسائل کا علم ہو بلکہ جس شخص کو قابل ذکر اور قابل شمار مسائل کا علم ہو اس کو عالم کہتے ہیں، اسی طرح اس کو مفتی نہیں کہتے جو کسی کو ایک مسئلہ بتا دے نہ اس کو مفتی کہتے

ہیں جو سارے جہان کے مسائل بتائے بلکہ جو قابل ذکر اور قابل شمار مسائل کا حل بتائے اس کو مفتی کہتے ہیں، اسی طرح صرف ایک بار کپڑا بیچنے والے کو بزاز اور صرف ایک بار جوتی مرمت کرنے والے کو خصاف (موچی) اور صرف ایک بار کپڑا دھونے والے کو قصار (دھوبی) نہیں کہتے اسی طرح اس شخص کو مفتی نہیں کہا جائے گا جو کفر اور شرک سے اجتناب کر کے کلمہ پڑھے اور بس! بلکہ اس شخص کو مفتی کہا جائے گا جو کفر اور شرک سے مجتنب ہو، اللہ اور رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے اور تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرے اور بشری تقاضے سے اگر اس سے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اس کا تدارک اور تلافی کر لے اور اگر انسانی کمزوری اور نفس امارہ کی لغزش سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس پر نادم ہو اور توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار رہے، تقویٰ کے مفہوم میں صرف کفر اور شرک سے اجتناب داخل نہیں ہے بلکہ نفسانی خواہشوں سے بچنا بھی تقویٰ کی حقیقت میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. (البقرہ: ۱۰۳)

اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے ثواب بہت بہتر ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقویٰ ایمان لانے کے بعد کا مرتبہ ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ڈر سے نیک کام کرنا اور برے کام ترک کرنا یہ تقویٰ ہے اور جو ایسا کرے وہ متقی ہے۔ اور جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اور جس قدر زیادہ برے کاموں سے بچے گا وہ اتنا بڑا اور کامل متقی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. (آل عمران: ۱۷۲)

مومنوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لئے اجر عظیم ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے اور احسان (نیک کام) کے بعد تقویٰ کا درجہ اور مرتبہ ہے، قرآن مجید اور احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ میں ایمان کے بعد نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی صفت کا بھی دخل ہے، تقویٰ کا پہلا مرتبہ کبیرہ گناہوں اور فرائض کے ترک سے بچنا ہے، دوسرا مرتبہ صغیرہ گناہوں اور واجبات کے ترک سے بچنا ہے، تیسرا مرتبہ مکروہات تنزیہہ اور خلاف سنت سے بچنا ہے اور چوتھا مرتبہ دنیاوی امور میں انہماک اور اشغال اور یاد الہی سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، امام رازی متقی میں کفر اور شرک سے اجتناب اور اللہ اور رسول پر ایمان کے علاوہ اور کسی قید کے اعتبار کرنے کو خلاف اصل کہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ اس میں صرف کفر اور شرک سے اجتناب کا اعتبار کیا جائے تو امام رازی کی اس تحقیق کے اعتبار سے یہ لازم آئے گا کہ جو مومن شرابی، جواری اور زانی ہو اور نماز، روزہ کا تارک ہو اس کو بھی متقی کہا جائے گا، یہ بات ہماری ناقص فہم سے بالاتر ہے، اللہ تعالیٰ امام رازی کے درجات بلند فرمائے وہ معتزلہ کے رد کی شدت میں مرحہ کی طرف چلے گئے۔

(بیان القرآن ج ۶ ص ۲۰۶)

ماں باپ کے حصول لذت کے نتیجہ میں اولاد ہوئی پھر ان کا کیا احسان ہے؟ اس کا جواب امام رازی سے

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. (الاسراء: ۲۳)

اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ والدین نے حصول لذت کے لیے ایک عمل کیا، جس کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہو گئی۔ تو پھر والدین کا اپنی اولاد پر کیا احسان اور انعام ہوا؟

اس کا جواب دیتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں:

ہب انہما فی اول الامر طلبا لذة الوقاع الا
ان الاهتمام بايصال الخيرات وفي دفع الافات
من اول دخوله في الوجود الى وقت بلوغه الكبر
اليس انه اعظم من جميع ما يتخيل من جهات
الخيرات و المبرات فسقطت هذه الشبهات.

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۲۲)

اس سوال کا جواب صاحب تبیان سے

صاحب تبیان القرآن کی تحقیق یہ ہے کہ والدین کا جنسی عمل محض حصول لذت کے لئے نہیں ہوتا، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کیا ہے، اگر ان کا یہ فعل محض حصول لذت کے لئے ہوتا اور اولاد کا حصول ان کا مقصد نہ ہوتا تو خاوند عزل کر لیتا، یا خاندانی منصوبہ بندی کے جدید طریقوں میں سے کسی طریقے کو اپنا لیتا، یا عورت اپنے حمل کا اسقاط کرا لیتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اور عملاً صاحب اولاد بھی ہوتے ہیں اور بالعموم مذکورہ طریقوں کو نہیں اپناتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مقصد عمل ازدواج سے محض حصول لذت نہیں ہے بلکہ اولاد کا حصول ہے۔

صاحب تبیان اپنے جواب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ماں باپ نے اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یا حصول لذت کے لئے ایک عمل کیا جس کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہوگئی اور اس کی پرورش کا بار ان پر پڑ گیا تو ماں باپ کا اولاد پر کون سا احسان ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کا مقصد صرف حصول لذت ہوتا تو وہ جنسی عمل کرنے کے بعد عزل کر لیتے تاکہ استقرار حمل نہ ہوتا اور اب تو خاندانی منصوبہ بندی نے بہت سارے طریقے بتا دیئے ہیں جن کے ذریعے ماں باپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اور ان کو اولاد کے جھنجھٹ میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا، لیکن جب انہوں نے ضبط تولید کے کسی طریقہ پر عمل نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد صرف حصول لذت نہیں تھا بلکہ حصول اولاد تھا، اور اس مقصد کے لئے ان کے والد نے کسب معاش کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کیا، دہری، تہری ملازمتیں کیں، اور اپنی اولاد کے کھانے پینے، لباس، دواؤں اور دیگر ضروریات زندگی کا خرچ اٹھانے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر جدوجہد کی۔ اولاد کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی، وہ خود چاہے بھوکے رہ جائیں، خواہ ان کے لئے دوا نہ ہو لیکن اولاد کے لئے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو وقت پر کھانا اور وقت پر دوا مل جائے، باپ خواہ ان پڑھ ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ماں کے اولاد پر جس قدر احسانات ہیں وہ بے حد و حساب ہیں، اگر اس کا مقصد صرف فطری تقاضا پورا کرنا ہوتا اور حصول لذت ہوتا تو وہ استقرار حمل سے پہلے اسقاط کرا سکتی تھی، وہ ایام حمل اور وضع حمل کی تکلیفیں نہ اٹھاتی، پھر وہ دو سال تک بچہ کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بول و براز کو صاف کرتی ہے، اس کے بستر کو صاف رکھتی ہے، اس کا گوہ موت اٹھاتے ہوئے اس کو کوئی گھن نہیں آتی، کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، خود گیلے بستر پر لیٹ کر اس کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے، اور یوں بالغ ہونے تک اس کی پرورش کرتی رہتی ہے۔ اگر گھر میں کھانا کم ہو تو خود بھوکی رہتی ہے اور بچوں کو کھلا دیتی ہے، غرض ماں کے اولاد پر اتنے احسانات ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور ماں باپ جو اولاد کی خدمت کرتے ہیں یہ بالکل بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے

یہ نہ کہا جائے کہ وہ اس لئے بچہ کی پرورش کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ان کا سہارا اور دست و بازو بنے گا، کیونکہ لڑکے کے متعلق تو یہ امید کی جاسکتی ہے، لڑکی کو تو اس کی شادی سے پہلے پالنا پڑتا ہے اور شادی کے بعد بھی پالنا پڑتا ہے اور لڑکا تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جوانی کی عمر تک پہنچے گا بھی یا نہیں، کسی کام کے لائق بنے گا یا نہیں، پھر پڑھا لکھا کر کسی کام کے لائق تو ماں باپ بناتے ہیں، اور یہ چیز ان کے مشاہدہ میں ہوتی ہے کہ شادی کے بعد عموماً لڑکے اپنی بیویوں کے کہنے پر چلتے ہیں اور ماں باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ نے ان کو کس طرح پالا پوسا تھا اور کس طرح اس مقام تک پہنچایا تھا، یہ سب ماں باپ کے پیش نظر ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اولاد کی بے غرض اور بے لوث خدمت اور پرورش کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی بے غرض پرورش کرتا ہے اسی طرح ماں باپ اولاد کی بے لوث پرورش کرتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے متصل ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ (تبیان القرآن ج ۶ ص ۶۸۷)

تفسیر قرطبی اور تبیان القرآن

تفسیر قرطبی علامہ ابو عبد اللہ محمد قرطبی مالکی رحمہ اللہ متوفی ۶۶۸ھ کی لکھی ہوئی معروف و مستند تفسیر ہے۔ اس میں آیات کی تفسیر میں زیادہ تر فقہی احکام کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے اس کا اصل نام ”الجامع لاحکام القرآن“ ہے۔ اس میں احادیث بھی بہت کثرت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں، مطبع دارالکتب العربی کے محقق و مخرج شیخ عبدالرزاق المہدی کی تحقیق کے مطابق اس میں کل ۶۵۵۸ احادیث ہیں جو امام قرطبی نے از خود دلائل کے طور پر پیش کی ہیں۔ اس میں صاحب تفسیر نے مالکی ہونے کے ناطے اپنے مسلک کے اثبات میں متعدد مقامات پر دلائل پیش کئے ہیں، اور ان کی بناء پر دیگر ائمہ (امام اعظم، امام شافعی اور امام احمد وغیرہم) کا رد فرمایا ہے۔ تبیان القرآن کے اولین مآخذ میں ایک اہم ماخذ یہ تفسیر بھی ہے۔ خصوصاً فقہیات کے حوالہ سے اس تفسیر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تاہم جہاں امام قرطبی نے احناف کے خلاف دلائل قائم کئے ہیں ان کا بعض مقامات پر تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے اور مذہب احناف کی برتری کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی ذیل میں ایک مثال ملاحظہ ہو:

ہڈی کے پاک و ناپاک ہونے سے متعلق امام قرطبی کی تحقیق و دلائل اور مذہب مالکیہ کی ترجیح

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مردار کی ہڈیاں پاک ہیں جس طرح اس کے بال، کھر، پٹھے اور سینگ پاک ہیں۔ (تنویر الابصار مع الدر المختار ج ۱ ص ۳۲۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت) جب کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مردار کی ہڈیاں اس کے گوشت کی طرح ناپاک ہیں۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بَيوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بَيوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ
يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَتَانًا
وَمَتَاعًا اِلٰى حِينٍ (النحل: ۸۰)

اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لئے تمہارے گھر بنائے اور
تمہارے مویشیوں کی کھالوں سے خیمے بنائے، جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ
کر سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو اور ان
(مویشیوں) کے اون اور پشم اور بالوں سے ایک معین وقت تک

فائدہ اٹھانے کے لیے گھریلو چیزیں بناتے ہو

امام قرطبی مالکی علیہ الرحمۃ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں اس حوالہ سے بحث کی ہے کہ آیا ہڈی پاک ہے یا

ناپاک؟ چنانچہ وہ اپنا اور احناف کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام ذکرہ الحنفیون فی العظم والسن
والقرن انه مثل الشعر فالمشهور عندنا ان ذلك
نجس كاللحم وقال ابن وهب مثل قول ابی
حنيفة ولنا قول ثالث هل تلحق اطراف القرون
والاظلاف باصولها او بالشعر قولان وكذا لك
الشعری من الریش حكمه حكم الشعر والعظمی
منه حكمه حكمه. (تفسیر قرطبی ج ۵، ج ۱۰، ص ۱۳۱)

جو کچھ احناف نے ذکر کیا ہے کہ ہڈی، دانت اور سینگ
بالوں کی طرح ہے، اس سلسلے میں ہمارا مشہور قول یہ ہے کہ جس طرح
مردار کا گوشت نجس ہے اسی طرح ہڈی وغیرہ بھی نجس ہے۔ ابن
وہب نے بھی امام ابو حنیفہ کی مثل قول کیا ہے۔ ہمارا اس سلسلے میں
ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سینگوں اور کھروں کے اطراف کو ان کی
جڑوں کے ساتھ ملایا جائے گا یا نہیں، اس بارے میں دو قول ہیں۔
اسی طرح پروں والے شعری (بالوں والے) جانوروں کے اعضاء کا
حکم ان کے بالوں کی طرح ہے اور ان میں ہڈیوں والے جانوروں
کے اعضاء کا حکم ان کی ہڈیوں کی طرح ہے۔

احناف اور امام مالک کے موقف کی وضاحت کے بعد امام قرطبی نے اپنے موقف پر قرآن و سنت سے دلائل پیش کئے ہیں۔
ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (یسین: ۷۸)

اس (کافر) نے کہا جب ہڈیاں گل کر بوسیدہ ہو چکی ہوں گی
تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ O

وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا
لَحْمًا. (البقرہ: ۲۵۹)

اور ان ہڈیوں کو دیکھو ہم کس طرح ان کو جوڑتے ہیں پھر کس
طرح ان کو گوشت پہناتے ہیں۔

فَخَلَقْنَا الْمُضْفَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا.

پھر ہم نے گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر
گوشت پہنایا۔ (المومنون: ۱۳)

ء إِذَا كُنَّا عِظْمًا نَّخِرَةً (النزعت: ۱۱)

کیا جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے O
ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس طرح چمڑے اور گوشت میں حیات ہوتی ہے اسی طرح ہڈیوں میں بھی حیات ہوتی ہے۔ اور

مرنے کے بعد باقی جسم کی طرح ہڈیاں بھی نجس ہو جاتی ہیں۔

اور حدیث میں ہے:

عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ کا مکتوب آیا کہ مردار کی کھال اور پٹھوں سے نفع
حاصل نہ کرو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۲۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۲۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۱۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث:
۱۰۴، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۱) (القرطبی، بحوالہ تبیان القرآن ج ۶ ص ۵۳۲، ۵۳۱)

ہڈی کے پاک و ناپاک ہونے سے متعلق صاحب تبیان کی تحقیق و دلائل اور مذہب احناف کی ترجیح

آیت مذکورہ کے تحت صاحب تبیان نے مضبوط دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مردار کی ہڈی پاک ہے اور احناف کا
موقف اس سلسلے میں بہت قوی ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نے ہڈی کے نجس ہونے پر بہت دلائل پیش کیے ہیں۔ ہم پہلے ہڈی کے پاک ہونے پر دلائل پیش کریں گے اس کے بعد علامہ قرطبی مالکی کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔

متعدد احادیث آثار صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ ہاتھی دانت سے بنی ہوئی کنگھی کا استعمال کرتے تھے اگر ہڈی نجس ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہڈی سے بنی ہوئی کنگھی کو استعمال نہ فرماتے۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہاتھی دانت سے بنی ہوئی کنگھی تھی جس سے آپ کنگھی کرتے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۷۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ، سبل الہدیٰ والرشاد ج ۷ ص ۴۳۶)

امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث ذکر کی ہے اس کے آخر میں ہے:

رسول اللہ ﷺ کے آزاد شدہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں (آخر میں ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ثوبان! (سیدتنا) فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کے لیے سوتی پٹی کا ایک ہار خریدو اور ہاتھی دانت کے دو کنگن خریدو۔ (ج ۱ ص ۲۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو بستر پر جاتے تو اپنے وضو کا پانی اور مسواک اور کنگھی رکھتے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو رات کو اٹھاتا تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور کنگھی کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہاتھی دانت کی ایک کنگھی تھی جس سے آپ کنگھی کرتے تھے۔

(السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۶، مطبوعہ نشر السنن ملتان)

امام بیہقی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے کیونکہ ہڈی نجس ہوتی ہے۔ علامہ ترکمانی نے کہا ہے کہ امام بیہقی نے اپنے مذہب کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ بیان کرتے ہیں:

زہری نے کہا جب تک پانی کا ذائقہ اس کی بویا اس کا رنگ متغیر نہ ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حماد نے کہا مردار پرندے کے پر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زہری نے کہا مردار جانوروں مثلاً ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے بہت زیادہ علماء متقدمین کو دیکھا وہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی کنگھیوں سے کنگھی کرتے تھے اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے برتنوں میں تیل رکھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور ابن سیرین اور ابراہیم نے کہا ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الوضوء باب: ۶۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "قُلْ لَا آجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ" (الانعام: ۱۴۵) رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا مردار کی ہر چیز حلال ہے سوا اس چیز کے جس کو کھایا جاتا ہے اس کی کھال اس کا سینگ اس کے بال اس کے دانت اور اس کی ہڈی یہ تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا (اس لئے اس کا گوشت حلال نہیں ہے)۔

امام دارقطنی نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۱۱۷، ۱۱۲) امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ابو بکر الہذلی کی بناء پر اعتراض کیا ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۲۳) تاہم تعدد اسانید کی وجہ سے اس کا ضعف مضعف نہیں ہے۔

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں:

ہڈی، سینگ اور بال وغیرہ مردار نہیں ہیں کیونکہ عرف شرع میں مردار ان حیوانات کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کے مر گئے ہوں یا جن کو کسی نے بغیر ذبح کے مار کر ان کی حیات زائل کر دی ہو اور بال اور ہڈی وغیرہ میں حیات نہیں ہوتی لہذا وہ مردار نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مردار کی نجاست مردار کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو بہنے والا خون اور نجس رطوبات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے مردار نجس ہوتا ہے اور بال اور ہڈی میں خون اور رطوبات نہیں ہوتیں اس لئے بال اور ہڈی نجس نہیں ہیں۔

علامہ قرطبی مالکی نے ہڈی میں حیات کے ہونے پر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَوِيمٌ (یسین: ۷۸) اس (کافر) نے کہا جب ہڈیاں گل کر بوسیدہ ہو چکی

ہوں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟

علامہ زخسری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ ہڈیوں میں حیات ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کی ہڈیاں نجس ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیوان کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی مردہ ہو جاتی ہیں اور مردہ نجس ہوتا ہے لہذا ہڈیاں بھی نجس ہیں اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہڈیاں پاک ہیں، اسی طرح بال بھی پاک ہیں اور اس آیت میں ہڈیوں کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے زندہ انسان کے جسم میں ہڈیاں صحیح و سالم تھیں ان کو دوبارہ اصل حالت میں کون لائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا تھا اور اس کے جسم میں صحیح و سالم ہڈیاں بنائی تھیں وہی دوبارہ انسان کو ہڈیوں سمیت پیدا فرمائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرنے سے مراد ہے ہڈیوں والے انسان کو زندہ کرنا، اور کفار کو دراصل اسی میں شبہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار نے کہا ان بوسیدہ ہڈیوں والوں کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہڈیوں والوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ”العظام“ سے مراد ہے: ”اصحاب العظام“۔ (البحر الرائق ج ۱ ص ۱۰۹، ۱۰۸ ملخصاً مطبوعہ کوئٹہ) (تبیان القرآن ج ۶ ص ۵۳۶، ۵۳۵، ۵۳۴)

تفسیر روح المعانی اور تبیان القرآن

روح المعانی، علامہ ابوالفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۷۰ھ کی لکھی ہوئی مبسوط اور معتمد تفسیر ہے۔ اس کا مکمل نام ”روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع الثانی“ ہے۔ یہ ایک جامع اور کامل تفسیر ہے۔ ادب و بلاغت، فقہ و تصوف، منطق و فلسفہ اور دیگر کئی علوم و فنون کی جزئیات و مسائل اس تفسیر کا حصہ ہیں۔

علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں متعدد مقامات پر تفسیر آیات کے ضمن میں حضور نبی اکرم نور مجسم ﷺ کے مقام و مرتبہ اور شان و عظمت کو اجاگر کیا ہے اور گستاخان رسول ﷺ کی گستاخیوں سے بچانے کے لیے امت کو صحیح راستہ دکھلایا ہے۔ تاہم بعض مقامات پر آپ کی تفسیر میں ایسی عبارات ملتی ہیں جن سے بد مذہب عناصر کو تقویت ملتی ہے۔ جیسے معروف آیت:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرہ: ۱۵۴)

بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں

کے تحت آپ کی تفسیر میں یہ عبارت موجود ہے کہ جو شہداء کرام کئی سو سال پہلے شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ

جب ان کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی تو ان کے زخموں اور خون کو تروتازہ پایا گیا، یہ تمام باتیں خرافات اور ناقابل تسلیم ہیں۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۵۷۴، مطبوعہ مکتبہ حقانیہ پشاور)

میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ علامہ سید آلوسی علیہ الرحمۃ کی عبارت نہیں ہو سکتی، نہ وہ دریدہ دہن اور بے ادب تھے۔ آپ نہایت خوش عقیدہ، صحیح العقیدہ اور سنی عالم و مفسر تھے۔ اس کا اور اس طرح کی دیگر عبارات کا اصل سبب وہ ہے جو صاحب تبیان القرآن نے مقدمہ تفسیر میں علامہ بہانی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ علامہ سید محمود آلوسی کا ایک پوتا نعمان آلوسی تھا، جو شیخ ابن عبد الوہاب نجدی اور شیخ ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر تھا اور اس نے علامہ آلوسی کی تفسیر کے بعض مقامات میں تحریف کر دی ہے۔

(تبیان القرآن ج ۱ ص ۱۳۲)

اس واضح ترین سبب کی بنیاد پر علامہ آلوسی کی تفسیر میں بعض عبارات ایسی ملتی ہیں جن سے بدعقیدگی کی بو آتی ہے اور انہی کو وہابی دیوبندی حضرات، عقائد اہل سنت کے خلاف بنیاد بناتے ہیں۔ چونکہ تبیان القرآن کا ایک بنیادی ماخذ یہ تفسیر بھی ہے اس لئے صاحب تبیان نے ایسے مواقع پر روح المعانی کی عبارات کا رد کیا ہے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کے عقائد کو ثابت کیا ہے۔ اور چونکہ مخالفین علامہ سید محمود آلوسی کا حوالہ دے کر روح المعانی کی ظاہر عبارت سے استدلال کرتے ہیں اس لئے مفسر زید مجدہم نے مقام رد میں نعمان آلوسی کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ علامہ سید محمود آلوسی ہی کے حوالہ سے ان عبارات کا رد کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ان علماء کا بھی رد کیا ہے جو حقیقتہً بدعقیدگی پھیلانے والے ہیں۔ ذیل میں اس سلسلے کی ایک مثال پیش خدمت ہے:

انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے مدد مانگنے کے متعلق روح المعانی کی عبارت

سورہ یونس کی آیت: ۲۲، جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے فرمایا کہ جب تم اپنی کشتیوں میں محسوس ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے جا رہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں اور اچانک ان کشتیوں پر تیز آندھی آئے اور سمندر کی موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ طوفان میں پھنس چکے ہیں، اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اسی کو پکارتے ہیں (اور اسی سے دعا کرتے ہیں)۔

اس آیت کے تحت روح المعانی میں کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کل بعض لوگ مصیبت کے وقت ان کو پکارتے ہیں جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے۔ بعض خضر اور الیاس کو پکارتے ہیں اور بعض ابوالخمیس اور عباس کو پکارتے ہیں اور بعض لوگ کسی امام یا شیخ کو پکارتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا، نہ صرف اسی کو نجات دینے والا جانتے ہیں، گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جو حالت بیان فرمائی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدھے راستے پر کون ہے؟ اس زمانہ میں جہالت کی جو آندھی چل چکی ہے، گمراہی کی موجیں زور پکڑ چکی ہیں، شریعت کی کشتی بکھر چکی ہے اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے، ان تمام کو ہم اللہ عزوجل پر چھوڑتے ہیں (کہ وہی فیصلہ فرمادے) اور ایسی صورت حال میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اہل معرفت پر بہت مشکل ہو گیا ہے۔ (روح المعانی جز ۱۱ ص ۱۳۰، مطبوعہ مکتبہ حقانیہ پشاور)

انبیاء کرام و اولیاء عظام سے مدد مانگنے کے متعلق قاضی شوکانی اور نواب بھوپالی کا نظریہ

قاضی محمد شوکانی اور نواب صدیق بھوپالی نے یونس: ۲۹ کی تفسیر میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا سختی سے رد کیا ہے۔ وہ لکھتے

ہیں:

اس آیت میں بہت بڑی نصیحت اور سخت تنبیہ ہے ان لوگوں کے لئے جن کا وطیرہ اور عادت بن چکی ہے کہ جب ان پر ایسی مصیبتیں آتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا، تو یہ رسول اللہ ﷺ کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ یہ تو اس پروردگار کی شان ہے جس نے انبیاء و صالحین اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، انہیں رزق دیا، انہیں زندگی بخشی اور انہیں وفات دے گا۔ تو کسی نبی یا فرشتہ سے مدد طلب کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جب کہ وہ خود اس سے عاجز ہے اور پھر یہ کہ جو سب کا رب ہے ہر چیز پر قادر ہے، خالق ہے، رزق دینے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے اور روکنے والا ہے اس سے مدد مانگنا چھوڑ دیا جائے! اب کس قدر تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان مردوں کی قبروں سے چمٹتے ہیں جو مٹی کے ڈھیر کے نیچے چلے گئے اور ان سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور پورا نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کیوں اس چیز سے بیدار نہیں ہوتے کہ وہ شرک میں پڑے جا رہے ہیں اور اس پر متنبہ نہیں ہوتے کہ ان کے اس فعل سے لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم اور ”قل هو اللہ احد“ کے مدلول کی مخالفت لازم آتی ہے۔

وفي هذه اعظم واعظ وابلغ زاجر لمن صار
دید نہ و هجیراه المناداة لرسول الله ﷺ و
هالاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على
دفعها الا الله سبحانه فان هذا مقام رب العالمين
الذي خلق الانبياء والصلحين وجميع المخلوقين
رزقهم واحياهم ويميتهم فكيف يطلب من نبى من
الانبياء او ملك من الملائكة او صالح من
الصلحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه و يترك
الطلب لرب الارباب القادر على كل شيء الخالق
الرازق المعطى المانع.

فيا عجايبا يعكفون على قبور الاموات الذين
قد صاروا تحت اطباق الثرى و يطلبون منهم من
الحوائح مالا يقدر عليه الا الله عزوجل، كيف لا
يتيقظون لما وقعوا به من الشرك ولا ينتبهون لما
حل بهم من المخالفة لمعنى لا اله الا الله، مدلول
قل هو الله احد. (فتح القدير ج ۲ ص ۶۳۱، مطبوعه دارالوفاء بيروت،
فتح البيان ج ۳ ص ۲۴۵، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

مذکورہ صدر علماء کی عبارات پر صاحب تبیان کا محققانہ رد اور مذہب اہل سنت کی ترجیح

صاحب تبیان القرآن نے روح المعانی کی ذکر کردہ عبارت اور قاضی شوکانی اور نواب صدیق بھوپالی کے ذکر کردہ نظریہ کا دلائل کے ساتھ رد کیا ہے اور اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچایا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے مدد طلب کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ یونس: ۲۲ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں:

علامہ آلوسی کا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد کو بالکل ناجائز قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن بھوپالی کا مشکلات میں فوت شدہ بزرگوں سے استمداد کو شیطانی معتقدات قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے بشمول صحابہ کرام بکثرت صالحین امت کے عقائد کو شیطانی قرار دینا لازم آئے گا۔

امام محمد بن اثیر جزری متونی ۶۳۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو لکارا پھر مسلمانوں کے معمول کے مطابق پکارا یا محمد اہ پھر وہ جس شخص کو بھی لکارتے اس کو قتل کر دیتے۔ (اکامل فی التاريخ ج ۲ ص ۲۳۶، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۲۲)

امام ابن ابی شیبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کرانا کا تبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے ”اے

اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔ (المصنف ج ۱۰ ص ۳۹۰، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۰۶ھ)
خود علامہ محمد بن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

امام بزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب تم میں سے کسی شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے ”اے اللہ کے بندو! اس کو روک لو“ کیونکہ زمین میں اللہ کے لئے کچھ روکنے والے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں۔ (کشف الاستار عن زوائد البزار ج ۴ ص ۳۴) اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ موصلی (مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۶۹) امام طبرانی (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۵۱۸) اور امام ابن السنی (عمل الیوم واللیلہ ص ۱۶۲، مطبوعہ حیدرآباد دکن) نے روایت کیا ہے۔ علامہ البیہقی نے کہا اس میں ایک راوی معروف بن حسان ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲) علامہ نووی نے اس حدیث کو امام ابن السنی کی کتاب سے نقل کرنے کے بعد کہا مجھ سے بعض بہت بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی۔ ان کو اس حدیث کا علم تھا انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس سواری کو روک دیا اور ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا ہمارے ساتھ جو سواری تھی وہ بھاگ گئی سب اس کو روکنے سے عاجز آگئے میں نے یہ کلمات کہے تو اسی وقت وہ سواری بغیر کسی سبب کے رک گئی۔ (الاذکار ص ۲۰۱)

امام طبرانی نے حضرت عتبہ بن غزو ان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے اور وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے ”اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو“ کیونکہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ (المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۱۸-۱۱۷) حافظ البیہقی نے کہا ہے کہ یہ امر مجرب ہے اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے باوجود اس کے کہ بعض میں ضعف ہے البتہ زید بن علی نے عتبہ کو نہیں پایا۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲) اور امام بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک کرانا کاتبین کے سوا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی کو جنگل کی زمین میں کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کو چاہیے وہ بلند آواز سے کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ (کشف الاستار عن زوائد البزار رقم الحدیث: ۳۱۲۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۶۷) حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲) اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد طلب کرنے پر دلیل ہے جن کو انسان نہیں دیکھتے جو اللہ کے بندوں میں سے فرشتے اور نیک جن ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ انسان کے لئے یہ جائز ہے کہ جب اس کی سواری گر جائے یا پھسل جائے یا گم ہو جائے تو وہ بنو آدم سے مدد طلب کرے۔

(تحفة الذاکرین ص ۱۵۶-۱۵۵، مطبع مصطفیٰ البابی مصر، ۱۳۵۰ھ، ص ۲۰۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۸ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ اپنے منہیہ میں لکھتے ہیں:

علامہ زیاد نے مقرر رکھا ہے کہ انسان کی جب کوئی چیز ضائع ہو جائے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ سبحانہ اس کی چیز واپس کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی بلند جگہ کھڑا ہو اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی ﷺ کو پہنچائے پھر اس کا ثواب سیدی احمد بن علوان کو پہنچائے اور یہ کہے: اے سیدی! اے احمد بن علوان! اگر آپ نے میری گم شدہ چیز واپس نہ کی تو میں آپ کا نام دیوان اولیاء سے نکال دوں گا تو جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کی گم شدہ چیز واپس کر دے گا، اچھوری مع زیادة اسی طرح داؤدی رحمہ اللہ کی شرح المنہج میں ہے۔

(رد المحتار دارالکتب العربیہ مصر ج ۳ ص ۳۵۵، مطبوعہ ۱۳۲۷ھ ج ۳ ص ۳۲۴، دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ھ)
حافظ ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد صحابہ کرام اپنی مہمات میں ”یا محمد اہ“
پکارتے تھے علامہ شوکانی نے متعدد احادیث کے حوالوں سے لکھا ہے کہ فرشتوں اور نیک جنوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے اور علامہ
شامی نے متعدد علماء کے حوالوں سے لکھا ہے کہ سیدی احمد علوان کی وفات کے بعد ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے اب اگر علامہ آلوسی
علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی تصریحات کے مطابق انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے مدد طلب کرنے کو ناجائز اور
شیطانی عقیدہ قرار دیا جائے تو بشمول صحابہ تمام صالحین امت کو شیطانی عقیدہ کا حامل قرار دینا لازم آئے گا۔

(تبیان القرآن ج ۵ ص ۳۴۹ تا ۳۵۱)

جدید تفاسیر اور تبیان القرآن

جدید تفاسیر سے میری مراد وہ تفاسیر ہیں جو اردو زبان میں تحریر کی گئی ہیں۔ جیسے ضیاء القرآن، تفہیم القرآن، معارف القرآن
وغیر ذالک۔ تبیان القرآن ان تفاسیر میں ایک جدید اضافہ ہے۔ گو کہ اس کے بنیادی مآخذ قدیم تفاسیر ہی ہیں، تاہم جدید تفاسیر سے
بھی پہلو تہی نہیں کی گئی۔ گویا قدیم اور جدید دونوں تفاسیر کا رنگ اس میں موجود ہے۔ البتہ بعض مقامات پر صاحب تبیان القرآن نے
جدید تفاسیر کے ساتھ اپنی بحث و نظر اور محققانہ تبصرہ کر کے قارئین کو تقابلی جائزہ کا موقع فراہم کیا ہے۔ اور انہی چند مقامات کو دیکھ کر
اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صاحب تبیان نے کسی بھی تفسیر کو محض خانہ پری کے لیے پیش نظر نہیں رکھا بلکہ مکمل غور و خوض کے ساتھ اس کی
عبارت پیش کی ہے، حتیٰ کہ اختلاف کی صورت میں بلا خوف و خطر دلائل کے ساتھ اس کا رد فرمایا ہے۔ ذیل میں ہم ان تمام باتوں کے
اثبات میں تقابلی جائزہ کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں:

اسلام کے نظریہ جہاد پر مستشرقین کا اعتراض اور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ کا جواب

مستشرقین اور مغرب پرست لوگ بالعموم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اسلام کا اصول یہ ہے کہ ”دین میں کوئی جبر نہیں ہے“ پھر
جہاد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جہاد تو جبر کی نشانی ہے اور اس بات کی تائید ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟
دور حاضر کے کئی مفسرین نے اس اعتراض کے جواب دیئے ہیں۔ ذیل میں ہم اولاً صاحب ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ
الازہری علیہ الرحمۃ کا جواب پیش کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”اسلام جس طرح یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنایا جائے اسی طرح وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ماننے
والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرے یا جو خوشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو ایسا کرنے سے
زبردستی روکا جائے اور اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس وقت اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ ظالم
قوت کا مقابلہ کریں اور یہی اسلام کا نظریہ جہاد ہے، اسلام کے بعض نکتہ چیں جہاد کو اکراہ فی الدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی نا
پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لئے اپنے ماننے والوں کو دشمنان دین و
ایمان کے جو رستم کا تختہ مشق بننے نہیں دے گا۔“

(ضیاء القرآن ج ۱ ص ۱۷۹، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور، بحوالہ تبیان القرآن ج ۱ ص ۹۷۸)

نظریہ جہاد پر مستشرقین کا اعتراض اور شیخ امین احسن اصلاحی کا جواب

صاحب تدبر قرآن شیخ امین احسن اصلاحی اعتراض مذکورہ کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

اسی طرح ہمیں اس امر سے انکار نہیں ہے کہ مجرد کسی قوم کے اندر کفر کا وجود اس امر کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسلام کے علمبردار ان کے خلاف جہاد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور تلوار کے زور سے ان کو اسلام پر مجبور کر دیں۔ جہاد اصلاً فتنہ اور فساد فی الارض کے مٹانے کے لئے مشروع ہوا ہے اگر یہ چیز کہیں پاتی جاتی ہے تو اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہوں تو وہ اس فتنہ اور فساد کو مٹانے کے لیے جہاد کریں خاص طور پر اس فتنہ کو مٹانے کے لیے جو اہل کفر کا ہاتھوں اس لیے برپا کیا جائے کہ اہل ایمان کو ان کے دین سے پھیرا جائے یا اسلامی نظام کو برباد کیا جائے صرف مشرکین بنی اسماعیل کا معاملہ اس کلیہ سے استثناء کی نوعیت رکھتا ہے۔ (تدبر قرآن ج ۱ ص ۵۹۴، مطبوعہ فاران فاؤنڈیشن لاہور پاکستان، بحوالہ تبیان القرآن ج ۱ ص ۹۷۹)

نظریہ جہاد پر اعتراض اور مفتی محمد شفیع دیوبندی کا جواب

مستشرقین کے اعتراض مذکورہ کے جواب میں مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں:

اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے ورنہ جزیہ لے کر کفار کو اپنی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کرنے کے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے بلکہ دفع فساد کے لیے ہے کیونکہ فساد اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جس کے کافر درپے رہتے ہیں۔ (معارف القرآن ج ۱ ص ۶۱۶، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، بحوالہ تبیان القرآن ج ۱ ص ۹۷۹)

مذکورہ صدر علماء کے جوابات پر صاحب تبیان کی بحث و نظر اور اعتراض مذکور کا مفصل جواب

صاحب تبیان القرآن نے ضیاء القرآن تدبر قرآن اور معارف القرآن سے مستشرقین کے اعتراض کا جواب پیش کرنے کے بعد ان پر قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل بحث و نظر کی ہے اور اس کے بعد دو صفحات پر از خود تفصیلی اور تحقیقی جواب قلمبند فرمایا ہے۔ پہلے ہم صاحب تبیان کی بحث و نظر پیش کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا جواب پیش کریں گے۔

بحث و نظر کرتے ہوئے صاحب تبیان لکھتے ہیں:

اسلام میں جہاد صرف مدافعتیہ جنگ کے لیے نہیں ہے جیسا کہ علامہ ازہری نے لکھا ہے اور نہ صرف فتنہ اور فساد کو دور کرنے کے لیے ہے جیسا کہ موخر الذکر علماء نے لکھا ہے بلکہ اسلام میں جہاد اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ. (الانفال: ۳۹)

اور کافروں سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔

اس آیت میں یہ واضح حکم دیا گیا ہے کہ جب تک کہ پورا دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے اس وقت تک کافروں سے جنگ اور جہاد کرتے رہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں جب کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو بچالیں گے ماسوا اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

(صحیح بخاری ج ۸ ص ۸، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک وہ اسلام نہ قبول کر لیں ان سے جہاد اور قتال کیا جائے:

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَاَحْضُرُوهُمْ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَاِنْ
تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ. (التوبہ: ۵)

اور اہل کتاب کے متعلق فرمایا انہیں اسلام کی دعوت دو اگر وہ نہ مانیں تو ان سے قتال کرو اور اگر وہ تمہارے ماتحت ہو کر جزیہ دینا قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔

ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں کہتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے جو کہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اہل کتاب ہیں حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

فَاَقْتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ
يَدَيْهِمْ صَاغِرُونَ (التوبہ: ۲۹)

○ دیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے کسی قوم سے اس وقت تک قتال نہیں کیا جب تک ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔

حافظ ابی شامی لکھتے ہیں اس حدیث کو امام احمد، امام ابو یعلیٰ اور امام طبرانی نے کئی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام احمد کی سند صحیح ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۰۳، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی شخص کو کسی بڑے یا چھوٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے، پھر فرماتے اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ جنگ کرو خیانت نہ کرو عہد شکنی نہ کرو کسی شخص کے اعضاء کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑو اور کسی بچہ کو قتل نہ کرو جب تم دشمن مشرکوں (اہل کتاب) سے مقابلہ کرو تو ان کو تین چیزوں کی دعوت دینا وہ ان میں سے جس کو بھی مان لیں اس کو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا اسلام قبول کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو اور ان سے یہ کہو کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر مہاجرین کے شہر میں آ جائیں (الی قولہ) اور اگر وہ مہاجرین کے شہر میں آنے سے انکار کر دیں تو ان کو یہ خبر دو کہ پھر ان پر دیہاتی مسلمانوں کا حکم ہوگا (الی قولہ) اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرو اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو تم بھی اس کو قبول کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو اور اگر وہ اس کا انکار کریں تو پھر اللہ کی مدد کے ساتھ ان سے جنگ شروع کر دو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

جنگ خیبر کے ایام میں جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تو انہوں نے کہا جب تک وہ

مسلمان نہیں ہوں گے ہم ان سے قتال کرتے رہیں گے آپ نے فرمایا اسی طرح کرنا، حتیٰ کہ جب تم ان کے علاقہ میں داخل ہو تو (پہلے) ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو یہ خبر دینا کہ ان پر کیا احکام واجب ہیں اللہ کی قسم، اگر ایک شخص بھی تمہارے سبب سے ہدایت یافتہ ہو جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں (دنیا کی خیر) سے بہتر ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۱۳، مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ)

تفصیلی بحث و نظر کے بعد مفسر زید مجدہم اعتراض مذکور کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہودی اور عیسائی مستشرقین معترضین کو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کفار کے خلاف جنگ اور جہاد کرنے میں اسلام تنہا اور منفرد نہیں ہے، بلکہ موجودہ تورات (کتاب مقدس، بائبل) میں بھی اپنے مخالف کفار کے ساتھ جنگ اور جہاد کرنے کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے اور موجودہ انجیل میں تصریح ہے کہ تورات کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے۔ اب آپ تورات کے اس اقتباس کا مطالعہ فرمائیں:

جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا O اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھانک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں O اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا O اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا O لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا O ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں O پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا O بلکہ تو ان کو یعنی حتیٰ اور راموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور یوسی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا O تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو O (استثناء باب: ۲۰ آیت: ۱۸-۱۰) (عہد نامہ قدیم: ۱۸۶)

واضح رہے کہ عیسائیوں کے نزدیک بھی کفار کے خلاف جہاد کا یہ حکم باقی ہے منسوخ نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے

فرمایا:

یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں O کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے O (متی باب: ۵ آیت: ۱۸-۱۷) (نیا عہد نامہ: ۸)

جو غیر مسلم مستشرقین اسلام کے نظریہ جہاد پر اعتراض کرتے ہیں انہیں تورات اور انجیل کے ان اقتباسات کو بہ غور پڑھنا چاہئے۔ اب جہاد کے متعلق اسلام کا نظریہ ملاحظہ کریں:

جہاد کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے شہر پر حملہ کیا جائے اور مسلمان مدافعتاً جنگ کریں یہ جہاد فرض عین ہے اس کی مثال غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ”لا اکراہ فی الدین“ کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی ہوش مند اعتراض کر سکتا ہے اور جہاد کی دوسری صورت یہ ہے کہ تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کیا جائے اور بہ شرط استطاعت از خود کافروں کے ملک پر حملہ کیا جائے یہ جہاد فرض کفایہ ہے، فتح مکہ، فتح طائف اور فتح خیبر میں اس کی مثالیں ہیں اور بعد میں مسلمانوں نے مصر، شام، عراق، ایران اور بہت سے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کیا اور دنیا کے تین براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی اور اس

میں یہ تفصیل ہے کہ جب مشرکین سے جہاد کیا جائے تو یا تلوار ہے یا اسلام اور اہل کتاب کے ساتھ جنگ ہو تو پھر تین صورتیں ہیں یا وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں یا پھر جنگ کریں۔

اہل کتاب کے ساتھ جزیہ کی رعایت اس لیے رکھی ہے کہ وہ الوہیت اور رسالت کے کسی نہ کسی طور پر قائل ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جزا سزا اور حلال و حرام کے اصولی طور پر معترف ہیں اور جب وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے باج گزار ہو جائیں گے اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ میل جول ہوگا تو مسلمانوں کو ان میں تبلیغ اسلام کے مواقع میسر ہوں گے اور انہیں بھی اسلام کی تعلیمات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا اور وہ جلد یا بہ دیر اسلام کو قبول کر لیں گے اور ان کا اسلام کو قبول کرنا بہ رضا و رغبت ہوگا اس میں جبر کا کوئی دخل نہیں ہے، جہاد کی اس شکل پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اب صرف ایک شکل رہ جاتی ہے اور وہ ہے تبلیغ اسلام کے لیے مشرکین کے خلاف جہاد یا وہ اسلام کو قبول کر لیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور اس پر بادی النظر میں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جبر و اکراہ ہے لیکن درحقیقت یہ بھی جبر نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی ملک کا باشندہ ہو اس ملک کے بادشاہ کی مہیا کی ہوئی سہولتوں اور فائدوں سے بہرہ اندوز ہوتا اور اس ملک کی زمین میں گھر بنا کر رہتا ہو اور تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہو لیکن وہ اس ملک کے بادشاہ یا حکمران کی حکومت کو نہ مانے، اس کے قوانین پر عمل نہ کرے اور اس کے برعکس اس حکومت کے مخالف اور دشمن ملک اور حکومت کا علی الاعلان دم بھرتا ہو اور اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہو تو کیا اس کو گردن زدنی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو غدار قرار دے کر قتل نہیں کیا جائے گا کیا آج دنیا کے تمام مہذب ملکوں کا اس پر عمل نہیں ہے اور اگر اس شخص سے یہ کہا جائے کہ یا تو تم اس ملک کی وفاداری کا اعلان کرو ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ کیوں عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہے جب کہ آج کی نام نہاد مہذب دنیا میں ایسے شخص کو یہ موقع دیئے بغیر قتل کر دیا جاتا ہے، سو اسی طرح جو شخص اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہے اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے نہ اس کے کسی اصول اور قانون کو اور دنیا میں آسمانی مذاہب کی جتنی شکلیں ہیں ان میں سے وہ کسی کو بھی نہیں مانتا تو اس سے یہ کہنا بجا اور عدل و انصاف کے مطابق ہے کہ یا تو اللہ کے دین کو قبول کر لو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نیز جس طرح ہر حکومت میں ریاست کے غدار کی سزا موت ہے اسی طرح اسلام میں بھی مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو تین دن موقع دیا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور اگر اس کو اسلام کے خلاف کوئی شبہ ہے تو اس کو زائل کیا جائے لیکن اگر وہ اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جب کہ غدار وطن کے لیے یہ رعایت نہیں ہوتی۔

تمام مہذب دنیا میں جرائم پر سزاؤں کا نظام جاری ہے اور جب کسی قاتل، چور، ڈاکو یا ریاست کے غدار کو سزا دی جائے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جبر ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف ہے اسی طرح جب مشرک کو ایمان نہ لانے پر جہاد میں قتل کیا جائے یا مرتد کو توبہ نہ کرنے پر قتل کیا جائے تو یہ بھی ان کے جرائم کی سزا ہے، جبر نہیں ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔

کیا دین اسلام قبول کرنے میں جبر کا نہ ہونا مشروعیت جہاد کے خلاف ہے؟ میں اس اشکال کے جواب پر کئی دن غور کرتا رہا میں نے اس سوال کے جواب کی تلاش کے لیے قدیم اور جدید متعدد تفاسیر کو دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کسی نے بھی اس کو حل نہیں کیا اور مدافعا نہ جنگ اور جزیہ کے اختیار سے اصل اشکال کو نالنے، دفع وقتی اور فرار کی کوشش کی، بہر حال میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو یہ میری فکر کی کمی ہے اور آئندہ آنے والے علماء کے لئے دعوت فکر

ہے۔ (تبیان القرآن ج ۱ ص ۹۸۰ تا ۹۸۲)

صاحب تبیان کے اس تحقیقی اور تفصیلی جواب پر مجھ جیسا بے علم کیا تبصرہ کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ معاصر مفسرین کے ذکر کردہ جوابات کے مقابلہ میں صاحب تبیان کا جواب آپ کی فکر و نظر کی وسعت اور گہرائی پر واضح دلیل ہے اور یہ کہ فن تفسیر و حدیث اور فقہ و اصول میں وارد ہونے والے اشکالات و اعتراضات کے علاوہ عصر حاضر کے پیدا کردہ اعتراضات اور چیلنجوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے میں مفسر کو کس قدر کمال اور مرتبہ حاصل ہے۔ اس کے باوصف آپ کا آخر میں یہ لکھنا کہ ”بہر حال میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو یہ میری فکر کی کمی ہے اور آئندہ آنے والے علماء کے لئے دعوتِ فکر ہے“۔ آپ کے کمال انکسار اور صفاءِ قلب و فکر پر دلیل ہے۔

التوبہ کی آیت ۷۵ کے مصداق حضرت ثعلبہ بن حاطب ہیں یا ثعلبہ بن ابی حاطب؟ اس بارے میں

معاصر مفسرین کی تحقیق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنۡ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ (التوبہ: ۷۵)

اور ان میں سے بعض (منافقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا اگر ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے (مال) دیا تو ہم ضرور بہ ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور بہ ضرور نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے ۝

بعض قدیم تفاسیر کے علاوہ جدید تفاسیر میں بھی یہ مذکور ہے کہ اس آیت میں جس منافق کا ذکر ہو رہا ہے وہ ثعلبہ بن حاطب بن عمرو انصاری ہے۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے آیت مذکورہ کے تحت پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے چند جملے یہ ہیں:

ثعلبہ بن حاطب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔۔۔ جب وہ عامل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس سے پیشتر کہ وہ کچھ عرض کریں حضور ﷺ نے فرمایا:

وبح ثعلبہ بن حاطب. (ضیاء القرآن ج ۲ ص ۲۳۵) ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔

مفتی محمد شفیع دیوبندی نے بھی ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، طبرانی اور بیہقی کے حوالہ سے پورا واقعہ نقل کیا ہے اس کا پہلا جملہ یہ ہے:

ایک شخص ثعلبہ ابن حاطب انصاری نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ ﷺ دعا کریں کہ میں مال دار ہو جاؤں۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۴۲۶)

شیخ شبیر احمد عثمانی نے بھی پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کا آغاز یوں ہے:

ایک شخص ثعلبہ بن حاطب انصاری نے حضرت (ﷺ) سے عرض کیا کہ میرے حق میں دولت مند ہو جانے کی دعا فرما دیجئے۔ (تفسیر عثمانی بر ترجمہ شیخ محمود الحسن ص ۲۶۳)

اس کے علاوہ اور دیگر کئی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ آیت مذکورہ میں جس واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا تعلق ثعلبہ بن حاطب انصاری سے ہے۔ (دیکھئے: خزائن العرفان، از صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، تفسیر ابوالحسنات، از علامہ سید ابوالحسنات قادری، تیسیر البیان،

از مفتی عزیز احمد قادری بدایونی، تبیان القرآن، از شیخ اشرف علی تھانوی

عنوان مذکور پر صاحب تبیان القرآن کی تحقیق

آیت مذکورہ کے مصداق میں صاحب تبیان القرآن کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ثعلبہ بن ابی حاطب ہے اور جو ثعلبہ بن حاطب ہیں وہ بدری صحابی ہیں اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ واقعہ مذکورہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب تبیان نے اس حوالہ سے بہت مفصل اور تحقیقی گفتگو کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں نہ کہ منافق اور نہ آیت مذکورہ کے مصداق۔ نیز جس روایت میں واقعہ مذکورہ کو حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے وہ روایت شدید ضعیف ہے۔ صاحب تبیان نے اس ضعیف روایت پر اور اس کے راویوں پر مستند کتب کی روشنی میں جرح کی ہے اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ روایت نبی اکرم ﷺ کے مزاج کے بھی بالکل خلاف ہے۔ تفصیلی بحث کے بعد آخر میں واضح کیا ہے کہ سورۃ التوبہ کی ذکر کردہ آیت کا صحیح مصداق کون ہے۔

صاحب تبیان کی یہ تحقیق بہت مفصل ہے اس کا مکمل مطالعہ قارئین کے لیے بہت مفید ہوگا۔ ذیل میں ہم اس تحقیق کے چند اقتباسات پیش کر رہے ہیں:

معاصر مفسرین وغیرہم نے آیت مذکورہ کا مصداق جس شخص کو قرار دے کر منافق بتایا ہے اس کے بدری صحابی ہونے پر صاحب تبیان القرآن دلائل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام ابن ہشام متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں: غزوہ بدر میں بنو امیہ سے جو صحابہ شریک ہوئے ان میں حضرت ثعلبہ بن حاطب بھی ہیں۔ (سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۳۰۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام محمد بن عمرو واقد المتوفی ۲۰۷ھ لکھتے ہیں: بنو امیہ میں سے غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان میں حضرت ثعلبہ بن حاطب بھی ہیں نبی ﷺ نے ان کو مقام روجاء سے واپس کر دیا تھا اور ان کو مدینہ پر عامل مقرر کیا تھا مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا تھا۔ (کتاب المغازی ج ۱ ص ۱۵۹، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۴۰۳ھ)

امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ھ لکھتے ہیں: نبی ﷺ نے حضرت ثعلبہ بن حاطب اور حضرت معتب بن الحمران خزاعی کے درمیان مواخات کرائی تھی اور حضرت ثعلبہ بن حاطب غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۲۶۰، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۷ھ)

امام یوسف بن عبدالبر القرطبی المالکی المتوفی ۴۶۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت ثعلبہ بن حاطب اور حضرت معتب بن عوف بن الحمران کے درمیان رسول اللہ ﷺ نے مواخات قائم کی تھی اور حضرت ثعلبہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ (الاستیعاب ج ۱ ص ۲۸۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

یہ معتمد اور مستند تصریحات ہیں جن سے واضح ہو گیا کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور بدریوں کے متعلق نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ وہ سب نجات یافتہ اور جنتی ہیں تو ان کو ایک منافق کے متعلق نازل شدہ آیات کا مصداق قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ (تبیان القرآن ج ۵ ص ۲۰۳، ۲۰۴)

معاصر مفسرین وغیرہم نے جس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے آیت مذکورہ کا مصداق حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ کو قرار دیا ہے اس روایت کے شدید ضعیف ہونے پر دلائل ذکر کرتے ہوئے صاحب تبیان لکھتے ہیں:

حضرت ابو امامہ باہلی کی طرف منسوب جس روایت میں حضرت ثعلبہ کو منافق قرار دیا ہے اس کو ائمہ حدیث نے بالاتفاق ضعیف قرار دیا ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی المتوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں: امام ابن عبد البر نے کہا ایک قول یہ ہے کہ ثعلبہ بن حاطب ہی وہ شخص ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی:

مِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ. (التوبہ: ۷۵)

بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔

کیونکہ اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا اور ان کے متعلق یہ وارد ہے کہ وہ بدر میں حاضر ہوئے اور وہ اس آیت کے معارض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حشر تک نفاق ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کے ایمان کی اللہ اور اس کے رسول نے شہادت دی ہے جیسا کہ الممتحنہ کے شروع میں آئے گا، پس ان کے متعلق حضرت ابو امامہ باہلی اور حضرت ابن عباس کی طرف جو روایت منسوب ہے وہ صحیح نہیں ہے اور امام ابن عبد البر نے کہا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کیا تھا اور ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور ضحاک نے کہا کہ یہ آیت چند منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ یہ ہیں نبتل بن الحارث اور جد بن قیس اور معتب بن قشیر۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۳۳-۱۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

یہ روایت طبرانی نے اور بیہقی نے دلائل النبوة اور شعب الایمان میں اور ابن ابی حاتم اور طبری اور ابن مردویہ نے روایت کی ہے اور ان سب نے اس سند سے روایت کی ہے۔ علی بن یزید از قاسم بن عبد الرحمن از ابو امامہ اور یہ بہت زیادہ ضعیف سند ہے۔ سہلی نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ثعلبہ بدری صحابی ہیں اور ابن اسحاق ہی سے یہ منقول ہے کہ یہ آیت ثعلبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے پس یہ ثعلبہ بن حاطب کے نام کے دو الگ الگ شخص ہیں۔

(الکافی والشافی فی تخریج احادیث الکشاف علی تفسیر کشاف ج ۲ ص ۲۹۲، مطبوعہ من منشورات البلاغہ ایران)

نیز حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام ابن اثیر متوفی ۶۳۰ھ نے کہا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب کے متعلق جو زکوٰۃ نہ دینے کی طویل حدیث مروی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نو ہجری میں فرض ہوئی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۲۶۶، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

واحدی نے نقل کیا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری ہی وہ شخص ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی: ”مِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ“۔ (التوبہ: ۷۵) اور انہوں نے اس پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی اور نہ ہی یہ ذکر کیا کہ وہ بدری صحابی ہیں ہاں امام ابن اسحاق نے ان کا بدرین میں ذکر کیا ہے اور میرے نزدیک حضرت ثعلبہ بن حاطب اس شخص کے غیر ہیں جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوا تھا اور حضرت ثعلبہ بن حاطب کے متعلق ابن الکعبی نے ذکر کیا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے نیز واحدی اور اس کے شیخ ثعلبی اور المہدوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت حاطب بن ابی بلتعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن اس پر بھی اعتراض ہے کیونکہ حضرت حاطب بھی بدری صحابی ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں۔

(فتح الباری ج ۶ ص ۳۵، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

امام ابو بکر احمد بن حسن بیہقی متوفی ۴۵۸ھ لکھتے ہیں:

یہ حدیث مفسرین کے درمیان مشہور ہے اور وہ اس کو متعدد اسانید موصولہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور وہ سب ضعیف اسانید ہیں۔ (دلائل النبوة ج ۵ ص ۲۹۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

امام عبدالرحیم بن الحسین العراقی المتوفی ۸۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار مع احیاء العلوم ج ۳ ص ۲۴۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ نور الدین البیہقی متوفی ۸۰۷ھ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں علی بن یزید الالبانی ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۲، مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

امام طبرانی، امام ابن مردویہ، امام ابن ابی حاتم اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں اس حدیث کو سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(اسباب النزول ص ۳۶، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

نیز حافظ سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

حافظ عسقلانی نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ ابن الکلبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں اور وہ احد میں شہید ہوئے تھے اور اس قصہ میں جس ثعلبہ کا ذکر ہے وہ حضرت عثمان کی خلافت میں مرا تھا پس ظاہر ہو گیا کہ یہ دونوں الگ الگ شخص ہیں۔

مخلصاً (ہم الاصابہ کی مفصل عبارت نقل کر چکے ہیں)۔ (الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۹۷-۹۶، مطبوعہ المکتبہ النوریہ الرضویہ لائل پور پاکستان)

علامہ ٹمس الدین عبدالرؤف مناوی متوفی ۱۰۰۳ھ لکھتے ہیں:

امام بیہقی نے کہا اس حدیث کی سند پر اعتراض ہے اور یہ مفسرین کے درمیان مشہور ہے اور الاصابہ میں اشارہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس قصہ کا مصداق حضرت ثعلبہ کو بنانا درست نہیں۔

صحیح نہیں ہے اور اس قصہ کا مصداق حضرت ثعلبہ کو بنانا درست نہیں۔

(فیض القدر ج ۸ ص ۲۳۸۲، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ) (تبیان القرآن ج ۵ ص ۲۰۵، ۲۰۴)

تحقیق کے اختتام پر حرف آخر کے طور پر لکھتے ہیں:

ہمارے زمانہ میں اردو کی عام دستیاب تفسیروں میں بھی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف اس واقعہ کو منسوب کیا گیا ہے اور جو خطباء اور واعظین ان اردو کی تفاسیر پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایک عظیم بدری صحابی پر افتراء باندھتے ہیں سو میں نے یہ

چاہا کہ اس عظیم بدری صحابی سے اس افتراء کو دور کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم کو تحقیق کرنے کی توفیق دے اور سنی

سنائی اور بے سند باتوں سے ہم کو اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، میں نے ان آیات کی تفسیر میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی نفاق اور بخل

سے براءت میں بہت مفصل گفتگو کی ہے تاکہ حضرت ثعلبہ کی براءت ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے اور اس کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہے۔

(تبیان القرآن ج ۵ ص ۲۰۹)

صاحب تبیان کی اس مفصل تحقیق کی تائید میں راقم کی طرف سے ایک دلیل

فقیر کہتا ہے کہ صاحب تبیان نے سورۃ التوبہ کی ذکر کردہ آیت کا جو مصداق بیان کیا ہے اور اس پر جو مفصل تحقیق قلمبند فرمائی ہے اس کی واضح تائید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے ہاں موجود ہے۔ چنانچہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ: شان نزول اس آیت شریفہ کی:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنۡ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ
لَنَنْصَدَّقَنَّهُۥ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ. (التوبہ: ۷۵)

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا اگر ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے (مال) دیا تو ہم ضرور بہ ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور بہ ضرور نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے۔

حدیث ثعلبہ ابن حاطب ہے یا اور کوئی حدیث؟ حدیث ثعلبہ کی صحیح یا حسن یا ضعیف یا موضوع؟ یہ ثعلبہ ابن حاطب بدری ہے یا اور کوئی؟ تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا:

بدری حضرت سیدنا ثعلبہ بن حاطب بن عمرو بن عبید انصاری ہیں۔ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ شخص جس کے باب میں یہ آیت اتری ثعلبہ ابن ابی حاطب ہے۔ اگرچہ یہ بھی قوم اوس سے تھا۔ اور بعض نے اس کا نام بھی ثعلبہ ابن حاطب کہا۔ مگر وہ بدری خود زمانہ اقدس حضور پر نور ﷺ میں جنگ احد میں شہید ہوئے۔ اور یہ منافق زمانہ خلافت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مرا۔ جب اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور آئیہ کریمہ میں اس کی مذمت اتری حضور پر نور ﷺ کی خدمت اقدس میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور نے قبول نہ فرمائی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لایا۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تیری زکوٰۃ قبول نہ فرمائی اور میں قبول کر لوں ہرگز نہ ہوگا۔ پھر خلافت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں حاضر لایا۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ و ابو بکر قبول نہ فرمائیں اور میں لوں یہ کبھی نہ ہوگا۔ پھر خلافت ذی النورین غنی رضی اللہ عنہ میں لایا، فرمایا رسول اللہ ﷺ و صدیق و فاروق نے قبول نہ فرمائی میں بھی نہ لوں گا۔ آخر انہیں کی خلافت میں مر گیا۔

اللہ عزوجل اہل بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نسبت فرما چکا:

جو چاہو کرو میں تمہیں بخش چکا۔

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

اور اس منافق کے باب میں فرماتا ہے:

اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا کہ مرتے

فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَہٗ.

(التوبہ: ۷۷) دم تک نہ جائے گا۔

حاشا اللہ نور و ظلمت کیونکر جمع ہو سکتے ہیں۔

امام حافظ الشان اصابہ میں فرماتے ہیں:

ثعلبہ بن حاطب بن عمرو انصاری کو موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحق

ثعلبہ بن حاطب بن عمرو الانصاری ذکرہ

نے اہل بدر میں شمار کیا ہے اسی طرح ابن کلبی نے ذکر کیا ہے اور یہ

موسیٰ بن عقبہ و ابن اسحق فی البدریین و کذا

بھی فرمایا کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔

ذکرہ ابن الکلبی و زادانہ قتل باحد.

تفسیر امام ابن جریر میں ہے:

محمد بن کبید نے مجھے ان کو ان کے والد نے ان کو ان کے چچا نے ان کو ان کے والد نے ان کو ان کے والد نے اور ان کو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ ثعلبہ بن ابی حاطب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی تو اللہ تعالیٰ نے التوبہ میں اس کا واقعہ بیان فرمایا۔

حضرت حسن اور مجاہد نے فرمایا کہ التوبہ کی آیت: ۵۷ ثعلبہ بن ابی حاطب کے بارے میں نازل ہوئی۔

تفسیر ابن جریر و ثعلبی وغیرہم میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”ومنہم من عاہد اللہ“۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس ثعلبہ کا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ ثعلبہ کے پاس آیا اور کہا: کہ افسوس اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں یہ یہ نازل فرمایا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہا: کہ آپ میرا صدقہ قبول فرمائیں تو حضور نے فرمایا: کہ مجھے اللہ نے منع فرما دیا ہے پھر وہ خلافت ابو بکر میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور ان سے کہا: کہ آپ میرا صدقہ قبول کر لیں تو انہوں نے کہا: کہ جس کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں فرمایا: اس کو میں کیسے قبول کر لوں پھر وہ خلافت عمر میں حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور ان سے یہی بات کہی تو حضرت عمر نے فرمایا: کہ جس کو اللہ کے رسول اور ابو بکر نے قبول نہیں فرمایا اس کو میں کیسے قبول کر لوں۔ پھر وہ خلافت عثمان میں حضرت عثمان کی خدمت میں آیا اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا: کہ جس کو اللہ کے رسول نے اور ابو بکر اور عمر نے قبول نہیں فرمایا: اس کو میں کیسے قبول کر لوں۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں ہلاک ہو گیا۔

یہ سب اس حدیث ثعلبہ کی تسلیم پر ہے۔ ورنہ وہ سرے سے ثابت الصحت نہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اصابہ میں فرمایا: ”ان

صح الخبر ولا اظنہ یصح“۔

اقول یہ حدیث ابی امامہ رضی اللہ عنہ جس میں بجائے ابن ابی حاطب ابن حاطب کہا ابن جریر و بغوی و ثعلبی و ابن السکن و ابن شاہین و باوردی سب کے یہاں بطریق معاذ ابن رفاذہ عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور علی بن یزید

حدیثی محمد بن کبید حدیثی ابی حدیثی عمی حدیثی ابی عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا یقال له ثعلبہ ابن ابی حاطب اخلف اللہ ما وعدہ فقصر اللہ تعالیٰ شانہ فی القرآن ومنہم من عاہد اللہ الی قولہ یكذبون۔ تفسیر معالم میں ہے:

قال الحسن و مجاہد نزلت فی ثعلبہ بن ابی حاطب الخ۔

فانزل اللہ تعالیٰ فیہ و منہم من عاہد اللہ وعند رسول اللہ ﷺ رجل من اقارب ثعلبہ فسمع ذلك فخرج حتی اتاہ فقال ویحک یا ثعلبہ قد انزل اللہ فیک کذا و کذا فخرج ثعلبہ حتی اتی النبی ﷺ یسالہ ان یقبل صدقہ فقال ان اللہ منعنی ان اقبل منک صدقتک ثم الی ابا بکر حین استخلف فقال اقبل صدقتی فقال ابو بکر لم یقبلہا رسول اللہ ﷺ وانا اقبلہا فلما ولی عمر اتاہ فقال یا امیر المؤمنین اقبل صدقتی فقال لم یقبلہا رسول اللہ ﷺ ولا ابو بکر ولا انا اقبلہا ثم ولی عثمان فاتاہ فسالہ فقال لم یقبلہا رسول اللہ ﷺ ولا ابو بکر ولا عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہما وانا لا اقبلہا فلم یقبلہا منہ وھلک ثعلبہ فی خلافة عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہ مختصرا۔

میں کلام معلوم ہے۔ حافظ الشان نے تقریب میں فرمایا ضعیف امام دارقطنی نے فرمایا متروک امام بخاری نے فرمایا منکر الحدیث اور فرمایا:

كل من اقول فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.
جسے میں منکر الحدیث کہوں اس سے روایت حلال نہیں۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۲ ص ۳۳، ۳۴)

شیخ مودودی کی حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ تحقیق کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہیں

سورۃ الکہف (آیہ ۶۰ تا ۸۲) میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے جس واقعہ کو بیان فرمایا ہے اس کے اختتام پر زیر بحث آیت کے ماتحت شیخ مودودی نے تفسیر کرتے ہوئے اس بات پر بحث و تحقیق کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان ہیں یا فرشتہ؟ اور پوری بحث میں دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ ہیں انسان نہیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے حضرت خضر نے یہ تین کام جو کیے ہیں ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا، مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جو ابتدائے عہد انسانیت سے آج تک تمام شرائع الہیہ میں ثابت رہے ہیں۔ کوئی شریعت بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو خراب کر دے اور کسی تنفس کو بے قصور قتل کر ڈالے۔ حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریق الہام بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر ایک غاصب چھین لے گا اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا، تب بھی اس کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی رو سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس الہامی علم کی بنا پر کشتی میں چھید کر دے اور ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالے۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ حضرت خضر نے یہ دونوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے فی الواقع اس پیچیدگی کو کچھ بھی رفع نہیں کرتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام کس کے حکم سے کیے تھے۔ ان کا حکم الہی سے ہونا تو بالیقین ثابت ہے کیونکہ حضرت خضر خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان کی محرک ہوئی ہے اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود فرما چکا ہے کہ حضرت خضر کو اللہ کی طرف سے ایک علم خاص حاصل تھا۔ پس یہ امر تو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ یہ کام اللہ کے حکم سے کیے گئے تھے۔ مگر اصل سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ان احکام کی نوعیت کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ تشریحی احکام نہ تھے کیونکہ شرائع الہیہ کے جو بنیادی اصول قرآن اور اس سے پہلے کتب آسمانی سے ثابت ہیں ان میں کبھی کسی انسان کے لیے یہ گنجائش نہیں رکھی گئی کہ وہ بلا ثبوت جرم کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ اس لئے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اپنی نوعیت میں اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام سے مشابہت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے، کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے، کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب اگر یہ تکوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں شرعی جواز و عدم جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیر صرف اوامر الہیہ کی تعمیل کرتے ہیں۔ رہا انسان تو خواہ وہ بلا ارادہ کسی تکوینی حکم کے نفاذ کا ذریعہ بنے، اور خواہ الہاماً اس طرح کا کوئی غیبی علم اور حکم پا کر اس پر عملدرآمد کرے، بہر حال وہ گناہگار ہونے سے نہیں بچ سکتا اگر وہ کام جو اس نے کیا ہے کسی حکم شرعی سے ٹکراتا ہو۔ اس لیے کہ انسان بحیثیت اس کے کہ وہ انسان ہے، احکام شرعیہ کا مکلف ہے اور اصول شریعت میں کہیں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے

محض اس بناء پر احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام اس خلاف ورزی کا حکم ملا ہے اور بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔

یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نہ صرف تمام علمائے شریعت متفق ہیں بلکہ اکابر صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ آلوسی نے تفصیل کے ساتھ عبدالوہاب شعرانی، محی الدین ابن عربی، مجدد الف ثانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، جنید بغدادی، سری سقطی، ابو الحسن النوری، ابوسعید الخراز، ابو العباس احمد الدینوری اور امام غزالی جیسے نامور بزرگوں کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام تک کے لئے جائز نہیں ہے جو نص شرعی کے خلاف ہو۔

(روح المعانی ج ۱۶ ص ۱۶-۱۸)

اب کیا ہم یہ مان لیں کہ اس قاعدہ کلیہ سے صرف ایک انسان مستثنیٰ کیا گیا ہے اور وہ ہیں حضرت خضر؟ یا یہ سمجھیں کہ خضر کوئی انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو مشیت الہی کے تحت (نہ کہ شریعت الہی کے تحت) کام کرتے ہیں؟ پہلی صورت کو ہم تسلیم کر لیتے اگر قرآن بالفاظ صریح یہ کہہ دیتا کہ وہ ”بندہ“ جس کے پاس حضرت موسیٰ اس تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے انسان تھا۔ لیکن قرآن اس کے انسان ہونے کی تصریح نہیں کرتا بلکہ صرف: ”عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا“ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کے الفاظ بولتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس بندے کے انسان ہونے کو مستلزم نہیں ہیں، قرآن مجید میں متعدد جگہ فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورۃ انبیاء: ۲۶۔ اور سورۃ زخرف: ۱۹، پھر کسی صحیح حدیث میں نبی ﷺ سے بھی کوئی ایسا ارشاد منقول نہیں ہے جس میں صراحت کے ساتھ حضرت خضر کو نوع انسانی کا ایک فرد قرار دیا گیا ہو۔ اس باب میں مستند ترین روایات وہ ہیں جو عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن ابی بن کعب، عن رسول اللہ ﷺ کی سند سے ائمہ حدیث کو پہنچی ہیں۔ ان میں حضرت خضر کے لئے صرف رَجُل کا لفظ آیا ہے جو اگرچہ مرد انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر انسانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ چنانچہ خود قرآن میں یہ لفظ جنوں کے لیے مستعمل ہو چکا ہے جیسا کہ سورۃ جن میں ارشاد ہوا ہے: ”وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ“۔ نیز یہ ظاہر ہے کہ جن یا فرشتہ یا کوئی اور غیر مرئی وجود جب انسانوں کے سامنے آئے گا تو انسانی شکل ہی میں آئے گا اور اس حالت میں اس کو بشر یا انسان ہی کہا جائے گا۔ حضرت مریم کے سامنے جب فرشتہ آیا تھا تو قرآن اس واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے کہ: ”فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا“۔ پس نبی ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا“ حضرت خضر کے انسان ہونے پر صریح دلالت نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس پیچیدگی کو رفع کرنے کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم ”خضر“ کو انسان نہ مانیں بلکہ فرشتوں میں سے یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرائع کی مکلف نہیں ہے بلکہ کارگاہ مشیت کی کارکن ہے۔ متقدمین میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے جسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ماوردی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۳ ص ۴۲-۴۰، بحوالہ مسودہ تبیان القرآن ج ۷ ص ۱۴۶)

صاحب تبیان کی تحقیق کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے اور شیخ مودودی کا دلائل سے رد

صاحب تبیان نے الکہف کی آیات مذکورہ کی تفسیر میں دلائل و براہین سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے۔ اور شیخ مودودی کی مذکورہ تحقیق کا مفصل رد کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

متقدمین میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت خضر فرشتہ تھے اسی طرح علامہ ماوردی نے بھی بعض لوگوں کا یہ قول نقل کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی یہ قول نقل کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی یہ مختار نہیں ہے کہ حضرت خضر فرشتہ تھے۔ ان سب کا یہی

مخار ہے کہ حضرت خضر نبی تھے۔ علامہ ماوردی متوفی ۴۵۰ھ کی بھی یہی رائے ہے اور اسی پر انہوں نے دلائل دیئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

دوسرا قول یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے بشر تھے اور وہ بشر نبی تھے کیونکہ انسان اسی سے علم حاصل کرتا ہے جس کا رتبہ اس سے بلند ہو اور یہ جائز نہیں کہ نبی کے اوپر ایسا انسان ہو جو نبی نہ ہو۔ (الکت والعیون ج ۶ ص ۳۲۵، مؤسس الکتب الشافیہ بیروت) اور حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۲ھ لکھتے ہیں:

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: ”وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي“۔ (الکہف: ۸۲) یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے۔ یعنی مجھے ان کاموں کا حکم دیا گیا اور میں ان پر واقف ہو گیا اس میں یہ دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور دوسروں نے کہا وہ رسول تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ فرشتے تھے اس قول کو علامہ ماوردی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نبی نہ تھے اللہ کے ولی تھے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۱۱، مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ اگر بعض لوگوں نے حضرت خضر کو فرشتہ کہا ہے تو بعض لوگوں نے ان کو رسول اور ولی بھی کہا ہے لیکن یہ ساقط الاعتبار قول ہیں۔ جمہور کی تحقیق یہی ہے کہ وہ نبی ہیں اور ساقط الاعتبار اقوال سے استدلال کرنا انصاف سے بعید ہے۔ علامہ محمد بن یوسف ابو حیان اندلسی متوفی ۵۴۲ھ لکھتے ہیں:

اور جمہور اس پر متفق ہیں کہ حضرت خضر نبی ہیں اور ان کو بوطن کی معرفت کا علم دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر شریعت کا علم تھا۔ (البحر المحیط ج ۷ ص ۲۰۴، مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

سید ابوالاعلیٰ موودی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ احادیث میں حضرت خضر علیہ السلام کے لئے (رجل) مرد کا لفظ آیا ہے لیکن مرد کا لفظ صریحاً انسان ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کہ احادیث میں کم از کم حضرت خضر کے لیے مرد کا لفظ تو آیا ہے لیکن قرآن اور حدیث میں یہ صراحت کہیں بھی نہیں آئی کہ حضرت خضر انسان نہیں فرشتہ تھے۔ علاوہ ازیں جنات کے لئے جو ”رجل“ کا لفظ ہے وہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ ”بِرِّجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ“ ہے اور حضرت جبریل کے لئے بشر کا لفظ مثل کے ساتھ ہے بغیر قرینہ کے ”رجل“ کا لفظ صرف آدمی کے لئے ہوتا ہے پھر بغیر کسی تصریح کے جمہور کے موقف کے خلاف یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ نبی نہیں فرشتہ تھے باقی رہا یہ شبہ کہ بلا قصور ایک لڑکے کو قتل کرنا اور کشتی کو عیب دار کرنا گناہ ہے یہ حضرت خضر کے لئے کیسے جائز ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام گناہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد کیا جائے انہوں نے تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے تھے جیسا کہ انہوں نے فرمایا: ”وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي“۔ (الکہف: ۸۲)

آپ دیکھئے! حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیسی جائز تھا ہماری شریعت میں حرام اور گناہ ہے اسی طرح بنو اسرائیل کی شریعت میں مال غنیمت سے کھانا گناہ تھا ہماری شریعت میں جائز ہے اسی طرح حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ کام گناہ تھے اور حضرت خضر کے نزدیک یہ کام جائز تھے کیونکہ ان کو اسی طرح حکم دیا گیا تھا۔ باقی رہا سید موودی کا یہ کہنا کہ تکوینی امور فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں نبیوں کے سپرد نہیں کیے جاتے میں کہتا ہوں کہ یہ قاعدہ قرآن مجید کی کس آیت میں یا کس حدیث میں لکھا ہے؟ اور بہ فرض مجال اگر کہیں یہ قاعدہ لکھا ہوا بھی ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس قاعدے سے کوئی استثناء نہیں ہو سکتا جب کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں:

ما من عام الا وقد خص عنه البعض۔ ہر عام قاعدہ سے کوئی نہ کوئی فرد مستثنیٰ ہوتا ہے۔

باقی رہا یہ کہ آپ کے پاس اس پر کیا دلیل ہے کہ حضرت خضر فرشتہ نہیں تھے انسان تھے تو ہماری دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:
 فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ نِسْتَطْعَمَا
 فَابْتَدَأَتْهُنَّ أَنَّهِنَّ نَجْسٌ فَأَبَيْنَ لَهُنَّ الْفَيْءُ الْمَكْنُونُ
 فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا. (الکہف: ۷۷)

امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

حتى اذا اتيا اهل قرية لنا ما فطافا في المجالس
 فاستطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما.
 (صحیح مسلم فضائل خضر رقم الحدیث: ۱۷۲) والوں نے ان دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔
 وہ دونوں کم ظرف لوگوں کی بستی میں آئے اور ان کی تمام
 مجالس میں گھومے اور ان دونوں نے ان سے کھانا مانگا، لیکن بستی

قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں نے اس بستی کی مجلسوں میں
 پھر پھر کھانا مانگا اور ظاہر ہے کہ کھانے کی احتیاج انسانوں کو ہوتی ہے، فرشتوں کو نہیں ہوتی بلکہ فرشتوں کے سامنے حضرت ابراہیم
 نے کھانا رکھا، انہوں نے پھر بھی کھانا نہیں کھایا اور حضرت ابراہیم ان سے اجنبیت محسوس کر کے ان سے ڈرنے لگے۔ (ہود: ۷۰) پس
 حضرت خضر علیہ السلام کا کھانا طلب کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے، فرشتے نہ تھے۔
 صاحب تبیان نے اس مقام پر اپنے موقف کی تائید اور شیخ مودودی کے رد کی مزید تقویت کے لئے شیخ امین احسن اصلاحی اور
 مفتی محمد شفیع دیوبندی کی تصریح نقل کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔

(دیکھئے: تدبر القرآن ج ۶ ص ۶۰۶، مطبوعہ فاران فاؤنڈیشن لاہور، معارف القرآن ج ۵ ص ۶۱۲، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، ۱۳۱۲ھ)

اور ان کا اس بات کی تصریح کرنا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یہ اس بات کی تصریح ہے کہ وہ انسان تھے، فرشتے نہ تھے۔

نااہل شخص کو سند یا لائسنس جاری کرنا، شہادت کا ذبہ ہے یا ظلم اور کذب؟

اس بارے میں مفتی محمد شفیع دیوبندی کی تحقیق

مفتی محمد شفیع دیوبندی نے معارف القرآن میں اس پر بحث کی ہے کہ کسی نااہل شخص کو سرٹیفکیٹ یا لائسنس دینا، جھوٹی شہادت
 ہے یا نہیں؟ اور امتحانات میں طلباء کے پرچوں پر نمبر لگانا، شہادت اور گواہی ہے یا نہیں؟ ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ نااہل کو سند یا
 لائسنس دینا، درحقیقت اس شخص کی قابلیت کی جھوٹی گواہی دینا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح طلباء کے پرچوں پر نمبرنگ، یہ بھی
 طالب علم کے قابل ہونے نہ ہونے کی شہادت ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

آخر میں ایک اور اہم بات بھی یہاں جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ لفظ شہادت اور گواہی کا جو مفہوم آج کل عرف میں مشہور ہو گیا
 ہے وہ تو صرف مقدمات و خصومات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینے کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ مگر قرآن و سنت کی اصطلاح
 میں لفظ شہادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلاً کسی بیمار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل نہیں یا نوکری
 کرنے کے قابل نہیں، یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اگر اس میں واقعہ کے خلاف لکھا گیا تو وہ جھوٹی شہادت ہو کر گناہ کبیرہ ہو گیا۔

اسی طرح امتحانات میں طلباء کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا بے پروائی سے نمبروں میں کمی
 بیشی کر دی تو وہ بھی جھوٹی شہادت ہے اور حرام اور سخت گناہ ہے۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۷۱-۷۰، مطبوعہ ادارۃ المعارف، کراچی، بحوالہ تبیان القرآن ج ۳ ص ۱۱۸)

نا اہل کو سند یا لائسنس دینے سے متعلق صاحب تبیان کی تحقیق اور تحقیق مذکورہ کا دلائل سے رد

صاحب تبیان کی تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ نا اہل شخص کو سند یا سرٹیفکیٹ دینا یا امتحانی کاپیوں پر ممتحن کا طلباء کو نمبر دینا، یہ تمام امور شہادت نہیں ہیں بلکہ قضاء کے مشابہ ہیں، کیونکہ شہادت کی تعریف ان امور پر صادق نہیں آتی۔ اس سلسلے میں آپ نے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے دلائل سے مفتی محمد شفیع دیوبندی کی اس تحقیق کا رد کیا ہے کہ یہ تمام امور شہادت اور گواہی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک اگر کوئی ڈاکٹر کسی صحت مند شخص کو کسی تعلق کی بناء پر یا رشوت لے کر بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے تو اس کے سر پر ایک گناہ تو رشوت لینے کا ہے اور اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ اس کا جھوٹ ہے اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے:

اِنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو بے شک اس پر اللہ کی لعنت

(النور: ۷) ہو ۝

اور جھوٹ پر عذاب کی وعید سنائی ہے:

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ

(البقرہ: ۱۰) بولتے تھے ۝

اگر کوئی ممتحن کسی طالب علم کے پرچہ میں رشوت لے کر یا سفارش یا تعلق کی بناء پر زیادہ نمبر لگاتا ہے یا دشمنی اور عداوت کی بنا پر اس کے نمبر کم لگاتا ہے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۶ھ لکھتے ہیں:

ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ اور اس کا شرعی معنی ہے حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنا اور اس کو جو رکھتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ غیر کی ملک میں تصرف کرنا ظلم ہے اور حد سے تجاوز کرنا ظلم ہے۔

(کتاب التعریفات ص ۶۲، مطبوعہ ایران، النہایہ ج ۳ ص ۶۱، المفردات ص ۳۱۶-۳۱۵)

اور ظلم بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت فرمائی ہے:

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝ (هود: ۱۸)

سنو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے ۝

اس لیے کسی ڈاکٹر کا صحت مند کو بیماری کا سرٹیفکیٹ دینا یا کسی افسر کا اناڑی کو ڈرائیونگ لائسنس دینا یا کسی ٹیکسی ڈرائیور کے غلط میٹر کو صحیح میٹر کی سند دینا یا رشوت لے کر کسی غیر ملکی کو قومی شناختی کارڈ بنا دینا یا کسی یونیورسٹی یا ادارہ کی جعلی سند جاری کر دینا اور اس نوع کی تمام جھوٹی اور جعلی دستاویزات، جھوٹ اور ظلم پر مبنی ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں۔ تاہم ان کو جھوٹی شہادت کے ذیل میں لانا صحیح نہیں ہے، خصوصاً ممتحن کے نمبر لگانے کا معاملہ کسی طور پر شہادت نہیں ہے۔ اس کے لگائے ہوئے نمبر شہادت نہیں، بلکہ ایک قسم کا فیصلہ ہیں، اگر وہ غلط نمبر لگائے گا تو یہ اس کی عدالت کے خلاف ہوگا اور قرآن مجید میں ہے:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤی اَنْ لَا تَعْدِلُوْۤا ۙ
اِعْدِلُوْۤا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی. (المائدہ: ۸)

کسی قوم کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے۔ تم

عدل کرتے رہو، وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔

طالب علم کا پرچہ چیک کر کے جو نمبر لگاتا ہے وہ اس کی قضا اور فیصلہ ہے۔ اسی طرح جو افسر گاڑی کی فٹ نیس (Fitness) کا

سرٹیفکیٹ دیتا ہے یا میٹر کو صحیح قرار دیتا ہے یہ اس کی قضا اور فیصلہ ہے اور ڈاکٹر جو سرٹیفکیٹ دیتا ہے یہ اس کی ماہرانہ رائے ہے۔ یہ تمام امور مشابہ بالقضاء ہیں، شہادت نہیں۔ پس شہادت دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے میں شہادت دیتا ہوں جیسا کہ ہم عنقریب باحوالہ بیان کریں گے۔ اس لیے اگر یہ لوگ غلط فیصلہ کریں گے اور خلاف واقع تحریر کریں گے، تو عدل کے خلاف ہوگا اور ظلم اور جھوٹ ہوگا اور یہ کام موجب لعنت ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں، لیکن یہ شہادت کی تعریف میں نہیں آتے۔

اس مقام پر مفسر زید مجدہم نے اپنے دعویٰ کے اثبات میں مستند کتب کی روشنی میں شہادت کی تعریف ذکر کی ہے اور بتایا ہے کہ ذکر کردہ امور کو شہادت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۶ھ لکھتے ہیں قاضی کے سامنے ایک شخص کے دوسرے شخص پر حق کی لفظ شہادت کے ساتھ خبر دینا (مثلاً کہے میں شہادت دیتا ہوں کہ فلاں آدمی کا فلاں شخص پر فلاں حق ہے) شریعت میں شہادت ہے۔

(کتاب التعریفات ص ۵۷، مطبوعہ ایران)

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم علم اور یقین کے قائم مقام ہے، اس میں یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ دوسری قسم وہ ہے جو قسم کے قائم مقام ہے، اس میں مثلاً یہ کہے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ زید چلنے والا ہے۔ (المفردات ص ۲۶۸)

علامہ محمد بن محمود باری حنفی متوفی ۷۸۶ھ لکھتے ہیں:

جب گواہ مسوعات کی جنس سے کوئی بات سنے مثلاً بیع، اقرار یا حاکم کے حکم کو سنے، یا مبصرات میں سے کسی چیز کو دیکھے مثلاً کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھے یا کسی کو غصب کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں فلاں شخص نے بیع کی یا حاکم نے فیصلہ کیا خواہ اس کو گواہ نہ بنایا گیا ہو۔ (عناہ مع فتح القدر ج ۷ ص ۳۵۷، طبع بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ نے لکھا ہے کہ شہادت میں لفظ شہادت (مثلاً میں شہادت دیتا ہوں) کہنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اسی لفظ کے ساتھ شہادت دینے کا حکم فرمایا ہے:

اور تم میں سے دو نیک شخص شہادت دیں۔

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. (الطلاق: ۲)

اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو شاہد (گواہ) بنا لو۔

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. (البقرہ: ۲۸۲)

اور تم اپنے مردوں میں سے دو شاہد طلب کرو۔

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ.

(البقرہ: ۲۸۲)

اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. (الطلاق: ۲)

امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے شہادت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اس کی مثل ہو تو شہادت دو ورنہ چھوڑ دو۔

(المستدرک ج ۴ ص ۱۹۸، سنن کبریٰ ج ۱۰ ص ۱۵۶)

ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ کسی سنی ہوئی بات یا کسی وقوع پذیر ہونے والے حادثہ کی لفظ شہادت کے ساتھ خبر دینے کو

شہادت کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر جو کسی مریض کے متعلق اپنی رائے لکھتا ہے یا ممتحن کسی پرچہ پر نمبر لگاتا ہے اس میں کسی واقعہ یا حادثہ کی خبر نہیں دی جاتی، بلکہ اپنی طرف سے ایک رائے دی جاتی ہے یا ایک حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان امور کو شہادت کے ذیل میں لانا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر بد نیتی کی وجہ سے صحیح رائے نہ لکھی جائے یا صحیح حکم نہ لگایا جائے تو یہ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے اور اگر اس نے دانستہ اپنی فی الواقع رائے کے خلاف لکھا تو یہ جھوٹ ہے اور بہر حال گناہ کبیرہ ہے۔ (بیان القرآن ج ۳ ص ۱۲۰-۱۱۸)

نا اہل شخص کو ووٹ دینا کیوں ناجائز ہے؟ اس بارے میں مفتی محمد شفیع دیوبندی کی تحقیق

گذشتہ مسئلہ کی طرح اس مسئلہ میں بھی مفتی محمد شفیع نے یہی لکھا ہے کہ نا اہل شخص کو ووٹ دینا چونکہ ایک جھوٹی شہادت ہے، نیز یہ غلط شفاعت (سفارش) اور ناجائز وکالت بھی ہے اس لیے یہ ناجائز ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل طلباء کو سند یا سرٹیفکیٹ دینا اس کی شہادت ہے کہ وہ متعلقہ کام کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ شخص واقع میں ایسا نہیں ہے تو اس سرٹیفکیٹ یا سند پر دستخط کرنے والے سب کے سب شہادت کا ذبحہ کے مجرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسمبلیوں اور کونسلوں وغیرہ کے انتخاب میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے۔ جس میں ووٹ دہندہ کی طرف سے اس کی گواہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دیانت و امانت کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔

اب غور کیجئے کہ ہمارے نمائندوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ گواہی سچی اور صحیح ثابت ہو سکے، مگر ہمارے عوام ہیں کہ انہوں نے اس کو محض ہارجیت کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے ووٹ کا حق کبھی پیسوں کے عوض میں فروخت ہوتا ہے، کبھی کسی دباؤ کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ناپائیدار دوستوں اور ذلیل وعدوں کے بھروسہ پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تو اور، لکھے پڑھے دیندار مسلمان بھی نا اہل لوگوں کو ووٹ دیتے وقت کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم یہ جھوٹی گواہی دے کر مستحق لعنت و عذاب بن رہے تھے۔

نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کی از روئے قرآن ایک دوسری حیثیت بھی ہے جس کو شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے، کہ ووٹ دینے والا گویا یہ سفارش کرتا ہے فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ اس کا حکم قرآن کریم کے الفاظ میں پہلے بیان ہو چکا ہے ارشاد ہے:

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا
وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا.

(النساء: ۸۵)

یعنی جو شخص اچھی اور سچی سفارش کرے گا، تو جس کے حق میں سفارش کی ہے اس کے نیک عمل کا حصہ اس کو بھی ملے گا اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے، یعنی کسی نا اہل اور برے شخص کو کامیاب بنانے کی سعی کرتا ہے، اس کو اس کے برے اعمال کا حصہ ملے گا۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ امیدوار اپنی کارکردگی کے بیچ سالہ دور میں جو غلط اور ناجائز کام کرے گا، ان سب کا وبال ووٹ دینے والے کو بھی پہنچے گا۔

ووٹ کی ایک تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے۔ لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا تو اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا، مگر یہاں

ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نا اہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا۔

خلاصہ یہ کہ ہمارا ووٹ تین حیثیتیں رکھتا ہے۔ ایک شہادت، دوسرے شفاعت اور تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تین حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں اسی طرح نا اہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری شفاعت بھی اور ناجائز وکالت بھی اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔

اس لیے ہر مسلمان ووٹر پر فرض ہے کہ ووٹ دینے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لے کہ جس کو ووٹ دے رہا ہے وہ کام کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں اور دیانت دار ہے یا نہیں، محض غفلت و بے پرواہی سے بلا وجہ ان عظیم گناہوں کا مرتکب نہ بنے۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۷۲-۷۱، مطبوعہ ادارہ المعارف، کراچی۔ بحوالہ تبیان القرآن ج ۳ ص ۱۲۰)

نا اہل کو ووٹ دینے کے عدم جواز پر صاحب تبیان کی تحقیق اور تحقیق مذکور کا مدلل رد

مفتی محمد شفیع کی تحقیق کے برخلاف صاحب تبیان کی تحقیق یہ ہے کہ نا اہل شخص کو ووٹ دینا، درحقیقت اس کو کسی منصب پر فائز کرنا ہے اور نا اہل کو منصب دینے سے شرعاً منع کیا گیا ہے، نیز یہ ظلم اور خیانت ہے، نہ کہ جھوٹی شہادت یا بری شفاعت یا ناجائز وکالت، جیسا کہ مفتی محمد شفیع نے لکھا ہے۔

صاحب تبیان اپنے موقف پر دلائل ذکر کرتے ہوئے اور تحقیق مذکور کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جو شخص علم اور عمل کے اعتبار سے نا اہل ہو، اس کو ووٹ دینا ہمارے نزدیک بھی ناجائز اور گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ووٹ کسی کے حق میں شہادت ہے، یا وکالت ہے، یا شفاعت ہے، اس کا شہادت نہ ہونا تو ہماری پہلی تقریر سے واضح ہو گیا۔ شہادت میں کسی دیکھے ہوئے یا سنے ہوئے واقعہ کی لفظ شہادت کے ساتھ خبر دی جاتی ہے، اور ووٹ دینے کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ شفاعت اس لیے نہیں ہے کہ شفاعت میں کسی تیسرے شخص کے پاس کسی منصب کے لیے سفارش کی جاتی ہے اور اس تیسرے شخص کے اختیار میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ خواہ اس شفاعت کو قبول کرے خواہ رد کر دے، جب کہ ووٹ کی حیثیت اس طرح نہیں ہے۔ جس نمائندہ کے ووٹ ڈالے گئے ہیں، اگر اس کے ووٹ اپنے مقابل سے زیادہ ہوں تو وہ اسمبلی کا ممبر بن جائے گا۔ اس میں کسی کے قبول کرنے نہ کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس طرح ووٹ وکالت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وکالت میں موکل کسی شخص کو وکیل بنانے کے بعد اس کو معزول بھی کر سکتا ہے۔ (ہدایہ اخیرین ص ۱۹۹) اور ووٹر کسی امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے بعد اپنے ووٹ کو کینسل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی منتخب ہونے کے بعد اس امیدوار کو معزول کر سکتا ہے۔

اگر کوئی شخص کسی تعلق یا لالچ یا دباؤ کی وجہ سے کسی نا اہل شخص کو ووٹ ڈال رہا ہے تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی صاف اور سیدھی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک منصب کے لیے نا اہل شخص کو مقرر کرنے کی سعی کر رہا ہے۔ اور اسلام میں کسی نا اہل کو منصب دینے سے منع کیا گیا ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اپنی بات مکمل کر کے فرمایا: جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے

فرمایا جب کوئی منصب کسی نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ (صحیح البخاری ج ۱، رقم الحدیث: ۵۹، مسند احمد، بہ تحقیق احمد شاہ ج ۸، رقم الحدیث: ۸۷۱۳، الجامع الصغیر ج ۱، رقم الحدیث: ۸۸۷، الجامع الکبیر ج ۱، رقم الحدیث: ۱۸۹۵)

جو کسی ایسے شخص کو قومی یا صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالتا ہے جو دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ مند نہ ہو اور اس کا بد چلن اور بد کردار ہونا بالکل واضح ہو تو وہ اس نمائندگی کے لیے نا اہل شخص کو منتخب کر رہا ہے اور نا اہل کو منصب کے لیے منتخب کرنا اس حدیث کے مطابق قیامت آجانے کے مترادف ہے۔ نیز اس سلسلہ میں مزید احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے کسی آدمی کو کسی جماعت کا امیر بنایا، حالانکہ اس جماعت میں اس سے زیادہ اللہ کا فرمان بردار بندہ تھا تو بنانے والے نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جماعت مسلمین سے خیانت کی۔ حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (المستدرک ج ۳ ص ۹۳-۹۲، مطبوعہ دارالباز، مکہ مکرمہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس آدمی نے کسی شخص کو مسلمانوں کا عامل بنایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے بہتر شخص موجود ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا زیادہ جاننے والا ہے تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ (کنز العمال ج ۶ ص ۷۹، مطبوعہ مؤسسہ الرسالہ بیروت، ۱۳۰۵ھ)

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب کوئی اہل شخص دین کا والی ہو تو دین پر نہ رونا اور جب نا اہل والی ہو تو پھر دین پر رونا۔ (علامہ احمد شاہ کرمتونی ۷۷، ۱۳۷ھ نے لکھا ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۱، رقم الحدیث: ۲۳۳۷۶، امام حاکم اور امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ المستدرک ج ۳ ص ۵۱۵، نیز امام طبرانی، متون، ۳۶۰ھ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ المعجم الاوسط ج ۱، رقم الحدیث: ۲۸۶، المعجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث: ۳۹۹۹)

ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ جو شخص پیسوں کے لالچ، برادری کے تعلق یا کسی بااثر آدمی کے دباؤ کی وجہ سے نا اہل کو ووٹ ڈالتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کرتا ہے۔ نیز اہل شخص کے ہوتے ہوئے نا اہل شخص کو ووٹ ڈالنا، ظلم ہے، کیونکہ ظلم کا معنی ہی یہ ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا اور ظالموں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ظلم گناہ کبیرہ ہے۔

نیز جب کوئی بد کردار اور فاسق و فاجر یا بد مذہب شخص اسمبلی میں پہنچے گا اور اس کو قانون سازی کا اختیار ملے گا تو یہ ممکن ہے کہ وہ خلاف شرع قانون بنائے یا اس کے حق میں ووٹ دے۔ جیسے ایوب خان کے دور میں عائلی قوانین بن گئے جو سراسر غیر اسلامی ہیں اور ۱۹۹۳ء تا ۱۹۹۶ء کی وفاقی کابینہ نے یہ مسودہ قانون منظور کیا کہ عورت خواہ قاتل ہو اس کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی اور یہ صریح قرآن کے خلاف ہے۔ جن لوگوں نے ایسے بے دین لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچایا یا جنہوں نے خلاف شرع قانون سازی کی، وہ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ اس لیے جو لوگ غیر متدین اور غیر صالح لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچائیں گے، وہ بھی برابر کے مجرم ہوں گے۔ اس لیے نا اہل شخص کو ووٹ دینا بالکل جائز نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہے، ظلم ہے اور خلاف شرع قانون بنانے کا ذریعہ ہے۔ (تبیان القرآن ج ۳ ص ۱۲۲-۱۲۱)

صاحب تبیان کی یہ تحقیق، مفتی محمد شفیع کی ذکر کردہ تحقیق کے مقابلہ میں یقیناً بہت مدلل اور معقول ہے۔ اس سے جہاں مفسر زید مجدہم کے علمی اور تحقیقی مقام کا اندازہ ہوتا ہے وہاں آپ کی تفسیر کی جامعیت بھی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب تبیان نے تفسیر کو لکھنے میں کس قدر جدوجہد اور کوشش سے کام لیا ہے۔ اللہ رب کریم مفسر زید مجدہم کو اس تفسیر کی تکمیل کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے اور ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ (آمین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین (تبیان القرآن جلد اول)

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	حدیث دل	۳۷	۱۸	نسخ کا شرعی معنی	۶۹
۲	مقدمہ تفسیر	۳۱	۱۹	نسخ میں مذاہب	۷۰
۳	وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴۳	۲۰	نسخ کے متعلق پرویز صاحب کے نظریہ کا علمی جائزہ	۷۱
۴	ضرورت وحی اور ثبوت وحی	۴۵	۲۱	نسخ کے وقوع پر قرآن مجید سے استدلال	۷۴
۵	وحی کی اقسام	۴۶	۲۲	ثبوت نسخ کے ذرائع	۷۴
۶	قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کے اسماء	۴۸	۲۳	مصنف کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی آیات	
۷	قرآن کریم کے فضائل اور اجر و ثواب	۵۰		منسوخہ کا بیان	۷۴
۸	قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے احکام آداب اور بعض ضروری مسائل		۲۴	احکام شرعیہ کو منسوخ کرنے کی حکمتیں	۷۹
۹	تفسیر کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانے کی تحقیق	۵۸	۲۵	”نسخ القرآن بالسنة“ کے قائلین اور ان کے دلائل	۸۰
۱۰	قرآن مجید کا اعجاز	۵۹	۲۶	”نسخ القرآن بالسنة“ کے مانعین اور ان کے دلائل کا تجزیہ	۸۰
۱۱	عظیم النظر ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا		۲۷	”نسخ القرآن بالسنة“ میں سنت کا محمل	۸۲
۱۲	فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا		۲۸	”نسخ القرآن بالسنة“ میں نسخ کا محمل	۸۲
۱۳	کمی اور زیادتی نہ ہو سکنے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا		۲۹	”نسخ القرآن بالسنة“ کی مثالیں	۸۲
۱۴	پیش گوئیوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا		۳۰	”نسخ السنة بالقرآن“ کا بیان	۸۳
۱۵	حقائق کائنات کی خبر دینے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا		۳۱	”نسخ السنة بالسنة“ کا بیان	۸۵
۱۶	نسخ کی تحقیق	۶۹	۳۲	اسباب نزول کا بیان	۸۶
۱۷	نسخ کا لغوی معنی	۶۹	۳۳	اسباب نزول کے فوائد	۸۷
			۳۴	عام سبب اور آیت کے عام الفاظ	۸۸
			۳۵	خاص سبب اور آیت کے خاص الفاظ	۸۸
			۳۶	خاص سبب اور آیت کے عام الفاظ	۸۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۸	تفسیر اور تاویل کا لغوی معنی	۵۴		ایک آیت کے متعدد اسباب اور ایک سبب کی	۳۷
۱۱۹	تفسیر کی اصطلاحی تعریف	۵۵	۹۱	متعدد آیات	
۱۲۰	تفسیر اور تاویل کا فرق	۵۶	۹۱	مکمل قرآن یکبارگی نازل نہ کرنے کی حکمتیں	۳۸
۱۲۱	تفسیر قرآن کی فضیلت پر عقلی دلائل	۵۷		سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سورت	۳۹
۱۲۱	تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث اور آثار	۵۸	۹۳	کابیان	
۱۲۲	قرآن مجید کی تفسیر کرنے پر اعتراضات کے جوابات	۵۹		سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت اور	۴۰
۱۲۲	جوابات		۹۵	سورت کا بیان	
۱۲۳	قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی مشروعیت اور جواز پر	۶۰	۹۶	مکی اور مدنی سورتوں کی معرفت	۴۱
۱۲۳	قرآن مجید احادیث اور آثار سے دلائل		۹۶	عہد رسالت میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان	۴۲
۱۲۴	طبقات مفسرین کا بیان	۶۱		حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن مجید	۴۳
۱۲۸	قرآن مجید کی تفسیر کے اصل مآخذ	۶۲	۹۹	کو جمع کرنے کا بیان	
۱۲۹	قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری علوم	۶۳		حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن مجید	۴۴
۱۳۱	سورہ فاتحہ		۱۰۲	کو جمع کرنے کا بیان	
۱۳۳	الحمد لله رب العلمین. (الفاتحہ: ۱-۷)	۱		حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اوراق	۴۵
۱۳۳	سورہ فاتحہ کے اسماء	۲		قرآن جلانے کا محمل اور قرآن کریم کے بوسیدہ	
۱۳۶	سورہ فاتحہ کے فضائل	۳	۱۰۳	اور اوراق کے متعلق فقہاء کے نظریات	
۱۳۹	سورہ فاتحہ کا مقام نزول	۴		قرآن مجید کے غیر محرف ہونے کے متعلق علماء	۴۶
۱۴۰	سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد	۵	۱۰۴	شیعہ کی تصریحات	
۱۴۱	سورہ فاتحہ کے مضامین	۶	۱۰۵	جمع قرآن کے متعلق علماء شیعہ کا نظریہ	۴۷
۱۴۲	اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم	۷	۱۰۶	سات حرفوں پر قرآن مجید کے نزول کی تحقیق	۴۸
۱۴۲	”اعوذ باللہ“ کے مفردات کے معانی	۸		قرآن مجید کی سورتوں، آیتوں اور حرفوں کی تعداد	۴۹
۱۴۳	”اعوذ باللہ“ کے صرف اور اعراب کا بیان	۹	۱۰۸	کابیان	
۱۴۳	نماز اور غیر نماز میں ”اعوذ باللہ“ پڑھنے کے متعلق احادیث	۱۰		قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر	۵۰
۱۴۳	متعلق احادیث		۱۰۹	مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات	
۱۴۴	نماز میں ”اعوذ باللہ“ پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۱		قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ اور	۵۱
۱۴۴	مالکیہ کا مذہب		۱۱۲	تحقیق	
۱۴۴	نماز میں ”اعوذ باللہ“ پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۲	۱۱۳	قرآن مجید پر رموز اوقات لگانے کی تاریخ اور تحقیق	۵۲
۱۴۴	حنبلیہ کا مذہب		۱۱۸	مضامین قرآن کا خاکہ ایک نظر میں	۵۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۵۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور حکمتیں	۳۱		نماز میں "اعوذ باللہ" پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۳
۱۶۰	حمد کے لغوی اور اصطلاحی معانی	۳۲	۱۳۴	شافعیہ کا مذہب	
۱۶۱	تمام تعریفوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے استحقاق پر دلیل	۳۳		نماز میں "اعوذ باللہ" پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۴
	مخلوق کا شکر ادا کرنے سے پہلے خالق کا شکر ادا کیا جائے	۳۴	۱۳۵	احناف کا مذہب	
۱۶۱			۱۳۶	بسم اللہ الرحمن الرحیم	۱۵
۱۶۲	اللہ تعالیٰ کی کما حقہ حمد و ثناء سے مخلوق کا عاجز ہونا	۳۵	۱۳۶	بائے بسم اللہ کا معنی	۱۶
۱۶۲	اللہ کی حمد کرنے کے احوال اور اوقات	۳۶	۱۳۷	فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر کرنے کی وجوہ	۱۷
۱۶۳	اللہ کی حمد کی فضیلت اور اجر و ثواب	۳۷	۱۳۷	بسم اللہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی وجہ	۱۸
۱۶۵	خود اپنی حمد و ثناء کرنے کی شرعی نوعیت	۳۸		لفظ اللہ کا معنی اور اس کے وصف یا علم ہونے کی تحقیق	۱۹
	کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی حمد و ثناء کرنے کی شرعی نوعیت	۳۹	۱۳۸		
۱۶۷			۱۳۹	رحمن اور رحیم کا معنی	۲۰
۱۶۸	منہ پر تعریف کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل	۴۰	۱۵۰	رحمن کو رحیم پر مقدم کرنے کی وجوہ	۲۱
۱۶۹	رب کا لغوی اور شرعی معنی	۴۱		بسم اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف	۲۲
۱۷۰	العلمین کا لغوی اور عرفی معنی	۴۲	۱۵۰	رمز اور اشارہ	
۱۷۱	العلمین کے متعلق اقوال میں مصنف کا مختار	۴۳		"بسم اللہ الرحمن الرحیم" سے متعلق فقہی مباحث	۲۳
۱۷۱	اللہ تعالیٰ کی تربیت میں غور و فکر	۴۴	۱۵۱	"بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے آیت قرآن ہونے کی تحقیق	۲۴
	کمال ذات، گزشتہ احسان، رجا اور خوف سے حمد و ثناء کا تقاضا	۴۵	۱۵۱		
۱۷۲	بعض مفسرین کی فروگزاشت	۴۶		بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ فاتحہ کے جز نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ	۲۵
۱۷۲	مالک اور مالک کی دو قراءتیں	۴۷	۱۵۲		
۱۷۳	یوم کا عرفی اور شرعی معنی	۴۸		اوائل سور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ان سورتوں کے جز نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ	۲۶
۱۷۳	یوم قیامت کی مقدار	۴۹	۱۵۳		
۱۷۵	وقوع قیامت پر عقلی دلیل	۵۰	۱۵۴	نماز میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق مذاہب اربعہ	۲۷
۱۷۵	وقوع قیامت پر شرعی دلائل	۵۱		نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ سے پڑھنے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ	۲۸
	دنیا میں راحت اور مصیبت کا آنا، مکمل جزاء اور سزا نہیں ہے	۵۲	۱۵۵		
۱۷۶			۱۵۶	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۲۹
۱۷۶	دین کا لغوی معنی	۵۳		اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسماء لکھنے اور پڑھنے کے آداب	۳۰
۱۷۶	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۵۴	۱۵۷		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ	۷۳		”اللہ رب رحمن رحیم“ اور ”مالک یوم الدین“ میں	۵۵
	کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست		۱۷۷	وجہ ارتباط	
۱۹۳	کرنا		۱۷۸	عبادت کا لغوی معنی	۵۶
	حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول	۷۵	۱۷۹	عبادت کا اصطلاحی معنی	۵۷
۱۹۴	اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا		۱۷۹	قرآن مجید میں عبد کے اطلاقات	۵۸
	شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن	۷۶		اپنے غلام کو ”میرا عبد“ کہنے کی کراہت اور	۵۹
۱۹۵	حنیف کی روایت کی تائید توثیق اور تصحیح		۱۸۰	عبدالنبی وغیرہ نام رکھنے کی تحقیق	
	طبرانی کی روایت مذکورہ کا صحاح کی دوسری روایت	۷۷	۱۸۱	عبادت کا اللہ تعالیٰ میں منحصر ہونا	۶۰
۱۹۵	سے تعارض کا جواب			”ایاک نعبد“ میں حرف خطاب کو مقدم کرنے	۶۱
	توسل بعد از وصال پر شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات	۷۸	۱۸۲	کے اسرار اور نکات	
۱۹۶	اور مصنف کے جوابات			”ایاک نعبد“ میں جمع کا صیغہ لانے کے اسرار	۶۲
	توسل بعد از وصال کے متعلق شیخ عبدالحق محدث	۷۹	۱۸۳	اور نکات	
۱۹۸	دہلوی کا نظریہ			غیوبت سے خطاب کی طرف التفات کے اسرار	۶۳
۱۹۹	توسل بعد از وصال کے متعلق علامہ آلوسی کا نظریہ	۸۰	۱۸۳	اور نکات	
	توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم شیخ	۸۱	۱۸۴	استعانت کا معنی	۶۴
۲۰۰	وحید الزمان کا نظریہ		۱۸۴	”ایاک نستعین“ کی تفسیر	۶۵
	توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم قاضی	۸۲	۱۸۴	عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی وجوہ	۶۶
۲۰۱	شوکانی کا نظریہ		۱۸۵	اولیاء اللہ سے استعانت کی تحقیق	۶۷
	انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ	۸۳	۱۸۷	اولیاء اللہ سے استعانت کا صحیح طریقہ	۶۸
۲۰۱	راست استمداد کے متعلق احادیث		۱۸۷	وسیلہ کا لغوی معنی	۶۹
	رجال غیب (ابدال) سے استمداد کے متعلق فقہاء	۸۴		انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی ذوات سے	۷۰
۲۰۲	اسلام کے نظریات		۱۸۸	توسل کے متعلق فقہاء کرام کی عبارات	
	امام ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر کے حوالوں سے	۸۵		حضرت آدم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ	۷۱
۲۰۳	عہد صحابہ میں ندائے یا محمد اہ کارواج		۱۸۹	وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا	
۲۰۴	ندائے یا محمد اور توسل میں علماء دیوبند کا موقف	۸۶		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلہ سے	۷۲
	ندائے غیر اللہ اور توسل کے متعلق مصنف کا	۸۷	۱۹۱	دعا فرمانا	
۲۰۷	موقف			رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلہ سے	۷۳
۲۰۹	ہدایت کا لغوی معنی اور اس کی اقسام	۸۸	۱۹۲	دعا کرنے کی ہدایت دینا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۲۹	سورہ بقرہ		۲۱۰	ہدایت کی اقسام کی مزید تفصیل	۸۹
۲۳۱	سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف	۱		اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۹۰
۲۳۲	سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ	۲	۲۱۰	کی ہدایت کا فرق	
	سورہ بقرہ کے محل نزول اور آیات اور حروف کی	۳	۲۱۱	صراط مستقیم کا لغوی اور شرعی معنی	۹۱
۲۳۳	تعداد کا بیان			کیا نمازی کا صراط مستقیم کی دعا کرنا تحصیل حاصل	۹۲
۲۳۴	سورہ بقرہ کے فضائل میں احادیث اور آثار	۴	۲۱۱	ہے؟	
۲۳۷	الم ○ ذلك الكتب لا ريب . (البقرہ: ۱-۵)	۵	۲۱۲	جمع کے صیغہ سے دعا کرنے کی وجہ اور ربط آیات	۹۳
۲۳۷	حروف مقطعات کے علم کی تحقیق	۶	۲۱۳	انعام یافتہ لوگوں کا بیان	۹۴
۲۴۰	کتاب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷	۲۱۳	انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کا بیان	۹۵
۲۴۱	”ریب“ کا معنی	۸	۲۱۴	”مغضوب“ کا معنی	۹۶
۲۴۱	قرآن مجید میں ”ریب“ کی نفی اور اثبات کا محمل	۹	۲۱۴	”المغضوب علیہم“ کی ماثور تفسیر	۹۷
	آیا قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے	۱۰		”مغضوب“ کا معنی بیان کرنے میں بعض علماء	۹۸
۲۴۲	یا صرف متقین کے لیے؟		۲۱۴	کی لغزش	
۲۴۲	تقویٰ کا صیغہ اور اس کا لغوی معنی	۱۱	۲۱۵	”ضالین“ کے معانی	۹۹
۲۴۳	تقویٰ کا اصطلاحی معنی	۱۲		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ”ضالین“	۱۰۰
۲۴۵	تقویٰ اور متقین کے متعلق احادیث	۱۳	۲۱۷	کی منقول تفسیر	
۲۴۶	تقویٰ کے مراتب	۱۴		جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا آیا وہ	۱۰۱
۲۴۷	ایمان کے لغوی معنی کی تفصیل اور تحقیق	۱۵	۲۱۷	شریعت کے مکلف ہیں یا نہیں؟	
۲۴۹	ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب	۱۶	۲۱۷	آمین کا معنی	۱۰۲
۲۵۰	نفس ایمان اور ایمان کامل کا بیان	۱۷	۲۱۸	نماز میں آمین کہنے کے متعلق مذاہب اربعہ	۱۰۳
	مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کافی نہیں	۱۸	۲۱۹	آمین کہنے کی فضیلت میں احادیث	۱۰۴
۲۵۱	ہے بلکہ ماننا ضروری ہے		۲۱۹	آمین بالجبر کے متعلق احادیث	۱۰۵
	ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے	۱۹	۲۲۰	آمین بالسر کے متعلق احادیث	۱۰۶
۲۵۲	پر قرآن مجید سے استشہاد		۲۲۱	آمین قرآن مجید کا جز نہیں ہے	۱۰۷
	ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے	۲۰	۲۲۱	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۱۰۸
۲۵۲	پر قرآن مجید سے استشہاد		۲۲۲	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۱۰۹
	ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر	۲۱	۲۲۳	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۱۱۰
۲۵۲	قرآن مجید سے استشہاد		۲۲۳	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء احناف کا نظریہ	۱۱۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۷۴	حرام کے رزق نہ ہونے پر معتزلہ کے دلائل	۴۶		ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر قرآن مجید سے استشہاد	۲۲
۲۷۴	معتزلہ کے دلائل کے جوابات	۴۷	۲۵۳		
۲۷۵	حرام کے رزق ہونے پر اہل سنت کے دلائل	۴۸		ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر احادیث سے استشہاد	۲۳
	آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالخصوص زکوٰۃ	۴۹	۲۵۴		
۲۷۶	مراد ہے یا عام خرچ کرنا؟		۲۵۵	ایمان میں کمی اور زیادتی کے دلائل کے جوابات	۲۴
۲۷۶	راہ خدا میں کل مال خرچ کرنے کی شرعی حیثیت	۵۰	۲۵۶	آیا اسلام اور ایمان متغائر ہیں یا متحد؟	۲۵
۲۷۷	”انزال“ کا معنی اور اس کی کیفیت	۵۱	۲۵۸	غیب کا معنی	۲۶
	”ما انزل الیک وما انزل من قبلك“ کی	۵۲	۲۵۸	آیات مذکورہ میں غیب کا مصداق	۲۷
۲۷۷	تفسیر		۲۵۸	آیات مذکورہ میں مومنین بالغیب کا مصداق	۲۸
۲۷۷	ختم نبوت پر دلیل	۵۳		آیا مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق جائز ہے یا	۲۹
۲۷۸	دارِ آخرت اور یقین کا معنی	۵۴	۲۵۹	نہیں	
۲۷۹	ان الذین کفروا سوء علیہم۔ (الفاتحہ: ۷-۶)	۵۵	۲۶۳	خلاصہ بحث	۳۰
۲۷۹	کفر کا لغوی معنی	۵۶		جس غیب کی خبر دے دی جائے آیا وہ غیب رہا یا	۳۱
۲۸۰	دیگر مفردات کے لغوی معانی	۵۷	۲۶۳	نہیں؟	
۲۸۰	شان نزول	۵۸	۲۶۴	صلوٰۃ کا لغوی معنی	۳۲
	اللہ تعالیٰ کے کلام کے قدیم ہونے پر معتزلہ کا	۵۹	۲۶۴	اقامت صلوٰۃ کے معانی اور محال	۳۳
۲۸۰	اعتراض اور اس کا جواب		۲۶۵	بہتر رتج نمازوں کی فرضیت کی کیفیت کا بیان	۳۴
	اللہ تعالیٰ نے جس ممکن کے عدم وقوع کی خبر دی	۶۰	۲۶۶	عبادات میں نماز کی جامعیت	۳۵
۲۸۱	ہے اس کے ساتھ مکلف کرنے کی تحقیق		۲۶۷	قرآن مجید اور احادیث میں نماز پڑھنے کی تاکید	۳۶
	محال بالذات کے ساتھ مکلف کرنے پر علامہ	۶۱	۲۶۹	تارک نماز کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۳۷
۲۸۱	بیضاوی کی دلیل اور اس کا جواب		۲۷۰	تارک نماز کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۳۸
	جن کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا ہے ان کو تبلیغ	۶۲	۲۷۰	تارک نماز کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۳۹
۲۸۲	کرنے کی وجہ		۲۷۱	فقہاء شافعیہ کے دلائل کے جوابات	۴۰
	جب کفار کے دلوں پر مہر لگادی گئی تو ان سے	۶۳	۲۷۲	تارک نماز کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۴۱
۲۸۲	مواخذہ کیوں؟		۲۷۲	تارک نماز کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ	۴۲
۲۸۳	قلب کی تعریف	۶۴	۲۷۳	فقہاء احناف کے موقف پر دلیل	۴۳
	ومن الناس من یقول امنا باللہ	۶۵	۲۷۳	رزق کا لغوی معنی	۴۴
۲۸۳	(البقرہ: ۱۰-۸)		۲۷۳	رزق کا اصطلاحی معنی	۴۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۹۶	ملتے تھے			منافقین کے اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے	۶۶
۲۹۷	اللہ تعالیٰ کے استہزاء کی توجیہ	۸۶	۲۸۵	سلسلہ میں اعتراضات کے جوابات	
	اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى.	۸۷	۲۸۶	شعور کا معنی	۶۷
۲۹۸	(البقرہ: ۱۸-۱۶)		۲۸۶	مرض کی تعریف اور منافقین کے مرض کا بیان	۶۸
۲۹۸	منافقین کے احوال کی پہلی مثال	۸۸		جھوٹ کی تعریف اس کا شرعی حکم اور منافقین کے	۶۹
۲۹۹	او كصيب من السماء. (البقرہ: ۲۰-۱۹)	۸۹	۲۸۷	جھوٹ کا بیان	
۳۰۰	منافقین کے احوال کی دوسری مثال	۹۰		جھوٹ بولنے کی ممانعت اور اس کے عذاب کے	۷۰
۳۰۰	دونوں مثالوں کا تجزیہ	۹۱	۲۸۷	متعلق احادیث	
	آیا عہد رسالت کے بعد منافقوں کا وجود ہے یا	۹۲	۲۸۸	جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع	۷۱
۳۰۰	نہیں؟			جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے	۷۲
۳۰۱	شے کے معنی میں اہل سنت اور معتزلہ کا اختلاف	۹۳	۲۸۸	کی اجازت	
۳۰۱	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا محال ہونا	۹۴	۲۸۸	شعور اور مبالغہ میں جھوٹ کا راز	۷۳
	اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معنی کی تحقیق اور اس کے	۹۵	۲۸۹	تعریف اور توریہ میں جھوٹ بولنے کا جواز	۷۴
۳۰۲	کذب کے محال ہونے پر دلائل		۲۹۱	توریہ کے سلسلہ میں فقہاء کی رائے	۷۵
۳۰۳	يا ايها الناس اعبدا واربكم. (البقرہ: ۲۲-۱۱)	۹۶	۲۹۱	خلاصہ بحث	۷۶
۳۰۳	ربط آیات اور التفات کے فوائد	۹۷		واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض.	۷۷
	باوجود اللہ تعالیٰ کے قرب کے ”يا ايها الناس“	۹۸	۲۹۲	(البقرہ: ۱۳-۱۱)	
۳۰۳	سے ندا کرنے کی توجیہ		۲۹۲	منافقین اپنے افساد کو اصلاح کیوں کہتے تھے؟	۷۸
	”يا ايها الناس“ سے سورہ بقرہ کے مدنی ہونے	۹۹		عہد رسالت سے لے کر آج تک افساد کو اصلاح	۷۹
۳۰۴	پر اعتراض کا جواب		۲۹۳	کا نام دینے کا تسلسل	
	مومنین، کفار اور منافقین کے لیے عبادت کے حکم	۱۰۰		ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کا	۸۰
۳۰۴	کا الگ الگ معنی		۲۹۳	معیار ہونا	
	کفار کے فروع کے مکلف ہونے میں علماء بخارا	۱۰۱	۲۹۴	زندیق کی توبہ کی قبولیت پر دلیل	۸۱
۳۰۴	اور علماء شافعیہ کا اختلاف اور صحیح موقف کا بیان		۲۹۴	زندیق کی تحقیق اور اس کا شرعی حکم	۸۲
۳۰۵	اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف	۱۰۲	۲۹۵	صحابہ کرام پر سب و شتم کی مذمت اور رد	۸۳
۳۰۵	اللہ تعالیٰ کے خالق اور لا شریک ہونے پر دلائل	۱۰۳		واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا.	۸۴
	”لعلکم تتقون“ میں امید کی نسبت بندوں کی	۱۰۴	۲۹۶	(البقرہ: ۱۵-۱۳)	
۳۰۷	طرف ہے			ان شیاطین کا بیان جن سے منافق خلوت میں	۸۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۴	مثال بیان کرنے کا قاعدہ	۱۲۳	۳۰۷	انسان عبادت پر غرور کرے نہ عبادت کی وجہ سے خود کو اجر کا مستحق سمجھے	۱۰۵
۳۲۴	حیاء کا معنی اور قرآن اور حدیث میں اللہ کی طرف حیاء کی نسبت کا محمل	۱۲۴	۳۰۹	زمین کا گول ہونا اور اس کا گردش کرنا اس کے فرش ہونے کے منافی نہیں ہے	۱۰۶
۳۲۵	اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی توجیہ	۱۲۵	۳۰۹	پھلوں کو بتدریج پیدا کرنے کی حکمت	۱۰۷
۳۲۵	فسق کی تعریف اور اس کی اقسام	۱۲۶	۳۱۰	اللہ تعالیٰ کے لاشریک ہونے کا بیان	۱۰۸
۳۲۶	عہد موثق کا معنی اور اس کی اقسام	۱۲۷	۳۱۱	شرک کی تعریف	۱۰۹
۳۲۷	منافقین کا شر اور فساد	۱۲۸	۳۱۱	کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے	۱۱۰
۳۲۷	کیف تکفرون باللہ. (البقرہ: ۲۹-۲۸)	۱۲۹	۳۱۱	وان کنتم فی رب مما نزلنا علی عبدنا.	۱۱۱
۳۲۸	حیات اور موت کا معنی	۱۳۰	۳۱۳	(البقرہ: ۲۳-۲۳)	۱۱۲
۳۲۸	زمین اور آسمان کی تخلیق کی ترتیب	۱۳۱	۳۱۴	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	۱۱۳
۳۲۹	اباحت کے اصل ہونے کی تحقیق	۱۳۲	۳۱۵	شہید کا معنی	۱۱۴
۳۳۱	حشر اجساد پر دلیل	۱۳۳	۳۱۶	دوزخ میں جلنے والے پتھروں کا بیان	۱۱۵
۳۳۱	واذ قال ربك للملائكة. (البقرہ: ۳۰-۳۳)	۱۳۴	۳۱۶	وبشر الذين امنوا وعملوا الصلحت.	۱۱۶
۳۳۲	ربط آیات	۱۳۵	۳۱۶	(البقرہ: ۲۵)	۱۱۷
۳۳۳	ملائکہ کی حقیقت ان کی خصوصیت اور ان کے فرائض منصبی کا بیان	۱۳۶	۳۱۷	نجات کا مدار اللہ کے فضل پر ہے نہ کہ اعمال پر	۱۱۷
۳۳۴	خلیفہ کی تعریف اور اس کی اقسام	۱۳۷	۳۱۷	جنت کا معنی قرآن اور حدیث میں جنت کی ترغیب اور اس کی طلب کا بیان	۱۱۸
۳۳۵	آیت مذکورہ میں خلیفہ کے مصداق کا بیان	۱۳۸	۳۲۰	جنتی عورتوں اور حوروں کی پاکیزگی، حسن و جمال اور ان کے ساتھ نکاح کی کیفیت کا بیان	۱۱۹
۳۳۶	اللہ تعالیٰ کی طرف مشورہ کی نسبت کا شرعی حکم	۱۳۹	۳۲۱	جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہوں وہ آخرت میں کس خاوند کے نکاح میں ہوگی؟	۱۲۰
۳۳۶	حضرت آدم کے خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال کرنے کا محمل	۱۴۰	۳۲۱	جن مردوں اور عورتوں کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا ان کا جنت میں نکاح ہو جائے گا	۱۲۱
۳۳۷	حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی وجہ اور فرشتوں کے شبہ کا ازالہ	۱۴۱	۳۲۲	جنت میں ناپاک اور ناجائز خواہشات نہیں ہوں گی	۱۲۲
۳۳۷	مرحل	۱۴۲	۳۲۲	ان اللہ لا یتحی ان یضرب مثلاً ما بعوضه فما فوقها. (البقرہ: ۲۷-۲۶)	۱۲۳
۳۳۸	حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم کا بیان	۱۴۳	۳۲۲		
۳۳۸	واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم.	۱۴۴			
۳۳۸	(البقرہ: ۳۹-۳۳)				

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں	۱۶۵	۳۳۹	حضرت آدم کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ	۱۳۵
۳۵۸	خلیفہ اعظم ہونا		۳۴۰	سجدہ کے لغوی اور شرعی معنی	۱۳۶
۳۶۰	بشر اور فرشتے کے درمیان افضلیت کا بیان	۱۶۶	۳۴۰	تکبر کا معنی اور ابلیس کے تکبر کا بیان	۱۳۷
۳۶۱	قصہ آدم اور ابلیس میں حکمتیں اور نصیحتیں	۱۶۷		ابلیس کا معنی اور اس کے فرشتہ یا جن ہونے کی تحقیق	۱۳۸
	یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الّٰہی	۱۶۸	۳۴۱		
۳۶۱	(البقرہ: ۳۶-۴۰)		۳۴۳	حضرت حوا کی خلقت کا بیان	۱۳۹
۳۶۲	ربط آیات	۱۶۹		آیا حضرت آدم کو جنت الخلد میں رکھا گیا تھا یا	۱۵۰
	بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور ان	۱۷۰	۳۴۴	زمین کے کسی باغ میں؟	
۳۶۳	نعمتوں کے یاد دلانے کی وجہ		۳۴۵	شجر ممنوع کا بیان	۱۵۱
۳۶۳	بنو اسرائیل اور اللہ تعالیٰ کے مابین عہد کا بیان	۱۷۱	۳۴۵	آیا شجر ممنوع سے کھانا معصیت تھا یا نہیں؟	۱۵۲
	قرآن مجید کس چیز میں تورات کا مصدق ہے؟ ہر	۱۷۲		شجر ممنوع سے کھانے کے لیے ابلیس کی دوسرے	۱۵۳
	نبی کے زمانہ میں اس کی شریعت پر عمل اور حضور کی		۳۴۶	اندازی کا بیان	
۳۶۴	رسالت کا عموم		۳۴۷	عصمت انبیاء کا اصطلاحی معنی	۱۵۴
۳۶۵	تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی تحقیق	۱۷۳	۳۴۸	انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر دلائل	۱۵۵
۳۶۹	قرآن خوانی کے نذرانوں کے جواز کا بیان	۱۷۴		عصمت انبیاء کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۱۵۶
۳۷۰	یہود کی تلمیس اور کتمان حق کا بیان	۱۷۵	۳۵۰	اور مذاہب	
	زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کے وجوب کی	۱۷۶	۳۵۰	عصمت انبیاء کے متعلق محققین کا مذہب	۱۵۷
۳۷۰	شرائط کا بیان			انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر اعتراضات کا	۱۵۸
۳۷۱	باجماعت نماز پڑھنے کے فوائد	۱۷۷	۳۵۰	اجمالی جواب	
۳۷۱	جماعت کے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء	۱۷۸		حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی حکمتوں کا	۱۵۹
۳۷۳	نوافل کی جماعت کی تحقیق	۱۷۹	۳۵۱	بیان	
۳۷۴	خواتین کی امامت کی تحقیق	۱۸۰		حضرت آدم کی توبہ کے کلمات اور سیدنا حضرت	۱۶۰
۳۷۴	خواتین کی امامت کے متعلق احادیث	۱۸۱	۳۵۲	محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل	
۳۷۶	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۱۸۲	۳۵۴	توبہ کا لغوی اور شرعی معنی	۱۶۱
۳۷۶	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۱۸۳	۳۵۵	قرآن مجید اور سنت میں توبہ کا بیان	۱۶۲
۳۷۶	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۱۸۴	۳۵۷	دوبارہ نیچے اترنے کا حکم دینے کی حکمت	۱۶۳
۳۷۷	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ	۱۸۵		عصمت آدم پر حشو یہ کے اعتراضات اور ان کے	۱۶۴
۳۷۸	سمجھ دار نابالغ لڑکے کی امامت کی تحقیق	۱۸۶	۳۵۷	جوابات	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۰۴	بنو اسرائیل کو طور پر لے جانا	۲۱۰	۳۸۰	یہود کی بے عملی کا بیان	۱۸۷
۴۰۵	ستر اسرائیلیوں کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے مکلف ہونے کے منافی نہیں	۲۱۱	۳۸۱	بے عمل علماء کے عذاب کا بیان	۱۸۸
۴۰۵	میدان تہ میں بنو اسرائیل کی سرگرداگی کا پس منظر و پیش منظر اور اللہ کی نعمتوں کا بیان	۲۱۲	۳۸۲	آیاتیکی کا حکم دینے اور بُرائی سے روکنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے؟	۱۸۹
۴۰۶	بنو اسرائیل کا "حطۃ" کو "حنطۃ" کہنا	۲۱۳	۳۸۳	بے علم کے وعظ، تقریر اور اس کے مرید کرنے کا شرعی حکم	۱۹۰
۴۰۷	بنو اسرائیل پر طاعون کا عذاب	۲۱۴	۳۸۴	صبر کے معانی	۱۹۱
۴۰۷	طاعون کے متعلق احادیث	۲۱۵	۳۸۵	صبر کے متعلق احادیث	۱۹۲
۴۰۸	طاعون کے متعلق قدیم علماء اور جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق	۲۱۶	۳۸۶	نماز سے مدد حاصل کرنے کا بیان	۱۹۳
۴۰۸	طاعون کی علامت دو طرح سے نمودار ہوتی ہے	۲۱۷	۳۸۷	خشوع کا معنی	۱۹۴
۴۰۹	طاعون کا علاج	۲۱۸	۳۸۸	یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الٹی۔	۱۹۵
۴۰۹	واذا استسقی موسیٰ لقومہ۔	۲۱۹	۳۸۹	(البقرہ: ۳۸-۴۷)	
۴۰۹	(البقرہ: ۶۱-۶۰)	۲۲۰	۳۹۰	شفاعت کی تحقیق	۱۹۶
۴۱۰	زمین سے پانی نکالنے میں حضرت موسیٰ کا معجزہ اور اس کے مقابلہ میں ہمارے نبی کا معجزہ	۲۲۱	۳۹۱	شفاعت پر قرآن کریم سے دلائل	۱۹۷
۴۱۱	یہودیوں کے نبیوں کو قتل کرنے پر تورات کی شہادت	۲۲۲	۳۹۲	شفاعت پر احادیث سے دلائل	۱۹۸
۴۱۲	اسرائیل کی حکومت کی توجیہ	۲۲۳	۳۹۳	واذ نجینا کم من ال فرعون۔	۱۹۹
۴۱۲	ان الذین امنوا والذین ہادوا والنصارى۔	۲۲۴	۳۹۴	(البقرہ: ۵۳-۴۹)	
۴۱۲	(البقرہ: ۶۲)	۲۲۵	۳۹۵	بنو اسرائیل پر فرعون کے عذاب کا بیان	۲۰۰
۴۱۲	صائبین کے دین کی تحقیق	۲۲۶	۳۹۶	فرعون کا نام	۲۰۱
۴۱۳	ایمان لائے ہوئے لوگوں کے ایمان لانے کی توجیہ	۲۲۷	۳۹۷	آل کالغوی معنی	۲۰۲
۴۱۳	آیا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے سے موجودہ یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات ہو جائے گی	۲۲۸	۳۹۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مصداق کی تحقیق	۲۰۳
۴۱۳	نجات کے لیے صرف کسی دین کی طرف منسوب ہونا کافی نہیں ہے	۲۲۹	۳۹۹	بنو اسرائیل کے لیے سمندر چیرنے کا بیان	۲۰۴
۴۱۵		۲۳۰	۴۰۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام و نسب کا بیان	۲۰۵
		۲۳۱	۴۰۱	تورات کا نزول اور بنو اسرائیل کی گوسالہ پرستی	۲۰۶
		۲۳۲	۴۰۲	بنو اسرائیل کی قبولیت توبہ کا بیان	۲۰۷
		۲۳۳	۴۰۳	واذ قلتم یا موسیٰ لن نو من لک۔	۲۰۸
		۲۳۴	۴۰۴	(البقرہ: ۵۹-۵۵)	
		۲۳۵	۴۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معذرت کے لیے ستر	۲۰۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۳۳	افتطمعون ان یومنوا لکم. (البقرہ: ۷۵-۷۹)	۲۴۶	۴۳۷	واذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور.	۲۲۷
۴۳۴	آیات مذکورہ کا شان نزول	۲۴۷	۴۱۶	(البقرہ: ۶۶-۶۳)	
۴۳۵	بنو اسرائیل کی تحریف کا بیان	۲۴۸	۴۱۶	عہد اور میثاق کے معنی	۲۲۸
۴۳۶	یہود کے نفاق کا بیان	۲۴۹	۴۱۷	کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود عمل ہے	۲۲۹
۴۳۶	”امی“ اور ”امنیہ“ کا بیان	۲۵۰		کیا بنو اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو معلق کر کے	۲۳۰
۴۳۷	”ویل“ کا معنی	۲۵۱		ان سے تورات کو قبول کرانا ان کے اختیار کے	
۴۳۷	وقالوا لن تمسنا النار. (البقرہ: ۸۲-۸۰)	۲۵۲	۴۱۷	منافی نہیں تھا؟	
۴۳۸	عذاب یہود کے مزعومہ چند دنوں کا بیان	۲۵۳		موجودہ بندروں کے مسخ شدہ اسرائیلی ہونے یا نہ	۲۳۱
	بلا توبہ مرتکب کبیرہ مرنے والوں کے دائمی عذاب	۲۵۴	۴۱۹	ہونے کی تحقیق	
۴۳۸	پر معز لہ کا استدلال اور اس کا جواب		۴۲۲	تناخ اور تماخ کا بیان	۲۳۲
	واذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل.	۲۵۵	۴۲۲	حیلہ کی تحقیق	۲۳۳
۴۳۹	(البقرہ: ۸۳)		۴۲۳	قرآن اور سنت میں حیلہ کا ثبوت	۲۳۴
۴۳۹	ربط آیات	۲۵۶	۴۲۴	حیلہ کی تعریف اور اس کی اقسام	۲۳۵
۴۳۹	والدین کی اطاعت پر ثواب کے متعلق احادیث	۲۵۷	۴۲۴	فقہاء کے بیان کیے ہوئے بعض حیلے	۲۳۶
۴۴۲	ماں باپ کی نافرمانی پر عذاب کے متعلق احادیث	۲۵۸	۴۲۵	حیلہ اسقاط کی تحقیق	۲۳۷
	رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن	۲۵۹		واذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم.	۲۳۸
۴۴۳	سلوک کے متعلق احادیث		۴۲۶	(البقرہ: ۷۱-۷۷)	
	واذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دمانکم.	۲۶۰	۴۲۷	بنو اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا بیان	۲۳۹
۴۴۴	(البقرہ: ۸۶-۸۴)		۴۲۸	بنو اسرائیل کی گائے کا بیان	۲۴۰
	یہود مدینہ کا ایک دوسرے کو قتل کر کے میثاق	۲۶۱		گائے ذبح کرنے کے واقعہ سے استنباط شدہ	۲۴۱
۴۴۵	توڑنے کا بیان		۴۲۸	مسائل	
۴۴۵	ولقد اتینا موسیٰ الکتب. (البقرہ: ۸۸-۸۷)	۲۶۲		واذ قتلتم نفسا فادراء تم فیہا.	۲۴۲
۴۴۶	عیسیٰ مریم اور روح القدس کے معنی	۲۶۳	۴۲۹	(البقرہ: ۷۳-۷۲)	
۴۴۶	انبیاء کرام سے یہود کے عناد رکھنے کا بیان	۲۶۴		گائے کا ایک عضو مقتول پر مارنے سے اس کا زندہ	۲۴۳
۴۴۷	آیات مذکورہ سے مسائل کا استنباط	۲۶۵	۴۳۰	ہونا	
	ولمآء جاء ہم کتاب من عند اللہ.	۲۶۶	۴۳۰	گائے ذبح کر کے مقتول کو زندہ کرنے کی حکمت	۲۴۴
۴۴۸	(البقرہ: ۹۰-۸۹)			پتھروں، درختوں اور جانوروں کا ادراک اور ان کا	۲۴۵
	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کا	۲۶۷	۴۳۱	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۶۵	سحر کے شرعی حکم کی تحقیق	۲۸۶	۲۴۸	قبول ہونا	
۲۶۵	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۲۸۷	۲۴۹	خلاصہ آیات اور استنباط مسائل	۲۶۸
۲۶۵	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۲۸۸		واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله.	۲۶۹
۲۶۶	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۲۸۹	۲۴۹	(البقرہ: ۹۳-۹۱)	
۲۶۷	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ	۲۹۰	۲۵۰	تورات پر یہود کے دعویٰ ایمان کا رد اور ابطال	۲۷۰
۲۶۸	مذہب اربعہ کا خلاصہ اور تجزیہ	۲۹۱		قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے	۲۷۱
۲۶۸	ہاروت اور ماروت پر سحر کو نازل کرنے کی حکمت	۲۹۲	۲۵۱	مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ	
۲۶۹	ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت	۲۹۳		قل ان كانت لكم الدار الاخرة.	۲۷۲
	ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت کا	۲۹۳	۲۵۲	(البقرہ: ۹۶-۹۳)	
۲۷۰	قرآن مجید سے بطلان			یہودیوں کے اس دعویٰ کا رد کہ جنت کے صرف	۲۷۳
	ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر بحث	۲۹۵	۲۵۲	وہی مستحق ہیں	
۲۷۰	ونظر			قرآن مجید کی صداقت اور ہمارے نبی صلی اللہ	۲۷۴
۲۷۲	علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا حکماً جہل ہے	۲۹۶	۲۵۳	علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل	
۲۷۲	اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کا فرق	۲۹۷		حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کا استحباب	۲۷۵
	یا ایہا الذین امنوا لا تقولوا راعنا.	۲۹۸	۲۵۳	اور مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کی ممانعت	
۲۷۲	(البقرہ: ۱۰۵-۱۰۳)		۲۵۳	قل من كان عدوا لجبریل.	۲۷۶
	”راعنا“ کہنے کی ممانعت اور ”انظرونا“ کہنے کا	۲۹۹	۲۵۵	یہود کا جبریل کو اپنا دشمن کہنا	۲۷۷
۲۷۳	حکم		۲۵۷	جبریل کو دشمن کہنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۲۷۸
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی	۳۰۰	۲۵۷	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	۲۷۹
۲۷۵	کرنے والے کے شرعی حکم کی تحقیق		۲۵۸	یہودیوں کا آپ پر ایمان لانے کے عہد کو توڑنا	۲۸۰
۲۷۷	گستاخانہ کلام میں تاویل کی گنجائش	۳۰۱		واتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک	۲۸۱
۲۷۷	گستاخانہ کلام میں توہین کی نیت کی بحث	۳۰۲	۲۵۸	سلیمان. (البقرہ: ۱۰۳-۱۰۲)	
۲۸۰	ما ننسخ من اية او ننسها. (البقرہ: ۱۰۶)	۳۰۳		حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی	۲۸۲
۲۸۰	نسخ کی تحقیق	۳۰۴	۲۵۹	نسبت کی تحقیق	
۲۸۰	نسخ کے دو معنی	۳۰۵	۲۶۱	سحر کے لغوی معنی	۲۸۳
۲۸۱	نسخ اور بداء کا فرق	۳۰۶	۲۶۲	سحر کے شرعی معنی	۲۸۴
۲۸۲	خبر کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف	۳۰۷		سحر کی تحقیق میں مذاہب سحر کے دلائل اور ان پر	۲۸۵
۲۸۳	نسخ اور تخصیص کا فرق	۳۰۸	۲۶۲	اعتراضات کے جوابات	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۰۲	ذکر بالجہر کی تحقیق	۳۳۰	۴۸۳	سخ اور تنقید کا فرق	۳۰۹
۵۰۳	مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق مذاہب ائمہ	۳۳۱	۴۸۴	عرف اور تعامل کا بدلنا سخی نہیں ہے	۳۱۰
۵۰۴	”وللہ المشرق والمغرب“ کے شان نزول کا بیان	۳۳۳	۴۸۴	قرآن مجید کی آیات منسوخہ کی تعداد میں اختلاف کا منشاء	۳۱۱
۵۰۵	چلتی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنے کا جواز	۳۳۳	۴۸۴	الم تعلم ان اللہ له ملك السموات والارض. (البقرہ: ۱۱۲-۱۰۷)	۳۱۲
۵۰۶	وقالوا اتخذوا اللہ ولدا. (البقرہ: ۱۱۹-۱۱۶)	۳۳۴	۴۸۴	ربط آیات	۳۱۳
۵۰۷	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل	۳۳۵	۴۸۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی ممانعت کا محمل	۳۱۴
۵۰۷	ابداع اور بدعت کا معنی	۳۳۶	۴۸۶	حد کی تحقیق	۳۱۵
۵۰۸	بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام	۳۳۷	۴۸۶	حد کے متعلق احادیث اور آثار	۳۱۶
۵۰۹	سنت کی تعریف اس کی اقسام اور اس کا شرعی حکم	۳۳۸	۴۸۸	حد کے مراتب	۳۱۷
۵۱۰	ڈاڑھی میں قبضہ کی بحث	۳۳۹	۴۸۸	حد کے اسباب	۳۱۸
۵۱۱	کیا ترک سنت کی سزا شفاعت سے محرومی ہے؟	۳۴۰	۴۹۰	حد کو زائل کرنے کا علاج	۳۱۹
۵۱۱	”کن فیکون“ کی تحقیق	۳۴۱	۴۹۰	کافروں اور مشرکوں کی زیادتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا	۳۲۰
۵۱۲	مشرکین کے فرمائشی معجزات اور مطالبات پورا نہ کرنے کی وجوہ	۳۴۲	۴۹۱	عفو اور درگزر کا منسوخ ہونا	۳۲۱
۵۱۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی بحث	۳۴۳	۴۹۲	شخصی معاملہ میں زیادتی سے درگزر کرنا اور دین کے معاملہ میں رعایت نہ کرنا	۳۲۲
۵۱۳	ایمان کی بحث	۳۴۴	۴۹۳	آخرت کے لیے نیکیوں کا بھیجنا	۳۲۳
۵۱۶	ولن ترضی عنک الیہود. (البقرہ: ۱۲۱-۱۲۰)	۳۴۴	۴۹۳	وقالت الیہود لیست النصری.	۳۲۴
۵۱۶	یہود و نصاریٰ کی عدم اطاعت کی خبر کا قرب قیامت میں ان کے ایمان لانے کی آیت سے تعارض اور اس کا جواب	۳۴۵	۴۹۳	(البقرہ: ۱۱۳)	۳۲۵
۵۱۷	بعض آیات میں بہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حقیقت میں مسلمانوں سے خطاب ہونا	۳۴۶	۴۹۶	یہود و نصاریٰ کافروں میں بننا	۳۲۶
۵۱۸	تورات اور انجیل کی تلاوت کا ناجائز ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت کے آداب	۳۴۷	۵۰۰	ملت اسلامیہ کا بیان اور اسلامی فرقوں کی تحقیق	۳۲۷
۵۱۸	قرآن مجید کی تلاوت کے آداب	۳۴۸	۵۰۱	شریعت طریقت اور حقیقت کا بیان	۳۲۷
۵۱۹	یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی. (البقرہ: ۱۲۳-۱۲۲)	۳۴۸	۵۰۱	ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ.	۳۲۸
۵۱۹	(البقرہ: ۱۲۳-۱۲۲)	۳۴۸	۵۰۱	آیت مذکورہ کے شان نزول کی تحقیق	۳۲۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۳۶	فاسق کی امامت نماز میں ائمہ احناف کا نظریہ	۳۶۹	۵۳۶	نسبت ابراہیم کی وجہ سے یہود و نصاریٰ اور مشرکین پر دین اسلام کا حجت ہونا	۳۴۹
۵۳۱	حضرت ابراہیم کے مطلقاً ذریت کے لیے دعا کرنے کی توجیہ	۳۷۰	۵۳۱	ان کلمات کا بیان جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی	۳۵۰
۵۳۱	واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا.	۳۷۱	۵۳۱	امام کا لغوی معنی	۳۵۱
۵۳۱	(البقرہ: ۱۲۶-۱۲۵)	۳۷۲	۵۳۱	اہل سنت کے نزدیک امام کا شرعی معنی	۳۵۲
۵۳۲	حرم میں قصاص لینے اور حدود جاری کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ	۳۷۳	۵۳۲	اہل تشیع کے نزدیک امامت کا شرعی معنی اور بحث و نظر	۳۵۳
۵۳۳	مقام ابراہیم کی تعیین کی تحقیق	۳۷۴	۵۳۳	امام کے معصوم ہونے پر علماء شیعہ کے دلائل اور بحث و نظر	۳۵۴
۵۳۳	آیا مکہ مکرمہ ابتداء آفرینش سے حرم ہے یا حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد سے؟	۳۷۵	۵۳۳	علماء شیعہ کے نزدیک اللہ اور رسول کی تصریح سے امام کا تقرر اور بحث و نظر	۳۵۵
۵۳۳	واذ يرفع ابراهيم القواعد.	۳۷۶	۵۳۳	علماء شیعہ کے نزدیک امام کو مقرر کرنے کا اللہ پر وجوب اور بحث و نظر	۳۵۶
۵۳۵	(البقرہ: ۱۲۸-۱۲۷)	۳۷۷	۵۳۵	اہل تشیع کے بارہ اماموں کا بیان	۳۵۷
۵۳۵	تعمیر کعبہ کی تاریخ کے متعلق روایات کا بیان	۳۷۸	۵۳۵	اہل سنت کے نزدیک امامت کو منعقد کرنے کے طریقے	۳۵۸
۵۳۷	حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مسلمان کرنے کی دعا پر اعتراض اور اس کا جواب	۳۷۹	۵۳۷	امامت کے مسائل	۳۵۹
۵۳۷	اپنی اولاد کے لیے دعا کی تخصیص کا جواب	۳۸۰	۵۳۷	امامت کے وجوب پر دلائل	۳۶۰
۵۳۸	حضرت ابراہیم کو مناسک حج کی تعلیم کا بیان	۳۸۱	۵۳۸	کیا اب امام نہ بنانے کی وجہ سے پوری امت گمراہ ہے؟	۳۶۱
۵۳۸	ربنا وابعث فيهم رسولا. (البقرہ: ۱۲۹)	۳۸۲	۵۳۸	فاسق کی امامت امت میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۳۶۲
۵۳۸	حضرت ابراہیم نے جس عظیم رسول کی بعثت کی دعا کی وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں	۳۸۳	۵۳۸	فاسق کی امامت امت میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۳۶۳
۵۳۹	اہل مکہ ہی میں سے رسول کو مبعوث کرنے کی حکمت	۳۸۴	۵۳۹	فاسق کی امامت امت میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۳۶۴
۵۳۹	نماز میں حضرت ابراہیم پر صلوة کی تخصیص اور ان کے ساتھ تشبیہ کی حکمتیں	۳۸۵	۵۳۹	فاسق کی امامت امت میں فقہاء احناف کا نظریہ	۳۶۵
۵۵۰	کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس کی تشریح	۳۸۶	۵۵۰	فاسق کی امامت نماز میں ائمہ مالکیہ کا نظریہ	۳۶۶
۵۵۰	ومن يرغب عن حلة ابراهيم.	۳۸۷	۵۵۰	فاسق کی امامت نماز میں ائمہ حنبلیہ کا نظریہ	۳۶۷
۵۵۰	(البقرہ: ۱۳۱-۱۳۰)	۳۸۸	۵۵۰	فاسق کی امامت نماز میں ائمہ شافعیہ کا نظریہ	۳۶۸
۵۵۱	ملت کا معنی	۳۸۹	۵۵۱		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	آیا مکہ مکرمہ میں ابتداء آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟	۴۰۶	۵۵۱	ملت ابراہیم سے انحراف کا حماقت ہونا	۳۸۷
۵۶۵	تحویل قبلہ کا بیان	۴۰۷	۵۵۱	تمام انبیاء کا پیدائشی مومن ہونا	۳۸۸
۵۶۵	تحویل قبلہ سے متعلق مسائل	۴۰۸	۵۵۲	ووصی بہا ابراہیم بنیہ.	۳۸۹
۵۶۶	نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے اسرار	۴۰۹	۵۵۲	(البقرہ: ۱۳۲-۱۳۳)	
۵۶۷	کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار	۴۱۰	۵۵۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سوانح	۳۹۰
۵۶۷	استقبال قبلہ کے فقہی مسائل	۴۱۱	۵۵۳	جبریہ اور قدریہ کے نظریہ کا رد	۳۹۱
۵۶۸	کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا	۴۱۲	۵۵۳	کسی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہ دینا	۳۹۲
۵۶۹	امت مسلمہ کا باقی امتوں پر گواہ ہونا	۴۱۳	۵۵۶	قرآن اور حدیث کی بناء پر اکابر علماء سے اختلاف کرنے کا جواز	۳۹۳
۵۷۰	دین اسلام اور مسلک اہل سنت و جماعت کا سب سے افضل ہونا	۴۱۴	۵۵۷	وقالوا کونوا ہودا او نصاری.	۳۹۴
۵۷۱	عدالت صحابہ اور حجیت اجماع	۴۱۵	۵۵۷	(البقرہ: ۱۳۵-۱۳۷)	
۵۷۱	قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں پچھلی امتوں اور اس امت کے افعال اور احوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جانا	۴۱۶	۵۵۸	”حنیف“ کا معنی	۳۹۵
۵۷۱	بعض ترجموں سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کا اشکال اور اس کے جوابات	۴۱۷	۵۵۸	تمام انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ	۳۹۶
۵۷۲	اہل کتاب پر تحویل قبلہ کے بھاری ہونے کی وجہ	۴۱۸	۵۵۹	باقی انبیاء پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کے محامل	۳۹۷
۵۷۲	نمازوں پر ایمان کے اطلاق کی توجیہ	۴۱۹	۵۵۹	اللہ کی مثل پر ایمان لانے میں اشکال اور اس کے جوابات	۳۹۸
۵۷۲	قد نری قلب وجہک. (البقرہ: ۱۳۶-۱۳۷)	۴۲۰	۵۶۰	صبغة الله ومن احسن من الله صبغة.	۳۹۹
۵۷۳	نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کی تحقیق	۴۲۱	۵۶۰	(البقرہ: ۱۳۸-۱۳۹)	
۵۷۸	اہل کتاب کو تحویل قبلہ کے برحق ہونے کا علم	۴۲۲	۵۶۰	”صبغة الله“ (اللہ کا رنگ) کی تفسیر	۴۰۰
۵۷۹	علماء سے معصیت کے صدور کا زیادہ نتیجہ ہونا	۴۲۳	۵۶۱	اخلاص کا معنی	۴۰۱
۵۷۹	اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانا	۴۲۴	۵۶۱	حضرت ابراہیم اور اسماعیل وغیرہ کے دین یہودیت اور عیسائیت پر نہ ہونے کا بیان	۴۰۲
۵۷۹	الحق من ربك فلا تکونن من الممترین.	۴۲۵	۵۶۲	اس شہادت کا بیان جس کو یہودیوں اور عیسائیوں نے چھپایا	۴۰۳
۵۸۱	(البقرہ: ۱۵۲-۱۵۳)		۵۶۲	ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنے کی تحقیق	۴۰۴
			۵۶۳	سیقول السفهاء من الناس.	۴۰۵
			۵۶۳	(البقرہ: ۱۳۲-۱۳۳)	

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
۶۰۰	حیات انبیاء پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے معارضہ کے جوابات	۵۸۲	۴۴۷	قبلہ کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت کی توجیہ	۴۲۶
۶۰۱	وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے دکھائی دینے کی کیفیت کا بیان	۵۸۲	۴۴۸	اللہ کی ذات کا حضور کے لیے قبلہ ہونا	۴۲۷
۶۰۲	شہید کا معنی	۵۸۳	۴۴۹	پانچوں نمازوں کے مستحب اوقات	۴۲۸
۶۰۲	شہداء کی تعداد کا بیان	۵۸۳	۴۵۰	کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کو تین بار ذکر کرنے کی حکمتیں	۴۲۹
۶۰۳	شہید کے متعلق فقہی احکام	۵۸۵	۴۵۱	تمام نعمت کا مصداق	۴۳۰
۶۰۳	علم اور شعور کا فرق	۴۵۲	۴۵۲	دعائے ابراہیم میں تزکیہ کا موخر ہونا اور دعائے استجابت میں مقدم ہونا	۴۳۱
۶۰۵	دنیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات	۵۸۷	۴۵۳	نبی اور رسول کی تعریف	۴۳۲
۶۰۶	صبر کے معانی اور مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت	۵۸۷	۴۵۴	نبی اور رسول کو مبعوث کرنے کی حکمتیں	۴۳۳
۶۰۶	”انا لله وانا الیہ راجعون“ پڑھنے کی فضیلت	۵۸۸	۴۵۵	نبی کی شرائط	۴۳۴
۶۰۶	صلوٰۃ کا معنی اور غیر انبیاء پر صلوٰۃ بھیجنے کی شرعی حیثیت	۵۸۹	۴۵۶	ہرنبی کے پیدائشی نبی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	۴۳۵
۶۰۷	مروجہ ماتم کی شرعی حیثیت	۵۹۰	۴۵۷	نبیوں رسولوں کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق	۴۳۶
۶۰۸	ان الصفا والمرۃ من شعائر اللہ.	۵۹۲	۴۵۸	ذکر کی اقسام اور ذکر کے متعلق اقوال	۴۳۷
۶۰۸	(البقرہ: ۱۶۰-۱۵۸)			یا ایہا الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلوٰۃ. (البقرہ: ۱۵۷-۱۵۳)	۴۳۸
۶۰۹	ربط آیات	۵۹۳	۴۵۹	ربط آیات	۴۳۹
۶۰۹	صفا اور مروہ کے معنی	۵۹۴	۴۶۰	اللہ کے نزدیک موت اور حیات کا معنی اور شان نزول	۴۴۰
۶۰۹	حج اور عمرہ کا لغوی اور شرعی معنی	۵۹۵	۴۶۱	برزخ میں حیات کا بیان	۴۴۱
۶۱۰	شوال میں عمرہ کرنے والے پر استطاعت کے بغیر حج فرض ہونے کی تحقیق	۵۹۵	۴۶۲	اولیاء اللہ کی جسمانی حیات کا بیان	۴۴۳
۶۱۲	یہ فرمانے کی وجہ کہ صفا اور مروہ میں سعی گناہ نہیں ہے	۵۹۶	۴۶۳	شہداء کی حیات کا بیان	۴۴۳
۶۱۳	صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں مذاہب ائمہ	۵۹۶	۴۶۴	شہادت کے بعد بعض جسموں کے تغیر سے ان کی حیات پر معارضہ کا جواب	۴۴۴
۶۱۵	علم چھپانے پر وعید کا بیان	۵۹۶	۴۶۵	سبز پرندوں میں شہید کی روح کے متمثل ہونے سے تناخ کا جواب	۴۴۵
۶۱۵	نااہل لوگوں کے سامنے علم اور حکمت کو بیان کرنے کی ممانعت	۵۹۷	۴۶۶	انبیاء علیہم السلام کی حیات کا بیان	۴۴۶
۶۱۶	لعنت کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کے شرعی احکام	۵۹۸	۴۶۷		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۳۰	ومثل الذین کفروا کمثل الذین ینعق. (البقرہ: ۱۷۱-۱۷۳)	۴۸۵	۶۱۷	توبہ کے قبول ہونے کے لیے گناہ کو ترک کرنے اور اس کی تلافی کرنے کی شرط	۴۶۸
۶۳۰	”نعق“ کا معنی	۴۸۶		ان الذین کفروا و ماتوا وہم کفار.	۴۶۹
۶۳۱	حرام کھانے کا وبال	۴۸۷	۶۱۸	(البقرہ: ۱۶۳-۱۶۱)	
۶۳۱	حرام کیے ہوئے مردہ جانوروں میں سے مستثنیات کا بیان	۴۸۸	۶۱۹	مردہ کافروں پر لعنت کرنے کا جواز اور زندہ کافروں پر لعنت کرنے کی ممانعت	۴۷۰
۶۳۲	عزبر کی تحقیق	۴۸۹	۶۲۰	مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانعت	۴۷۱
۶۳۳	سطح آب پر آنے والی مردہ مچھلی کا شرعی حکم	۴۹۰		کفار کے عذاب میں تخفیف نہ ہونے پر دلائل	۴۷۲
۶۳۳	ملکی اور غیر ملکی صابنوں کو استعمال کرنے کا شرعی حکم	۴۹۱		اور ابولہب وغیرہ کے عذاب میں تخفیف کے جوابات	۴۷۳
۶۳۵	بہائے ہوئے خون کا بالا جماع حرام ہونا	۴۹۲	۶۲۰	واحد کا معنی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت	۴۷۴
۶۳۶	ضرورت کی وجہ سے ایک شخص کے جسم میں دوسرے شخص کے خون کو منتقل کرنے کا جواز	۴۹۳	۶۲۱	ان فی خلق السموات والارض.	۴۷۵
۶۳۷	حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت کے متعلق احادیث	۴۹۴	۶۲۲	(البقرہ: ۱۶۳)	
۶۳۸	فقہاء اسلام کے نزدیک احادیث مذکورہ کا محمل	۴۹۵	۶۲۳	اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی وحدت اور اس کے علم پر دلائل	۴۷۶
۶۳۹	ضرورت کے وقت حرام چیزوں سے علاج کے متعلق احادیث اور فقہاء اسلام کی تشریحات	۴۹۶	۶۲۵	ومن الناس من یتخذ من دون اللہ.	
۶۳۹	صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پر مقدم ہے	۴۹۷	۶۲۵	(البقرہ: ۱۶۷-۱۶۵)	
۶۳۱	اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنا واجب ہے	۴۹۸	۶۲۶	مومن کے نزدیک محبوبین کے مدارج	۴۷۷
۶۳۳	”وما اهل به لغير الله“ کی تحقیق	۴۹۹		البقرہ کی آیت: ۱۶۵ کے متعدد نحوی تراکیب کے اعتبار سے آٹھ معانی	۴۷۸
۶۳۶	ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الكتاب. (البقرہ: ۱۷۶-۱۷۳)	۵۰۰	۶۲۷	گمراہ کرنے والے متبوعین کا اپنے تابعین سے قیامت کے دن بری ہونا	۴۷۹
۶۳۷	تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے کا گناہ ہونا	۵۰۱	۶۲۸	قیامت کے دن بری ہونا	
۶۳۷	اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے کی توجیہ	۵۰۲	۶۲۸	یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض.	۴۸۰
۶۳۷	لیس البر ان تولوا وجہکم قبل المشرق	۵۰۳	۶۲۹	(البقرہ: ۱۷۰-۱۶۸)	
			۶۲۸	ربط آیات	۴۸۱
			۶۲۸	حلال اور طیب اور گناہ اور بدعت کا معنی	۴۸۲
			۶۲۹	”سوء“ اور ”فحشاء“ کا معنی	۴۸۳
			۶۲۹	تقلید کی تعریف	۴۸۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	کیفیت قصاص اور آلہ قتل میں ائمہ مذاہب کی	۵۲۱	۶۳۸	والمغرب. (البقرہ: ۱۷۷)	
۶۶۰	آراء اور ان کے دلائل		۶۳۹	آیت مذکورہ کے شان نزول کے متعلق اقوال	۵۰۳
۶۶۲	ولی مقتول کے معاف کرنے کی تفصیل	۵۲۲		اللہ تعالیٰ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں	۵۰۵
۶۶۲	دیت کی مقدار اور عاقلہ کا بیان	۵۲۳	۶۳۹	پر ایمان لانے کا معنی	
	کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت.	۵۲۴	۶۳۹	رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت	۵۰۶
۶۶۲	(البقرہ: ۱۸۰-۱۸۲)		۶۵۰	یتیم، مسکین اور ابن السبیل کا معنی	۵۰۷
۶۶۳	ربط آیات اور خلاصہ تفسیر	۵۲۵	۶۵۰	سوال کرنے کی جائز حد	۵۰۸
۶۶۳	وصیت کا لغوی اور شرعی معنی	۵۲۶	۶۵۲	سائلین کو دینے کے متعلق مصنف کی تحقیق	۵۰۹
۶۶۳	وصیت کی اقسام	۵۲۷		غلام آزاد کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ وغیرہ کے	۵۱۰
۶۶۳	وصیت کی شرائط اور رکن	۵۲۸	۶۵۲	معانی	
۶۶۳	وصیت کا لزوم	۵۲۹		یایہا الذین امنوا کتب علیکم القصاص	۵۱۱
	ورثاء کے لیے وصیت کا منسوخ ہونا اور غیر ورثاء	۵۳۰	۶۵۳	فی القتلی. (البقرہ: ۱۷۸-۱۷۹)	
۶۶۵	کے لیے تہائی مال کی وصیت کا استحباب		۶۵۳	آیات مذکورہ کا شان نزول	۵۱۲
۶۶۵	احادیث کی روشنی میں وصیت کے احکام	۵۳۱		غلام اور زمی کے خون کا قصاص نہ لینے کے حق	۵۱۳
	یایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام.	۵۳۲	۶۵۴	میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل	
۶۶۶	(البقرہ: ۱۸۳-۱۸۴)			غلام اور زمی کے قصاص کے متعلق امام ابوحنیفہ کا	۵۱۴
۶۶۷	ربط آیات	۵۳۳	۶۵۴	مذہب	
	روزہ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی مشروعیت کی	۵۳۴		آزاد سے غلام کا قصاص لینے کے ثبوت میں	۵۱۵
۶۶۷	تاریخ		۶۵۵	قرآن اور سنت سے دلائل	
	رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق	۵۳۵		آزاد سے غلام کا قصاص نہ لینے کے متعلق ائمہ	۵۱۶
۶۶۸	احادیث		۶۵۶	ثلاثہ کے دلائل کا جواب	
۶۷۱	بعض نقلی روزوں کی فضیلت	۵۳۶		مسلمان سے زمی کا قصاص لینے کے متعلق قرآن	۵۱۷
۶۷۲	بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت	۵۳۷	۶۵۷	اور سنت سے دلائل	
۶۷۳	روزہ کے اسرار و رموز	۵۳۸		متعدد لوگوں کی جماعت سے ایک شخص کے	۵۱۸
۶۷۴	روزہ کے فساد و عدم فساد کے بعض ضروری مسائل	۵۳۹	۶۵۷	قصاص لینے کا بیان	
۶۷۴	انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا بیان	۵۴۰		سلاطین اور حکام سے قصاص لینے کے متعلق	۵۱۹
	مریض کے روزہ قضاء کرنے کے متعلق مذاہب	۵۴۱	۶۵۸	احادیث اور آثار	
۶۷۵	ائمہ		۶۶۰	قصاص لینا حکومت کا منصب ہے	۵۲۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۹۱	اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث	۵۵۹	۶۷۷	مسافر کے روزہ قضاء کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ	۵۴۲
۶۹۲	ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث	۵۶۰		”الذین بطبقونہ“ کے معنی کی تحقیق میں	۵۴۳
	فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق	۵۶۱	۶۷۸	احادیث اور آثار	
۶۹۳	احادیث			”الذین بطبقونہ“ کے معنی کی تحقیق میں	۵۴۴
	فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء	۵۶۲	۶۸۰	مفسرین کی آراء	
۶۹۶	اسلام کی آراء			بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے	۵۴۵
	طلب جنت کی دعا کرنے کا قرآن اور سنت سے	۵۶۳	۶۸۱	کے متعلق مذاہب ائمہ	
۶۹۸	بیان			شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.	۵۴۶
۶۹۹	دعا قبول ہونے کی شرائط اور آداب	۵۶۴	۶۸۲	(البقرہ: ۱۸۵)	
۷۰۱	دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات	۵۶۵		رمضان کے اسرار و رموز اور رمضان میں نزول	۵۴۷
	روزہ کی رات میں سونے کے بعد کھانے پینے اور	۵۶۶	۶۸۳	قرآن کا بیان	
۷۰۳	عمل زوجیت کی اجازت		۶۸۴	قطبین میں روزہ اور نماز کی تحقیق	۵۴۸
	سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا بیان اور طلوع	۵۶۷		سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھتا ہوا	۵۴۹
۷۰۳	فجر کے بعد سحری کھانے کی ممانعت		۶۸۴	پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟	
۷۰۴	اعتکاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام	۵۶۸		پاکستان سے روزے رکھتا ہوا سعودی عرب گیا تو	۵۵۰
۷۰۴	اعتکاف کی شرائط	۵۶۹	۶۸۵	عید کس حساب سے کرے گا؟	
۷۰۴	اعتکاف کے آداب	۵۷۰		سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان	۵۵۱
۷۰۵	اعتکاف کے مفسدات	۵۷۱	۶۸۵	آیا اور یہاں رمضان ہے	
۷۰۵	اعتکاف کے بعض ضروری مسائل	۵۷۲	۶۸۵	روزہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت کا بیان	۵۵۲
۷۰۶	ولا تاکلوا اموالکم بینکم . (البقرہ: ۱۸۸)	۵۷۳	۶۸۶	میت کی طرف سے روزے رکھنے میں مذاہب ائمہ	۵۵۳
۷۰۶	مال حرام کھانے کی حرمت	۵۷۴		حاملہ اور مرضہ کے لیے روزہ کی رخصت میں	۵۵۴
۷۰۶	مال حرام سے صدقہ کرنے کا شرعی حکم	۵۷۵	۶۸۶	مذاہب ائمہ	
۷۰۷	رشوت کا معنی	۵۷۶	۶۸۷	اسلام دین یسر ہے	۵۵۵
۷۰۷	قرآن مجید کی روشنی میں رشوت کا حکم	۵۷۷		عید گاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنے میں مذاہب	۵۵۶
۷۰۸	احادیث اور آثار کی روشنی میں رشوت کا حکم	۵۷۸	۶۸۹	ائمہ	
۷۰۸	رشوت کی اقسام	۵۷۹		واذا سالک عبادی عنی فانی قریب.	۵۵۷
	قاضی اور دیگر سرکاری افسروں کے ہدیہ قبول	۵۸۰	۶۹۰	(البقرہ: ۱۸۷-۱۸۷)	
۷۰۹	کرنے کی تحقیق		۶۹۱	شان نزول	۵۵۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۲۲	احرام میں ممنوع کام	۶۰۰	۷۰۹	جھوٹی گواہی سے حکم رد ہوتا ہے یا نہیں؟	۵۸۱
۷۲۵	احرام میں جائز کام	۶۰۱		قضاء کے ظاہر اور باطناً نافذ ہونے میں فقہاء	۵۸۲
۷۲۵	احرام میں مستحب کام	۶۰۲	۷۱۰	احناف کا موقف	
۷۲۵	عمرہ کرنے کا طریقہ	۶۰۳		جن صورتوں میں فقہاء احناف کے نزدیک قضاء	۵۸۳
۷۲۶	حج کرنے کا طریقہ	۶۰۴	۷۱۰	ظاہر اور باطناً نافذ ہو جاتی ہے	
۷۲۷	مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازوں کا اجر و ثواب	۶۰۵		فقہاء احناف کے نزدیک قضاء کے ظاہر اور باطناً	۵۸۴
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر	۶۰۶	۷۱۱	ہونے کی شرائط	
۷۲۸	ہونے کا طریقہ			قضاء باطنی کے نفاذ میں فقہاء احناف کے دلائل	۵۸۵
	”احصار“ (حج یا عمرہ کے سفر میں پیش آنے والی	۶۰۷	۷۱۲	اور ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا تجزیہ	
۷۳۰	رکاوٹ) کی تعریف میں مذاہب ائمہ		۷۱۵	یسئلونک عن الاہلۃ. (البقرہ: ۱۹۰-۱۸۹)	۵۸۶
۷۳۱	امام ابوحنیفہ کے موقف پر ائمہ لغت کی تصریحات	۶۰۸	۷۱۶	اسلامی تقویم کا بیان	۵۸۷
۷۳۱	امام ابوحنیفہ کے موقف پر احادیث سے استدلال	۶۰۹		اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرنے کی	۵۸۸
۷۳۲	امام ابوحنیفہ کے موقف پر آثار صحابہ سے استدلال	۶۱۰	۷۱۶	مذمت	
	امام ابوحنیفہ کے موقف پر اقوال تابعین سے	۶۱۱	۷۱۷	اجازت جہاد کی پہلی آیت کا بیان	۵۸۹
۷۳۲	استدلال			قتال اور جہاد میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں وغیرہ	۵۹۰
۷۳۲	امام ابوحنیفہ کے موقف کی ہمہ گیری اور معقولیت	۶۱۲	۷۱۷	کو قتل کرنے کی ممانعت	
	مُحَصَّر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام	۶۱۳	۷۱۸	ہجرت سے پہلے قتال کی ممانعت	۵۹۱
۷۳۳	ابوحنیفہ کا مسلک			واقتلوہم حیث ثقفتموہم.	۵۹۲
	مُحَصَّر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائمہ ثلاثہ	۶۱۴	۷۱۹	(البقرہ: ۱۹۳-۱۹۱)	
۷۳۴	کا مذہب		۷۱۹	خلاصہ آیات	۵۹۳
	ضرورت کی وجہ سے منیٰ میں پہنچنے سے پہلے سر	۶۱۵		حرم میں ابتداءً قتل کرنے کی ممانعت کا منسوخ	۵۹۴
۷۳۴	منڈوانے کی رخصت		۷۲۰	ہونا اور کفار سے مدافعتاً جنگ کا جائز ہونا	
۷۳۵	حج تمتع کا بیان	۶۱۶		الشہر الحرام بالشہر الحرام.	۵۹۵
۷۳۶	الحج اشہر معلومات. (البقرہ: ۱۹۹-۱۹۷)	۶۱۷	۷۲۱	(البقرہ: ۱۹۵-۱۹۴)	
۷۳۷	حج کے مہینوں کے متعلق فقہاء امت کے نظریات	۶۱۸	۷۲۱	حرمت والے مہینوں کا بیان	۵۹۶
۷۳۷	فرضیت حج کے سبب میں ائمہ مذاہب کے اقوال	۶۱۹	۷۲۲	خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی تفسیر	۵۹۷
	ایام حج میں فحش باتیں، گناہ اور جھگڑا کرنے کی	۶۲۰	۷۲۳	واتموا الحج والعمرة للہ. (البقرہ: ۱۹۶)	۵۹۸
۷۳۷	ممانعت		۷۲۴	فرضیت حج کی تاریخ اور حج کی اقسام	۵۹۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۳۸	سبب	۶۳۱	۴۳۸	حج کے لیے سفر خرچ تیار کرنے کا حکم	۶۲۱
۴۵۳	(البقرہ: ۲۱۱-۲۱۲)	۶۳۲	۴۳۸	حج کے دوران روزی کمانے کا جواز	۶۲۲
۴۵۳	بنو اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کرنا	۶۳۳	۴۳۹	مشعر حرام کا بیان	۶۲۳
۴۵۵	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کرنے کا	۶۳۴	۴۳۹	نسلی برتری کے تقاخر کا ناجائز ہونا	۶۲۴
۴۵۵	سبب	۶۳۴	۴۴۰	فاذا قضیت مناسککم فاذکروا اللہ	۶۲۵
۴۵۵	کان الناس امة واحدة. (البقرہ: ۲۱۳)	۶۳۵	۴۴۰	(البقرہ: ۲۰۰-۲۰۳)	۶۲۶
۴۵۶	تاریخ انسانیت	۶۳۶	۴۴۱	دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کرنا	۶۲۷
۴۵۶	ابتداء میں نوع انسان کے دین حق پر ہونے کے	۶۳۷	۴۴۳	انبیاء کرام اور صحابہ عظام کا طریقہ ہے	۶۲۸
۴۵۷	دلائل	۶۳۸	۴۴۴	اللہ کے جلد حساب لینے کی تفسیر	۶۲۹
۴۵۷	تمام انسانوں کا دین صرف اسلام ہے	۶۳۹	۴۴۵	تکبیرات تشریح میں مذاہب ائمہ	۶۳۰
۴۵۸	ام حسبتم ان تدخلوا الجنة.	۶۴۰	۴۴۶	ذکر بالجہر میں امام ابوحنیفہ کا موقف	۶۳۱
۴۵۸	(البقرہ: ۲۱۴-۲۱۶)	۶۴۱	۴۴۷	قیام منیٰ کی مدت کا بیان	۶۳۲
۴۵۹	راہ حق میں پیش آنے والے مصائب	۶۴۲	۴۴۸	حجاج کرام کے اجر و ثواب اور ان سے مصافحہ	۶۳۳
۴۶۰	راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے مصارف	۶۴۳	۴۴۹	کرنے کے متعلق احادیث و آثار	۶۳۴
۴۶۱	جہاد کی تعریف اور اس کی اقسام	۶۴۴	۴۵۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے اور	۶۳۵
۴۶۱	جہاد کرنے میں عزت اور جہاد ترک کرنے میں	۶۴۵	۴۵۰	شفاعت طلب کرنے کے متعلق احادیث اور	۶۳۶
۴۶۱	ذلت کا بیان	۶۴۶	۴۵۱	آثار	۶۳۷
۴۶۲	جہاد کے درجات اور اجر و ثواب کے متعلق احادیث	۶۴۷	۴۵۲	ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة	۶۳۸
۴۶۲	يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه.	۶۴۸	۴۵۳	الدنيا. (البقرہ: ۲۰۶-۲۰۷)	۶۳۹
۴۶۳	(البقرہ: ۲۱۷-۲۱۸)	۶۴۹	۴۵۴	دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا	۶۴۰
۴۶۳	ربط آیات اور شان نزول	۶۵۰	۴۵۵	"الد الخصام" (سخت جھگڑالو) کا بیان	۶۴۱
۴۶۳	حضرتی کے قتل کی تاریخ کی تحقیق	۶۵۱	۴۵۶	ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء	۶۴۲
۴۶۳	حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کے منسوخ	۶۵۲	۴۵۷	مرضات اللہ. (البقرہ: ۲۱۰-۲۱۱)	۶۴۳
۴۶۵	ہونے کی تحقیق	۶۵۳	۴۵۸	رضاء الہی کی خاطر دنیا ترک کرنے والا	۶۴۴
۴۶۸	مرتد کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	۶۵۴	۴۵۹	دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت یا	۶۴۵
۴۶۸	قتل مرتد پر قرآن اور سنت سے دلائل	۶۵۵	۴۶۰	موافقت کا ناجائز ہونا	۶۴۶
۴۶۸	مرتدہ کو قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء اور	۶۵۶	۴۶۱	"بینات" کی تفسیر	۶۴۷
۴۶۹	فقہاء احناف کے دلائل	۶۵۷	۴۶۲	بادلوں کے ساتھ عذاب کی تمثیل کا بیان	۶۴۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۸۶	ایام حیض کی تعیین میں مذاہب ائمہ	۶۸۰	۷۷۰	کیا مرتد کو قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے؟	۶۶۱
	حیض، نفاس اور استحاضہ میں مبتلا خواتین کے مسائل	۶۸۱		ارتداد سے نیک عمل ضائع ہونے کے متعلق مذاہب فقہاء	۶۶۲
۷۸۷	ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم۔	۶۸۲	۷۷۲	دارالاسلام، دارالکفر اور دارالحرب کی تعریفات	۶۶۳
۷۸۹	(البقرہ: ۲۲۴-۲۲۵)			یسئلونک عن الخمر والمیسر۔	۶۶۴
	قسم کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قسم کی شرائط اور ارکان	۶۸۳	۷۷۳	(البقرہ: ۲۲۰-۲۱۹)	
۷۹۰	غیر اللہ کی قسم اور مستقبل اور ماضی میں طلاق اور عتاق کی قسم کھانے کی تحقیق	۶۸۴	۷۷۵	قرآن مجید سے خمر (شراب) کی تحریم کا بیان	۶۶۵
۷۹۱	بیمین غموس (جھوٹی قسم)	۶۸۵	۷۷۶	احادیث سے خمر (شراب) کی تحریم کا بیان	۶۶۶
۷۹۳	بیمین لغو (بلا قصد قسم)	۶۸۶	۷۷۷	خمر کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظریہ اور امام ابوحنیفہ کے موقف پر دلائل	۶۶۷
۷۹۳	بیمین منعقدہ (بالقصد قسم)	۶۸۷	۷۷۸	جوئے کی تعریف اور اس کے حرام ہونے کا بیان	۶۶۸
۷۹۳	احکام شرعیہ کے اعتبار سے قسم کی اقسام	۶۸۸	۷۷۸	لاٹری اور انعامی بانڈز وغیرہ کا شرعی حکم	۶۶۹
	ایلاء کا معنی اور ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقہاء احناف کا موقف	۶۸۹		”عفو“ (زائد از ضرورت) کے معانی اور محامل	۶۷۰
۷۹۵	ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب اور دلائل اور فقہاء احناف کی طرف سے جوابات	۶۹۰	۷۸۰	”عفو“ کے لفظ سے سوشلزم کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب	۶۷۱
۷۹۶	والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء۔ (البقرہ: ۲۲۸)	۶۹۱	۷۸۱	زیر کفالت یتیم کے ساتھ طرز معاشرت	۶۷۲
۷۹۷	مطلقہ عورتوں کی عدت مقرر کرنے کا شان نزول	۶۹۲	۷۸۲	ولا تنکحوا المشرکت حتی یؤمن۔	۶۷۳
۷۹۸	مطلقہ عورتوں کی اقسام اور ان کی عدتوں کا بیان	۶۹۳		(البقرہ: ۲۲۱)	
۷۹۸	عدت کا لغوی اور شرعی معنی اور عدت کے احکام	۶۹۴	۷۸۳	مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح کا عدم جواز	۶۷۴
۷۹۹	عدت مقرر کرنے کی حکمتیں	۶۹۵		مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کے باوجود اہل کتاب سے نکاح کے جواز کی توجیہ	۶۷۵
۸۰۰	قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات	۶۹۶	۷۸۴	ویسئلونک عن المحیض۔	۶۷۶
	قرء بہ معنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہاء احناف کے دلائل	۶۹۷	۷۸۵	(البقرہ: ۲۲۲-۲۲۳)	
۸۰۰	قرء کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء	۶۹۸	۷۸۵	حیض کا حکم بیان کرنے کا شان نزول	۶۷۷
۸۰۳	اسلام میں عورتوں کے مردوں پر حقوق	۶۹۹	۷۸۶	حائضہ سے مباشرت کرنے کی دینی اور دنیاوی خرابی	۶۷۸
				حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۷۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل کے	۷۲۱	۸۰۷	اسلام میں مردوں کے عورتوں پر حقوق	۷۰۰
۸۱۹	جوابات		۸۰۹	آیا عورت پر مرد کی خدمت واجب ہے یا نہیں؟	۷۰۱
	زنا کی شہادات اور قسامت کی قسموں پر قیاس کے	۷۲۲	۸۱۰	حاصل بحث	۷۰۲
۸۱۹	جوابات		۸۱۰	الطلاق مرتان. (البقرہ: ۲۳۰-۲۲۹)	۷۰۳
۸۲۰	تسبیح فاطمہ پر قیاس کے جوابات	۷۲۳	۸۱۱	طلاق کا لغوی معنی	۷۰۴
	حضرت عمر پر عہد رسالت کے معمول کو بدلنے	۷۲۴	۸۱۱	طلاق کا اصطلاحی معنی	۷۰۵
۸۲۰	کے الزام کے جوابات		۸۱۱	طلاق کی اقسام	۷۰۶
	صحیح مسلم کی زیر بحث روایت غیر صحیح اور مردود	۷۲۵	۸۱۲	طلاق کیوں مشروع کی گئی؟	۷۰۷
۸۲۱	ہے		۸۱۲	صرف ناگزیر حالات میں طلاق دی جائے	۷۰۸
	صحیح مسلم کی زیر بحث روایت کے غیر صحیح ہونے پر	۷۲۶	۸۱۲	صرف مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا؟	۷۰۹
۸۲۱	دوسری دلیل			طلاق میں عورت کی رضامندی کا اعتبار کیوں نہیں	۷۱۰
۸۲۲	اعتبار راوی کی روایت کا ہے یا اس کی رائے کا؟	۷۲۷	۸۱۳	ہے؟	
	صحیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے غلط اور	۷۲۸	۸۱۳	خلع	۷۱۱
۸۲۳	شاذ ہونے پر مزید دلائل		۸۱۳	قاضی اور حکمین کی تفریق	۷۱۲
۸۲۳	طاؤس کی روایت کا صحیح محمل	۷۲۹	۸۱۳	تین طلاق کی تحدید کی وجوہات، مصالح اور حکمتیں	۷۱۳
	حضرت رکانہ سے متعلق مسند احمد کی روایت کے	۷۳۰		سنت کے مطابق اور احسن طریقے سے طلاق	۷۱۴
۸۲۳	فنی اسقام		۸۱۵	دینے کے فوائد	
	حضرت رکانہ سے متعلق صحاح کی روایت کی	۷۳۱		طلاق کی تدریج میں مرد کی اور تحدید میں عورت کی	۷۱۵
۸۲۶	تقویت		۸۱۵	رعایت ہے	
	حضرت رکانہ سے متعلق سنن ابوداؤد کی ایک شاذ	۷۳۲	۸۱۶	ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے نتائج	۷۱۶
۸۲۷	روایت کے ضعف کا بیان			بہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں کے حکم میں جمہور	۷۱۷
	بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تین ہونے پر	۷۳۳	۸۱۶	کا موقف	
۸۲۷	جمہور کے قرآن مجید سے دلائل			بہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں میں شیخ ابن تیمیہ	۷۱۸
۸۲۸	قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات	۷۳۴	۸۱۷	اور ان کے موافقین کا موقف	
	بیک وقت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہاء اسلام	۷۳۵		بہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں میں علماء شیعہ کا	۷۱۹
۸۲۹	کے احادیث سے دلائل		۸۱۸	موقف	
	حضرت عویمیر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض	۷۳۶		تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پر شیخ ابن	۷۲۰
۸۳۰	کے جوابات		۸۱۸	تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۵۰	لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔ (البقرہ: ۲۳۶-۲۳۷)	۷۵۵	۸۳۲	صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کا جواب	۷۳۷
۸۵۰	غیر مدخولہ کے مہر اور متاع کی ادائیگی کا بیان	۷۵۶	۸۳۳	سوید بن غفلہ کی روایت کی تحقیق	۷۳۸
۸۵۱	مطلقہ کی متاع کی مقدار میں ائمہ مذاہب کی آراء	۷۵۷	۸۳۵	سنن نسائی کی روایت سے استدلال پر اعتراض کا جواب	۷۳۹
۸۵۲	مطلقہ کی متاع کے شرعی حکم کے متعلق ائمہ مذاہب کی آراء	۷۵۸	۸۳۶	بیک وقت دنی گئی تین طلاقوں کے واقع ہونے میں آثار صحابہ اور اقوال تابعین	۷۴۰
۸۵۲	متاع کے وجوب پر فقہاء احناف کے دلائل	۷۵۹	۸۳۷	حرف آخرت	۷۴۱
۸۵۲	متاع کے وجوب کے خلاف فقہاء مالکیہ کے دلائل کے جوابات	۷۶۰	۸۳۸	واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن۔ (البقرہ: ۲۳۱-۲۳۲)	۷۴۲
۸۵۳	نکاح کی گرہ کا مالک شوہر ہے یا عورت کا ولی؟ شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت پر جمہور کے دلائل	۷۶۱	۸۳۹	جس عورت کو خاوند خرچ نہ دے اس کی گلو خلاصی میں آراء ائمہ	۷۴۳
۸۵۳	شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت کے متعلق احادیث	۷۶۲	۸۴۰	خرچ سے محروم عورت کی گلو خلاصی پر جمہور فقہاء کے دلائل	۷۴۴
۸۵۳	حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی۔ (البقرہ: ۲۳۲-۲۳۸)	۷۶۳	۸۴۱	مذاق میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا	۷۴۵
۸۵۳	حفاظت نماز کی تاکیدات اور نماز میں سستی اور اس کو ترک کرنے پر وعیدات	۷۶۴	۸۴۱	بغیر ولی کے عورت کے کیے ہوئے نکاح کے متعلق مذاہب ائمہ	۷۴۶
۸۵۹	صلوٰۃ وسطی کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء	۷۶۶	۸۴۲	بغیر ولی کے عورت کے کیے ہوئے نکاح کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار	۷۴۷
۸۶۰	فجر کی نماز کے صلوٰۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث	۷۶۷	۸۴۳	والوالدات یرضعن اولادھن۔ (البقرہ: ۲۳۳)	۷۴۸
۸۶۰	ظہر کی نماز کے صلوٰۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث	۷۶۸	۸۴۴	دودھ پلانے کے شرعی احکام	۷۴۹
۸۶۱	عصر کی نماز کے صلوٰۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث	۷۶۹	۸۴۴	دودھ پلانے کی مدت میں ائمہ مذاہب کی آراء	۷۵۰
۸۶۱	بائیں نہ کرنے اور خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنے کا حکم	۷۷۰	۸۴۵	والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجہا۔ (البقرہ: ۲۳۳-۲۳۵)	۷۵۱
۸۶۲	چلتی ٹرین اور طیارہ وغیرہ میں نماز پڑھنے کا بیان	۷۷۱	۸۴۶	عدت و فوات کا بیان اور عدت کی تعریف	۷۵۲
۸۶۳	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق ائمہ کی آراء	۷۷۲	۸۴۷	عدت کے مسائل اور شرعی احکام	۷۵۳
۸۶۳		۷۷۲	۸۴۸	گناہ کے ارتکاب پر مواخذہ ہونے اور گناہ کے ارادہ پر مواخذہ نہ ہونے کی تحقیق	۷۵۴


صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۷۳	اللہ کو قرض حسن دینے کا بیان	۷۹۲	۸۶۳	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق احادیث	۷۷۳
۸۷۵	قبض اور بسط کا معنی	۷۹۳	۸۶۴	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء	۷۷۴
۸۷۵	اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کے متعلق احادیث	۷۹۴	۸۶۵	شافعیہ کا مذہب	۷۷۵
	الم تر الی الملا من بنی اسرائیل.	۷۹۵		حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ	۷۷۵
۸۷۶	(البقرہ: ۲۳۷-۲۳۶)		۸۶۵	کا مذہب	۷۷۶
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بنو اسرائیل کی	۷۹۶		حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء	۷۷۶
	ایک جماعت کے جہاد کی طرف متوجہ کرنے کے		۸۶۵	حنبلیہ کا مذہب	۷۷۷
۸۷۷	اسرار			حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء	۷۷۷
	بنو اسرائیل کی اس جماعت کے نبی آیا شمویل تھے	۷۹۷	۸۶۶	احناف کا مذہب	۷۷۸
۸۷۷	یا شمعون؟			حفاظت نماز اور عدت و فوات میں مناسبت کا	۷۷۸
۸۷۹	یہود کو سرزنش	۷۹۸	۸۶۷	بیان	۷۷۹
۸۷۹	طالوت کا بیان	۷۹۹		ایک سال تک عدت و فوات کے منسوخ ہونے کا	۷۷۹
۸۸۱	وقال لهم نبیہم ان اية ملکہ. (البقرہ: ۲۳۸)	۸۰۰	۸۶۷	بیان	۷۸۰
۸۸۱	بنو اسرائیل کے تابوت کی تحقیق	۸۰۱	۸۶۸	عدت و فوات کے شرعی حکم میں اختلاف فقہاء	۷۸۱
۸۸۲	سکینہ کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق	۸۰۲	۸۶۸	حدیث سے عدت و فوات کا بیان	۷۸۲
	آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات کا	۸۰۳	۸۶۹	عدت و فوات کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۷۸۳
۸۸۳	بیان		۸۶۹	عدت و فوات کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۷۸۴
	دیگر انبیاء علیہم السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ	۸۰۴	۸۷۰	عدت و فوات کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۷۸۵
۸۸۴	وسلم کے تبرکات سے استفادہ اور حصول شفاء		۸۷۰	عدت و فوات کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ	۷۸۶
	فلما فصل طالوت بالجنود.	۸۰۵	۸۷۱	مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب	۷۸۷
۸۸۷	(البقرہ: ۲۵۲-۲۴۹)			الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم.	۷۸۷
۸۸۹	طالوت کی فتح اور جالوت کی شکست کا بیان	۸۰۶	۸۷۱	(البقرہ: ۲۴۳-۲۴۵)	۷۸۸
	نیکو کاروں کی برکت سے گنہ گاروں سے عذاب کا	۸۰۷		طاعون سے ڈر کر بھاگنے والوں کا مرنا اور دوبارہ	۷۸۸
۸۹۰	دور ہونا		۸۷۲	زندہ ہونا	۷۸۹
	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل اور	۸۰۸		وقت سے پہلے موت آنے اور تیسری موت کے	۷۸۹
۸۹۲	آپ کو تسلی دینے کا بیان		۸۷۳	اشکال کا جواب	۷۹۰
	تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض.	۸۰۹	۸۷۳	"الم تر" (کیا آپ نے نہیں دیکھا) کی تحقیق	۷۹۰
۸۹۳	(البقرہ: ۲۵۳)		۸۷۴	جہاد کی تحریک	۷۹۱

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
		۸۹۳	۸۲۵	رسولوں کی باہمی فضیلت	۸۱۰
۹۱۳	باعث تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا			بعض کفار عرب کے اسلام نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا	۸۱۱
۹۱۵	قائد المرسلین ہونے اور بعض دیگر فضائل کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۹۵	۸۲۶	”رحمة للعالمین“ ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۱۲
۹۱۶	خالق اور خلق کے محبوب ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۹۶	۸۲۷	تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۱۳
۹۱۸	خلیل اور حبیب میں فرق کا بیان	۸۹۶	۸۲۸	تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات کے جامع ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۱۴
۹۱۹	کلیم اور حبیب میں فرق کا بیان		۸۲۹	رسالت کے عموم کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۱۵
۹۲۱	انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی افضلیت	۸۹۸	۸۳۰	خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۱۶
	سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی حدیث کا حضرت موسیٰ کے پہلے اٹھنے والی حدیث سے تعارض کا جواب	۹۰۰	۸۳۱	کثرت معجزات کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۱۷
۹۲۳	جس حدیث میں آپ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت دینے سے منع کیا ہے اس کے جوابات	۹۰۲	۸۳۲	آپ کے دین کے ناسخ الادیان ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۱۸
	یایہا الذین امنوا انفقوا مما رزقناکم۔ (البقرہ: ۲۵۴)		۸۳۳	امت کی کثرت اور افضلیت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۱۹
۹۲۳	راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی تاکید	۹۰۳	۸۳۴	مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۲۰
	آخرت میں دوستی اور سفارش سے مسلمانوں کے انتفاع کا بیان	۹۰۵	۸۳۵	اللہ کی رضا جوئی کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۲۱
۹۲۳	اللہ لا الہ الا ہو الحی القيوم۔ (البقرہ: ۲۵۵-۲۵۶)	۹۰۶	۸۳۶	آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۲۲
۹۲۵	آیہ الکرسی کے مفردات اور جملوں کی تشریح	۹۰۷	۸۳۷	دنیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۲۳
۹۲۶	آیہ الکرسی کے فضائل	۹۰۸	۸۳۸	افضل الرسل ہونا	
۹۲۸	کرسی پر بیٹھنے کی تحقیق		۸۳۹		
۹۲۹	کرسی کا لغوی معنی	۹۰۹	۸۴۰		
۹۲۹	قرآن مجید احادیث اور آثار سے کرسی پر بیٹھنے اور چارزانو بیٹھنے کا جواز		۸۴۱		
۹۳۰		۹۱۲			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۳۷	انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف	۸۶۱	۹۳۱	دین میں جبر نہ ہونے کی تحقیق	۸۳۲
	دس گنے سات سو گنے اور بے حساب اجر دینے کی	۸۶۲		مشروعیت جہاد پر نفی جبر کی وجہ سے اعتراض اور	۸۳۳
۹۳۸	وجوہات		۹۳۳	معاصر مفسرین کے جوابات	
۹۳۹	صدقات و خیرات کے آداب و شرائط	۸۶۳	۹۳۳	جوابات مذکورہ پر بحث و نظر	۸۳۴
	صدقات کے مصارف اجر و ثواب اور آداب و	۸۶۴		مصنف کی طرف سے مشروعیت جہاد پر اعتراض کا	۸۳۵
۹۳۹	شرائط کے متعلق احادیث		۹۳۵	جواب	
	جہاد اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرنے کی	۸۶۵		اللہ ولی الدین امنوا ینخرجہم من	۸۳۶
۹۵۰	مثالوں کا فرق		۹۳۷	الظلمت الی النور. (البقرہ: ۲۵۷)	
	ریا کار منافق اور مخلص مومن کے راہِ خدا میں خرچ	۸۶۶	۹۳۷	مومنوں کو ظلمات سے نکالنے کے محال	۸۳۷
۹۵۱	کرنے کی مثالوں کا فرق		۹۳۸	کفار کو نور سے نکالنے کے محال	۸۳۸
	اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کے لیے	۸۶۷	۹۳۸	طاغوت کا معنی	۸۳۹
۹۵۱	خرچ کرنے کی صورتیں			الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ.	۸۵۰
	سخت حاجت کے وقت باغ کے جل جانے کی	۸۶۸	۹۳۸	(البقرہ: ۲۵۸-۲۵۹)	
۹۵۳	مثال کی دو تقریریں		۹۳۹	مومن کے نور اور کافر کی ظلمت کی مثالیں	۸۵۱
	یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیب ما	۸۶۹		حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مباحثہ کا	۸۵۲
۹۵۴	کسبتم. (البقرہ: ۲۷۷-۲۷۸)		۹۳۹	پس منظر اور پیش منظر	
	صدقہ میں دیئے جانے والے مال کی صفات کا	۸۷۰	۹۴۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا خلاصہ	۸۵۳
۹۵۶	بیان		۹۴۱	مناظرہ اور مباحثہ کے احکام اور آداب	۸۵۴
	حلال کمائی کی مدح اور بر بناء ضرورت اولاد کے	۸۷۱		تباہ شدہ بستی اور اس کے پاس سے گزرنے والے	۸۵۵
۹۵۷	مال سے کھانے کا جواز		۹۴۲	فحش کی تحقیق	
۹۵۷	حرام مال سے صدقہ کرنے کا وبال	۸۷۲	۹۴۳	حضرت عزیر کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا	۸۵۶
۹۵۸	عشر کا بیان	۸۷۳		واذ قال ابراہیم رب انی کیف تحیی	۸۵۷
۹۵۸	عشر کے نصاب میں فقہاء کے نظریات	۸۷۴	۹۴۴	الموتی. (البقرہ: ۲۶۰)	
۹۵۹	عشر کے نصاب میں ائمہ ثلاثہ کا نظریہ	۸۷۵	۹۴۴	حضرت ابراہیم کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا	۸۵۸
۹۵۹	عشر کے نصاب میں امام ابو حنیفہ کا نظریہ	۸۷۶		مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ.	۸۵۹
۹۶۱	عشری اور خراجی اراضی کی تعریفیں	۸۷۷	۹۴۵	(البقرہ: ۲۶۱-۲۶۲)	
۹۶۲	خراج کی مقدار کا بیان	۸۷۸		حیات بعد الموت کے ذکر کے بعد صدقہ و خیرات	۸۶۰
۹۶۲	ارضی پاکستان کے عشری ہونے کا بیان	۸۷۹	۹۴۷	کے ذکر کی مناسبت	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۸۴	دارالحرب کے سود میں فقہاء احناف کا نظریہ	۹۰۳	۹۶۳	بخل کو بے حیائی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ	۸۸۰
۹۸۴	دارالحرب میں جواز ربا والی حدیث کی فنی حیثیت	۹۰۴		حکمت کے مصداق میں صحابہ اور فقہاء تابعین کے اقوال	۸۸۱
	دارالحرب میں ربا کے متعلق فقہاء احناف کے دلائل کا تجزیہ	۹۰۵	۹۶۴	حکمت کی تعریف اور اس کی اقسام	۸۸۲
۹۸۵	مکحول کی روایت کا محمل	۹۰۶	۹۶۴	حکمت کے متعلق احادیث	۸۸۳
	دارالحرب کے سود کے بارے میں امام ابوحنیفہ کے قول کی وضاحت	۹۰۷	۹۶۵	نذر کا لغوی اور شرعی معنی اور نذر کی اقسام	۸۸۴
۹۸۶	کیا سود اور دیگر عقود فاسدہ کے ذریعہ حربی کافروں کا پیسہ بٹورنا جائز ہے	۹۰۸	۹۶۶	نذر صحیح اور نذر باطل کا بیان	۸۸۵
۹۸۷	حضرت ابوبکر کے قمار کی وضاحت	۹۰۹	۹۶۹	اہل الذمہ کو نقلی صدقات دینے کا جواز	۸۸۶
۹۸۹	دارالحرب دارالکفر اور دارالاسلام کی تعریفات	۹۱۰	۹۷۱	گداگری کی مذمت اور سوال نہ کرنے کی فضیلت میں احادیث	۸۸۷
۹۹۰	قیامت میں سود خور کے مجبوظ الحواس ہو کر اٹھنے سے جن چڑھنے پر استدلال اور اس کا جواب	۹۱۱	۹۷۲	سوال کرنے کی حد جواز	۸۸۸
۹۹۱	ربا اور بیع کافرق	۹۱۲	۹۷۲	مسجد میں سائل کو دینے کی تحقیق	۸۸۹
۹۹۲	ربا کو بہ تدریج حرام کرنے کا بیان	۹۱۳		خفیہ اور علانیہ صدقہ کی آیات کے شان نزول میں متعدد اقوال	۸۹۰
۹۹۲	ربا کو حرام قرار دینے کی حکمتیں	۹۱۴	۹۷۳	الذین یا کلون الربوا لایقومون الا کما یقوم۔ (البقرہ: ۲۸۱-۲۷۵)	۸۹۱
۹۹۳	سود خور کے لیے دائماً دوزخ کی وعید کی توجیہ	۹۱۵	۹۷۴	صدقہ کے بعد سود کی آیات ذکر کرنے کی مناسبت	۸۹۲
۹۹۵	سود کا کم ہونا اور صدقہ کا بڑھنا	۹۱۶	۹۷۵	ربا کا لغوی معنی	۸۹۳
	سودی کاروبار ترک نہ کرنے والے کے خلاف جنگ کرنے کا حکم	۹۱۷	۹۷۶	ربا کا اصطلاحی معنی	۸۹۴
۹۹۵	سود پر وعید کے متعلق احادیث	۹۱۸	۹۷۷	ربا الفضل کی تعریف اور اس کی علت کے متعلق مذاہب ائمہ	۸۹۵
۹۹۶	مقروض کو مہلت دینے اور اس سے قرض وصول کرنے کا طریقہ	۹۱۹	۹۷۸	ربا الفضل میں ائمہ کی بیان کردہ علت کا ایک جائزہ	۸۹۶
۹۹۷	مقروض کو مہلت دینے اور قرض معاف کرنے کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث	۹۲۰	۹۸۰	ربا الفضل کی حرمت کا سبب	۸۹۷
۹۹۸	قرآن مجید میں نازل ہونے والی آخری آیت	۹۲۱	۹۸۱	نفع اور سود میں فرق	۸۹۸
۹۹۹	یا ایہا الذین امنوا اذا تداینتم بدین۔ (البقرہ: ۲۸۲-۲۸۳)	۹۲۲	۹۸۲	بینک کے سود کے مجوزین کے دلائل	۸۹۹
۱۰۰۰			۹۸۳	مجوزین سود کے دلائل کے جوابات	۹۰۰
			۹۸۴	افراط زر کی صورت میں اصل زر کو بحال رکھنے کا حل	۹۰۱
				دارالحرب کے سود میں جمہور فقہاء کا نظریہ	۹۰۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۰۱۵	رہن کی تعریف اور رہن سے فائدہ اٹھانے میں مذاہب فقہاء	۹۳۵	۱۰۰۲	سود کے بعد تجارتی قرضوں کے تحفظات کے ذکر کی مناسبت	۹۲۳
۱۰۱۷	رہن کی شرائط اور ضروری مسائل	۹۳۶	۱۰۰۲	مال کے مذموم یا محمود ہونے کا مدار	۹۲۴
۱۰۱۸	اعتماد کی صورت میں وثیقہ لکھوانے، گواہ بنانے اور گروہی رکھنے کو ترک کرنے کی رخصت	۹۳۷	۱۰۰۳	بیع مطلق اور بیع سلم کی تعریفات	۹۲۵
۱۰۱۸	احادیث کی روشنی میں دین اور قرض کے ضروری مسائل	۹۳۸	۱۰۰۳	بیع سلم کی شرائط	۹۲۶
۱۰۱۸	گواہی دینے کا وجوب اور دل کی طرف گناہ کی اضافت کی حکمتیں	۹۳۹	۱۰۰۵	دین اور قرض کی تعریضیں اور ان کا فرق	۹۲۷
۱۰۱۹	وثیقہ لکھنے، گواہ بنانے، رہن رکھنے کے اسرار اور حکمتیں	۹۵۰	۱۰۰۵	آیت مداینہ کے حکم کا تمام دیون کو شامل ہونا	۹۲۸
۱۰۲۰	لہ ما فی السموات وما فی الارض۔ (البقرہ: ۲۸۶-۲۸۳)	۹۵۱	۱۰۰۶	دین پر مبنی عقود کی دستاویز لکھوانے، اس پر گواہ بنانے یا رہن رکھنے کا شرعی حکم	۹۲۹
۱۰۲۱	بیع اور رہن کے بعد اعمال صالحہ سے مکلف کرنے کی مناسبت	۹۴۲	۱۰۰۶	شہادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۹۳۰
۱۰۲۲	خواطر قلب کی تکلیف کے منسوخ ہونے کا بیان	۹۵۳	۱۰۰۶	شہادت کی اقسام	۹۳۱
۱۰۲۳	”ہم“ اور عزم کی تحقیق	۹۵۴	۱۰۰۶	قرآن مجید کی روشنی میں شہادت کا بیان	۹۳۲
۱۰۲۳	دل کے افعال پر مواخذہ کی تحقیق	۹۵۵	۱۰۰۷	شہادت کا حکم	۹۳۳
۱۰۲۷	تکلیف مالا یطاق پر استدلال اور اس کا جواب	۹۵۶	۱۰۰۸	شہادت کی تعریف، رکن اور سبب وغیرہ کا بیان	۹۳۴
۱۰۲۷	سورہ بقرہ کے افتتاح اور اختتام کی مناسبت	۹۵۷	۱۰۰۸	تحمل شہادت کی شرائط	۹۳۵
۱۰۲۸	اللہ فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ذکر کی ترتیب	۹۵۸	۱۰۰۸	بہ لحاظ شاہدادائیگی شہادت کی شرائط	۹۳۶
۱۰۲۸	کسب اور اکتساب کا معنی اور شرک و اکتساب کے ساتھ مخصوص کرنے کی توجیہ	۹۵۹	۱۰۰۸	عدالت کی تعریف	۹۳۷
۱۰۲۹	دوسروں کے عمل سے نفع یا ضرر پہنچنے کا بیان	۹۶۰	۱۰۱۰	عورت کی شہادت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۹۳۸
۱۰۳۰	خطا، نسیان اور جو کام جبراً کرائے جائیں ان پر مواخذہ نہ کرنا	۹۶۱	۱۰۱۱	مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی شہادت مقرر کرنے کی وجوہات	۹۳۹
۱۰۳۰	سابقہ امتوں کے سخت احکام	۹۶۲	۱۰۱۱	وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے	۹۴۰
			۱۰۱۲	عورت کی شہادت کو نصف شہادت قرار دینے کی حکمتیں	۹۴۱
			۱۰۱۳	گواہی کے لیے بلائے جانے پر گواہوں کے جانے کا شرعی حکم	۹۴۲
			۱۰۱۴	کاتب اور گواہ کے ضرر کا بیان	۹۴۳
			۱۰۱۴	سفر اور حضر میں رہن رکھنے کے جواز	۹۴۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
			۱۰۳۰	سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت	۹۶۳
			۱۰۳۱	کلمات تشکر	۹۶۴
			۱۰۳۳	ماخذ و مراجع	۹۶۵
					

ہفت مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۳	اصل تورات کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات	۲۷	سورہ آل عمران
۲۳	موجودہ تورات کے محرف ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات	۲۹	سورہ آل عمران کے اسماء
۲۳	موجودہ تورات کی تصدیق کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۰	سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے ساتھ وجہ اتصال
۲۳	موجودہ تورات کی بعض وہ آیات جن کا قرآن صدق ہے	۳۱	ارجاط اور مناسبت
۲۵	انجیل کا لفظی معنی 'مصدق اور لفظی تحقیق	۳۵	سورہ آل عمران کے مضامین کا خلاصہ
۵۳	انجیل کی تاریخی حیثیت اور اس کے مشمولات	۳۵	الم ○ اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم (۱-۶)
۵۳	انجیل کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۶	سورہ بقرہ کی آخری اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں مناسبت
۵۳	موجودہ انجیل کی بعض وہ آیات جن کا قرآن صدق ہے	۳۷	سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول اور نصاریٰ نجران کے ساتھ آپ کے مناظرہ کا بیان
۵۳	احکام اسلام بہ مقابلہ تعلیمات انجیل	۳۸	موجودہ انجیل کی شہادت سے حضرت مسیح کا خدا یا خدا کا بیٹا نہ ہونا
۵۹	علم محیط اور قدرت کلمہ پر الوہیت کی بناء کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا نہ ہونا	۳۸	قرآن مجید کا کتب حق ہونا
۶۰	هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات (۷-۹)	۳۸	تورات کا معنی 'مصدق اور لفظی تحقیق پرانے عہد نامہ کے مشمولات
۶۰	آیات محکمات اور تشابہات کے ذکر کی مناسبت	۳۹	اصل تورات کے مشمولات
۶	محکم کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۹	موجودہ تورات کے متعلق یہودی اور عیسائی علماء اور مفکرین کا نظریہ
۳	تشابہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴۰	حوادث روزگار کے ہاتھوں تورات کا تلف ہو جانا
۳	اصولین کے نزدیک محکم اور تشابہ کی تعریفیں	۴۰	تورات کی نشاۃ ثانیہ
۳	زانخین (جن کے دلوں میں کجی ہے) کا مصداق	۴۱	موجودہ تورات کے موضوع اور محرف ہونے کے ثبوت میں داخلی شہادتیں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۸۱	اعتدال کے ساتھ مل کی طرف رغبت کا استجاب	۶۳	لا یعلم تاویلہ الا اللہ میں وقف کی تحقیق
۸۲	اعتدال کے ساتھ گھوڑوں اور مویشیوں کی طرف رغبت کا استجاب	۶۴	آیات تشابہت کو نازل کرنے کا قائدہ
۸۳	اعتدال کے ساتھ کھیتی باڑی کی طرف رغبت کا استجاب	۶۴	آیات تشابہت میں غور و فکر کرنے والے علماء متاخرین کا نظریہ
۸۴	اعتدال کے ساتھ کھیتی باڑی کی طرف رغبت کا استجاب	۶۶	علماء راغبین کی تعریف
۸۴	آخری نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے افضل ہونا	۶۷	دلوں کو ٹیڑھا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت میں مذاہب
۸۴	کوئی شخص بھی توبہ اور استغفار سے مستثنیٰ نہیں ہے	۶۷	دل کو دین پر ثابت رکھنے کی دعا کے متعلق احادیث
۸۶	رات کے پچھلے پہر استغفار کرنے کی خصوصیت اور استغفار کی فضیلت	۶۸	خُلف وعدہ کا عمل ہونا اور خُلف وعید کا جائز ہونا
۸۸	مشکل الفاظ کے معانی	۶۹	ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالہم ولا اولادہم (۱۰-۱۱)
۸۸	آیت مذکورہ کے شان نزول میں متعدد اقوال علماء دین کی فضیلت	۷۰	ماں اور لولاد کے ذکر میں حسن ترتیب کا بیان قوم فرعون کے ذکر کی خصوصیت
۹۰	ان الذین عند اللہ الاسلام (۱۹-۲۰)	۷۱	قد کان لکم ایتہ فی فتنین النقتنا (۱۳)
۹۱	اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۱	فتح کا مدار عدوی برتری اور اسلحہ کی زیادتی پر نہیں
۹۲	لہل کتب کے اختلاف کا بیان	۷۲	اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر ہے۔
۹۳	ان الذین یکفرون بایات اللہ ویقتلون النبین بغیر حق (۲۱-۲۲)	۷۲	معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان
۹۵	رسول اللہ ﷺ کا انکار اللہ تعالیٰ کی تمام آیتوں کا انکار ہے	۷۳	زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین (۱۸-۱۹)
۹۵	رسول اللہ ﷺ کی سری شہادت	۷۵	مشکل الفاظ کے معانی
۹۶	خاتم حکام کے سامنے حق بیان کرنا افضل جملہ ہے	۷۶	سابقہ آیات کے ساتھ ارتباط اور مناسبت
۹۶	مصیبت سے بچنے کے لیے گلہ حق نہ کہنے کا جواز	۷۶	متلع دنیا کی تزئین اور آرائش اللہ کی جانب سے بہ طور لتلاء اور آزمائش ہے۔
۹۷	یہود کے جرائم پر سزاؤں کا ترتیب	۷۶	دین اور دنیا میں توازن اور اعتدال قائم رکھنا اسلام ہے۔
۹۹	بلا توبہ مرتکب کبیرہ مرنے والے مومن کی مغفرت میں مذاہب	۷۷	اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کا استجاب
۱۰۰	ردم اور فارس کی فتح کی پیش گوئی	۷۹	اعتدال کے ساتھ بیٹوں کی طرف رغبت کا استجاب
۱۰۰	سیدنا محمد ﷺ کے نبی ہونے پر مخالفین کے اعتراض کا جواب	۸۰	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۹	تحقیق اللہ کی محبت کا حصول جن نفوس قدسیہ کی محبت پر موقوف ہے	۱۰۲	لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء (۲۸-۳۰)
۴۰	جن افعال اور عبادت سے اللہ محبت کرتا ہے	۱۰۳	کفار سے دوستی کی ممانعت کا آیات سابقہ سے ارجحاً اور شان نزول
۴۱	جن افعال سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا	۱۰۳	کفار سے مولات (دوستی) کی ممانعت کا معنی اور محل
۴۲	ان اللہ اصطفیٰ ادم و نوحا و ال ابراہیم (۳۳-۳۴)	۱۰۴	کفار اور بد عقیدہ لوگوں سے مولات کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات
۴۳	خاص انسانوں کا خاص فرشتوں سے اور عام انسانوں کا عام فرشتوں سے افضل ہونا	۱۰۴	بد عقیدہ لوگوں سے مولات کی ممانعت کے متعلق احادیث اور آثار
۴۴	حضرت آدم، حضرت نوح وغیرہم کے خصوصی ذکر کی توجیہ اور ان کی فضیلتوں کا بیان	۱۰۶	کفار اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ مواصلت (انسانی ہمدردی) کے متعلق آیات اور احادیث
۴۵	انبیاء کرام علیہم السلام کی جسمانی اور روحانی خصوصیات	۱۰۷	کفار اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ مجرد معاملہ (معاشرتی برتاؤ) کے متعلق احادیث
۴۵	اذ قالت امرأۃ عمر بن رب انی نذرت (۳۵-۳۷)	۱۰۸	کفار اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ مدارات (زم کننگو اور ملائمت) کے متعلق احادیث
۴۸	عمران کی بیوی کی نذر ماننے کی تفصیل	۱۰۹	مداہنت کی تحقیق
۴۹	حضرت عیسیٰ کا مس شیطان سے محفوظ رہنا ہمارے نبی ﷺ کی انضیلت کے منافی نہیں ہے	۱۱۰	مداہنت اور مدارات کا اصطلاحی فرق
۴۹	بچہ کا نام رکھنا اس کو گھٹی دینا اور بچہ کی ولادت کے دیگر مسائل	۱۱۱	تقیہ کی تعریف، اس کی اقسام اور اس کے شرعی احکام
۴۳	حقیقہ کے متعلق احادیث، آثار اور اقوال تابعین	۱۱۲	تقیہ کے متعلق شیعہ کا نظریہ
۴۵	حقیقہ کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۱۱۳	تقیہ کے بطلان پر عقلی اور عقلی دلائل
۴۶	حقیقہ کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۱۱۵	تقیہ کے متعلق ائمہ اہل سنت کے مذاہب
۴۷	حقیقہ کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۱۱۷	وعد اور وعید اور ترغیب اور ترہیب
۴۷	حقیقہ کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ	۱۱۷	قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی (۳۱-۳۲)
۴۸	حقیقہ کے متعلق احکام شرعیہ اور مسائل	۱۱۸	اتباع رسول ﷺ کے حکم کا شان نزول اور آیات سابقہ سے مناسبت
۴۹	حقیقہ کو منسوخ قرار دینے کے دلائل پر بحث و نظر	۱۱۸	محبت کے معنی اور اللہ اور رسول ﷺ کی محبت کی
۴۹	لام احمد رضا کا احادیث کو اقوال فقہاء پر مقدم رکھنا		
۴۰	نذر کے بعض احکام اور میں کی اولاد پر ولایت		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۶۰	توجیہ	۱۳۱	حضرت زکریا علیہ السلام کی سونح
۶۱	سج کا معنی		حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم کی کفالت کرنا
۶۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کا بیان	۱۳۲	ہنالک دعاز کر یاربہ (۳۸-۳۹)
۶۲	حضرت عیسیٰ کا پختہ عمر میں کلام کرنے کا مجہوز ہونا	۱۳۲	حضرت زکریا علیہ السلام کے لولاد کی دعا کرنے کا سبب
۶۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد	۱۳۵	نمازی کو بند کرنے کی بحث
	مائدہ کا نزول اور اس میں شک کرنے والوں پر عذاب آنا	۱۳۶	محراب میں نماز پڑھنے کی بحث
۶۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے مواعظ	۱۳۷	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سونح
۶۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول		حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنا
۶۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا	۱۵۰	حضرت یحییٰ کی ولادت کو حضرت زکریا کے مستعد سمجھنے کی توجیہ
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول اور ان کی تدفین	۱۵۱	تین دن کے لیے حضرت زکریا کی زبان بند کرنے کے فوائد اور حکمتیں
۶۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء عظیم السلام کے درمیان مدت کا شمار	۱۵۱	واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفىك (۳۲-۳۳)
۶۷	حضرت مریم کے حمل کی کیفیت		زیر بحث آیت میں حضرت مریم کے فضائل
۶۷	ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة و	۱۵۲	حضرت مریم کی فضیلت میں اعلیٰ
۶۷	الانجيل (۳۸-۵۱)	۱۵۳	زیر بحث آیت میں سجدہ کے ذکر کو رکوع کے ذکر پر مقدم کرنے کی توجیہات
۶۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علوم	۱۵۴	بچہ کی پرورش کرنے کے حقداروں کا بیان
۶۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات		سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل
	فلما احس عیسیٰ منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ (۵۲-۵۳)	۱۵۵	رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کا بیان
۶۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود کی مخالفت کا سبب	۱۵۸	اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك
۶۸	حوارین کا معنی اور مصدق	۱۵۸	(۳۵-۳۷)
	اللہ کی خفیہ تدبیر کے مطابق ایک شخص پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈالنا	۱۵۹	خلاصہ آیات اور وجہ ارتجالہ
۷۰	اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و	۱۶۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دینے کی
۷۱	رافعک الی (۵۵-۵۸)		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۰۱	نبوت کا وہی ہونا اور باقی فضائل کا کسی ہونا	۱۸۲	حضرت عیسیٰ کے ساتھ وفات کا تعلق بہ معنی موت نہ ہونے کی تحقیق
۲۰۲	ومن اهل الكتاب من ان نامنه بقنطار (۷۵-۷۷)	۱۸۳	ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم (۵۹-۶۳)
۲۰۲	اہل کتاب کے لمانت داروں اور خاتونوں کا بیان	۱۸۵	حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کی دلیل کا رد
۲۰۳	کفار کی نیکیوں کے مقبول یا مردود ہونے کی بحث	۱۸۵	انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی حکمتیں
۲۰۳	یہودی غیر یہودی کامل کھانا کیوں جائز سمجھتے تھے		حضرت آدم کے پتے سے کن یقون کے خطاب کی وضاحت
۲۰۵	غیر معروف اور غیر قانونی طریقوں سے کافر اقوام کا مل کھانے کے دلائل پر بحث و نظر	۱۸۶	حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم کے درمیان وجوہ مماثلت
۲۰۷	حضرت ابو بکر کے قمار کی وضاحت	۱۸۷	نصاری نجران کو دعوت مہلبہ کی تفصیل
۲۰۹	دار الحرب، دار الکفر اور دار الاسلام کی تعریفات	۱۸۸	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل
۲۱۰	دار الکفر میں غیر قانونی طریقوں سے کافروں کا مل کھانے کا عدم جواز	۱۸۹	مہلبہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حکم
۲۱۳	عہد شکنی کرنے اور قسم توڑنے والوں کے متعلق	۱۹۰	الوہیت مسیح کے ابطال پر ایک عیسائی عالم سے امام رازی کا مناظرہ
۲۱۵	آیت کا نزول		قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة (۶۱-۶۳)
۲۱۶	عہد شکنی کرنے اور قسم توڑنے والوں کی سزا کا بیان	۱۹۱	آیات سابقہ سے مناسبت اور شان نزول
۲۱۸	وان منهم لفريقا یلون السنتم (۷۸-۸۰)	۱۹۲	عقیدہ تثلیث اور اس کا ابطال
۲۱۹	ربط آیات اور شان نزول	۱۹۳	اہل کتاب کو دعوت اسلام کا طریقہ
۲۱۹	”لسی“ کا معنی اور تورات میں لفظی یا معنوی تحریف کی تحقیق	۱۹۳	یہود و نصاریٰ کی حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کا باطل ہونا اور مسلمانوں کی نسبت کا برحق ہونا
۲۲۲	بشر کا معنی		ماکان ابراهیم یہود یا ولا نصر انیا (۶۷-۷۱)
۲۲۳	حکم کا معنی	۱۹۵	عوام اہل کتاب کا رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنا
۲۲۳	ربانین کا معنی	۱۹۶	علماء اہل کتاب کا رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنا
۲۲۵	ربط آیات اور شان نزول	۱۹۷	وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذی انزل (۷۳-۷۷)
۲۲۶	انبیاء علیہم السلام کا دعویٰ الوہیت کرنا عقلاً ممتنع ہے	۱۹۸	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۳۷	چیزوں کو صدقہ کرنا	۲۳۷	کفر ملت واحدہ ہے
۲۳۹	پسندیدہ اور محبوب مل کامعیار		وذاخذ اللہ میثاق النبیین لما اتینکم
	کل الطعام کان حلالاً لبنی اسرائیل الا	۲۳۸	(۸۷-۸۳)
۲۵۱	ماحرم (۹۵-۹۳)	۲۳۸	ربط آیات اور خلاصہ تفسیر
۲۵۲	مناسبت اور شان نزول		تمام نبیوں سے آپ پر ایمان لانے کے میثاق کی
	حضرت یعقوب علیہ السلام نے لونٹ کے گوشت کو	۲۳۹	تحقیق
۲۵۳	شرعاً حرام کیا تھا یا عرفاً	۲۳۰	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت کا عموم اور شمول
۲۵۴	اسلام میں احکام آسان ہیں		زمینوں اور آسمانوں اور تمام مخلوق کی لطافت کا
۲۵۶	لن لول بیت وضع للناس (۹۷-۹۶)	۲۳۲	بیان
	کعبہ کے اول بیت ہونے کے سلسلہ میں روایات	۲۳۳	قل لعلنا باللہ وما نزل علینا (۸۹-۸۳)
۲۵۷	اور راجح روایت کا بیان	۲۳۵	زیر تفسیر آیت کی آیات سابقہ کے ساتھ مناسبت
۲۵۹	تفسیر کعبہ کی تاریخ	۲۳۶	انبیاء سابقین علیہم السلام پر ایمان لانے کا مفہوم
۲۶	کعبہ کے فضائل	۲۳۷	اسلام کے لغوی اور شرعی معنی کا بیان
۲۶۵	مکہ مکرمہ کو بکہ اور مکہ کہنے کی مناسبت	۲۳۷	اسلام قبول نہ کرنے کے نقصان کا بیان
۲۶۵	بیت اللہ کے اسماء	۲۳۸	زیر تفسیر آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال
۲۶۶	کعبہ کی برکت اور ہدایت کا معنی	۲۳۹	اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کا مطلب
۲۶۷	کعبہ اور مقام ابراہیم کی نشانیں		مرتدوں کو ہدایت نہ دینے کے اشکل کے جواہت
	حرم میں داخل ہونے والے مجرم کے مامون ہونے	۲۳۹	اور بحث و نظر
۲۶۸	میں مذاہب فقہاء		لن الذین کفروا بعد ایمانہم ثم لردلوا
۲۷۰	حرم میں قتل کے حکم "منوع ہونے پر بحث و نظر	۲۴۲	(۹۰-۹۱)
۲۷۰	قرامدہ کا مکہ فتح کر کے حجر اسود کو اکھاڑ کر لے جانا	۲۴۲	مرتدین کے کفر میں زیادتی کا بیان
	کعبہ کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اصحاب لیل	۲۴۳	مرتدین کی توبہ قبول نہ ہونے کا محمل
۲۷۱	کی طرح قرامدہ پر عذاب کیوں نہیں آیا؟		ایمان کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے
۲۷۲	قرامدہ کی تعریف	۲۴۳	کفار کی تین قسمیں
۲۷۳	قرامدہ کے عقائد		لن ننالوا البر حتی تنفقوا مما نجون
	حج کی تعریف، شرائط، فرائض، واجبات، سنن اور	۲۴۵	(۹۲)
۲۷۴	آداب، ممنوعات اور مکروہات	۲۴۶	بر کا لغوی اور شرعی معنی
۲۷۵	حج کے فضائل		نیکی کے حصول کے لیے صحابہ کرام کا اپنی محبوب

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۹۱	(۱۰۳-۱۰۹)	۲۷۸	حج کی استطاعت کی تفصیل
۲۹۷	رہب آیات اور مناسبت	۲۷۹	قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والے پر وعید
۲۹۷	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق قرآن مجید کی مزید آیات	۲۸۰	حج کرنے کی مذمت
۲۹۸	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق احادیث اور آثار	۲۸۰	قل یا ہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ (۹۸-۱۰۹)
۳۰۰	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تفصیل اور تحقیق	۲۸۱	کفر پر مذمت میں لٹل کتب کی تخصیص کی وجہ
۳۰۱	برائی سے روکنے کے لیے تلویب اور تعزیر کے مراتب	۲۸۲	لٹل کتب کے گمراہ کن حیلے
۳۰۳	بغیر علم کے وعظ اور تبلیغ کرنا حرام ہے	۲۸۲	شاہ بن قیس کا مسلمانوں میں عدوت کی آگ بھڑکنے کی ناکام سعی کرنا
۳۰۶	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خود نیک ہونا ضروری نہیں ہے	۲۸۳	صحابہ کرام اور بعد کے مسلمانوں کے لیے دین پر استقامت کے ذرائع
۳۰۶	ہتھیاروں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فتنہ کہنے کا بطلان	۲۸۳	یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ حق تقانہ (۱۰۲-۱۰۳)
۳۰۷	کسی شخص سے محبت کی وجہ سے امر بالمعروف کو ترک نہ کیا جائے	۲۸۵	رہب آیات
۳۰۷	امر بالمعروف میں ملامت کو اختیار کیا جائے	۲۸۵	آیا اللہ سے کما حقہ ڈرنے کا حکم محکم ہے یا منسوخ؟
۳۰۷	قیامت کے دن مومنوں اور کافروں کی وہ علامات جن سے وہ پہچان لیے جائیں گے	۲۸۶	تقویٰ کے متعلق احادیث
۳۰۹	حوض پر وارد ہونے والے مرتدین کے متعلق علم رسالت اور بحث و نظر	۲۸۷	لفظ تقویٰ کا لغوی اور شرعی معنی
۳۱۲	عذاب کا عدل اور ثواب کا فضل ہونا	۲۸۸	تأخیرات اسلام پر قائم رہنے کے حکم کا ایک حدیث سے تعارض اور اس کا جواب
۳۱۳	کنتم خیر امة (۱۰-۱۱)	۲۸۹	اللہ کی رسی کا بیان
۳۱۳	رہب آیات، مناسبت اور شان نزول	۲۹۰	عقائد حقہ میں اختلاف سے ممانعت
۳۱۳	تمام امتوں سے افضل امت ہونے کا مدار صحیح صلوٰۃ اور کمال ایمان کا معیار	۲۹۱	باہمی بغض، حسد اور عیسیت کی وجہ سے اختلاف کی ممانعت
۳۱۷	مدینہ کے یہودیوں کی ذلت اور خواری کا بیان	۲۹۲	فری اور اجتہادی مسائل میں اختلاف کی گنجائش
		۲۹۵	لوس اور خزرج پر اللہ تعالیٰ کے دنیوی اور اخروی احسانات
			ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۳۱	بدر میں مسلمانوں کے ضعف کا بیان	۳۱۷	مسلمانوں یا غیر مسلموں کے سہارے کے بغیر یہودی ریاست قائم نہیں کر سکتے
۳۳۱	مسلمانوں کی مغلوبیت کے اسباب	۳۱۸	لیسوا سوالہ من اهل الكتاب (۱۳-۱۵)
۳۳۳	جنگ بدر میں قتل ملائکہ کے متعلق احادیث اور آثار	۳۱۹	ربط آیات اور مناسبت
۳۳۶	جنگ بدر میں قتل ملائکہ کے متعلق مفسرین اسلام کی آراء	۳۲۱	لن الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالہم (۱۲-۱۷)
۳۵۳	غزوہ بدر میں فرشتوں کے قتل کے متعلق مصنف کی تحقیق	۳۲۲	آخرت میں کفار کے اعمال کا ضلع ہوگا
۳۵۳	لیس لک من الامر شیء (۲۸-۲۹)	۳۲۳	یا ایہا الذین امنوا لاتخذوا بطانۃ (۱۸-۲۰)
۳۵۳	لیس لک من الامر کے شان نزول میں متعدد اقوال	۳۲۴	کفار کو رازدار بنانے کی ممانعت اور اس کی حکمتیں
۳۵۵	آپ کو کفار پر لعنت کرنے سے منع کرنا آپ کی عصمت کے خلاف نہیں ہے	۳۲۶	مسلمانوں کے کافروں سے محبت کرنے اور ان کے محبت نہ کرنے کے محال
۳۵۶	بعض کافروں کے خلاف دعاء ضرر کرنے اور لعنت کرنے کے متعلق احادیث	۳۲۶	مسلمانوں کے خلاف کافروں کے غیظ و غضب کا بیان
۳۵۶	بعض کافروں پر لعنت کرنا اور دعائے ضرر کرنا آپ کی رحمت کے خلاف نہیں	۳۲۷	نیک اور متقی مسلمانوں کا کفار کی سازشوں سے محفوظ رہنے کا محمل
۳۵۸	رسول اللہ ﷺ کو دعاء ضرر سے روکنے کی توجیہ اور بحث و نظر	۳۲۸	غیر مسلموں سے دینی اور دنیاوی کام لینے کی تحقیق
۳۶۰	قوت نازلہ کا معنی	۳۲۸	واذ غلوت من اهلک تبویئ المؤمنین (۲۱-۲۷)
۳۶۰	قوت نازلہ میں فقہاء ماکیہ کا نظریہ	۳۳۰	غزوہ بدر کا مختصر تذکرہ
۳۶۰	قوت نازلہ میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۳۳۱	غزوہ احد کا مختصر تذکرہ
۳۶۱	قوت نازلہ میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۳۳۲	سابقہ آیات کے ساتھ ارتباط
۳۶۲	قوت نازلہ میں فقہاء احناف کا نظریہ	۳۳۳	غزوہ احد کے لیے نبی ﷺ کا صحابہ سے مشورہ اور جنگ کی تیاری
۳۶۳	قوت نازلہ میں غیر مقلدین کا نظریہ	۳۳۴	غزوہ احد کے متعلق احادیث اور آثار
۳۶۳	اصحاب ہیر معونہ کی شہادت کا بیان	۳۳۵	ربط آیات اور مناسبت
۳۶۳	علم رسالت پر اعتراض کا جواب	۳۳۶	بدر کا لغوی معنی اور جغرافیائی محل وقوع
۳۶۳	یا ایہا الذین امنوا لاتاکلو الربوا (۳۰-۳۲)	۳۳۷	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۸۹	کامیان	۳۶۳	آیات سابقہ سے مناسبت
	درایت اور روایت سے لوح محفوظ سے تمام امور	۳۶۵	سود مغرور اور سود مرکب کامیان
۳۹۳	کے لکھے جانے کامیان	۳۶۵	ربا الفضل کامیان
۳۹۶	نیت اور اخلاص کامیان	۳۶۶	ربا الفضل میں علت حرمت کی تحقیق
۳۹۷	وکاین من نبی قتل (۱۳۸-۱۳۶)	۳۶۷	سود میں منہمک رہنے والا کفر کے خطرہ میں ہے
۳۹۸	مصائب میں ثابت قدمی پر سابقہ امتوں کا نمونہ		دوزخ کا کفار کے لیے تیار کیا جانا آیا فسق مومنین
۳۹۸	آیات مذکورہ سے مستنبط مسائل	۳۶۷	کے دخل سے منع ہے یا نہیں؟
	یا ایہا الذین امنوا ان تطیعوا الذین کفروا	۳۶۸	رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور منصب رسالت
۳۹۹	(۱۵۳-۱۴۹)	۳۷۰	وسار عوالی مغفرة (۳۶-۳۳)
۴۰۰	دینی معاملات میں کفار کی اطاعت سے ممانعت	۳۷۰	ربط آیات
۴۰۱	اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی پر دلیل کا نہ ہونا	۳۷۱	مغفرت اور جنت کے حصول کا ذریعہ
۴۰۱	جنگ احد میں مسلمانوں کی پسپائی کامیان	۳۷۲	غصہ ضبط کرنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت
۴۰۲	”اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا“ کی تفسیریں	۳۷۳	معاف کرنے کی فضیلت
	مسلمانوں کو غم اٹھانے اور مصائب برداشت کرنے		گناہوں پر توبہ ہونے اور توبہ کرنے والوں کے لیے
۴۰۲	کا علوی بیٹا	۳۷۵	مغفرت کی توبہ
۴۰۳	تم انزل علیکم (۱۵۵-۱۵۴)	۳۷۸	گناہوں پر اصرار کا لغوی اور شرعی معنی
	رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کر کے مسلمانوں کا سو جانا	۳۷۸	توبہ کی تعریف اور شرائط
۴۰۵	اور منافقوں کا پریشانی سے جاگتے رہنا	۳۷۹	کیا گناہوں کو معین کر کے توبہ کرنا ضروری ہے
۴۰۶	اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا معنی	۳۸۰	قد خلت من قبلکم سنن (۳۳-۳۷)
۴۰۷	جنگ احد میں بھاگنے والے مسلمانوں کامیان	۳۸۱	ربط آیات
	جنگ احد میں بھاگنے کی وجہ سے حضرت عثمان پر	۳۸۲	قرآن مجید میں سنت کا مفہوم
۴۰۷	طعن کا جواب	۳۸۲	سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی
	جنگ احد میں مسلمانوں کی جس خطا کی وجہ سے	۳۸۳	مسلمانوں کے اعلیٰ اور غالب ہونے کے معنی
۴۰۸	شیطان نے ان کو لغزش دی		شہید کی تعریف اس کا شرعی حکم اور اس کی وجہ
۴۰۹	یا ایہا الذین امنوا لا تکونوا (۱۶۰-۱۵۶)	۳۸۵	تسبیہ
۴۱۰	ربط آیات اور خلاصہ تفسیر	۳۸۶	فتح اور شکست کو گردش دینے کی اصل حکمت
	یوں کہنا منع ہے کہ اگر میں فلاں کام کر لیتا تو فلاں	۳۸۸	وما محمد الا رسول (۳۵-۳۴)
۴۱۰	مصیبت نہ آتی		رسول اللہ ﷺ کی وفات اور آپ ﷺ کی نماز جنازہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۲۴	فتح مکہ کے بعد عکرمہ بن ابی جہل کو معاف کرنا	۴۲۱	مستقبل کے لیے اگر کالفاظ کہنے کا جواز اور ماضی کے لیے اگر کالفاظ کہنے کی ممانعت
۴۲۵	فتح مکہ کے بعد (طائف میں) وحشی کو معاف کرنا	۴۲۱	اس کی تحقیق کہ جہاد کی نیت نہ کرنا نفاق ہے
۴۲۶	ہبار بن الاسود کو معاف کرنا	۴۲۳	منافقین کے قول کے حسرت ہونے کی وجوہات
۴۲۶	منافقوں اور وہابیوں سے درگزر کرنا	۴۲۳	اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے کا بیان
۴۲۷	عفو اور درگزر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۴۲۳	اللہ کی مغفرت اور رحمت کا دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے افضل اور بہتر ہونا
۴۲۷	عفو اور درگزر کے متعلق احادیث	۴۲۳	دنخ سے نجات، جنت کے حصول اور دیدار الہی کی طلب کے مدارج میں لام رازی کا نظریہ
۴۲۸	نبی ﷺ کے عفو و درگزر کے مختلف محال	۴۲۳	دنخ سے نجات، جنت کے حصول اور دیدار الہی کی طلب کے مدارج میں لام غزالی کا نظریہ
۴۲۹	مشورہ کا لغوی اور عرفی معنی	۴۲۳	دنخ سے نجات، جنت کے حصول اور دیدار الہی کی طلب کے مدارج میں مصنف کا نظریہ
۴۲۹	مشورہ کے متعلق احادیث	۴۲۳	دنخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات
۴۳۰	رسول اللہ ﷺ کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم کیوں دیا گیا	۴۲۳	دنخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں احادیث
۴۳۰	کس قسم کے لوگوں سے مشورہ کیا جائے	۴۲۳	دنخ سے نجات اور جنت کے حصول کی طلب
۴۳۱	توکل کا معنی	۴۲۳	اخلاص کے بنانی نہیں ہے
۴۳۲	توکل کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۴۲۳	نبی ﷺ کے عفو و درگزر کے متعلق قرآن مجید کی آیات
۴۳۲	توکل کے متعلق احادیث	۴۲۳	نبی ﷺ کے عفو و درگزر اور حسن اخلاق کے متعلق احادیث
۴۳۳	توکل کی صحیح تعریف	۴۲۳	سراقہ بن مالک کو معاف کرنا
۴۳۳	کیا اسباب کو ترک کرنا اور مل جمع کرنا توکل کے خلاف ہے؟	۴۲۳	عمیر بن وہب کو معاف کرنا
۴۳۵	اسباب حاصل کرنے کا حکم	۴۲۳	عبداللہ بن ابی لہب کی نماز جنازہ پڑھانا
۴۳۶	اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا بھی مطلوب ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے	۴۲۳	فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور ہند کو معاف کرنا
۴۳۸	اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی مددگار نہیں	۴۲۳	فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کو معاف کرنا
۴۳۹	وماکان لنبی ان یغل (۲۱-۲۳)	۴۲۳	
۴۴۰	مناسبت اور شان نزول	۴۲۳	
۴۴۰	مل غنیمت میں خیانت کرنے پر عذاب کی وعید	۴۲۳	
۴۴۱	مل غنیمت سے متعلق دیگر مسائل	۴۲۳	
۴۴۲	اموال مسلمین میں خیانت کرنے پر عذاب کی وعید	۴۲۳	
۴۴۲	تیکو کاروں کا بد کاروں کی مثل نہ ہونا	۴۲۳	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۴۰	مطلع ہونا	۳۳۵	ثواب اور عذاب کے مختلف درجات
	اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کی کامیابی پر خوش ہونا چاہئے	۳۳۵	آیات سابقہ سے مناسبت
۳۴۱	الذین استجابوا للہ والرسول (۱۷۶-۱۷۵)	۳۳۶	نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا عام انسانوں اور مومنوں کے لیے رحمت ہونا
۳۴۱	آیات مذکورہ کے شان نزول میں دو روایتیں		سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلائل اور مومنین پر وجوہ احسان
۳۴۳	ایمان میں زیادتی کا محمل	۳۳۷	سیدنا محمد ﷺ نوع انسان اور بشر سے مبعوث کیے گئے
۳۴۳	دین اسلام کے غلبہ کی پیش گوئی		تلاوت 'ترکیہ اور کتب و حکمت کی تعلیم کا بیان
۳۴۳	رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان	۳۵۱	لو لما اصابکم مصیبة (۲۱۸-۲۱۵)
۳۴۵	دنیا میں کافروں کی خوشحالی سے دھوکا نہ کھلیا جائے	۳۵۳	بعض مسلمانوں اور منافقوں کے شبہات اور ان کے جوہات
۳۴۵	ان الذین اشتروا الکفر (۱۷۹-۱۷۷)	۳۵۳	ولا تحسبن الذین قتلوا (۱۷۱-۱۶۹)
۳۴۶	ایمان کے بدلہ میں کفر کو خریدنے کا محمل		مناسبت اور شان نزول
	زندگی اور موت میں کون بہتر ہے اور موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں	۳۵۵	حیات شہداء کے متعلق احادیث
۳۴۷	کافروں کو گناہ کے لیے ڈھیل دینے کی توجیحات	۳۵۶	حیات شہداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات
۳۴۸	اصحاب رسول (ﷺ) کے مومن اور طیب ہونے پر دلیل	۳۵۷	شہید اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے یا جسم مثل کے ساتھ یا بزرپردوں کے جسم کے ساتھ؟
۳۴۹	انبیاء علیہم السلام کو علم الغیب ہے یا غیب کی خبروں کا علم ہے	۳۵۸	شہداء کی حیات جسمانی میں مصنف کا موقف اور بحث و نظر
۳۸۰	انبیاء علیہم السلام کو غیب پر مطلع کرنے کے متعلق علماء امت کی تصریحات		شہادت کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث
۳۸۱	رسول اللہ ﷺ کے علم غیب اور علم ماکان و ما	۳۶۰	حکمی شہداء کے متعلق احادیث و آثار
۳۸۳	یکون کے متعلق احادیث	۳۶۲	حکمی شہداء کا خلاصہ
۳۸۳	ولا يحسبن الذین يبخلون (۱۸۰)	۳۶۳	فصل شہداء کے متعلق مذاہب فقہاء
۳۸۵	بخل کا لغوی معنی	۳۶۷	شہداء کی نماز جنازہ کے متعلق مذاہب فقہاء
۳۸۵	بخل کا شرعی معنی اور اس کی اقسام	۳۶۸	شہداء کے رزق کا بیان
۳۸۶	بخل کی مذمت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۶۸	فوت شدہ مسلمانوں کا اپنے اقارب کے اعمال پر
۳۸۷	بخل کی مذمت کے متعلق احادیث و آثار	۳۶۹	
۳۹۲	لقد سمع اللہ قول الذین (۱۸۶-۱۸۱)		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۳	نیکی کی تعریف چاہنے پر عذاب کی وعید	۴۹۳	اسلام کے نظام زکوٰۃ پر یہودیوں کا اعتراض
۵۴	ان فی خلق السموت والارض (۱۹۰-۱۹۵)	۴۹۳	یہودیوں کے اعتراض مذکور کا جواب
۵۱	اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدت پر دلیل		مختلف کے طعن کے جواب میں اس پر طعن کر کے
۵۱۷	بہ کثرت ذکر کرنے کے متعلق احادیث	۴۹۳	اس کو ساکت کرنا
	کوٹ کے بل نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء احناف	۴۹۵	اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام کفر ہے
۵۱۸	کے مسلک کی وضاحت	۴۹۶	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق معراج کا صلہ
	خلوق میں غور و فکر کرنے کی ہدایت اور خالق میں		تجلی امتوں میں قربانی، صدقات اور مل غنیمت کو
۵۲۰	غور و فکر کرنے کی ممانعت	۴۹۶	آسانی آگ کا کھا جانا
۵۲۰	من عرف نفسه فقد عرف ربه کی تحقیق	۴۹۸	یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب
	ایمان کے ساتھ گناہوں پر مواخذہ نہ ہونے کے	۴۹۸	رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینے کا بیان
۵۲۲	نظریہ کارو	۴۹۹	ہزیمت، زیر اور کتب منیر کا معنی
	گناہوں کو بخشنے اور خطاؤں کے مٹانے میں تکرار		جنگ احد کی ہزیمت پر مسلمانوں کو تسلی دینے کا
۵۲۳	کے جوابات	۴۹۹	بیان
	صالحین کے جوار اور قرب میں مدفون ہونے کی	۴۹۹	موت سے مستثنیٰ رہنے والے نفوس کا بیان
۵۲۳	کوشش کرنا		دوزخ سے پناہ مانگنے اور جنت کو طلب کرنے کے
	دعا قبول ہونے کے علم کے باوجود دعا کرنے کی	۵۰۰	متعلق احادیث اور بحث و نظر
۵۲۵	حکمتیں		دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبوں سے بے رغبتی
۵۲۶	دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ	۵۰۳	پیدا کرنے کے متعلق آیات
۵۲۷	تمام صحابہ کے مومن ہونے کی دلیل		دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبوں سے بے رغبتی
۵۲۷	لا یغرنک تقلب الذین (۱۹۶-۲۰۰)	۵۰۳	پیدا کرنے کے متعلق احادیث
۵۲۸	غور کا معنی اور شان نزول		کافروں اور بے دینوں کی زیادتیوں کو خندہ پیشانی
	کفار کے لیے دنیا میں عیش اور مسلمانوں کے لیے	۵۰۷	سے برداشت کرنا
۵۲۸	تجلی کے متعلق احادیث	۵۰۸	واذاخذ اللہ میثاق الذین (۱۸۷-۱۸۹)
	اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کے قرب کا جنت سے	۵۰۹	ربط آیات اور شان نزول
۵۳۰	افضل ہونا	۵۱۰	علم چھپانے کی مذمت کے متعلق احادیث
۵۳۱	شان نزول	۵۱۰	عبداللہ بن لہیع کی روایت کی تحقیق
۵۳۲	عاقبت نیت کی نماز جنازہ پڑھنے میں مذاہب ائمہ		بعض آیات میں عموم الفاظ کی بجائے خصوصیت
۵۳۳	ربط آیات	۵۱۳	مورد کا اعتبار

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۵۱	قبل از اسلام چار سے زیادہ کی ہوئی بیویوں کے متعلق احادیث	۵۳۳	میر کالغوی اور شری معنی
۵۵۲	قبل از اسلام چار سے زیادہ کی ہوئی بیویوں کے متعلق مذاہب ائمہ	۵۳۵	میر کے متعلق احادیث
۵۵۳	احادیث صحیحہ صحیحہ کا اقول ائمہ پر مقدم ہونا	۵۳۶	صابرہ کالغوی معنی اور میر اور مصابہ میں فرق
۵۵۴	نبی ﷺ کی ازواج مطہرات کا بیان	۵۳۶	مصابہ کے متعلق احادیث
۵۵۵	تعدد ازواج کا آپ ﷺ کی خصوصیت ہونا	۵۳۷	میر کے متعلق احادیث
۵۵۶	رسول اللہ ﷺ کے تعدد ازواج کی تفصیل وار حکمتیں	۵۳۹	میر کے معنی
۵۵۷	نبی ﷺ کا تعدد ازواج مکمل ضبط ہے یا حد نفسانی کی بہت	۵۴۱	آیت مذکورہ میں رابطہ کے محال
۵۵۸	نخلہ کا معنی	۵۴۱	اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے متعلق احادیث
۵۵۹	میر کا مقرر کرنا صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے	۵۴۱	سورۃ النساء
۵۶۰	میر لوار کرنے کی تاکید اور میر لوانہ کرنے پر وعید	۵۴۲	سورۃ النساء کا زمانہ نزول اور وجہ تسمیہ
۵۶۱	رسول اللہ ﷺ کی ازواج کے میر کا بیان	۵۴۳	سورۃ النساء کے فضائل
۵۶۲	رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیوں کے میر کا بیان	۵۴۳	سورۃ النساء کی سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت
۵۶۳	میر کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات	۵۴۴	سورۃ النساء کا خلاصہ
۵۶۴	میر کے ثبوت میں احادیث	۵۴۴	یادھا النلس اتقوا ربکم (۱)
۵۶۵	میر کی مقدار کے متعلق فقہائے حنبلیہ کا مذہب	۵۴۴	خالق کی حکمت اور مخلوق پر شفقت
۵۶۶	میر کی مقدار کے متعلق فقہائے شافعیہ کا مذہب	۵۴۴	اسلام میں رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہے
۵۶۷	میر کی مقدار میں غیر مقلدین اور علمائے شیعہ کا نظریہ	۵۴۵	رشتہ داروں سے تعلق توڑنے پر وعید اور تعلق جوڑنے پر بشارت
۵۶۸	میر کی مقدار میں فقہائے مالکیہ کا نظریہ	۵۴۵	واتوا البیئمی لہمواہم (۲-۳)
۵۶۹	میر کی مقدار میں فقہائے احناف کا مذہب	۵۴۶	حجیم کامل لوار کرنے کا حکم
۵۷۰	ٹیلی فون پر نکاح کا شرعی حکم	۵۴۷	حجیم کامل کھانے اور اس کے ساتھ بد سلوکی کرنے کی مذمت اور حسن سلوک کی تعریف
۵۷۱	بیویوں کے درمیان عدل کا حکم اور بعض دوسرے مسائل	۵۴۸	نکاح کی تزئین اور فضیلت کے متعلق احادیث
۵۷۲		۵۵۰	نکاح کی حکمتیں اور فوائد
۵۷۳		۵۵۲	غیر کفو میں نکاح کے جواز پر احادیث
۵۷۴		۵۵۳	کفو میں نکاح کی شرط کے متعلق مذاہب اربعہ
۵۷۵		۵۵۴	تعدد ازواج پر اعتراض کے جوابات
۵۷۶		۵۵۶	چار بیویوں پر اقتصار کی توجیہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۷۷	شوہر اور بیوی کے احوال	۵۷۹	ولا توتونوا السفهاء أموالكم (۵-۶)
۵۷۸	کلامہ کا معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق		کم عقلوں کو مل نہ دینے اور یتیم کے مل کو ولی کا
	آیت مذکورہ میں بھائی بہن سے اخائی بھائی بہن	۵۸۰	مل فرمانے کی توجیہ
۶۰۰	مراد ہونے پر دلائل	۵۸۰	مل کم عقل کی ملک کرنا اس آیت کے متعلق نہیں
۶۰۰	احکام وراثت کی اطاعت پر جنت کی بشارت	۵۸۱	حجر (قولی تعریف سے روکنا) کالغوی اور شرعی معنی
	احکام وراثت کی نافرمانی کرنے والے پر دائمی عذاب	۵۸۱	حجر کے ثبوت میں قرآن اور سنت سے دلائل
۶۰۱	کی وعید اور اس کی توجیہ		جو کسی منصب (آسامی) کے نائل ہوں ان کو اس
۶۰۱	والنسی یاتین الفاحشة (۱۵-۲۲)	۵۸۲	کی ذمہ داری نہ سونپی جائے
۶۰۳	عورتوں کی بدکاری پر ابتدائی سزا کا بیان	۵۸۲	لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کا معیار
۶۰۳	حدود میں عورتوں کی گولہی نامستحبر ہونے پر دلائل	۵۸۳	یتیم کامل کھانے میں مذاہب فقہاء
۶۰۵	حد زنا میں چار مردوں کی گولہی پر اعتراض کا جواب	۵۸۳	تعلیم قرآن اور دیگر عبادات پر اجرت لینے کی تحقیق
	کیا زانی کے خلاف استغاثہ کرنے والی لڑکی پر حد	۵۸۳	للرجال نصیب مما ترک الوالدان (۱۰-۷)
۶۰۵	قذف لگے گی؟	۵۸۵	زنا نہ جاہلیت میں بچوں اور عورتوں کو وارث نہ بنانا
۶۰۶	دو شخصوں کی بے حیائی کی تفسیر میں متعدد اقوال	۵۸۶	تقسیم وراثت میں ورثہ کا اقرب ہونا معیار ہے
۶۰۶	اغلام کی حرمت پر قرآن مجید کی آیات	۵۸۷	ورثہ کی ترکہ کی تقسیم کی تفصیل
۶۰۷	اغلام کی حرمت پر احادیث اور آثار		رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو ورثہ احسان نہیں
۶۰۸	عمل قوم لوط کی حد یا تعزیر میں مذاہب اربعہ	۵۸۸	ان کا حق پہنچانا ہے
۶۰	جمالت سے گناہ کرنے پر مقبول توبہ کی تشریح	۵۸۸	یتیموں کو اپنی لولاد کی طرح سمجھا جائے
۶۱	غزوة موت کے وقت توبہ کا قبول نہ ہونا	۵۸۹	ظلماً" مل یتیم کھانے پر انتہائی سخت عذاب کی وجہ
۶۱	زنا نہ جاہلیت کے مظالم سے عورتوں کو نجات دلانا	۵۸۹	ظلماً" یتیموں کو کامل کھانے والوں کے متعلق احادیث
۶۱	زیادہ سے زیادہ مہر رکھنے کی کوئی حد نہیں ہے	۵۹۰	یوصیکم اللہ فی لولادکم (۱۱-۳)
۶۱	تفاریح کا معنی	۵۹۳	وراثت کے تفصیلی احکام
۶۱	حضرت عمرؓ کا زیادہ مہر رکھنے سے منع فرمانا	۵۹۳	اولاد کے احوال
۶۱	حضرت عمرؓ کے علم پر شیعہ کا اعتراض اور اس کا	۵۹۳	مرد کو عورت سے دگنا حصہ دینے کی وجوہات
۶۱	جواب	۵۹۳	والدین کے احوال
۶۱	خلوت صحیحہ کی وجہ سے کمال مہر کے وجوب پر	۵۹۵	قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کے دلائل
۶۱	فقہائے احناف کے دلائل	۵۹۶	حادثہ امور کے ضعف کا بیان
۶۱	ہپ کی منکوحہ سے بیٹے کے نکاح کے متعلق	۵۹۷	اہل علم کے عمل سے حدیث ضعیف کی تقویت

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۶۳۸	باندیوں سے نکاح کے احکام	۶۱۷	مذہب فقہاء
۶۳۹	یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم (۲۱-۲۳)	۶۱۹	باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کی سزا
۶۴۱	احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی ترغیب	۶۱۹	حرمت علیکم امہاتکم (۲۳-۲۵)
	شریعت کا مزاج آسان احکام بیان کرنا ہے نہ کہ مشکل۔	۶۲۱	محرمات نکاح کا بیان
۶۴۲	مل حرام کی انواع اور اقسام	۶۲۱	نسبی محرمات کی تفصیل
	رشوت کی تعریف و عید اور شرعی احکام	۶۲۱	رضاعی محرمات کی تفصیل
۶۴۳	اپنے آپ کو قتل کرنے کی ممانعت کے تین محمل	۶۲۲	رشتہ نکاح کے سبب محرمات کی تفصیل
۶۴۴	خودکشی کرنے والے کے عذاب کا بیان	۶۲۳	جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی تحقیق
۶۴۵	خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی حکم	۶۲۳	ملا فدیہ کے بدلے میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے متعلق احادیث
۶۴۵	صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تحقیق	۶۲۵	مسلمان قیدیوں سے تبادلہ میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے متعلق احادیث
۶۴۶	اصرار سے گناہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی وجہ	۶۲۶	جنگی قیدیوں کو احساناً بلا معاوضہ آزاد کرنے کے متعلق احادیث
۶۴۹	اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اس کی عطا کے خلاف تمنا کرنے سے ممانعت	۶۲۷	جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کے متعلق فقہائے اسلام کی آراء
۶۵۱	الرجال قوامون علی النساء (۳۳-۳۴)	۶۲۸	کیا بغیر نکاح کے لونڈیوں سے مباشرت کرنا قاتل اعتراض ہے
۶۵۲	قرآن مجید سے عورتوں کی حاکمیت کا عدم جواز	۶۲۹	مہر کے مل ہونے پر دلیل
۶۵۶	قوام کا معنی	۶۳۰	جواز متعہ پر علمائے شیعہ کے دلائل
۶۵۶	عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں احادیث	۶۳۰	علمائے شیعہ کے نزدیک متعہ کے فقہی احکام
۶۵۶	عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں فقہاء اسلام کی آراء	۶۳۱	علمائے شیعہ کے جواز متعہ پر دلائل کے جوابات
۶۵۷	ملکہ بلقیس کی حکومت سے استدلال کا جواب	۶۳۲	حرم متعہ پر قرآن مجید سے دلائل
۶۵۸	جنگ جمل کے واقعہ سے عورت کی سربراہی پر استدلال کا جواب	۶۳۳	حرم متعہ پر احادیث سے دلائل
۶۵۸	بیویوں کو مارنے کے متعلق احادیث	۶۳۳	احادیث شیعہ سے حرم متعہ پر دلائل
۶۵۹	بیویوں کو مارنے کے متعلق فقہاء کا نظریہ	۶۳۶	بعض مفسرین کا تسلع
۶۵۹	اختلاف زن و شوہر میں دونوں جانب سے مقرر کردہ	۶۳۷	اہل کتاب باندیوں سے نکاح میں فقہاء کے مذاہب
۶۶۰	منصف آیا حاکم ہیں یا وکیل	۶۳۸	غیر سیدہ کا فاطمی سیدہ سے نکاح

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۶۸۱	کلمہ کے علم کی بحث		اگر شوہر بیوی کو خرچ دے نہ طلاق تو آیا عدالت
۶۸۱	حدیث تیمم سے استنباط شدہ مسائل	۶۸۳	اس کا نکاح فصیح کر سکتی ہے یا نہیں؟
۶۸۲	جنسی کے لیے جواز تیمم میں صحابہ کا اختلاف	۶۸۳	عدالت کے نسخ نکاح پر اعتراضات کے جوابات
۶۸۳	تیمم کی تعریف، شرائط اور مذاہب فقہاء	۶۸۵	قضاء علی الغائب کے متعلق مذاہب ائمہ
۶۸۵	تیمم کے بعض مسائل	۶۸۶	قضاء علی الغائب کے متعلق احادیث
۶۸۶	یہود کی تحریف کا بیان		دفع حرج، مصلحت اور ضرورت کی بنا پر ائمہ ثلاثہ
	لعنت کی اقسام اور کسی شخص پر لعنت کرنے کی	۶۸۷	کے مذہب پر فیصلہ اور فتوے کا جواز
	تحقیق		جو شخص اپنی بیوی کو نہ خرچ دے نہ آبلو کرے اس
	شرک کی تعریف	۶۸۸	کے متعلق شریعت کا حکم
	کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے		اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ
	اپنی پاکیزگی اور فضیلت بیان کرنے کی ممانعت	۶۸۹	کرنے کا بیان
	غرض صحیح کی بناء پر اپنی پاکیزگی اور اپنی فضیلت بیان		میں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا
	کرنے کا جواز	۶۹۰	بیان
	الم تر االی الذین اوتوا نصیباً (۵۱-۵۹)		پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا
	جست اور طاعت کا معنی	۶۹۱	بیان
	یہود کے بخل کی مذمت	۶۹۲	غلاموں اور خادموں کے ساتھ نیکی کرنے کا بیان
	یہود کے حسد کی مذمت	۶۹۵	اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں
	دوزخ میں جلی ہوئی کھالوں کو دوسری کھالوں سے	۶۹۵	کے لیے وعید
	بدلنے پر تعذیب بلا معصیت کی بحث	۶۹۶	جبریہ کا رد اور ایمان میں تقلید کا کافی ہونا
	روح اور جسم دونوں پر عذاب کی دلیل	۶۹۷	اللہ کے ظلم نہ کرنے کا معنی
	تعذیب بلا معصیت کے اشکال کے صحیح جوابات	۶۹۷	اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب بڑھانے کا معنی
	روح اور جسم دونوں کے مستحق عذاب ہونے کی	۶۹۸	تمام نبیوں کے صدق پر رسول اللہ ﷺ کی شہادت
	ایک مثل	۶۹۸	قیامت کے دن کفار کے مختلف احوال
	اخروی نعمتوں کے لیے نیک اعمال چاہئیں	۶۹۸	یا ایہا الذین امنوا لا تقربوا الصلوٰۃ
	ربط آیات اور شان نزول	۶۹۹	(۴۳-۵۰)
	لمانت ادا کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۶۹۹	حالت نشہ میں نماز پڑھنے سے ممانعت کا شان نزول
	لمانت ادا کرنے کے متعلق احادیث	۷۰۰	تیمم کی مشروعیت کا سبب
	اللہ کے ساتھ معاملہ میں لمانت داری کا دائرہ کار	۷۰۰	حضرت عائشہ کے گمشدہ ہار کے متعلق رسول اللہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۷۹	درجوں میں مساوات کو مستلزم نہیں		خلق خدا کے ساتھ معاملہ میں لانت داری کا دائرہ
۷۹	نبی 'صدیق' شہید اور صلح کی تعریفات	۷۹	کار
	حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی بعض خصوصیات اور فضائل	۷۹	اپنے نفس کے ساتھ معاملہ میں لانت داری کا دائرہ
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	کار
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	قضاء کے آداب اور قاضی کے ظلم اور عدل کے متعلق احادیث
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	کتب 'سنت' اجماع اور قیاس کی حیثیت پر استدلال
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	لوبی الامر کی تفسیر میں متعدد اقوال اور مصنف کا مختار
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت مستقل ہے اور لوبی الامر کی اطاعت باتح ہے
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	قرآن مجید اور احادیث صحیحہ اقوال صحابہ پر مقدم ہیں
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	ائمہ اور فقہاء کے اقوال پر احادیث کو مقدم رکھنا
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	ان کی بے ادبی نہیں ہے
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	دلائل کی بناء پر اکابر سے اختلاف کرنا ان کی بے ادبی نہیں ہے
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	علماء اور مجتہدین حضرات معصوم نہیں دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کرنا جائز ہے
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	الم تر اسی الذین یزعمون (۷۰-۶۰)
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	حضور ﷺ کا فیصلہ نہ ماننے والے منافق کو حضرت عمر ؓ کا قتل کرنا
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	نبی ﷺ کے روضہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا جواز
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	گنبد خضراء کی زیارت کے لیے سفر کا جواز
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ نہ ماننے والا مومن نہیں ہے
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	نبی ﷺ کی زیارت کے لیے صحابہ کا اضطراب
۷۹	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۷۹	اہل جنت کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ان کے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۳۷	قتل خطا، قتل شبہ عمد اور قتل عمد میں دیت کی مقدار	۴۳۸	کن لوگوں کو سلام کرنے میں پل کرنی چاہئے
۴۵۶	دیت کی ادائیگی کی مدت اور جن لوگوں کے ذمہ دیت کی ادائیگی ہے	۴۳۹	جن مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہئے
۴۵۷	عورت کی نصف دیت کی تحقیق	۴۳۹	اتماع کذب کا بیان
۴۵۸	قتل خطا کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی حکمت	۴۳۹	اتماع کذب پر امام رازی کے دلائل
۴۵۹	در ثناء مقتول میں دیت کو تقسیم کرنے کے احکام	۴۴۰	اتماع کذب پر علامہ تفتازلی کے دلائل
۴۵۹	دار الحرب میں کسی مسلمان کو خطا "قتل کرنے پر دیت لازم نہ کرنے کی حکمت	۴۴۰	اتماع کذب پر میر سید شریف کے دلائل
۴۵۹	ذی کفر کی دیت میں مذاہب ائمہ	۴۴۰	شرح مواقف کے دلائل پر علامہ میر سید شریف کے اعتراضات
۴۵۹	ذی کفر کی نصف دیت پر ائمہ ثلاثہ کی دلیل اور اس کا غیر مستحکم ہونا	۴۴۱	علامہ میر سید شریف کے اعتراضات کے جوابات
۴۶۰	ذی کفر اور مسلم کی دیت کے مساوی ہونے پر امام اعظم کے دلائل	۴۴۱	اتماع کذب پر علامہ میر سید شریف کی تصریحات
۴۶۱	قتل خطا کے کفارہ کا بیان	۴۴۲	اتماع کذب کے متعلق دیگر علماء کی تصریحات اور دلائل
۴۶۲	قتل عمد کی تعریف اور اس کے متعلق احادیث	۴۴۳	اتماع کذب کے متعلق علمائے دیوبند کا عقیدہ
۴۶۳	قتل عمد پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے غضب کا بیان	۴۴۳	خلف و عید کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے کذب کو مستلزم نہیں ہے
۴۶۳	مسلمان کے قاتل کی مغفرت نہ ہونے کی توجیہات	۴۴۳	فما لکم فی المنافقین فتین (۸۸-۹۱)
۴۶۵	سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنے کے متعلق احادیث	۴۴۵	کفار اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت
۴۶۵	احکام شریعہ کا مدار صرف ظاہر پر ہے	۴۴۸	ہجرت کی تعریف اور اس کی اقسام
۴۶۶	بلاعذر جہاد میں شریک نہ ہونے والے مجاہدین کے برابر نہیں ہیں	۴۴۸	قیامت تک ہجرت کا مشروع ہونا
۴۶۶	عذر کی وجہ سے جہاد نہ کرنے والے مجاہدین کے برابر ہیں	۴۴۹	اصل ہجرت گناہوں کو ترک کرنا ہے
۴۶۷	غنی شاکر افضل ہے یا فقیر صابر	۴۵۰	ہجرت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات
۴۶۷		۴۵۰	جن کافروں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو اس کی پابندی کی جائے گی
		۴۵۲	وماکان لمؤمن (۹۱-۹۲)
		۴۵۳	قتل خطا کی آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال
		۴۵۵	قتل خطا کا معنی اور اس کی دیگر اقسام
		۴۵۶	دیت کا معنی

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۷۹	آپ ﷺ کی عصمت کے خلاف نہیں ہے	۷۶۹	ان الذین نوفہم الملائکۃ (۹۷-۱۰۰)
۷۹	طعمہ کے معاملہ میں نبی ﷺ کو استغفار کا حکم دینے کی توجیہات	۷۷۰	فرضیت ہجرت کی آیات کا شان نزول
۷۹۲	ولولا فضل اللہ علیک (۱۱۳-۱۱۵)	۷۷۲	ہجرت کا شرعی حکم
۷۹۵	ماکان وما یکون کا علم	۷۷۳	مدنہ منورہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کے اسباب
۷۹۶	ماکان وما یکون کے علم کے متعلق احادیث	۷۷۴	رفع ضرر کے لیے ہجرت کی اقسام
۷۹۸	لمعد بن ابیرق (چوری کرنے والے منافق) کا انجام	۷۷۵	حصول نفع کے لیے ہجرت کی اقسام
۷۹۸	من یشاقق الرسول الایہ کو منسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہے	۷۷۷	والذاضر یتیم فی الارض (۱۰۱-۱۰۳)
۷۹۹	اجماع کا حجت ہونا نبی ﷺ کا معصوم ہونا اور دیگر مسائل	۷۷۸	نماز خوف کا شان نزول
۷۹۹	ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ (۱۲۱-۱۲۶)	۷۷۹	نماز خوف پڑھنے کا طریقہ
۸۰۲	شرکین کے بتوں کا مونث ہونا	۷۷۸	سفر شرعی میں نماز کو قصر کر کے پڑھنے کا وجوب
۸۰۳	شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی	۷۷۹	مسافت شرعی کی مقدار میں مذاہب ائمہ
۸۰۳	جھوٹی آرزوئیں ڈالنے کا معنی	۷۷۹	مسافت قصر کا اندازہ بحساب انگریزی میل و کلومیٹر
۸۰۳	موشیوں کے کلن چیرنے کا معنی	۷۸۲	سندری سفر میں مسافت شرعیہ کا معیار
۸۰۳	تغییر خلق اللہ کا معنی	۷۸۳	کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیئے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا
۸۰۵	شیطان کو کیسے علم ہوا کہ اس کے پیروکار بہت زیادہ ہوں گے	۷۸۳	حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء
۸۰۵	شیطان کے کیسے ہوئے وعدہ کے غرور ہونے کا بیان	۷۸۳	نمازوں کے اوقات
۸۰۶	ہر گناہ پر سزا ہونے کے اشکال کا جواب	۷۸۳	ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز ادا کرنے کا عدم جواز
۸۰۸	گناہگاروں کے لیے نوید مغفرت	۷۸۳	قطبین میں نمازوں اور روزوں کا مسئلہ
۸۰۹	دین اسلام کے برحق اور واجب القبول ہونے پر دلائل	۷۸۵	مناسبت اور شان نزول
۸۰۹	خلیل کا معنی اور حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کی وجوہات	۷۸۵	انا انزلنا الیک الكتاب بالحق (۱۰۵-۱۰۷)
۸۰۹	حضرت ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا اور آپ ﷺ کا حبیب اللہ ہونا	۷۸۶	ربط آیات
۸۱۰	حبیب اللہ ہونا	۷۸۷	منافقوں کے چوری کرنے اور بے قصور پر اس کی تمت لگانے کے متعلق مختلف روایات
		۷۸۸	نبی ﷺ کا کبھی دلیل ظاہر اور کبھی علم غیب کے مطابق فیصلہ کرنا
		۷۹۰	اللہ تعالیٰ کا آپ کو منافقوں کی حمایت سے منع فرمانا

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۸۳۰	مسلمانوں سے وعدہ غلبہ کے پوجہ و غلبہ کفار کی توجیہ کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ نہ ہونے سے فقہاء	۸۸	حضرت ابراہیم اور سیدنا محمد علیہما السلام کے مقام خلعت کافرق
۸۳۰	احناف اور شوافع کا استنباط مسائل	۸۴	اللہ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل
۸۳۲	لن المنافقین یخادعون اللہ (۱۳۷-۱۳۸)	۸۴	وہستفتونک فی النساء (۳۳-۳۷)
۸۳۲	منافقوں کے دھوکے کا معنی ان کے دھوکے کی سزا	۸۴	وراثت اور نکاح میں عورتوں کے حقوق کا بیان
۸۳۳	اور شان نزول	۸۵	فتویٰ کا معنی اس کے تقاضے اور مسائل
۸۳۳	گراں باری اور سستی سے نماز پڑھنے کے متعلق	۸۷	یتیم لڑکیوں کے حقوق کا بیان
۸۳۳	احادیث	۸۷	عورتوں کا اپنے بعض حقوق کو ساقط کر کے مرد سے صلح کر لینا
۸۳۵	ریا کاری سے عبادت کرنے کے متعلق احادیث	۸۸	صلح کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق کو چھوڑنا
۸۳۵	اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرنے کا معنی	۸۹	دلی محبت میں بیویوں میں درمیان عدل کرنا ممکن نہیں
۸۳۶	منافق کا جذبہ ہونا	۸۹	بیویوں کے عدل نہ کرنے والوں کی سزا
۸۳۶	ہدایت کے دو معنی اور ان کے محل	۸۹	بندوں کی اطاعت اور ان کے شکر سے اللہ کے غنی ہونے کا بیان
۸۳۶	کافروں کے تابع بچوں پر عذاب نہیں ہوگا	۸۹	صرف دنیاوی اجر طلب کرنے کی مذمت اور دنیا و آخرت میں اجر طلب کرنے کی مدح
۸۳۷	درک کے معنی اور روزخ کے طبقات	۸۹	یا ایہا الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط
۸۳۷	نفاق کی علامتوں پر اشکال کے جوابات	۸۹	(۳۵-۳۶)
۸۳۹	نفاق کے عذاب سے نجات کی چار شرطیں	۸۹	ربط آیات
۸۳۹	شکر کو ایمان پر مقدم کرنے کے اسرار	۸۹	اپنے خلاف گواہی دینے کا معنی
۸۴۰	شاکر، عظیم میں ربط اور مناسبت	۸۹	عدل کو گواہی پر مقدم کرنے کی وجہ
۸۴۱	لا یحب اللہ الجہر بالسوء (۱۵۲-۱۵۸)	۸۹	کسی فریق کی رعایت کی وجہ سے گواہی نہ دینے کی ممانعت
۸۴۱	کسی کی برائی، نغیبت اور چغلی کی ممانعت کے متعلق	۸۹	ایمان والوں کو ایمان لانے کے حکم کی توجیہ
۸۴۲	احادیث	۸۹	کفر اور معصیت پر راضی ہونا بھی کفر اور معصیت ہے
۸۴۲	مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کا جواز	۸۹	منافقوں کا مسلمانوں اور کافروں کو فریب دینا
۸۴۲	نغیبت کرنے کی مباح صورتیں	۸۹	
۸۴۷	یسئلک اهل الكتاب (۱۵۳-۱۵۴)	۸۹	
۸۵۰	نبی ﷺ کے ساتھ یہود کی سرکشی اور عناد	۸۹	
۸۵۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود کی سرکشی اور عناد	۸۹	
۸۵۰	شریعت تورات کے ساتھ یہود کی سرکشی اور عناد	۸۹	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	یکبارگی کتاب نازل نہ کرنے کے اعتراض کا ایک	۸۵۱	چار وجوہ سے یہود کا کفر
۸۸۱	اور جواب	۸۵۲	یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت مریم پر بتان پاندھا
	رسول کے بغیر محض عقل سے ایمان لانے کے		یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا
۸۸۱	وجوب میں مذاہب	۸۵۳	دعوئی کیا
۸۸۳	رسول اللہ ﷺ کی نبوت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت	۸۵۳	یہود کا حضرت عیسیٰ کے مشابہ کو قتل کرنا
۸۸۳	سیدنا محمد ﷺ کی دعوت پر دلیل		یہود کا کفر، حضرت عیسیٰ کے قتل کے متعلق شک
۸۸۳	حضرت عیسیٰ کی شان میں افراط و تفریط سے ممانعت	۸۵۳	میں جھٹلا ہونا اور آپس میں اختلاف کرنا
۸۸۵	حضرت عیسیٰ کے کلمتہ اللہ ہونے کا معنی	۸۵۵	لام رازی کے اعتراض کا جواب
۸۸۵	حضرت عیسیٰ کے روح من اللہ ہونے کا معنی		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف
۸۸۶	تشکیث کا بطلان	۸۵۶	اٹھائے جانے کا بیان
۸۸۶	انیت مسیح کا بطلان		ابن تیمیہ کے افکار اور ان پر علمائے امت کے
۸۸۷	لن یستنکف المسیح (۱۷۶-۱۷۷)	۸۵۸	تجرے
۸۸۹	شان نزول	۸۵۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان
۸۸۹	نبیوں کے فرشتوں سے افضل ہونے کی بحث	۸۶۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں
۸۹۰	سیدنا محمد ﷺ کا بہانہ اور قرآن مجید کا نور ہونا		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق
۸۹۲	آخری سورت اور آخری آیت کی تحقیق	۸۶۲	احادیث
۸۹۲	کلام کالتوی معنی	۸۷۳	لنا و حینا الیک کما لو حینا (۱۷۳-۱۷۴)
۸۹۳	کلام کا شرعی معنی	۸۷۶	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر یہود کے اعتراض کا جواب
۸۹۳	کلام کے متعلق حضرت جابر کی حدیث	۸۷۷	قرآن مجید کو یکبارگی نازل نہ کرنے کی حکمتیں
۸۹۳	مناسبت	۸۷۸	نبیوں اور رسولوں کی تعداد کے متعلق احادیث
۸۹۳	کلام کی وراثت کے چار احوال	۸۷۹	علم نبوت پر ایک اعتراض کا جواب
۸۹۳	ایک اشکل کا جواب		حضرت موسیٰ کے اللہ سے ہم کلام ہونے میں یہود
۸۹۳	سورۃ النساء کے لول اور آخر میں مناسبت	۸۷۹	کارڈ
۸۹۳	اختتامی کلمات اور دعا		ہمارے نبی ﷺ کا اللہ سے ہم کلام ہونا اور تمام
۸۹۷	مآخذ و مراجع	۸۸۰	عجزت کا بدرجہ اتم جامع ہونا

بیان القرآن

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۱	امر کا مقتضی و وجوب ہونے پر دلائل	۱۷	۲۵	سورۃ المائدہ	۱
۳۲	ممانعت کے بعد امر کے مقتضی کی تحقیق	۱۸	۲۷	نام	۲
۳۳	نبی ﷺ کے افعال سے وجوب کا ثابت نہ ہونا	۱۹	۲۸	زمانہ نزول	۳
	نبی ﷺ کے افعال کے سنت ہستب اور	۲۰	۳۰	سورۃ النساء اور المائدہ میں ارتباط اور مناسبت	۴
۳۴	واجب ہونے کا ضابطہ		۳۰	سورۃ المائدہ کے مضامین کا خلاصہ	۵
۳۶	کتنی مقدار ڈاڑھی رکھنا سنت ہے؟	۲۱		یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود	۶
۳۸	آیات مذکورہ سے استنباط شدہ احکام	۲۲	۳۲	(۱-۳)	۷
	حرمت علیکم المیتۃ والدم و	۲۳	۳۳	عقود کا لغوی اور عرفی معنی	۸
۳۹	لحم الخنزیر (۳-۵)		۳۳	عقود کا شرعی معنی	۹
۵۱	مردار کا معنی اور اس کے شرعی احکام	۲۴	۳۳	عقود کی اقسام	۱۰
۵۲	خون کے شرعی احکام	۲۵	۳۳	بہیمۃ الانعام کا معنی	۱۱
۵۲	خنزیر کے نجس اور حرام ہونے کا بیان	۲۶	۳۵	جانوروں کے ذبح کرنے پر اعتراض کا جواب	۱۲
	"ما اهل لغير الله به" کا معنی اور اس کے	۲۷	۳۶	شعار اللہ کا لغوی اور شرعی معنی	۱۳
۵۳	شرعی احکام		۳۶	حرمت والے مہینوں، حدی اور قلائد کا بیان	۱۴
۵۴	المنخنقة کا معنی اور اس کا شرعی حکم	۲۸	۳۷	آیت مذکورہ کا شان نزول	۱۵
۵۵	الموقوذة کا معنی اور اس کا شرعی حکم	۲۹		آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ	۱۶
۵۵	المرتدینہ کا معنی اور اس کا شرعی مفہوم	۳۰	۳۷	ہونے میں اختلاف	۱۷
۵۶	النطیحة کا معنی اور اس کا شرعی حکم	۳۱	۳۸	صیغہ امر کے متعدد مواضع استعمال	۱۸
۵۶	جس جانور کو درندے نے کھالیا ہو اس کا شرعی حکم	۳۲	۳۰	تقاضائے امر کے واحد ہونے پر دلیل	۱۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	جس شکاریا ذبیحہ پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اس کے حکم میں فقہاء احناف کا نظریہ اور ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات	۵۳	۵۶	"الاماذ کبتم" کے مستثنیٰ منہ کا بیان	۳۳
۷۵	غلیل، ٹکمان اور دیگر آلات سے شکار کرنے کا حکم	۵۳	۵۷	نصب کا معنی اور اس کا شرعی حکم	۳۴
۷۷	بندوق سے مارے ہوئے شکار کی تحقیق	۵۵	۵۷	ازلام کا معنی	۳۵
۷۹	بندوق کے شکار کو حرام کہنے والے علماء کے دلائل	۵۶	۵۹	نجومیوں کا ہنوں اور ستارہ شناسوں سے غیب کی باتیں دریافت کرنے کی ممانعت	۳۶
۸۰	بندوق کے شکار کو حلال قرار دینے والے علماء کے دلائل	۵۷	۵۹	کسی درپیش مہم کے متعلق استخارہ کرنے کی ہدایت	۳۷
۸۰	بندوق کے شکار کے متعلق مصنف کی تحقیق اور بحث و نظر	۵۸	۶۰	استخارہ کرنے کا طریقہ	۳۸
۸۰	قرآن اور حدیث میں بیان کردہ حرام جانور	۵۹	۶۱	قرائن کی بناء پر مستقبل کے ظنی ادراک حاصل کرنے کا حکم	۳۹
۸۴	اہل کتاب کی تعریف اور ان کے ذبیحہ کی تحقیق	۶۰	۶۵	شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تکفیر مسلمین پر بحث و نظر	۴۰
۸۹	اہل کتاب مردوں سے مسلمان عورتوں کے نکاح ناجائز ہونے کی وجہ	۶۱	۶۵	حضرت علی کی خلافت کا غیر منصوص ہونا	۴۱
۹۱	دیگر کفار کے برعکس اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی وجہ	۶۲	۶۵	تدریجاً احکام کا نزول دین کے کمال ہونے کے منافی نہیں	۴۲
۹۱	اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مردوں کے نکاح حلال ہونے کی وجہ	۶۳	۶۶	اسلام کا کمال دین ہونا اور ایمان سابقہ کے کمال ہونے کے منافی نہیں	۴۳
۹۱	آزاد اور پاک دامن عورتوں کی تخصیص کی وجہ	۶۴	۶۷	یوم میلاد النبی ﷺ کا عید ہونا	۴۴
۹۲	یا ایہا الذین امنوا اذا قمتم الی الصلوٰۃ فاغسلوا (۶)	۶۵	۶۷	یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہما پر تعطیل نہ کرنے کے خلاف سپاہ صحابہ کا مظاہرہ	۴۵
۹۳	آیت وضو کی سابقہ آیات سے مناسبت	۶۶	۷۱	عشرہ حکیم الامت منایا جائے گا مفتی نعیم	۴۶
۹۳	آیت وضو کا شان نزول	۶۷	۷۱	ضرورت کی بناء پر حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت	۴۷
۹۳	آیت وضو کے نزول سے پہلے فرضیت وضو کا بیان	۶۸	۷۲	زیر بحث آیت کا معنی اور شان نزول	۴۸
۹۵	شرائع سابقہ اور کئی دور میں فرضیت وضو کے متعلق احادیث	۶۹	۷۳	شکار کی اقسام اور ان کے شرعی احکام	۴۹
۹۶	وضو کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث	۷۰	۷۳	شکار کی شرائط کا بیان	۵۰
۹۸			۷۳	شکار کرنے والے جانوروں کا بیان	۵۱
			۷۳	شکاری کتے کے معقم (سدھائے ہوئے) ہونے کا معیار اور شرائط	۵۲

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۹	حل لغات	۹۳	ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز	۷۱
۱۰۰	بنو اسرائیل کی عمد شکنی کا بیان	۹۴	وضو کے متفق علیہ فرائض	۷۲
۱۰۰	بعض رسولوں کے انکار کی وجہ سے نجات نہیں	۹۵	سر کے مسح کی مقدار میں مذاہب ائمہ	۷۳
۱۰۲	ہوگی خواہ نیک عمل کیے ہوں	۱۰۲	پیروں کے دھونے پر دلائل	۷۴
۹۶	تورات کی تحریف میں علماء کے نظریات	۹۶	پیروں کے دھونے پر علماء شیعہ کے اعتراضات	۷۵
۱۰۳	استخراج مسائل	۹۷	کے جوابات	۷۶
۱۰۴	یاہل الكتاب قد جاء کم	۹۸	وضو کے مختلف فیہ فرائض	۷۷
۱۰۵	رسولنا یبین لکم (۱۷-۱۵)	۱۰۵	وضو کی سختیں	۷۸
۹۹	رسول اللہ ﷺ کے نور ہونے کے متعلق	۹۹	وضو کے مستحبات	۷۹
۱۰۹	علماء کے نظریات	۱۰۹	وضو کے آداب	۸۰
۱۰۰	نبی ﷺ کے نور حسی ہونے پر دلائل	۱۰۰	وضو توڑنے والے امور	۸۱
۱۰۱	نبی ﷺ کے نور ہدایت ہونے پر دلائل	۱۰۱	تیمم کی شرط، طریقہ اور دیگر احکام	۸۲
۱۰۲	قرآن مجید کے فوائد اور مقاصد	۱۰۲	واذ کروا نعمۃ اللہ علیکم و	۸۳
۱۰۳	حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کا رد	۱۰۳	میشافہ (۱۱-۷)	۸۴
۱۰۴	وقالت الیہود والنصارى نحن	۱۰۴	اللہ کی نعمت اور اس کے عمد و میثاق کا معنی	۸۵
۱۱۷	ابناء اللہ و احباءہ (۱۹-۱۸)	۱۱۷	صحیح اور سچی شہادت کی اہمیت	۸۶
۱۰۵	یہود کے اس دعویٰ کا رد کہ وہ اللہ کے بیٹے اور	۱۰۵	ثاہل کو سند یا لائسنس دینے کا عدم جواز اور	۸۷
۱۱۸	اس کے محبوب ہیں	۱۱۸	بحث و نظر	۸۸
۱۰۶	فترت کالغوی اور اصطلاحی معنی	۱۰۶	شہادت کی تعریف	۸۹
۱۰۷	حضرت آدم سے لیکر سیدنا محمد ﷺ تک کا زمانہ	۱۰۷	ثاہل شخص کو دوٹ دینے کا عدم جواز اور	۹۰
۱۰۸	واذ قال موسیٰ لقومہ یقوم اذ کروا	۱۰۸	بحث و نظر	۹۱
۱۲۲	نعمۃ اللہ علیکم (۲۶-۲۰)	۱۲۲	طلب منصب کی تحقیق	۹۲
۱۰۹	آیات سابقہ سے مناسبت	۱۰۹	موجودہ طریقہ انتخاب کا غیر اسلامی ہونا	۹۳
۱۱۰	بنو اسرائیل کے انبیاء کا بیان	۱۱۰	امیدوار کے لیے شرائط الہیت نہ ہونے کے	۹۴
۱۱۱	بنو اسرائیل کے ملوک (بلو شاہوں) کا بیان	۱۱۱	غلط نتائج	۹۵
۱۱۲	بنو اسرائیل کا اپنے زمانہ میں سب سے افضل ہونا	۱۱۲	ولقد اخذ اللہ میثاق بنی	۹۶
۱۱۳	ارض مقدسہ کا مصداق	۱۱۳	اسرائیل (۱۳-۱۲)	۹۷
۱۱۳	جبارین کا بیان	۱۱۳	سابقہ آیات سے ارتباط	۹۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۵	مذہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے صرف	۱۳۶	۱۱۵	فاذہب انت وریک میں بنو اسرائیل کے	
۱۱۳	ڈرانے کی سزا		۱۳۸	کفر اور فسق کی وجوہات	
۱۱۵	مذہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے صرف مال	۱۳۷	۱۳۹	میدان تیبہ میں بنو اسرائیل کا بھگنا	۱۱۶
۱۱۵	لوٹنے کی سزا		۱۳۹	حضرت یوشع کے لیے سورج کو ٹھہرانا	۱۱۷
۱۱۵	مذہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے قتل کرنے	۱۳۸	۱۵۰	نبی ﷺ کا سورج کو لوٹانا	۱۱۸
۱۱۵	اور مال لوٹنے کی سزا		۱۵۱	حدیث رد شمس کی سند کی تحقیق	۱۱۹
۱۱۶	حدود کے کفارہ ہونے میں فقہاء احناف اور	۱۳۹	۱۵۲	واتل علیہم نبا ابنی ادم بالحق	۱۲۰
۱۱۶	فقہاء مالکیہ کا نظریہ			(۳۱-۳۷)	
۱۱۶	حدود کے کفارہ ہونے میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۱۴۰	۱۵۳	ربط آیات اور مناسبت	۱۲۱
۱۱۷	اور احناف کا جواب			قائیل کے ہاتیل کو قتل کرنے کی	۱۲۲
۱۱۸	حدود کے کفارہ ہونے میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۱۴۱	۱۵۳	تفصیل	
۱۱۹	حدود کے کفارہ ہونے کے متعلق دو حدیثوں	۱۴۲		ہاتیل کے اس قول کی توجیہ کہ میرا اور تیرا گناہ	۱۲۳
۱۱۹	میں تطبیق		۱۵۵	تیرے ذمہ لگے	
۱۲۰	یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و	۱۴۳	۱۵۶	قائیل کے قتل کرنے کی کیفیت	۱۲۴
۱۲۰	ابتغوا الیہ الوسیلۃ (۳۰-۳۵)			ہرنیک اور بد کام کے ایجاد کرنے والوں کو بعد	۱۲۵
۱۲۱	آیات سابقہ سے مناسبت	۱۴۴	۱۵۶	والوں کے عمل سے حصہ ملتا رہتا ہے	
۱۲۱	وسیلہ بہ معنی ذریعہ تقرب	۱۴۵	۱۵۷	قائیل کا انجام	۱۲۶
۱۲۱	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے وسیلہ سے	۱۴۶		من اجل ذلک کتبنا علی بنی	۱۲۷
۱۲۱	دعا کا جو از		۱۵۸	اسرائیل (۳۳-۳۴)	
۱۲۳	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے وسیلہ سے	۱۴۷	۱۵۹	آیات سابقہ سے مناسبت	۱۲۸
۱۲۳	دعا کے متعلق احادیث			ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کے قتل کے	۱۲۹
۱۲۳	وسیلہ بہ معنی درجہ جنت	۱۴۸	۱۶۰	برابر کس طرح ہوگا؟	
۱۲۳	دعاء اذان میں حدیث شفاعت کی تحقیق	۱۴۹	۱۶۱	شان نزول	۱۳۰
۱۲۵	دعاء اذان کے بعض دیگر کلمات کی تحقیق	۱۵۰	۱۶۲	حرا بہ (ڈاکہ) کا لغوی معنی	۱۳۱
۱۲۶	وسیلہ بہ معنی مرشد کامل	۱۵۱	۱۶۲	ڈاکہ کی اصطلاحی تعریف	۱۳۲
۱۲۶	آیا اللہ نے کافر کے کفر کا ارادہ کیا تھا یا اس کے	۱۵۲	۱۶۲	ڈاکہ کا رکن	۱۳۳
۱۲۶	ایمان کا؟		۱۶۲	ڈاکہ کی شرائط	۱۳۴
۱۸۰	آیات سابقہ سے مناسبت	۱۵۳	۱۶۳	ڈاکہ کے جرم کی تفصیل	۱۳۵

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۰۰	قصاص کے حکم کا شان نزول	۱۷۸	سرقہ کا لغوی معنی	۱۵۳
	ذی کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے میں	۱۷۹	سرقہ کا اصطلاحی معنی	۱۵۵
۲۰۰	مذہب فقہاء	۱۸۰	شان نزول	۱۵۶
۲۰۱	تورات میں قرآن مجید کی صداقت	۱۸۰	جاہلیت اور اسلام میں جن کے ہاتھ کاٹے گئے	۱۵۷
۲۰۱	اعضاء کے قصاص کی کیفیت میں مذہب اربعہ	۱۸۱	چور کا ہاتھ کاٹنے کی حکمت	۱۵۸
۲۰۲	بدلہ نہ لینے کی فضیلت	۱۸۲	محبت حدیث پر دلیل	۱۵۹
	وقفینا علی انارہم بعیسی ابن	۱۸۳	حد سرقہ کے نصاب میں امام شافعی کا نظریہ	۱۶۰
۲۰۳	مریم (۵۰-۴۶)	۱۸۳	حد سرقہ کے نصاب میں امام مالک کا نظریہ	۱۶۱
۲۰۵	آیات سابقہ سے ارتباط	۱۸۳	حد سرقہ کے نصاب میں امام احمد بن حنبل کا نظریہ	۱۶۲
۲۰۵	نزدول قرآن کے بعد انجیل پر عمل کے حکم کی توجیہ	۱۸۵	حد سرقہ کے نصاب میں امام ابو حنیفہ کا نظریہ اور	۱۶۳
۲۰۶	قرآن مجید کا سابقہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہونا	۱۸۶	ائمہ ثلاثہ کے جوابات	
۲۰۶	شرائع سابقہ کے حجت ہونے کی وضاحت	۱۸۷	مذہب احناف کے ثبوت میں احادیث	۱۶۴
۲۰۷	شان نزول	۱۸۸	کون سا ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے؟	۱۶۵
	یا ایہا الذین امنوا لاتتخذوا	۱۸۹	جن صورتوں میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا	۱۶۶
۲۰۸	الیہود (۵۶-۵۱)		یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین	۱۶۷
۲۰۹	شان نزول	۱۹۰	یسار عون فی الکفر (۴۳-۴۱)	
	کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت میں	۱۹۱	یسود کا تورات میں لفظی اور معنوی تحریف کرنا	۱۶۸
۲۱۰	قرآن مجید کی آیات	۱۹۱	نبی ﷺ کا یہودی زانیوں کو رجم کرانا	۱۶۹
	کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت میں احادیث	۱۹۲	یہودیوں کے ایمان نہ لانے پر نبی ﷺ کو تسلی دینا	۱۷۰
۲۱۰	اور آثار	۱۹۳	سحت کا معنی اور اس کا حکم	۱۷۱
	کفار سے دوستی کے حق میں منافقوں کے	۱۹۳	رشوت کی اقسام اور اس کا شرعی حکم	۱۷۲
۲۱۲	بمانوں کا بطلان		اہل ذمہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے متعلق	۱۷۳
۲۱۳	عمد رسالت اور بعد کے مرتدین کا بیان	۱۹۴	ائمہ اربعہ کا نظریہ	
۲۱۳	اللہ کی محبوب قوم کے مصداق میں متعدد اقوال	۱۹۵	موجودہ تورات میں آیت رجم	۱۷۴
۲۱۵	حضرت ابو بکر کی خلافت پر دلائل	۱۹۶	انا انزلنا التورۃ فیہا ہدی ونور	۱۷۵
۲۱۷	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل	۱۹۷	(۴۵-۴۳)	
۲۱۹	حضرت ابو بکر کے فضائل میں موضوع احادیث	۱۹۸	شرائع سابقہ کا ہم پر حجت ہونا	۱۷۶
۲۲۰	آیت مذکورہ کے شان نزول میں متعدد اقوال	۱۹۹	قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کا کفر ہونا	۱۷۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۳۱	گناہوں کو ترک کرنے اور نیکیاں کرنے سے رزق میں وسعت اور فراخی	۲۲۱	۲۲۰	حضرت علی کے مستحق خلافت ہونے پر علماء شیعہ کی دلیل	۲۰۰
۲۳۲	یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک (۷۲-۷۴)	۲۲۲	۲۲۱	علماء شیعہ کی دلیل کا جواب	۲۰۱
۲۳۳	ایک آیت کی تبلیغ نہ کرنے سے مطلقاً تبلیغ رسالت کی نفی کس طرح درست ہے؟	۲۲۳	۲۲۲	یا ایہا الذین امنوا لاتخذوا	۲۰۲
۲۳۴	تبلیغ رسالت اور لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھنے کے متعلق احادیث	۲۲۴	۲۲۳	(۵۷-۶۱)	۲۰۳
۲۳۵	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر علماء شیعہ کا استدلال اور اس کا جواب	۲۲۵	۲۲۴	مناسبت اور شان نزول	۲۰۴
۲۳۶	آیا رسول اللہ ﷺ صرف احکام شریعہ کی تبلیغ پر مامور تھے یا اپنے تمام علوم کی تبلیغ پر؟	۲۲۶	۲۲۵	یہود و نصاریٰ اور بت پرستوں سے متعلق قرآن مجید کی اصطلاح	۲۰۵
۲۳۷	نبی ﷺ کے علم کی تین قسمیں	۲۲۷	۲۲۶	ملکی اور جنگی معاملات میں کفار سے خدمت لینے میں مذاہب	۲۰۶
۲۳۸	وہ علم جسکو تمام امت تک پہنچانا آپ پر فرض ہے	۲۲۸	۲۲۷	مناسبت اور شان نزول	۲۰۷
۲۳۹	وہ علم جس کی تبلیغ میں آپ کو اختیار ہے	۲۲۹	۲۲۸	ابتداء اذان کی کیفیت	۲۰۸
۲۴۰	وہ علم جس کا انشاء آپ پر واجب ہے	۲۳۰	۲۲۹	کلمات اذان میں مذاہب ائمہ	۲۰۹
۲۴۱	شان نزول	۲۳۱	۲۲۹	حضرت ابو محذورہ کی روایت کا محمل	۲۱۰
۲۴۲	یہود و نصاریٰ کے کسی عمل کا لائق شمار نہ ہونا	۲۳۲	۲۳۰	کلمات اقامت میں مذاہب ائمہ	۲۱۱
۲۴۳	نزول قرآن سے ان کے کفر اور سرکشی کا اور زیادہ ہونا	۲۳۳	۲۳۱	اذان کا جواب	۲۱۲
۲۴۴	الصصابشون کے رفعی حالت میں ہونے کی توجیہ	۲۳۴	۲۳۱	و عابعد الاذان	۲۱۳
۲۴۵	کیا صرف نیک عمل کرنے سے یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات ہو جائے گی؟	۲۳۵	۲۳۲	اذان کی فضیلت میں احادیث	۲۱۴
۲۴۶	فقہ کے معنی	۲۳۶	۲۳۳	مناسبت اور شان نزول	۲۱۵
۲۴۷	بنو اسرائیل کا ہدایت سے دوبارہ اندھا اور بہرا ہونا	۲۳۷	۲۳۴	آیت مذکورہ کی ترکیب پر شبہات کے جوابات	۲۱۶
۲۴۸	عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کا رد	۲۳۸	۲۳۵	وتری کثیرا منهم یسارعون فی الاثم (۶۱-۶۲)	۲۱۷
۲۴۹	لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثة (۷۷-۷۸)	۲۳۹	۲۳۶	نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی مذمت	۲۱۸
۲۵۰	ثالث ثلاثة (۷۷-۷۸)	۲۴۰	۲۳۷	نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے پر وعید کی احادیث	۲۱۹
			۲۳۸	مناسبت اور شان نزول	۲۲۰
				ید اللہ (اللہ کا ہاتھ) کا معنی	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۸۱	امام مالک کے نزدیک حلال کو حرام کرنا قسم ہے یا نہیں؟	۲۵۸	۲۶۱	حقد میں اور متاخرین عیسائیوں کا نظریہ تثلیث اور اس کا رد	۲۳۰
۲۸۱	امام شافعی کے نزدیک حلال کو حرام کرنا قسم ہے یا نہیں؟	۲۵۹	۲۶۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدانہ ہونے پر دلائل	۲۳۱
۲۸۱	امام احمد کے نزدیک حلال کو حرام کرنا قسم ہے یا نہیں؟	۲۶۰	۲۶۳	حضرت مریم کے نبیہ نہ ہونے پر دلائل	۲۳۲
۲۸۱	امام ابو حنیفہ کے نزدیک حلال کو حرام کرنا قسم ہے یا نہیں؟	۲۶۱	۲۶۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت گزاری سے ان کے خدانہ ہونے پر استدلال	۲۳۳
۲۸۲	یہودی سے کہا "تو مجھ پر حرام ہے" اس میں مفتی بہ قول	۲۶۲	۲۶۵	غلو حق اور غلو باطل کی تعریفیں	۲۳۴
۲۸۲	افضل یہ ہے کہ کبھی نفس کے تقاضوں کو پورا کرے اور کبھی نہ کرے	۲۶۳	۲۶۹	لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل (۸۲.....۷۸)	۲۳۵
۲۸۵	مناسبت اور شان نزول	۲۶۳	۲۶۹	تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل پر لعنت کا بیان	۲۳۶
۲۸۶	یمین کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۶۵	۲۶۹	نجاشی کا اسلام لانا	۲۳۷
۲۸۷	قسم کھانے کا جواز اور مشروعیت	۲۶۶	۲۶۹	مسلمانوں کا حبشہ ہجرت کرنا اور کفار مکہ کا ان کو واپس بلانے کی سعی کرنا	۲۳۸
۲۸۸	جھوٹ کا خدشہ نہ ہو تو زیادہ قسمیں کھانے کا جواز	۲۶۷	۲۷۰	حضرت جعفر کا نجاشی کے دربار میں اسلام کا تعارف کرانا	۲۳۹
۲۸۹	فی نفسہ قسموں کی اقسام	۲۶۸	۲۷۱	کفار قریش کا مسلمانوں کو نکلوانے کی مہم میں ناکام ہونا	۲۴۰
۲۹۰	اپنا حق ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کے متعلق فقہاء کے نظریات	۲۶۹	۲۷۱	واذا سمعوا ما نزل الی الرسول تری اعینہم (۸۶.....۸۳)	۲۴۱
۲۹۱	قسم کھانے کا طریقہ	۲۷۰	۲۷۲	شان نزول	۲۴۲
۲۹۱	غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت کی تحقیق	۲۷۱	۲۷۳	یا بہا الذین امنوا لاتحرموا طیبات ما احل اللہ لکم (۸۹.....۸۷)	۲۴۳
۲۹۲	یمین لغوی تعریف	۲۷۲	۲۷۳	حلال چیزوں سے اجتناب کی ممانعت	۲۴۴
۲۹۳	یمین منعقدہ کی تعریف	۲۷۳	۲۷۳	عبادات اور معاملات میں میانہ روی کے متعلق آیات اور احادیث	۲۴۵
۲۹۳	یمین غموس کی تعریف	۲۷۳	۲۷۳	اسلام معتدل، سہل اور دین فطرت ہے	۲۴۶
۲۹۳	کفارہ قسم کی مشروعیت	۲۷۵	۲۷۵	آیا حلال کو حرام کرنا قسم ہے یا نہیں؟	۲۴۷
۲۹۳	کفارہ قسم کے احکام میں مذاہب ائمہ	۲۷۶	۲۸۰		
۲۹۳	یا بہا الذین امنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب (۹۳.....۹۰)	۲۷۷	۲۸۰		
۲۹۵					

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۱۵	شان نزول اور مناسبت	۳۰۱	۲۹۶	مشکل الفاظ کے معنی	۲۷۸
۳۱۵	"تا کہ اللہ یہ جان لے" کی توجیہات	۳۰۲	۲۹۷	شراب کی تحریم کے متعلق احادیث	۲۷۹
۳۱۶	حالات احرام میں شکار کرنے کی سزا	۳۰۳	۲۹۸	خمر کی حقیقت میں مذاہب فقہاء	۲۸۰
۳۱۶	خشکی کے جانوروں کے قتل کی ممانعت سے پانچ	۳۰۴		خمر کلبینہ حرام ہونا اور غیر خمر کا مقدار نشہ میں	۲۸۱
۳۱۶	فاسق جانوروں کا استثناء		۲۹۹	حرام ہونا	
۳۱۷	کھیتوں کے کوئے کے علاوہ ہر کوئے کو قتل کرنے کا حکم	۳۰۵		جس مشروب کی تیزی سے نشہ کا خدشہ ہو اس	۲۸۲
۳۱۷	تین صورتوں میں محرم کے لیے شکاری جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت	۳۰۶	۲۹۹	میں پانی ملا کر پینے کا جواز	
۳۱۷	محرم عمد ا قتل کرے یا خطا ہر صورت میں اس پر	۳۰۷		جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی	۲۸۳
۳۱۸	ضمان کا وجوب	۳۰۸		قلیل مقدار کے حلال ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل	
۳۱۸	شکار کی تعریف	۳۰۸	۳۰۰	انگریزی دواؤں اور پرفیوم کا شرعی حکم	۲۸۴
۳۱۸	شکار پر دلالت کرنے کی وجہ سے ضمان کے لزوم	۳۰۹	۳۰۰	شراب نوشی پر وعید کی احادیث	۲۸۵
۳۱۸	میں مذاہب ائمہ		۳۰۴	خمر کی حد کلبیان	۲۸۶
۳۲۰	شکار کی جزاء میں اس کی مثل صوری ضروری ہے یا اس کی قیمت؟	۳۱۰	۳۰۵	بھنگ اور ایون کا شرعی حکم	۲۸۷
۳۲۰	جزاء میں اختیار منصفوں کی طرف راجع ہے یا محرم کی طرف؟	۳۱۱	۳۰۵	سکون آور دواؤں کا شرعی حکم	۲۸۸
۳۲۱	طعام کا صدقہ مکہ میں کرنا ضروری ہے یا دوسرے شہر میں بھی جائز ہے؟	۳۱۲	۳۰۶	تباکو نوشی کا شرعی حکم	۲۸۹
۳۲۲	دوسری بار شکار کو مارنے سے جزاء لازم ہوگی یا نہیں؟	۳۱۳	۳۰۸	جوئے کی تعریف اور اس کے حرام ہونے کا بیان	۲۹۰
۳۲۲	اضطرار کی صورت میں شکار اور مردار میں سے کس کو اختیار کرنا اولیٰ ہے؟	۳۱۴	۳۰۶	معہ لاٹری اور سٹہ کا شرعی حکم	۲۹۱
۳۲۲	سندری شکار کی تعریف اور اس میں مذاہب ائمہ	۳۱۵	۳۰۷	کھیل اور ورزش کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر	۲۹۲
۳۲۳	شکار کا گوشت محرم کے لیے ناجائز ہونے کے متعلق احادیث	۳۱۶	۳۰۷	چوسرا اور شطرنج کے متعلق مذاہب فقہاء	۲۹۳
۳۲۳			۳۰۸	کرکٹ میچ کے متعلق امام احمد رضا کی ہدایت	۲۹۴
			۳۰۹	شراب اور جوئے کی دینی اور دنیاوی خرابیاں	۲۹۵
			۳۱۰	انصاب اور ازلام کی تفسیر	۲۹۶
			۳۱۲	شان نزول کا بیان	۲۹۷
			۳۱۴	تحریم خمر کی تاریخ	۲۹۸
			۳۱۳	اللہ کے خوف کو تین بار ذکر کرنے کی توجیہات	۲۹۹
			۳۱۶	یا ایہا الذین امنوا الیبلونکم اللہ	۳۰۰
			۳۱۴	بششی (۹۶-۹۳)	

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
۳۳۸	البحیرہ کا معنی	۳۳۴	۳۳۴	محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کے متعلق	۳۱۷
۳۳۸	الساہ کا معنی	۳۳۵	۳۳۵	مذہب ائمہ	
۳۳۹	الوسیلہ کا معنی	۳۳۶	۳۳۶	محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کے مسئلہ میں	۳۱۸
۳۳۹	الحامی کا معنی	۳۳۷	۳۳۷	امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلائل	
۳۳۹	بحیرہ اور سائبہ وغیرہما کے متعلق احادیث	۳۳۸	۳۳۸	جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام	۳۱۹
	ایصال ثواب کے لیے نامزد جانوروں کا حلال اور	۳۳۹	۳۳۹	قیمم للناس (۹۷-۱۰۰)	
۳۴۰	طیب ہونا	۳۴۰	۳۴۰	مشکل الفاظ کے معنی	۳۲۰
۳۴۱	بحیرہ وغیرہ کی تحریم کا خلاف عقل ہونا	۳۴۰	۳۴۰	مناسبت	۳۲۱
۳۴۱	تقلید مذموم اور تقلید محمود	۳۴۱	۳۴۱	کعبہ اور دیگر شعائر حرم کا لوگوں کے لیے مصالح اور	۳۲۲
	یا ایہا الذین امنوا علیکم	۳۴۲	۳۴۲	مقوم ہونا	
۳۴۲	انفسکم لا یضرکم (۱۰۵-۱۰۸)	۳۴۲	۳۴۲	کسی کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا فرائض رسالت میں	۳۲۳
۳۴۳	مناسبت اور شان نزول	۳۴۳	۳۴۳	سے نہیں ہے	
	نجات کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا	۳۴۴	۳۴۴	اللہ کے نزدیک نیکو کاروں اور بدکاروں کا برابر	۳۲۴
۳۴۴	ضروری ہونا	۳۴۴	۳۴۴	نہ ہونا	
	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے	۳۴۵	۳۴۵	یا ایہا الذین امنوا اتسلطوا عن	۳۲۵
۳۴۴	متعلق احادیث	۳۴۵	۳۴۵	اشیاء ان تبدلکم (۱۰۱-۱۰۳)	
	سفر میں وصیت پر اہل کتاب کو گواہ بنانے کے	۳۴۶	۳۴۶	نبی ﷺ سے سوالات کرنے کی ممانعت کے	۳۲۶
۳۴۵	متعلق احادیث	۳۴۶	۳۴۶	متعلق احادیث	
	سفر میں وصیت کرنے اور غیر مسلموں کو گواہ	۳۴۷	۳۴۷	آپ سے سوال کرنے کی ممانعت کی وجوہات	۳۲۷
۳۴۶	بنانے کے جواز پر امام احمد کے دلائل	۳۴۷	۳۴۷	آپ سے سوال کرنے کی ممانعت اور اجازت	۳۲۸
	سفر میں وصیت پر غیر مسلموں کو گواہ بنانے کے	۳۴۸	۳۴۸	کے محال	
۳۴۶	عدم جواز پر جمہور فقہاء کے دلائل	۳۴۸	۳۴۸	آپ سے کیے ہوئے سوالات کے متعلق قرآن	۳۲۹
	اہل ذمہ کی آپس میں گواہی کے جواز پر امام	۳۴۹	۳۴۹	مجید کی آیات	
۳۴۷	ابو حنیفہ کے دلائل	۳۴۹	۳۴۹	آپ سے کیے ہوئے سوالات کے متعلق احادیث	۳۳۰
	امام ابو حنیفہ کے استدلال پر علامہ قرطبی کے	۳۵۰	۳۵۰	مشکل سوالات اور بھارت ڈالنے کی ممانعت	۳۳۱
۳۴۹	اعتراض کا جواب	۳۵۰	۳۵۰	سوالات کرنے کے جائز اور ناجائز مواقع	۳۳۲
	ناگزیر صورت میں غیر مسلموں کو گواہ بنانے	۳۵۱	۳۵۱	کثرت سوالات اور مطالبات کی وجہ سے پھیلی	۳۳۳
۳۵۰	کا جواز	۳۵۱	۳۵۱	امتوں کا ہلاک ہونا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۶۶	نزول ماندہ کے فرمائی معجزہ کی توجیہات	۳۷۲	۳۵۲	شک اور شبہ کی بناء پر ملزم یا مسموم کو قید میں رکھنے کا جواز	۳۵۲
۳۶۷	عام آدمی کی نظر اور نبی کی نظر	۳۷۳	۳۵۰	بجروں کو قید میں رکھنے کا جواز	۳۵۳
۳۶۸	اول اور آخر کے لیے عید ہونے کا معنی	۳۷۴	۳۵۱	نارہندہ مقروض کو قید کرنے کے متعلق احادیث	۳۵۴
۳۶۸	بنو اسرائیل پر نازل ہونے والے طعام کا خوان	۳۷۵	۳۵۱	نارہندہ مقروض کو قید کرنے کے متعلق	۳۵۵
۳۶۹	میلاد رسول ﷺ	۳۷۶		مذہب ائمہ	
۳۶۹	مخفل میلاد کا بدعت حسنہ ہونا	۳۷۷	۳۵۲	گواہ بنانے کے لیے بعد از نماز وقت کی خصوصیت	۳۵۶
۳۷۱	نزول ماندہ کی کیفیت کی تحقیق	۳۷۸	۳۵۳	قسم دلانے اور گواہ بنانے میں مقام کی خصوصیت	۳۵۷
۳۷۲	دستر خوان اور میز پر کھانا کھانے کا شرعی حکم	۳۷۹		میں مذاہب	
۳۷۳	واذ قال اللہ یعیسیٰ ابن مریم	۳۸۰	۳۵۴	صرف اللہ کی ذات کی قسم کھائی جائے یا اس کی صفات کا بھی ذکر کیا جائے	۳۵۸
۳۷۳	ء انت قلت (۱۳۰.....۱۱۶)			مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنے کی توجیہ	۳۵۹
	اس اشکال کا جواب کہ عیسائی تو حضرت مریم کو خدا نہیں کہتے اور اللہ کی الوہیت کی نفی نہیں کرتے	۳۸۱	۳۵۵	یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ما اذا جبتہم (۱۱۱.....۱۰۹)	۳۶۰
۳۷۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ادب سے اپنی برأت کرنا	۳۸۲	۳۵۷	آیات سابقہ سے مناسبت	۳۶۱
۳۷۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے جانے پر ایک اشکال کا جواب	۳۸۳	۳۵۸	قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے اس قول کی توجیہات کہ "ہمیں کچھ علم نہیں"	۳۶۲
۳۷۷	اس اعتراض کا جواب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مشرکین کی شفاعت کی	۳۸۴	۳۶۱	اللہ تعالیٰ پر اسماء کے اطلاق کا ضابطہ	۳۶۳
۳۷۸	العزیز الحکیم اور الغفور	۳۸۵	۳۶۲	آیات سابقہ سے ارتباط	۳۶۴
۳۷۹	الرحیم کافرق	۳۸۶	۳۶۳	روح القدس کا معنی	۳۶۵
۳۷۹	فسق مومنین کے لیے نبی ﷺ کی شفاعت	۳۸۷	۳۶۴	حیات سچ اور انکے زمین پر نازل ہونے کی دلیل	۳۶۶
۳۸۰	سچ بولنے کا فائدہ صرف آخرت میں کیوں ہوگا؟	۳۸۸	۳۶۴	کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل کا معنی	۳۶۷
۳۸۱	اللہ کی عظمت و جہوت کے ذکر پر سورت کا اختتام	۳۸۹	۳۶۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندے بنا کر بیماروں کو شفاء دینا اور دیگر معجزات	۳۶۸
۳۸۱	شریعت اور حقیقت کی طرف اشارہ	۳۹۰	۳۶۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی حکمتیں	۳۶۹
۳۸۱	تمام مضامین سورت کی دلیل	۳۹۱	۳۶۵	اذ قال الحواریون یعیسیٰ ابن مریم هل یستطیع (۱۱۵.....۱۱۳)	۳۷۰
۳۸۲	اختتامی کلمات	۳۹۱	۳۶۵	مناسبت اور شان نزول	۳۷۱

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۰۰	کفار کے مطالبہ کے باوجود نبی ﷺ کے ساتھ فرشتے کونہ بھیجنے کی حکمت	۳۸۳	سورۃ الانعام	
۳۰۱	نبی ﷺ پر طعن اور استہزاء کرنے والوں کی سزا	۳۸۶	سورۃ الانعام کے نزول کے متعلق احادیث	۳۹۲
۳۰۲	قل سیروافی الارض ثم انظروا کیف کان (۱۸-۱۱)	۳۸۶	سورۃ الانعام سے مدنی آیات کے استثناء کے متعلق احادیث	۳۹۳
۳۰۳	الوہیت رسالت اور قیامت پر دلیل	۳۸۷	سورۃ الانعام کی فضیلت کے متعلق احادیث	۳۹۴
۳۰۳	اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح	۳۸۹	سورۃ الانعام کا موضوع	۳۹۵
۳۰۸	مغفرت نجات اور دخول جنت کا سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نہ کہ اعمال	۳۹۰	سورۃ الانعام کے مضامین	۳۹۶
۳۱۰	اللہ کے فضل اور رحمت سے دخول جنت کی تحقیق حقیقی حاجت روا کار ساز اور مستعان صرف اللہ تعالیٰ ہے	۳۹۲	الحمد لله الذی خلق السموت والارض (۶-۱۰)	۳۹۷
۳۱۱	انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے تصرف کرتے ہیں	۳۹۳	حمد مدح اور شکر کا فرق	۳۹۸
۳۱۳	قل ای شیء اکبر شهادة قل اللہ (۲۰-۱۹)	۳۹۳	تمام تعریفوں کا اللہ کے ساتھ مختص ہونا	۳۹۹
۳۱۵	ان لوگوں کی تفصیل جن کو قرآن اور حدیث کی تبلیغ کی گئی	۳۹۳	عالم کبیر کی تخلیق سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال	۴۰۰
۳۱۷	اہل کتاب کا نبی ﷺ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانا	۳۹۳	کفار کی احسان فراموشی	۴۰۱
۳۱۸	کفار کے اخروی نقصان کا معنی	۳۹۳	عالم صغیر کی تخلیق سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال	۴۰۲
۳۱۹	ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا (۲۶-۲۱)	۳۹۳	دو اجلوں کی تفسیریں	۴۰۳
۳۲۰	یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے لگائے ہوئے بہتانوں کی تفصیل	۳۹۳	اللہ تعالیٰ کے کمال علم پر دلیل	۴۰۴
		۳۹۳	کفر باللہ پر ملامت کے بعد کفر بالرسول کی مذمت	۴۰۵
		۳۹۳	ربط آیات اور خلاصہ مضمون	۴۰۶
		۳۹۳	قرن کی تحقیق	۴۰۷
		۳۹۳	بعض سوالوں کے جوابات	۴۰۸
		۳۹۳	ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه (۱۰-۷)	۴۰۹
		۳۹۳	ربط آیات اور شان نزول	۴۱۰
		۳۹۳	کفار کے انکار کا حقیقی سبب	۴۱۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	زمین میں سرنگ بنانے اور آسمان پر سیڑھی	۴۴۹	۴۴۰	روز قیامت مشرکین کی ناکامی اور نامرادی	۴۲۷
۴۴۶	لگانے کے معانی اور توجیہات		۴۴۲	شان نزول	۴۲۸
۴۴۷	معجزہ نبی کے اختیار میں ہے یا نہیں؟	۴۵۰		کفار کے کانوں پر ڈاٹ لگانے پر اعتراضات کے جوابات	۴۲۹
۴۴۸	جبر ہدایت نہ دینے کی حکمت	۴۵۱	۴۴۳		
۴۴۸	کفار کو مردہ فرمانے کی توجیہ	۴۵۲	۴۴۳	ایمان ابو طالب کی تحقیق	۴۳۰
۴۴۹	کفار کی مطلوبہ نشانیاں نازل نہ کرنے کا سبب	۴۵۳	۴۲۵	ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے متعلق احادیث	۴۳۱
	ومامن دابہ فی الارض ولا طیپر	۴۵۳		ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے متعلق مفسرین کے مذاہب کی تصریحات	۴۳۲
۴۵۰	یطیر (۳۱-۳۸)		۴۲۷		
۴۵۱	آیات سابقہ سے مناسبت اور وجہ ارتباط	۴۵۵	۴۲۹	ابو طالب کے ایمان کے متعلق مصنف کا نظریہ	۴۳۳
	جانوروں کے حساب اور قصاص کے متعلق احادیث	۴۵۶	۴۲۹	ولوتیری اذوقفوا علی النار فقالوا یلیتنا (۳۰-۳۷)	۴۳۴
۴۵۱				قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت	۴۳۵
	حیوانوں اور پرندوں کی انسانوں سے مماثلت کی وجوہ	۴۵۷	۴۳۰	قد خسرا الذین کذبوا بقاء اللہ (۳۱-۳۷)	۴۳۶
۴۵۲				منکرین قیامت کے خسارہ کا بیان	۴۳۷
۴۵۳	رسول اللہ ﷺ کے ہم مثل ہونے کا محمل	۴۵۸	۴۳۱	روز قیامت کو ساعت اور اللہ سے ملاقات کا دن فرمانے کی توجیہ	۴۳۸
	لوح محفوظ تمام مخلوقات کے تمام احوال کی جامع ہے	۴۵۹	۴۳۳		
۴۵۳	قرآن مجید تمام عقائد اسلامیہ اور احکام شرعیہ کا جامع ہے	۴۶۰	۴۳۳	آیات سابقہ سے مناسبت اور وجہ ارتباط	۴۳۹
۴۵۴			۴۳۵	دنیا کی زندگی کو لہو و لعب قرار دینے کی وجوہات	۴۴۰
۴۵۵	سنت کی حیثیت پر دلائل	۴۶۱	۴۳۵	دنیا کے بے وقعت ہونے کے متعلق احادیث	۴۴۱
۴۵۶	آثار صحابہ کی حیثیت پر دلائل	۴۶۲	۴۳۶	نیکی کی راہ میں صرف کرنے کی نیت سے مال دنیا کا اتھان	۴۴۲
۴۵۶	اجماع کی حیثیت پر دلائل	۴۶۳			
۴۵۷	قیاس کی حیثیت پر دلائل	۴۶۳	۴۳۸	دنیا کی محبت مطلقاً موم نہیں ہے	۴۴۳
۴۵۸	قرآن مجید میں ہر چیز کے ذکر ہونے پر دلائل	۴۶۵	۴۴۰	لہو و لعب کے معنی کی تحقیق	۴۴۴
	قرآن مجید میں صرف ہدایت کے مذکور ہونے پر دلائل	۴۶۶	۴۴۱	کھیل اور ورزش کے متعلق اسلام کے احکام	۴۴۵
۴۵۹			۴۴۲	شان نزول اور مناسبت	۴۴۶
	قرآن مجید میں ہر چیز کے بیان کے متعلق مستند مفسرین کا نظریہ	۴۶۷	۴۴۳	نبی ﷺ کی تسلی کی آیات	۴۴۷
۴۶۰			۴۴۵		
۴۶۳	اللہ تعالیٰ کے گمراہی اور ہدایت پیدا کرنے کی توجیہ	۴۶۸	۴۴۶	شان نزول	۴۴۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۶۹	مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارنا انسان کا فطری تقاضا ہے	۳۶۵	۳۸۷	نبی ﷺ کے اجتہاد کے متعلق علماء اسلام کے مذاہب	۳۷۸
۳۷۰	ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذنہم (۵۰-۳۲)	۳۶۸	۳۸۸	نبی ﷺ کے اجتہاد کے عدم جواز کے قائلین	۳۷۹
۳۷۱	مصیبتیں اور تکلیفیں بندوں کو اللہ کی طرف راجع کرنے کے لیے نازل ہوتی ہیں	۳۶۸	۳۸۹	نبی ﷺ کے اجتہاد کے جواز کے قائلین	۳۷۹
۳۷۲	گناہوں کے باوجود نعمتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے	۳۶۸	۳۹۰	نبی ﷺ کے اجتہاد کے متعلق توقف کے قائلین	۳۷۹
۳۷۳	اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے پر دلیل	۳۶۸	۳۹۱	نبی ﷺ کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علماء	۳۸۰
۳۷۴	کافروں کے عمومی عذاب میں 'آیا مومن بھی مبتلا ہوں گے یا نہیں؟'	۳۶۸	۳۹۲	نبی ﷺ کے اجتہاد کے وقوع کے ثبوت میں احادیث	۳۸۱
۳۷۵	انبیاء علیہم السلام کا مقرر شدہ کام	۳۶۸	۳۹۳	وانذربہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم (۵۵-۵۱)	۳۸۳
۳۷۶	نبی ﷺ سے قدرت، علم غیب اور فرشتہ ہونے کی نفی	۳۶۸	۳۹۴	کافروں اور مسلمانوں کو ڈرانے کے الگ الگ محمل	۳۸۳
۳۷۷	نبی ﷺ سے قدرت اور علم غیب کی نفی کا محمل	۳۶۸	۳۹۵	مسکین مسلمانوں کو ان کی مسکنی کی بناء پر مجلس سے اٹھانے کی ممانعت	۳۸۵
۳۷۸	علماء دیوبند کے نزدیک علم غیب کی نفی کا محمل	۳۶۸	۳۹۶	صبح و شام اخلاص سے عبادت کرنے کی وضاحت	۳۸۶
۳۷۹	نبی ﷺ کے لیے علم غیب کا ثبوت	۳۶۸	۳۹۷	مسکینوں کا حساب آپ کے ذمہ نہ ہونے کی وضاحت	۳۸۶
۳۸۰	نبی ﷺ پر عالم الغیب کے اطلاق کا عدم جواز	۳۶۸	۳۹۸	نبی ﷺ کو منع کرنا دراصل امت کے لیے تعریض ہے	۳۸۷
۳۸۱	نبی ﷺ کے علم غیب کے متعلق اہل سنت کا مسلک	۳۶۸	۳۹۹	نبی ﷺ کی عصمت پر اعتراض کا جواب	۳۸۷
۳۸۲	کیا نبی ﷺ کا اتباع وحی کرنا آپ کے اجتہاد کے منافی ہے؟	۳۶۸	۵۰۰	بعض لوگوں کی بعض پر فضیلت کا آزمائش ہونا	۳۸۹
۳۸۳	نبی ﷺ کے اجتہاد پر دلائل	۳۶۸	۵۰۱	شان نزول میں متعدد اقوال	۳۹۰
۳۸۴	صحابہ کرام کے اجتہاد پر دلائل	۳۶۸	۵۰۲	اولیاء اللہ کی تعظیم کی تاکید	۳۹۰
۳۸۵	آپ کا وحی کی اتباع کرنا اجتہاد کے منافی نہیں ہے	۳۶۸	۵۰۳	جہالت کی وجہ سے گناہوں کی معافی کی وضاحت	۳۹۱
۳۸۶	اجتہاد کی تعریف	۳۶۸	۵۰۴	مجرموں کے طریقے کو بیان کرنے کی حکمت	۳۹۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۰۹	انہ تعالیٰ ملک الموت اور فرشتوں کی طرف قبض روح کی نسبت کی وضاحت	۵۲۳	۴۹۲	قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ (۶۰.....۵۶)	۵۰۵
۵۱۰	موت کے وقت مسلمانوں اور کافروں کی روحوں کے نکلنے کی کیفیت	۵۲۵	۴۹۳	جنوں کی عبادت کا خلاف عقل ہونا	۵۰۶
۵۱۱	انہ تعالیٰ کے مولیٰ اور حق ہونے کا معنی	۵۲۶	۴۹۳	غیر اللہ کو پکارنے میں مشرکوں اور مسلمانوں کا فرق	۵۰۷
۵۱۱	روح کے انسان کی حقیقت ہونے پر امام رازی کے دلائل	۵۲۷	۴۹۵	کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ	۵۰۸
۵۱۲	امام رازی کے دلائل پر بحث و نظر	۵۲۸	۴۹۵	زیر بحث آیت کا ایک حدیث سے تعارض اور اس کا جواب	۵۰۹
۵۱۲	جسم سے پہلے روح کے پیدا ہونے پر دلائل اور بحث و نظر	۵۲۹	۴۹۶	مفہم الغیب کی تفسیر میں بعض علماء کی لغزش	۵۱۰
۵۱۶	قیامت کے دن جلد حساب لینے کا بیان	۵۳۰	۴۹۷	مفہم الغیب کی تفسیر میں احادیث اور آثار	۵۱۱
۵۱۶	حساب کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۵۳۱	۴۹۸	مفہم الغیب کی تفسیر میں علماء کے نظریات	۵۱۲
۵۱۷	حساب کی کیفیت کے متعلق احادیث	۵۳۲	۴۹۹	آیاتی مفہم کو صرف غیب کی خبریں دی گئی ہیں یا غیب کا علم بھی دیا گیا ہے؟	۵۱۳
۵۲۰	حساب کی کیفیت کے متعلق صحابہ، تابعین اور علماء کے نظریات	۵۳۳	۵۰۰	انہ تعالیٰ کے علم اور رسول اللہ ﷺ کے علم میں فرق	۵۱۴
۵۲۱	نعمتوں کی کتنی مقدار پر حساب لیا جائے گا؟	۵۳۴	۵۰۱	لوح محفوظ کا بیان	۵۱۵
۵۲۱	حساب کو آسان کرنے کا طریقہ	۵۳۵	۵۰۲	غینہ کا وفات صغریٰ ہونا	۵۱۶
۵۲۲	مصیبت ٹل جانے کے بعد اللہ کو بھول جانے پر ملامت	۵۳۶	۵۰۳	وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظہ (۶۷.....۶۱)	۵۱۷
۵۲۳	انہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے جانے والے عذاب کی اقسام	۵۳۷	۵۰۴	انہ تعالیٰ کے قبر کا معنی	۵۱۸
۵۲۳	امت کے اختلاف اور لڑائیوں سے نجات کی دعا سے اللہ تعالیٰ کا آپ کو منع فرماتا	۵۳۸	۵۰۵	کرآما کاتبین کی تعریف اور ان کے فرائض	۵۱۹
۵۲۶	فقہ کالغوی معنی اور اصطلاحی معنی	۵۳۹	۵۰۵	کرآما کاتبین کے متعلق قرآن مجید کی آیت	۵۲۰
۵۳۰	واذرایت الذین یخوضون فی ایاتنا فاعرض عنہم	۵۴۰	۵۰۶	کرآما کاتبین کے فرائض اور وظائف کے متعلق احادیث	۵۲۱
۵۲۷	ایاتنا فاعرض عنہم	۵۴۰	۵۰۷	آیادوں کی باتوں کو کرآما کاتبین لکھتے ہیں یا نہیں؟	۵۲۲
۵۲۷	(۷۸.....۷۰)	۵۴۰	۵۰۷	اعمال کو لکھوانے کی حکمتیں	۵۲۳
۵۲۸	دین میں تفرقہ ڈالنے کی مذمت	۵۴۱	۵۰۹		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۵۳	آزر کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال	۵۵۹	۵۲۹	شیطان کے لیے نبی ﷺ کو نسیان میں مبتلا کرنا ممکن نہیں	۵۳۲
۵۵۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تاریخ تھا نہ کہ آزر	۵۶۰	۵۳۰	قرآن اور سنت کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کا نسیان	۵۳۳
۵۵۳	آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہنے کی توجیہ	۵۶۱	۵۳۱	نبی ﷺ کے سوا اور نسیان کے متعلق فقہاء اور محدثین کا موقف	۵۳۴
۵۵۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے مومن ہونے کی دلیل	۵۶۲	۵۳۵	فاسق اور بد عقیدہ سے اجتناب کے متعلق قرآن، سنت اور آثار سے تصریحات	۵۳۵
۵۵۷	قیامت کے دن آزر کو باپ کہنے کی توجیہ	۵۶۳	۵۳۵	اہل بدعت کے مصداق	۵۳۶
۵۵۸	نبی ﷺ کے تمام آباء کرام کے مومن ہونے پر دلیل	۵۶۴	۵۳۷	فاسق اور بد عقیدہ سے اجتناب کے متعلق فقہاء کی تصریحات	۵۳۷
۵۵۸	موحدین اور عابدین سے زمین کبھی خالی نہیں رہی	۵۶۵	۵۳۸	احتجاجاً لو اک آؤت کرنے کی اصل	۵۳۸
۵۵۸	رسول اللہ ﷺ کے تمام آباء کرام کا اپنے اپنے زمانہ میں سب سے افضل اور بہتر ہونا	۵۶۶	۵۳۸	بسل کا معنی	۵۳۹
۵۵۹	ابوین کریمین کے ایمان کے مسئلہ میں تفسیر کبیر پر بحث و نظر	۵۶۷	۵۳۸	بت پرستی کا لہو و لعب ہونا	۵۴۰
۵۶۲	ابوین کریمین کے ایمان کے متعلق امام رازی کا صحیح موقف	۵۶۸	۵۳۹	قل اندعو امن دون اللہ مالا یمنفعنا (۷۳-۷۴)	۵۴۱
۵۶۳	ابوین کریمین کے ایمان کی بحث میں حرف آخر	۵۶۹	۵۴۰	گمراہی میں بھٹکنے والے شخص کی مثل	۵۴۲
۵۶۵	بتوں کی پرستش کا کھلی ہوئی گمراہی ہونا	۵۷۰	۵۴۱	آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی	۵۴۳
۵۶۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے ملکوت کا مصداق	۵۷۱	۵۴۱	قرآن اور احادیث کی روشنی میں صور پھونکنے کا بیان	۵۴۴
۵۶۷	ستارے، چاند اور سورج کی الوہیت کے عقیدہ کو باطل کرنا	۵۷۲	۵۵۰	واذ قال ابراہیم لانیذرتنجد اصنام الہة (۸۲-۸۳)	۵۵۵
۵۶۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو "ہذا ربی" کہنا شک کی بناء پر نہیں تھا	۵۷۳	۵۵۱	آیات سابقہ سے مناسبت	۵۵۶
۵۶۷	استدلال سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا	۵۷۴	۵۵۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، نسب اور تاریخ پیدائش	۵۵۷
۵۶۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مباحثہ	۵۷۵	۵۵۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات	۵۵۸
۵۶۸			۵۵۲		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۶۹	اس مباحثہ میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ	۵۶۹	۵۹۷	نبی ﷺ کی عمومی بعثت پر یہودیوں کے اعتراض کا جواب	۵۹۰
۵۷۹	وتلک حجتنا اتینہا ابراہیم علی قومہ (۹۰.....۸۳)	۵۶۹	۵۹۸	آخرت پر ایمان نبی ﷺ پر ایمان لانے کو مستلزم ہے	۵۹۰
۵۷۸	مسلمانوں پر مصائب نازل ہونے کی وجوہات	۵۷۸	۵۹۹	تمام عبادات میں نماز کی اہمیت	۵۹۱
۵۷۹	انبیاء علیہم السلام علماء اور مومنین کے درجات کی بلندی	۵۷۹	۶۰۰	تارک نماز کے متعلق مذاہب فقہاء	۵۹۲
۵۸۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تسلسل	۵۸۰	۶۰۱	مناسبت اور شان نزول	۵۹۳
۵۸۱	حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل کو ذکر نہ کرنے کی وجہ	۵۸۱	۶۰۲	سیدہ اور اسود العنسی کے احوال	۵۹۳
۵۸۲	نواسوں کا اولاد میں داخل ہونا	۵۸۲	۶۰۳	معرفت کے چھوٹے دعویٰ داروں کا رد اور ابطال	۵۹۵
۵۸۳	نواسوں کو اولاد میں شمار کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء	۵۸۳	۶۰۴	حضرت عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کے احوال	۵۹۶
۵۸۴	حضرت الیاس کا نسب اور ان کا مصداق	۵۸۴	۶۰۵	کافر کے جسم سے روح نکالنے کی کیفیت	۵۹۷
۵۸۵	انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں ایک نوع کی مناسبت	۵۸۵	۶۰۶	بل و دولت اور شرک کے پرستاروں کی آخرت میں محرومی	۵۹۹
۵۸۶	انبیاء علیہم السلام کا ملائکہ سے افضل ہونا	۵۸۶	۶۰۷	ان اللہ فالق الحب والنوی	۶۰۷
۵۸۷	اللہ تعالیٰ کی ہدایت	۵۸۷	۶۰۸	بمخرج الحی من المیت (۱۰۰.....۹۸)	۵۹۹
۵۸۸	نبی ﷺ کا تمام صفات انبیاء کا جامع ہونا	۵۸۸	۶۰۹	زمین کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل	۶۰۱
۵۸۹	وما قدر و اللہ حق قدرہ اذ قال واما انزل اللہ (۹۳.....۹۰)	۵۸۹	۶۱۰	آسمان کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل	۶۰۲
۵۹۰	مناسبت اور شان نزول	۵۹۰	۶۱۱	انسان کے نفس سے وجود باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل	۶۰۳
۵۹۱	تورات میں تحریف کے متعلق امام رازی کا موقف اور بحث و نظر	۵۹۱	۶۱۲	تمام انسان نسلاً برابر ہیں	۶۰۴
۵۹۲	آیت مذکورہ کا منسوخ نہ ہونا	۵۹۲	۶۱۳	مستقر اور مستودع کا معنی	۶۰۴
۵۹۳	اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی قدر و ثناء	۵۹۳	۶۱۴	سابقہ آیات سے ارتباط	۶۰۵
۵۹۴	قرآن مجید کی خیر اور برکت	۵۹۴	۶۱۵	کھجور کے فضائل اور اس کا مومن کی صفت پر مشتمل ہونا	۶۰۵
۵۹۵	قرآن مجید کا سابقہ آسمانی کتابوں کا صدق ہونا	۵۹۵	۶۱۶	کھجور انگور زیتون اور انار کے خواص	۶۰۷
۵۹۶	مکہ مکرمہ کا ام القرئی ہونا	۵۹۶			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۲۵	سد ذرائع کی بناء پر جنوں کو برا کہنے کی ممانعت	۶۳۳		پھلوں کی ابتدائی حالت اور ان کے پکنے سے	۶۲۶
۶۲۶	فرمانی معجزات نہ دکھانے کی وجہ	۶۳۴	۶۰۸	وجود باری پر استدلال	
	جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں کو پھیر دیا تو ان	۶۳۵		توڑے بغیر پکنے سے پہلے درخت پر لگے ہوئے	۶۱۷
۶۲۶	کافر میں کیا تصور ہے؟	۶۳۵	۶۰۸	پھلوں کی بیج کا عدم جواز	
	ولو اننا لنزلنا اليهم الملائكة و	۶۳۶	۶۰۹	بانگوں میں پھلوں کی مردجہ بیج کے جواز کی صورتیں	۶۱۸
۶۲۷	كلمهم الموتى (۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹)	۶۳۷		مشرکین کے اپنے شرکاء کے متعلق نظریات اور	۶۱۹
۶۲۸	اللہ تعالیٰ کا مطلوب بندوں کا اختیار ایمان ہے	۶۳۷	۶۱۰	ان کے فرقے	
	انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین (سرکشوں)	۶۳۸	۶۱۰	اللہ تعالیٰ کے لیے مولود نہ ہونے پر دلائل	۶۲۰
۶۲۹	کا ہونا			بدیع السموات والارض انی	۶۲۱
۶۲۹	وحی زخرف القول اور غرور کے معنی	۶۳۹	۶۱۱	یکون له ولد (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲)	
۶۳۰	شیطان کے دوسرے انداز کی تحقیق	۶۴۰		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا	۶۲۲
۶۳۱	شیاطین کو پیدا کرنے کی حکمت	۶۴۱	۶۱۳	دلائل سے رو	
۶۳۲	لتصغی کا معنی	۶۴۲	۶۱۳	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل	۶۲۳
۶۳۲	نبوت کی دود لیلیں	۶۴۳	۶۱۶	رویت باری کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۶۲۳
	کلمات رب کے صادق اور عادل ہونے کے	۶۴۴	۶۱۶	منکرین رویت کے دلائل اور ان کے جوابات	۶۲۳
۶۳۳	معانی			اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق قرآن مجید	۶۲۵
۶۳۳	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے	۶۴۵	۶۱۸	کی آیات	
۶۳۳	عقیدہ اور عمل کی گراہیوں کی تفصیل	۶۴۶		آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے	۶۲۶
۶۳۵	اتباع ظن کی مذمت کی وضاحت	۶۴۷	۶۱۸	متعلق احادیث	
	فکلوا مماذ کر اسم اللہ علیہ ان	۶۴۸		شب معراج اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق علماء	۶۲۷
۶۳۵	کنتم بایتہ مؤمنین (۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳)	۶۴۹	۶۱۹	امت کے نظریات	
	کی سورت میں مدنی سورت کے حوالہ کا شکل	۶۴۹	۶۲۱	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار رویت کے جوابات	۶۲۸
۶۳۷	اور اس کا جواب			کیا چیز رسول اللہ ﷺ کے ذمہ ہے اور کیا چیز	۶۲۹
۶۳۷	تقلید صحیح اور تقلید باطل کا فرق	۶۵۰	۶۲۲	آپ کے ذمہ نہیں ہے؟	
۶۳۸	ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کی ممانعت	۶۵۱	۶۲۲	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر کفار کا شبہ	۶۳۰
۶۳۸	اشم کا معنی	۶۵۲	۶۲۳	کفار کی دل آزار باتوں پر نبی ﷺ کو تسلی دینا	۶۳۱
۶۳۸	اشم کی تعریف اور مصابوق کے متعلق احادیث	۶۵۳		رسول اللہ ﷺ کے ساتھ معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ	۶۳۲
۶۳۹	دل کے افعال پر مواخذہ کے دلائل	۶۵۴	۶۲۳	کے ساتھ معاملہ ہے	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	مسلمان جنوں کے جنت میں داخل ہونے کے	۶۷۶		جس ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کے	۶۵۵
۶۵۶	دلائل		۶۳۱	متعلق مذاہب فقہاء	
۶۵۷	اللہ تعالیٰ کے مستغنی ہونے کے معنی	۶۷۷	۶۳۱	امام ابو حنیفہ کے مذہب پر دلائل	۶۵۶
۶۵۸	استغناء اور رحمت کا اللہ تعالیٰ میں منحصر ہونا	۶۷۸		حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے کا شرعی	۶۵۷
	وجعلوا اللہ مآذرا من الحرث و	۶۷۹	۶۳۲	حکم	
۶۵۹	الانعام (۱۳۰-۱۳۶)			او من كان ميتا فاحيينه وجعلنا	۶۵۸
	اللہ تعالیٰ اور بتوں کے لیے پھلوں اور مویشیوں	۶۸۰	۶۳۲	لہ نور (۱۲۹-۱۳۲)	
۶۶۰	کی تقسیم کے محال		۶۳۳	کافر کے مردہ اور مومن کے زندہ ہونے کی مثالیں	۶۵۹
۶۶۱	اس تقسیم کی مذمت	۶۸۱	۶۳۵	علم اور جہل کے مراتب	۶۶۰
۶۶۱	آیات سابقہ سے ارتباط	۶۸۲	۶۳۵	کفار اور فساق کو مقتدر بنانے کی حکمت	۶۶۱
	خاندانی منصوبہ بندی کی ترغیب اور تشہیر کا	۶۸۳	۶۳۶	حصول نبوت کا معیار	۶۶۲
۶۶۲	شرعی حکم			حکماء کے نزدیک استحقاق نبوت کی صفات اور	۶۶۳
۶۶۳	ضبط تولید کے بارے میں معصف کی تحقیق	۶۸۴	۶۳۳	ان کا رد	
۶۶۶	مشرکین کے خود ساختہ احکام کا رد اور ابطال	۶۸۵	۶۳۷	اہل حق کے نزدیک ثبوت نبوت کا انشاء	۶۶۴
۶۶۷	خود ساختہ شریعت سازی کا رد اور ابطال	۶۸۶	۶۳۷	نبی کی صفات لازمہ	۶۶۵
۶۸۶	بیٹیوں کو قتل کرنے کی شقاوت	۶۸۷	۶۳۸	اسلام کے لیے شرح صدر کی علامت	۶۶۶
	وہو الذی انشا جنت معروشت	۶۸۸	۶۳۹	جنت کو دار السلام فرمانے کی وجوہات	۶۶۷
۶۶۹	(۱۳۱-۱۳۳)		۶۵۰	جنم کے خلود سے استثناء کی وجوہات	۶۶۸
۶۷۰	مشکل الفاظ کے معانی	۶۸۹	۶۵۱	ظالم حکومت کا سبب عوام کا ظلم ہے	۶۶۹
۶۷۰	وجود باری اور توحید پر دلیل	۶۹۰		بمعشر الحسن والانس الم باتکم	۶۷۰
	فصل کی کثالی کے حق سے مراد عشر ہے یا	۶۹۱	۶۵۲	رسال منکم (۱۳۵-۱۳۰)	
۶۷۱	عام صدقہ؟		۶۵۳	جنات کے لیے رسولوں کے ذکر کی وجوہات	۶۷۱
۶۷۱	عشر کے نصاب میں مذاہب فقہاء	۶۹۲		جن علاقوں میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا وہاں	۶۷۲
۶۷۲	امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلائل	۶۹۳	۶۵۵	کے باشندوں کا حکم	
	نقلی صدقہ کرنے میں کیا چیز اسراف ہے اور	۶۹۴	۶۵۵	آیا مومن جن جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں؟	۶۷۳
۶۷۲	کیا نہیں؟		۶۵۶	جنات کے دخول جنت کے متعلق علماء کی آراء	۶۷۴
۶۷۳	مویشیوں کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۶۹۵		مسلمان جنوں کے جنت میں نہ داخل ہونے کے	۶۷۵
۶۷۵	مناظرہ اور قیاس کی اصل	۶۹۶	۶۵۶	دلائل	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۹۷	فرقہ بندی کی مذمت	۷۲۰	۶۹۷	قل لا اجد فی ما اوحي الی محرما	۶۹۷
	من جاء بالحسنة فله عشر	۷۲۱	۶۹۷	(۱۳۵-۱۵۰)	
۶۹۸	امثالها (۱۶۰-۱۶۵)		۶۹۸	قرآن اور حدیث میں حرام کیے ہوئے طعام کی	۶۹۸
	دس گنا جرمتوں کا اجر اور بے حساب اجر	۷۲۲		تفصیل	
۶۹۹	کے محال	۷۲۳	۶۹۹	بعض الفاظ کے معنی	۶۹۹
۷۰۱	نیک کا معنی	۷۲۳	۷۰۱	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر ایک دلیل	۷۰۱
	نماز کا افتتاح انسی وجہ سے واجب ہے یا	۷۲۳	۷۰۱	شرکیں کے شہادت کا جواب	۷۰۱
۷۰۲	تکبیر سے		۷۰۲	جبریہ کا رد اور ابطال	۷۰۲
۷۰۲	نبی ﷺ کا اول المسلمین ہونا	۷۲۵	۷۰۳	قل تعالوا اتل ما حرم ربکم	۷۰۳
۷۰۳	فتنہ کے زمانہ میں نیک علماء کا گوشہ نشین ہونا	۷۲۶		علیکم (۱۵۳-۱۵۱)	
	فضول کے عقد اور وکیل کے تصرفات میں	۷۲۷	۷۰۳	اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کاموں کی تفصیل	۷۰۳
۷۰۳	مذہب فقہاء		۷۰۵	شرک کا حرام ہونا	۷۰۵
	برائی کے موجد کو اس برائی کے مرتکبین کی سزا	۷۲۸	۷۰۶	والدین کے ساتھ بد سلوکی کا حرام ہونا	۷۰۶
۷۰۳	میں سے حصہ ملے گا		۷۰۷	قتل اولاد کا حرام ہونا	۷۰۷
	کوئی شخص دوسرے کے جرم کی سزا نہیں پائے	۷۲۹	۷۰۸	بے حیائی کے کاموں کا حرام ہونا	۷۰۸
۷۰۵	گا اس قاعدہ کے بعض مستثنیات		۷۰۹	قتل ناحق کا حرام ہونا اور قتل برحق کی اقسام	۷۰۹
۷۰۶	مسلمانوں کو خلیفہ بنانے کے محال	۷۳۰	۷۱۰	قتل مومن پر وعید	۷۱۰
۷۰۶	مسلمانوں کی آزمائش	۷۳۱	۷۱۱	یتیم کے مال میں بے جا تصرف کا حرام ہونا	۷۱۱
	مسلمانوں کے گناہوں پر مواخذہ اور مغفرت کا	۷۳۲	۷۱۲	ناپ تول میں کمی کا حرام ہونا	۷۱۲
۷۰۷	بیان		۷۱۳	ناحق بات کا حرام ہونا	۷۱۳
۷۰۸	حرف آخر	۷۳۳	۷۱۳	اللہ تعالیٰ سے بد عمدی کرنے کا حرام ہونا	۷۱۳
۷۰۹	مآخذ و مراجع	۷۳۳	۷۱۵	بدعات سے اجتناب کا حکم	۷۱۵
			۷۱۶	بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام	۷۱۶
			۷۱۷	وہذا کتاب انزلنہ مبارک	۷۱۷
			۷۱۸	فاتبعوه (۱۵۹-۱۵۵)	۷۱۸
				شرکیں پر اتمام حجت کے لیے قرآن مجید کو	
			۷۱۹	نازل فرماتا	۷۱۹
				قیامت سے پہلے دس نشانیوں کا ظہور	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۲	ایک اشکل کا جواب	۱۳		سورۃ الاعراف	
۴۳	نزول عذاب کے وقت معذبین کا اعتراف جرم	۱۴		سورت کلام	۱
	قیامت کے دن رسولوں اور ان کی امتوں سے	۱۵		الاعراف کا معنی اور مصداق	۲
۴۳	سوالات		۲۷	سورۃ الاعراف کی آیتوں کی تعداد اور ان کی	۳
	قیامت کے دن مجرموں سے سوال کرنے اور نہ	۱۶	۲۸	صفات	
۴۵	کرنے کے محال		۳۰	سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول	۴
	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے	۱۷	۳۱	سورۃ الاعراف کے مضامین اور مقاصد	۵
۴۶	مناسبت		۳۱	سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کی باہمی مناسبت	۶
۴۶	اعمال کے وزن کے متعلق مذاہب علماء	۱۸	۳۲	المص O کتب انزل البک (۱-۱۰)	۷
۴۷	قرآن مجید سے میزان کے ثبوت پر دلائل	۱۹	۳۳	المص کی تحقیق	۸
۴۷	احادیث اور آثار سے میزان کے ثبوت پر دلائل	۲۰	۳۵	قرآن مجید کی تبلیغ میں نبی ﷺ کے حرج یا	۹
	آیا میزان میں صرف مسلمانوں کا وزن ہو گیا	۲۱		شک کی تحقیق	
۵۰	کافروں کا بھی وزن ہو گا؟		۳۶	قرآن مجید سے ڈرانے اور نصیحت کرنے کے	۱۰
	ان مسلمانوں کی مغفرت کی صورتیں جن کی	۲۲	۳۸	الک الک حمل	
۵۰	نیکیاں گناہوں کے برابر یا گناہوں سے کم ہونگی			احادیث کے حجت ہونے کے دلائل اور ان کی	۱۱
	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے	۲۳	۳۸	حجت کی وضاحت	
۵۲	مناسبت		۴۲	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے مناسبت	۱۲
۵۲	معایش کی تفصیل	۲۴			
۵۳	شکر کا لغوی اور اصطلاحی معانی	۲۵			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	حضرت آدم کا چاروں علتوں کی وجہ سے ابلیس سے افضل ہونا	۴۷	۵۳	شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۲۶
۶۹	ابلیس کے باطل قیاس کی بناء پر منکرین قیاس کے دلائل اور ان کا تجزیہ	۴۸	۵۳	شکر ادا کرنے کے طریقوں کے متعلق احادیث	۲۷
۷۰	بجوزین قیاس کا احادیث سے استدلال	۴۹	۵۶	شکر کی فضیلت کے متعلق احادیث	۲۸
۷۱	بجوزین قیاس کا آثار صحابہ اور اقوال علماء سے استدلال	۵۰	۵۸	ولقد خلقناکم ثم صورناکم (۱۸-۱۱)	۲۹
۷۲	شیطان کے ساتھ طویل مکالمہ اس کی فضیلت کا موجب نہیں	۵۱	۵۸	آیات سابقہ سے مناسبت	۳۰
۷۳	ابلیس کو جنت سے اترنے کا حکم دیا گیا تھا یا آسمان سے	۵۲	۵۸	ایک اشکال کا جواب	۳۱
۷۴	تواضع کرنے والے کے لیے سر بلندی اور تکبر کرنے والے کے لیے ذلت اور پستی	۵۳	۶۰	حضرت آدم علیہ السلام کی سوانح کے بعض اہم واقعات	۳۲
۷۵	اس بات کی تحقیق کہ ابلیس لعین کو کتنی زندگی کی مہلت دی ہے	۵۴	۶۱	حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق	۳۳
۷۶	اغواء کا معنی	۵۵	۶۲	حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کا مشاہدہ کرنا	۳۴
۷۷	ابلیس لعین کا جبر اور قدر میں حیران ہونا اور جبر اور قدر میں صحیح مذہب	۵۶	۶۳	حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش	۳۵
۷۸	ابلیس لعین کا صراط مستقیم سے ہٹانے کی سعی کرنا	۵۷	۶۳	حضرت آدم علیہ السلام کا سیدنا محمد ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرنا اور اس حدیث کی تحقیق	۳۶
۷۹	ابلیس لعین کا چار جہات سے حملہ آور ہونا اور اس سے تدارک کی دعا	۵۸	۶۴	حضرت آدم کے سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا کرنا	۳۷
۸۰	ابلیس لعین کے اس دعویٰ کا سبب کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے	۵۹	۶۴	حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا	۳۸
۸۱	کیا تمام اہل بدعت اور گمراہ فرقے دوزخی ہیں یا دم اسکن انت وزوجک	۶۰	۶۵	حضرت آدم علیہ السلام کی وفات	۳۹
۸۱	الجنہ (۱۹-۲۵)	۶۱	۶۵	حضرت آدم علیہ السلام کا برزخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مباحثہ	۴۰
	ابلیس کی وسوسہ اندازی حضرت آدم کا زمین پر	۶۲	۶۶	سجدہ کالغوی اور شرعی معنی	۴۱
			۶۶	قرآن مجید میں سجدہ کے اطلاقات	۴۲
			۶۷	ابلیس جن تھا یا فرشتہ؟	۴۳
			۶۷	امر کا وجوب کے لیے ہونا	۴۴
			۶۷	حضرت آدم سے افضل ہونے پر ابلیس کا یہ استدلال کہ آگ مٹی سے افضل ہے	۴۵
			۶۷	آگ سے مٹی کے افضل ہونے کی دس وجوہات	۴۶

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	اخلاص ہونے پر فائدہ اور اخلاص نہ ہونے کے نقصان کے متعلق ایک اسرائیلی روایت	۷۹	۸۳	۶۳	آنا اور توبہ کرنا حضرت آدم کے فرشتہ اور دائی بننے کی طمع پر اعتراضات اور ان کے جوابات
۹۸	اخلاص سے کیا ہوا کم عمل بغیر اخلاص کے زیادہ اعمال سے افضل ہے	۸۰	۸۵	۶۳	آیا شجر ممنوع سے کھانا گناہ تھا؟ اگر گناہ نہیں تھا تو سزا کیوں ملی؟ اور آدم و ابلیس کے معرکہ میں کون کامیاب رہا؟
۹۹	انسانوں کے حشر کی کیفیت	۸۱			
۱۰۰	ابتداء فطرت میں ہر انسان کا ہدایت یافتہ ہونا	۸۲	۸۵	۶۵	یسنی ادم قد انزلنا علیکم لباسا (۳۱-۲۶)
۱۰۰	برہنہ طواف کی ممانعت کا شان نزول اور لوگوں کے سامنے برہنہ ہونے کی ممانعت	۸۳	۸۶	۶۶	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی
۱۰۱	تعمیر کعبہ کے وقت تہ بند اتار کر کندھے پر رکھنے کی روایت پر بحث و نظر	۸۴	۸۸	۶۷	آیات سابقہ سے مناسبت
۱۰۲	کھانے پینے میں وسعت کی گنجائش اور اعتدال کا حکم اور بسیار خوری کا اسراف ہونا	۸۵	۸۹	۶۸	لباس کی نعمت پر شکر ادا کرنا
۱۰۵	بسیار خوری کی مذمت میں احادیث پر ہیز کی اہمیت کے متعلق احادیث	۸۶	۸۹	۶۹	مرد اور عورت کی شرم گاہوں کے مصادیق میں مذہب فقہاء
۱۰۵	کھانے پینے کے آداب کے متعلق احادیث	۸۷	۹۱	۷۰	حضرت آدم کے جنت سے باہر آنے کا سبب ان کا خلیفہ بننا تھا یا شجر ممنوع سے کھانا
۱۰۶	کھانے پینے کے متعلق احادیث	۸۸	۹۱	۷۱	جنت کے انسانوں کو دیکھنے اور انسانوں کے جنت کو نہ دیکھنے کی تحقیق
۱۰۷	کھڑے ہو کر کھانے پینے کی ممانعت کے متعلق احادیث	۸۹	۹۳	۷۲	جنت کے انسانوں پر تصرف کرنے کا بطلان
۱۰۸	کھڑے ہو کر پانی پینے کے جواز کے متعلق احادیث	۹۰	۹۳	۷۳	فاحشہ کا معنی اور مراد اور کفار کے اس قول کا رد کہ اللہ نے فاحشہ کا حکم دیا ہے
۱۰۸	کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت اور جواز کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء	۹۱	۹۳	۷۴	قسط اور عدل کے معانی
۱۱۰	وضو کے بچے ہوئے پانی اور زم زم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کا استحباب	۹۲	۹۵	۷۵	اخلاص کا معنی
۱۱۲	قل من حرم زینۃ اللہ الیٰہی اخرج لعبادہ والطیب من الرزق (۳۲-۳۹)	۹۳	۹۵	۷۶	قرآن مجید میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم
۱۱۳	لباس پہننے وقت دعا کرنے اور شکر ادا کرنے کے متعلق احادیث	۹۴	۹۵	۷۷	عمل میں اخلاص کے فوائد اور ثواب کے متعلق احادیث
۱۱۶	متعلق احادیث	۹۷	۹۷	۷۸	عمل میں اخلاص نہ ہونے سے نقصان اور عذاب کے متعلق احادیث

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولنے کے متعدد محال	۱۱۶	۱۱۶	لباس کی انواع اور اقسام کے متعلق احادیث	۹۵
۱۳۷	کافروں کے لیے آسمان کا دروازہ نہ کھولنے کے متعلق حدیث	۱۱۷	۱۱۷	لباس کے رنگوں کے متعلق احادیث	۹۶
۱۳۸	اہل جنت کے دلوں سے دنیا کی رنجشوں اور شکایتوں کا محو ہو جانا	۱۱۸	۱۱۸	اجلے صاف اور عمدہ لباس پہننے کے متعلق احادیث	۹۷
۱۳۰	کفار کی جنتوں کا مسلمانوں کو وراثت میں ملنا	۱۱۹	۱۱۹	قیمتی اور معمولی لباس پہننے کی احادیث میں تطبیق	۹۸
۱۳۰	جنت میں دخول کا حقیقی سبب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے نہ کہ نیک اعمال	۱۲۰	۱۲۱	لباس پہننے کے شرعی اور فقہی احکام	۹۹
۱۳۱	دخول جنت کے لیے اعمال کو سبب قرار دینے کے محال	۱۲۱	۱۲۱	زینت اور تجمل کے متعلق مفسرین مذاہب اربعہ کی تحقیق	۱۰۰
۱۳۳	حشر کے دن کفار کی توبہ کارگر نہیں ہوگی	۱۲۲	۱۲۵	اشیاء میں اباحت کے اصل ہونے کی تحقیق	۱۰۱
۱۳۳	الاعراف کا معنی اور مصداق	۱۲۳	۱۲۷	معمولات اہل سنت کا جواز اور استحسان	۱۰۲
۱۳۴	ونادی اصحاب الاعراف رجالا	۱۲۴	۱۲۸	ان گناہوں کا بیان جو تمام گناہوں کی اصل ہیں	۱۰۳
۱۳۵	اصحاب الاعراف کو دخول جنت کا اذن	۱۲۵	۱۲۹	ربط آیات	۱۰۴
۱۳۷	کافروں کو دوزخ میں کھانے پینے سے محروم رکھنے کی سزا دینا	۱۲۶	۱۳۲	رسول کا ان لوگوں کی جنس سے ہونا جن کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا	۱۰۵
۱۳۷	اللہ کی راہ میں پانی خرچ کرنے کی اہمیت اور اجر و ثواب	۱۲۷	۱۳۲	مختار کل کی وضاحت	۱۰۶
۱۳۸	قرآن مجید کی خصوصیات	۱۲۸	۱۳۲	نیک مسلمان حشر کے دن آیا گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے یا نہیں	۱۰۷
۱۵۰	کفار کے اخروی خسارہ کا بیان	۱۲۹	۱۳۲	گناہ گار مسلمانوں کے لیے دائمی عذاب کا نہ ہونا	۱۰۸
۱۵۰	ان ربکم اللہ الذی خلق السموت والارض فی سنۃ ایام	۱۳۰	۱۳۲	اللہ پر بہتان باندھنے اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے کی تفصیل	۱۰۹
۱۵۱	اہم اور مشکل الفاظ کے معانی	۱۳۱	۱۳۳	کتاب یا لوح محفوظ میں اللہ پر بہتان باندھنے والوں کی سزا	۱۱۰
۱۵۲	اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلیل	۱۳۲	۱۳۳	کتاب کی تفسیر میں دیگر اقوال	۱۱۱
۱۵۳	زمینوں اور آسمانوں کو چھ دنوں میں بنانے کی	۱۳۳	۱۳۵	دوزخ میں کفار کے احوال	۱۱۲
			۱۳۵	ضعف کا معنی	۱۱۳
			۱۳۵	دو گئے عذاب پر ایک سوال کا جواب	۱۱۴
			۱۳۵	ان الذین کذبوا بآیتنا واستکبروا عنہا (۴۷-۴۰)	۱۱۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۸۳	ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق حرف آخر	۱۵۰	۱۵۵	حکمت	
	چالیس حدیثوں کی تبلیغ کرنے والے کے متعلق	۱۵۱		۱۳۴ چھ دنوں کی تفصیل میں احادیث کا اضطراب اور	
۱۸۳	نوید اور بشارت		۱۵۵	معتبر حدیث کی تحسین	
	چالیس حدیثوں کی تبلیغ پر بشارت کی احادیث کی	۱۵۲		۱۳۵ عرش پر استواء اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے	
۱۸۳	فنی حیثیت		۱۵۸	متعلق شیخ ابن تیمیہ کا موقف	
۱۸۵	حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے قواعد اور شرائط	۱۵۳		۱۳۶ استواء اور صفات کے مسئلہ میں شیخ ابن تیمیہ کے	
۱۸۶	دعا میں حد سے بڑھنے کا ممنوع ہونا	۱۵۴	۱۵۹	موافقین	
۱۸۷	محسنین کا معنی	۱۵۵		۱۳۷ استواء اور صفات کے مسئلہ میں شیخ ابن تیمیہ کے	
	اس کائنات میں حشر کے دن مردوں کو زندہ کرنے	۱۵۶	۱۶۰	موافقین	
۱۸۷	کی نشانی			۱۳۸ استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں احناف	
	اچھی اور خراب زمینوں میں مسلمانوں اور	۱۵۷	۱۶۱	کا موقف	
۱۸۸	کافروں کی مثال			۱۳۹ استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں شافعیہ	
	لقد ارسلنا نوحا حالی قومہ	۱۵۸	۱۶۲	کا موقف	
	فقال یقوم اعبدوا اللہ مالکم			۱۴۰ استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں مالکیہ کا	
۱۸۹	من الہ غیرہ (۶۴-۵۹)		۱۶۲	موقف	
۱۹۰	حضرت نوح کا نام و نسب اور ان کی تاریخ ولادت	۱۵۹		۱۴۱ استواء اور دیگر صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں	
۱۹۱	بت پرستی کی ابتداء کیسے ہوئی؟	۱۶۰	۱۶۵	حنابلہ کا موقف	
	حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کا اول	۱۶۱		۱۴۲ استواء اور دیگر صفات کے مسئلہ میں متاخرین کی	
۱۹۱	رسل ہونا		۱۶۶	آراء	
۱۹۲	حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا بیان	۱۶۲	۱۶۹	۱۴۳ ماہمین دعا کے دلائل	
۱۹۳	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب	۱۶۳	۱۶۹	۱۴۴ ماہمین دعا کے دلائل کے جوابات	
۱۹۳	طوفان نوح اور کشتی کی بعض تفصیلات	۱۶۴	۱۷۰	۱۴۵ دعا قبول نہ ہونے کے فوائد	
۱۹۳	حضرت نوح علیہ السلام کی عمر	۱۶۵	۱۷۱	۱۴۶ دعا کی ترغیب اور فضیلت میں احادیث	
۱۹۵	قصہ نوح نازل کرنے کے فوائد	۱۶۶	۱۷۳	۱۴۷ آہستہ دعا کرنے کے فوائد اور نکات	
۱۹۵	اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے پر دلیل	۱۶۷		۱۴۸ خارج نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے	
۱۹۶	اہم اور مشکل الفاظ کے معانی	۱۶۸	۱۷۴	متعلق مذاہب فقہاء	
	حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر قوم نوح	۱۶۹		۱۴۹ خارج نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے	
۱۹۶	کے استبعاد اور تعجب کی وجوہات		۱۷۷	متعلق احادیث	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۱۲	قوم ثمود کے قصہ کے متعلق احادیث اور آثار	۱۸۸	۱۹۷	قوم نوح کے استبعاد اور نوح کا ازالہ	۱۷۰
	ولو طوا اذ قال لقومه اتاتون	۱۸۹	۱۹۸	والی عاد اخاہم ہود (۷۵-۷۴)	۱۷۱
	الفاحشة ما سبقکم بہا من	۱۹۹	۱۹۹	حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب	۱۷۲
۲۱۳	احد من العلمین (۸۰-۸۳)	۲۰۰	۲۰۰	حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف بعثت	۱۷۳
۲۱۳	حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب	۱۹۰		عاد کی قوت اور سطوت اور ان پر عذاب نازل ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۷۴
۲۱۳	حضرت لوط علیہ السلام کا مقام بعثت	۱۹۱	۲۰۰	قوم عاد کے وطن کی تاریخی حیثیت	۱۷۵
	حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کا حسین	۱۹۲	۲۰۲	صالحین کے عرس کی تحقیق	۱۷۶
۲۱۵	اور نو خیز لڑکوں کی شکل میں مسمان ہونا	۱۹۳	۲۰۳	حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے مابین فرق	۱۷۷
۲۱۵	قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتداء	۱۹۳	۲۰۳	حضرت نوح اور حضرت ہود علیہما السلام کے مقابلہ میں سیدنا محمد ﷺ کی زیادہ عزت اور وجاہت	۱۷۸
	حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی بری عادتیں	۱۹۴		اللہ تعالیٰ توحید اور استحقاق عبادت پر دلیل	۱۷۹
۲۱۶	عمل قوم لوط کی عقلی قباحتیں	۱۹۵	۲۰۵	والی ثمود اخاہم صالحا (۷۳-۷۹)	۱۸۰
۲۱۷	قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی مذمت	۱۹۶	۲۰۶	قوم ثمود کی اجمالی تاریخ	۱۸۱
	احادیث میں عمل قوم لوط کی مذمت اور سزا کا بیان	۱۹۷		حضرت صالح علیہ السلام کا نسب اور قوم ثمود کی طرف ان کی بعثت	۱۸۲
۲۱۷	عمل قوم لوط کی سزا میں مذاہب فقہاء	۱۹۸	۲۰۷	قوم ثمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنا اور معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لانا اور ان پر عذاب کا نازل ہونا	۱۸۳
۲۱۹	قوم لوط پر عذاب کی کیفیت	۱۹۹	۲۰۹	قوم ثمود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۸۴
	والی مدین اخاہم شعیبا (۸۵-۸۷)	۲۰۰	۲۰۹	اونٹنی کا قاتل ایک شخص تھا یا پوری قوم ثمود	۱۸۵
۲۲۰	حضرت شعیب کا نام اور نسب	۲۰۱		اونٹنی کے معجزہ ہونے کی وجوہات	۱۸۶
۲۲۱	مدین اور اصحاب الایکھ ایک قوم ہیں یا الگ الگ	۲۰۲	۲۱۰	قوم ثمود کے عذاب کی مختلف تعبیریں اور ان میں وجہ تطبیق	۱۸۷
۲۲۲	حضرت شعیب کا مقام بعثت	۲۰۳	۲۱۱		
۲۲۲	حضرت شعیب کی قوم پر عذاب کا نزول	۲۰۴	۲۱۲		
۲۲۳	حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر	۲۰۵			
۲۲۴	ڈرا دھکا کرنا جائز رقم بٹورنے والے	۲۰۶			
۲۲۵	قوم شعیب کو ترغیب و ترہیب	۲۰۷			
	قال الملا الذین استکبروا من قومہ (۸۸-۹۳)	۲۰۸	۲۱۲		
۲۲۵					

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۳۷	معجزات سے امتیاز			حضرت شعیب علیہ السلام کے کفر میں لوٹنے کے	۲۰۹
۲۳۸	معجزہ کی تعریفات	۲۲۸	۲۲۶	اعتراض کے جوابات	
۲۳۸	معجزہ کی شرائط	۲۲۹	۲۲۷	توکل کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۱۰
۲۳۹	افعال غیر عادیہ کی دیگر اقسام	۲۳۰		لوہے سے داغنے اور دم کرانے پر توکل سے بری	۲۱۱
	معجزات انبیاء کے اختیار میں ہونے پر محدثین	۲۳۱	۲۲۷	ہونے کا اشکل	
۲۳۹	فقہاء اور متکلمین کے دلائل		۲۲۸	دوا کرنے اور علاج جکرانے کے متعلق احادیث	۲۱۲
	معجزات پر انبیاء کے اختیار کے ثبوت میں	۲۳۲	۲۲۸	دوا اور دم سے نبی ﷺ کا علاج کرانا	۲۱۳
۲۴۱	احادیث		۲۲۹	اشکل مذکور کا جواب	۲۱۳
	انبیاء کے اختیار میں معجزات ہونے پر ایک اشکل	۲۳۳	۲۲۹	توکل کی تعریف پر ایک اور اشکل کا جواب	۲۱۵
۲۴۳	کا جواب			نزول عذاب سے حضرت شعیب علیہ السلام کی	۲۱۶
۲۴۳	معجزات کے صدور میں علماء دیوبند کا موقف	۲۳۴	۲۳۰	نبوت کی صداقت	
۲۴۴	معجزات کے صدور میں علماء اہل سنت کا موقف	۲۳۵		وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا	۲۱۷
	پہلے تکذیب کرنے کی وجہ سے بعد میں ایمان نہ	۲۳۶	۲۳۱	اخذنا اہلہا (۹۹-۹۳)	
۲۳۶	لانے کی توجیہات		۲۳۲	مشکل الفاظ کے معانی	۲۱۸
	دعاؤں سے مصیبت ٹلنے کے بعد اللہ کو فراموش	۲۳۷		رنج اور راحت کے نزول میں کافروں اور	۲۱۹
۲۳۶	کر دینا		۲۳۲	مسلمانوں کے احوال اور افعال کا فرق	
	حضرت آدم سے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ	۲۳۸		نیک اعمال نزول رحمت کا سبب ہیں اور بد اعمال	۲۲۰
۲۳۷	سے ہمارے نبی ﷺ تک کا زمانہ		۲۳۳	نزول عذاب کا باعث ہیں	
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پرورش	۲۳۹		اولم یهد للذین یرثون الارض	۲۲۱
۲۳۸	نکاح نبوت اور فرعون کو تبلیغ		۲۳۴	من بعد اہلہا (۱۰۸-۱۰۰)	
۲۵۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات	۲۴۰	۲۳۵	کفار مکہ پر عذاب نہ بھیجنے کی وجہ	۲۲۲
۲۵۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر	۲۴۱	۲۳۶	کفار مکہ کے دلوں پر مہر لگانے کی توجیہ	۲۲۳
۲۵۳	فرعون کے دعویٰ خدائی کا رد	۲۴۲		سابقہ امتوں کے عذاب سے کفار مکہ کا سبق	۲۲۴
۲۵۳	قبلیوں کا بنو اسرائیل کو غلام بنانا	۲۴۳	۲۳۶	حاصل نہ کرنا	
	قال الملا من قوم فرعون ان هذا	۲۴۴		سیدنا محمد ﷺ کا علم غیب اور آپ کی رسالت	۲۲۵
۲۵۵	لسحر علیہم (۱۰۹-۱۲۶)		۲۳۶	پر دلیل	
	ہر نبی کا معجزہ اس چیز کی جنس سے ہوتا ہے جس چیز	۲۴۵	۲۳۷	تمام نبی حاصل معجزہ ہیں	۲۲۶
۲۵۷	کا اس زمانہ میں چرچا ہو			نبی ﷺ کے معجزہ کا دیگر انبیاء علیہم السلام کے	۲۲۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۷۸	بدشگونئی کے سلسلے میں خلاصہ بحث	۲۶۸	۲۵۷	سحر کی تعریف اور سحر اور مجرہ میں فرق	۲۳۶
۲۷۹	قوم فرعون پر طوفان اور مذی دل وغیرہ بھیجنے کا عذاب	۲۶۹	۲۵۹	سحر اور ساحر کا شرعی حکم	۲۳۷
۲۷۹	عذاب	۲۶۹	۲۵۹	سحر کے سیکھنے اور سکھانے کا حکم	۲۳۸
۲۸۲	ستر نزار فرعونوں کا طاعون میں مبتلا ہونا	۲۷۰	۲۶۰	حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ	۲۳۹
۲۸۲	عقائد میں تقلید کا مذموم ہونا اور فروع میں تقلید کا ناگزیر ہونا	۲۷۱	۲۶۲	جادوگروں کے ایمان لانے میں علم کی فضیلت	۲۵۰
۲۸۳	بنو اسرائیل کو شام پر قابض کرنا	۲۷۲	۲۶۲	رب موسیٰ وہارون کہنے کی وجہ	۲۵۱
۲۸۳	سر زمین شام کی زمین کی فضیلت کے متعلق احادیث	۲۷۳	۲۶۳	فرعون کا عوام کو شبہات میں ڈالنا	۲۵۲
۲۸۵	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۲۷۳	۲۶۳	آیا فرعون اپنی دھمکی پر عمل کر سکا یا نہیں؟	۲۵۳
۲۸۶	مناسبت اور ربط آیات	۲۷۴	۲۶۳	راہ حق میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا	۲۵۴
۲۸۶	بنو اسرائیل نے کون سا سمندر پار کیا تھا اور کس جگہ کسی قوم کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا؟	۲۷۵	۲۶۳	وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسیٰ (۱۲۹-۱۲۷)	۲۵۵
۲۸۶	شُرک کے فعل کا جہالت اور حماقت ہونا	۲۷۶	۲۶۴	فرعون کے معبود کی تفسیر میں اقوال	۲۵۶
۲۸۸	بنو اسرائیل کی ناشکری اور احسان فراموشی	۲۷۸	۲۶۵	اللہ پر ایمان کامل کی وجہ سے مصائب کا آسان ہونا	۲۵۷
۲۸۸	کسی مسلمان موجد کو شرک قرار دینے کا بطلان	۲۷۹	۲۶۶	کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کا جواز	۲۵۸
۲۸۸	وعد ناموسی ثلاثین لیلۃ (۱۳۷-۱۳۴)	۲۸۰	۲۶۶	ولقد اخذنا ل فرعون	۲۵۹
۲۹۰	ربط آیات مناسبت اور موضوع	۲۸۱	۲۶۷	بالسنین (۱۳۱-۱۳۰)	۲۶۰
۲۹۱	حضرت موسیٰ کے لیے پہلے تیس راتیں اور پھر دس راتیں مزید مقرر کرنے کی حکمت	۲۸۲	۲۶۷	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۲۶۱
۲۹۱	میقات کا معنی اور کسی کام کی مدت مقرر کرنے کی اصل	۲۸۳	۲۶۷	قوم فرعون پر پے در پے بلائیں اور آفتیں نازل کرنے کی حکمت	۲۶۱
۲۹۲	بندوں کے اعذار کی آخری مدت ساٹھ سال ہے	۲۸۴	۲۶۷	فال اور شگون نکلنے کی تحقیق	۲۶۲
۲۹۲	شمسی اور قمری تاریخ مقرر کرنے کا ضابطہ	۲۸۵	۲۶۷	بدشگونئی کی ممانعت کا سبب	۲۶۳
۲۹۳	حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانا اور ان کو نصیحت فرمانان کی شان میں کی کاموجب نہیں	۲۸۶	۲۶۷	نیک فال کے جواز کا سبب اور بد فال کو شرک قرار دینے کی توجیہ	۲۶۳
۲۹۳		۲۸۶	۲۶۷	عورت مکان اور گھوڑے میں بدشگونئی کی توجیہ	۲۶۵
				بدشگونئی لینا کفار کا طریقہ ہے	۲۶۶
				کسی چیز سے بدشگونئی لینے یا کسی دن کو منحوس قرار دینے کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۲۶۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	گیارہویں جواب کے ضمن میں نبی ﷺ کی	۳۰۴		۲۸۷ حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ کے لیے	
۳۰۶	شان میں غلو کرنے کی ممانعت	۲۹۳		حضرت علی رضی اللہ عنہ بمنزلہ ہارون ہیں	
۳۱۰	معقہ کا معنی	۳۰۵		۲۸۸ حدیث مذکور سے رد افض کا حضرت علی کی	
۳۱۱	انبیاء علیہم السلام کی حیات پر دلائل	۲۹۵		خلافت بلا فصل پر استدلال	
	دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نبی ﷺ پر	۳۰۷		۲۸۹ رد افض کے استدلال مذکور کا جواب	
۳۱۲	فضیلت جزی کی تحقیق	۲۹۵		۲۹۰ حضرت ابن ام مکتوم کو تمام مغازی میں خلیفہ بنا	
۳۱۳	دیدار نہ کرانے کی تلافی میں کلام سے مشرف فرمانا	۳۰۸		۲۹۱ حضرت ابن ام مکتوم کی خلافت سے حضرت علی	
۳۱۳	تورات کی تختیوں کا مادہ تعداد اور نزول کی تاریخ	۳۰۹		کے متعلق مزعوم خلافت بلا فصل پر معارضہ	
	تورات میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل	۳۱۰		۲۹۲ اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق مذاہب اسلام	
۳۱۳	مذکور ہونے کی توجیہ	۲۹۷		۲۹۳ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیفیت کے متعلق احادیث	
۳۱۵	تورات کے احکام کا درجہ بہ درجہ ہونا	۳۱۱		اور آثار	
	الواح تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۱۲		۲۹۴ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے	
۳۱۶	کی خصوصیات	۲۹۹		کلام کی بعض تفصیلات	
	اللہ کی آیات سے کفار کے دلوں کو پھیرنے کی	۳۱۳		۲۹۵ اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اہل قبلہ	
۳۱۷	توجیہ	۳۰۰		کے مذاہب	
۳۱۸	تکبر کالغوی اور شرعی معنی	۳۱۴		۲۹۶ منکرین رویت کے دلائل اور ان کے جوابات	
	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق قرآن	۳۱۵		۲۹۷ اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے پر اہل سنت کے قرآن	
۳۱۹	مجید کی آیات	۳۰۲		مجید سے دلائل	
	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق	۳۱۶		۲۹۸ اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق احادیث	
۳۲۰	احادیث	۳۰۲		۲۹۹ اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے پر قرآن مجید سے ایک	
	تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا مکروہ	۳۱۷		اور دلیل	
۳۲۱	تحریکی ہونا اور تکبر کے بغیر مکروہ تحریمی نہ ہونا	۳۰۴		۳۰۰ منکرین رویت کے ایک اور اعتراض کا جواب	
	تکبر کے بغیر ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکانے کے	۳۱۸		۳۰۱ انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ	
۳۲۲	متعلق فقہاء احناف کی تصریحات	۳۰۳		دینے کے متعلق حدیث	
	تکبر کے بغیر ٹخنوں سے نیچے لباس رکھنے کے جواز	۳۱۹		۳۰۲ ”مجھے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت مت دو“ اس	
۳۲۳	پر شافعی، مالکی اور حنبلی فقہاء کی تصریحات	۳۰۵		حدیث کے جوابات	
	ٹخنوں سے نیچے پانچ لٹکانے میں علماء دیوبند کا	۳۲۰		۳۰۳ دوسرے جواب کے ضمن میں تمام انبیاء پر نبی	
۳۲۴	موقف	۳۰۵		ﷺ کی فضیلت کے متعلق احادیث	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۳	حالت غضب میں طلاق دینے کا شرعی حکم	۳۲۹	۳۲۵	مطلق کو مقید پر محمول کرنے یا نہ کرنے کے قواعد
۳۲۵	شہادت کا معنی اور اس کا شرعی حکم	۳۲۰	۳۲۶	شیخ تھانوی کے دلائل پر بحث و نظر
۳۲۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاء مغفرت کی توجیہ	۳۲۱	۳۲۸	شیخ کشمیری اور شیخ میرٹھی کے دلائل
	ان الذین اتخذوا العجل	۳۲۲		شیخ کشمیری، شیخ میرٹھی اور جسٹس عثمانی کے
۳۲۶	سینا الہم (۱۵۲-۱۵۷)		۳۲۹	دلائل پر بحث و نظر
	توبہ قبول کرنے کے باوجود بنو اسرائیل پر عذاب	۳۲۳		۳۲۵
۳۲۸	کی و عید کی توجیہ	۳۲۰		مخنوں سے نیچے لباس لٹکانے کے متعلق مصنف
۳۲۸	بدعت سینہ کی تعریف	۳۲۳	۳۳۱	کی تحقیق
	توبہ کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا عموم	۳۲۵	۳۳۲	۳۲۶
۳۲۹	اور شمول		۳۳۳	مخنوں سے نیچے لباس رکھنے کے متعلق حرف آخر
۳۵۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے غصہ کی تلافی کرنا	۳۲۶		۳۲۷
۳۵۱	تورات کی تختیاں ٹوٹی تھیں یا نہیں	۳۲۷	۳۳۳	کفار کی نیکیوں کا ضائع ہو جانا
	ستر اسرائیلیوں کے انتخاب کے سلسلہ میں	۳۲۸		۳۲۸
۳۵۱	مختلف روایات		۳۳۳	فرائض اور واجبات کے ترک پر مواخذہ کی دلیل
	سورۃ البقرہ میں الصاعقہ اور سورۃ الاعراف میں	۳۲۹		۳۲۹
۳۵۳	الرحفہ فرمانے کی توجیہ		۳۳۶	واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ
	کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ	۳۵۰	۳۳۷	(۱۴۸-۱۵۱)
	گمان تھا کہ وہ ستر اسرائیلیوں کی وجہ سے ان کو			۳۳۰
۳۵۳	ہلاکت میں مبتلا کرے گا؟		۳۳۸	بنو اسرائیل کے پھڑبھانے اور اس کی پرستش
	اللہ کے معاف کرنے اور مخلوق کے معاف کرنے	۳۵۱		کرنے کے متعلق روایات
۳۵۳	میں فرق		۳۳۸	۳۳۱
	حضرت موسیٰ نے دنیا اور آخرت کی جس بھلائی کا	۳۵۲		کلام کرنے اور ہدایت دینے پر مدار الوہیت کی
۳۵۳	سوال کیا تھا وہ کیا چیز تھی؟		۳۳۹	توجیہ
۳۵۱	نبی اور رسول کے معنی	۳۵۳		۳۳۲
۳۵۱	قرآن اور سنت میں نبی ﷺ پر ای کا اطلاق	۳۵۳	۳۳۹	لماسقط فی ایدہم کا معنی
۳۵۷	ای کا لغوی معنی	۳۵۵	۳۳۱	قوم کی گمراہی پر حضرت موسیٰ آیا طور سے واپسی
	رسول اللہ ﷺ کے لکھنے اور پڑھنے پر قرآن	۳۵۶		پر مطلع ہوئے یا پہلے
۳۵۹	مجید سے دلائل		۳۳۲	۳۳۳
				غضب کا معنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
				غضب کا تعین
				۳۳۵
				غیظ و غضب کو ضبط کرنے اور بدلہ نہ لینے کے
				متعلق قرآن مجید کی آیات
				۳۳۶
				غیظ و غضب کو ضبط کرنے اور بدلہ نہ لینے کے
				متعلق احادیث
				۳۳۷
				تورات کی تختیوں کو زمین پر ڈالنے کی توجیہ
				۳۳۸
				حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ
				کر کھینچنے کی توجیہ اور دیگر فوائد

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۸۹	رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا ادب اور احترام	۳۷۳	۳۵۷	رسول اللہ ﷺ کے لکھنے پر سید مودودی کے اعتراضات اور ان کے جوابات	
۳۹۰	مقدم ہے	۳۷۳	۳۵۸	رسول اللہ ﷺ کے لکھنے کے ثبوت میں احادیث	
۳۹۳	قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ (۱۵۸-۱۶۲)	۳۷۵	۳۵۹	نبی ﷺ کے لکھنے کے متعلق محدثین کی تحقیق	
۳۹۳	سیدنا محمد ﷺ کی رسالت کے عموم اور شمول پر قرآن مجید کی آیات	۳۷۶	۳۶۰	تورات اور انجیل میں نبی ﷺ کی بشارتوں کے متعلق احادیث	
۳۹۵	سیدنا محمد ﷺ کی رسالت کے عموم اور شمول پر احادیث	۳۷۷	۳۶۱	موجودہ تورات کے متن میں نبی ﷺ کے متعلق بشارتیں	
۳۹۶	وہ معجزات جو سیدنا محمد ﷺ کی ذات مبارکہ میں ہیں اور جو آپ سے صادر ہوئے	۳۷۸	۳۶۲	موجودہ انجیل کے متن میں نبی ﷺ کے متعلق بشارتیں	
۳۹۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے نیک لوگوں کا مصداق	۳۷۹	۳۶۳	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نبی ﷺ کی خصوصیات	
۳۹۷	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلہ میں بنو اسرائیل کی نافرمانیاں	۳۸۰	۳۶۴	اشیاء کو حلال اور حرام کرنا نبی ﷺ کا منصب ہے	
۴۰۰	وسئلہم عن القریة (۱۷۱-۱۷۳)	۳۸۱	۳۶۵	الطیبات اور الخبائث کی تفسیر میں مذاہب اربعہ	
۴۰۲	نافرمانی پر اصرار کرنے والے اسرائیلیوں کو بندر بنانے کی تفصیل	۳۸۲	۳۶۶	بنو اسرائیل کے بوجھ اور ان کے طوق کا اتارنا	
۴۰۳	تبلیغ کا فرض کفایہ ہونا	۳۸۳	۳۶۷	نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	
۴۰۳	بعض احکام کا استنباط	۳۸۳	۳۶۸	رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے شرعی حکم کی تحقیق	
۴۰۳	فلسطین میں اسرائیل کا قیام قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے	۳۸۵	۳۶۹	احادیث اور آثار میں غیر مسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کی تصریحات	
۴۰۵	یہودیوں میں نیکو کار اور بدکار	۳۸۶	۳۷۰	غیر مسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کی تصریحات	
۴۰۶	خلف اور خلف کا معنوی فرق	۳۸۷	۳۷۱	نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر میں صحابہ کرام کا عمل	
۴۰۶	گناہوں پر اصرار کے ساتھ اجر و ثواب کی طمع کی مذمت	۳۸۸	۳۷۲	وفات کے بعد بھی نبی ﷺ کی تعظیم و تکریم	
۴۰۸	واذا خذ ربک من بنی آدم (۱۸۱-۱۷۲)	۳۸۹			
۴۱۰	بنو آدم سے میثاق لینے کے متعلق احادیث	۳۹۰			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۶	اللہ تعالیٰ کے اسماء کے تو قیسی ہونے کی تحقیق	۳۱۲	۳۱۱	میشاق لینے کا مقام	۳۹۱
۳۲۸	اللہ تعالیٰ کے ننانوے (۹۹) اسماء کی تفصیل	۳۱۳		میشاق حضرت آدم کی پشت سے ذریت نکل کر لیا	۳۹۲
۳۲۹	اسم اعظم کی تحقیق	۳۱۴	۳۱۱	گیا تھا یا بنو آدم کی پشتوں سے	
۳۳۰	الحاد کا معنی	۳۱۵	۳۱۲	میشاق کے حجت ہونے پر ایک اور اشکل کا جواب	۳۹۳
۳۳۰	اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کی تفصیل	۳۱۶	۳۱۲	کیا یہ میثاق کسی کو یاد ہے؟	۳۹۴
	اللہ تعالیٰ کے اسماء تو قیسی ہونے پر مذاہب اربعہ	۳۱۷	۳۱۲	نبی ﷺ کا اصل کائنات ہونا	۳۹۵
۳۳۱	کے مفسرین کی تصریحات			واتل علیہم نبا الذی کے شان	۳۹۶
	اس امت میں بھی حق کی ہدایت دینے والے اور	۳۱۸	۳۱۳	نزول میں مختلف روایات	
۳۳۲	حق کے ساتھ عدل کرنے والے ہیں		۳۱۵	بد عمل اور رشوت خور عالم کی مذمت	۳۹۷
۳۳۲	اجماع کے حجت ہونے پر احادیث	۳۱۹		بد عمل اور رشوت خور عالم کی کتے کے ساتھ	۳۹۸
۳۳۳	والذین کذبوا بآیتنا (۱۸۸-۱۸۴)	۳۲۰	۳۲۱	مما لکت کلیمان	
۳۳۵	مشکل الفاظ کے معانی	۳۲۱		ہانپنے والے کتے کی مثل کا تمام گمراہوں اور	۳۹۹
۳۳۶	تفکر کا معنی	۳۲۲	۳۱۷	کافروں کو شامل ہونا	
	جاہل کفار نبی ﷺ کو کیوں مجنون کہتے تھے اور	۳۲۳	۳۱۷	آیات مذکورہ سے مستنبط شدہ احکام شرعیہ	۴۰۰
۳۳۷	اس کا جواب			ہدایت اور گمراہی کا اللہ کی جانب سے ہونے کا	۴۰۱
۳۳۷	اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر دلائل	۳۲۴	۳۱۸	معنی	
۳۳۹	آیا بغیر دلیل کے ایمان لانا صحیح ہے یا نہیں؟	۳۲۵		بست سے جنت اور انسانوں کو دوزخ کے لیے	۴۰۲
۳۴۰	کافروں کو گمراہی پر پیدا کرنے کا معنی	۳۲۶	۳۱۹	پیدا کرنے کی توجیہ	
۳۴۰	آیات سابقہ سے ارتباط	۳۲۷	۳۲۰	عقل کا محل دل ہے یا دماغ؟	۴۰۳
۳۴۱	مشکل الفاظ کے معانی	۳۲۸	۳۲۱	دماغ کے محل عقل ہونے پر دلائل	۴۰۴
۳۴۱	وقت وقوع قیامت کو مخفی رکھنے کی حکمت	۳۲۹		قرآن اور حدیث میں دل کی طرف عقل اور	۴۰۵
	علم قیامت کے متعلق لوگوں کے سوالات اور نبی	۳۳۰	۳۲۱	اور اک کی نسبت کرنے کی توجیہ	
۳۴۲	ﷺ کے جوابات		۳۲۲	عقل کی تعریف میں علماء کے اقوال	۴۰۶
۳۴۳	نبی ﷺ کا علمات قیامت کی خبر دینا	۳۳۱	۳۲۳	محل عقل کے بارے میں ائمہ مذاہب کے اقوال	۴۰۷
	رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ اور علم روح	۳۳۲	۳۲۴	کفار کا جانوروں سے زیادہ گمراہ ہونا	۴۰۸
	وغیرہ دیے جانے کے متعلق علماء اسلام کے		۳۲۴	آیت سابقہ سے ارتباط	۴۰۹
۳۴۷	نظریات		۳۲۴	اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کا معنی	۴۱۰
	رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ اور علم روح	۳۳۳	۳۲۵	اسم مسیٰ کا معنی ہے یا غیر	۴۱۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۷۲	رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کے متعلق احادیث	۴۴۹	۴۴۸	دو غیرہ دیے جانے کے متعلق جمہور علماء اسلام کی تصریحات	
۴۸۳	رسول اللہ ﷺ سے یہ کہلوانے کی توجیہ کہ اگر میں غیب کو جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا	۴۵۰	۴۵۱	اللہ تعالیٰ کی ذات میں علوم خمسہ کی انحصار کی خصوصیت کا باعث	۴۳۳
۴۸۵	رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب کہنے اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے میں علماء دیوبند کا نظریہ	۴۵۱	۴۵۲	اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے علم میں فرق کے متعلق اعلیٰ حضرت کا نظریہ	۴۳۵
۴۸۶	رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب کہنے اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ	۴۵۲	۴۵۳	علم کی ذاتی اور عطائی کی تقسیم کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات	۴۳۶
۴۸۸	هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ (۱۸۹-۱۹۵)	۴۵۳	۴۵۴	قرآن اور سنت میں نبی ﷺ کے علم کے عموم اور علم ماکان و مایکون کی تصریحات	۴۳۷
۴۸۹	ان روایات کی تحقیق جن میں مذکور ہے کہ حضرت آدم اور حوٰن نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا	۴۵۴	۴۵۵	نبی ﷺ کے علم کے عموم اور علم ماکان و مایکون کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات	۴۳۸
۴۹۰	جعل لہ شرکاء (انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے) کی توجیہات	۴۵۵	۴۶۱	شیخ اسماعیل دہلوی کا رسول اللہ ﷺ کی آخرت میں نفع رسائی پر انکار	۴۳۹
۴۹۲	غلط طریقہ سے نام لینے اور نام بگاڑنے کی مذمت	۴۵۶	۴۶۲	شیخ اسماعیل دہلوی کی تقریر کا رد اور ابطال	۴۴۰
۴۹۲	بچوں کا نام رکھنے کی تحقیق	۴۵۷	۴۶۳	اہل بیت اور دیگر قرابت داروں کو رسول اللہ ﷺ کا آخرت میں نفع پہنچانا	۴۴۱
۴۹۲	پسندیدہ اور ناپسندیدہ ناموں کے متعلق احادیث	۴۵۸	۴۶۶	نفع رسائی کی بظاہر نفی کی روایات کی توجیہ	۴۴۲
۴۹۳	عبدالنبی نام رکھنے کا شرعی حکم	۴۵۹	۴۶۷	اس پر دلیل کہ رسول اللہ ﷺ سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی نفع اور ضرر پر محمول ہے	۴۴۳
۴۹۵	قیامت کے دن انسان کو اس کے باپ کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا یا نہیں کی طرف؟	۴۶۰	۴۶۸	رسول اللہ ﷺ کی نفع رسائی میں افراط، تفریط اور اعتدال پر مبنی نظریات	۴۴۴
۴۹۷	بچوں کا نام محمد رکھنے کی فضیلت	۴۶۱	۴۶۹	علم غیب کی تحقیق	۴۴۵
۴۹۹	بتوں کی بے مائیگی اور بے چارگی	۴۶۲	۴۷۰	غیب کا لغوی معنی	۴۴۶
۵۰۰	ان ولی اللہ الذی (۱۹۶-۲۰۶)	۴۶۳		غیب کا اصطلاحی معنی	۴۴۷
۵۰۲	اللہ تعالیٰ اور رسول کے مقرب نیک لوگ ہیں	۴۶۴	۴۷۱	رسول اللہ ﷺ کو علم غیب دیے جانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۴۴۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	فقہاء احناف کے نزدیک نماز سری ہو یا جبری امام	۴۸۴	۵۰۳	آیات سابقہ سے ارتباط	۴۶۵
۵۱۹	کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے			معاف کرنے، نیکی کا حکم دینے اور جاہلوں سے	۴۶۶
۵۱۹	امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کے متعلق احادیث	۴۸۵	۵۰۳	اعراض کرنے کے الگ الگ محال	
۵۲۰	ذکر خفی کی فضیلت	۴۸۶		غواورد در گزر کرنے کے متعلق قرآن مجید کی	۴۶۷
۵۲۱	معتدل آواز کے ساتھ جہرا لہذا کر ممنوع نہیں ہے	۴۸۷	۵۰۳	آیات	
	ذکر کے لیے صبح اور شام کے اوقات کی تخصیص	۴۸۸	۵۰۳	غواورد در گزر کرنے کے متعلق احادیث	۴۶۸
۵۲۱	کی حکمت			رسول اللہ ﷺ کے درگزر کرنے کے متعلق	۴۶۹
	فرشتوں کی کثرت عبادت سے انسان کو عبادت پر	۴۸۹	۵۰۵	احادیث	
۵۲۱	ابھارنا		۵۰۶	نزع شیطان کا معنی	۴۷۰
	فرشتوں کی کثرت عبادت ان کی افضلیت کو	۴۹۰	۵۰۶	وسوسہ شیطان سے نجات کا طریقہ	۴۷۱
۵۲۲	مستلزم نہیں			وسوسہ شیطان کی وجہ سے عصمت انبیاء پر	۴۷۲
	حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے ولہ	۴۹۱	۵۰۷	اعتراض اور اس کے جوابات	
۵۲۲	یسجدون کا تعارض اور اس کا جواب		۵۰۸	طائف من الشیطان کا معنی	۴۷۳
۵۲۳	سجدہ تلاوت کی تحقیق	۴۹۲		انسان کس طرح غور و فکر کر کے انتقام لینے کو	۴۷۴
۵۲۳	سجدہ تلاوت کے حکم میں مذاہب فقہاء	۴۹۳	۵۰۸	ترک کرے	
۵۲۳	سجدہ تلاوت کی تعداد میں مذاہب فقہاء	۴۹۴		انسان کس طرح غور و فکر کر کے گناہوں کو ترک	۴۷۵
۵۲۶	حرف آخر	۴۹۵	۵۰۹	کرے	
				خوف خدا سے مرنے والے نوجوان کو دو جنتیں	۴۷۶
	سورۃ الانفال		۵۱۰	عطا فرماتا	
			۵۱۲	کفار کے فریاد معجزات نہ دکھانے کی توجیہ	۴۷۷
۵۳۱	انفال کا معنی	۱	۵۱۳	قرآن مجید پڑھنے کے آداب	۴۷۸
۵۳۲	سورۃ الانفال کی وجہ تسمیہ	۲		قرآن مجید سننے کا حکم آیا نماز کے ساتھ مخصوص	۴۷۹
۵۳۲	سورۃ الانفال کا زمانہ نزول	۳	۵۱۳	ہے یا خارج از نماز کو بھی شامل ہے	
	ترتیب نزول کے لحاظ سے سورۃ الانفال کا مقام	۴	۵۱۵	آیا قرآن مجید سننا فرض عین ہے یا فرض کفایہ	۴۸۰
۵۳۳	اس کی آیتوں کی تعداد اور سبب نزول		۵۱۶	قرآن مجید سننے کے حکم میں مذاہب فقہاء	۴۸۱
۵۳۳	غزوہ بدر کا خلاصہ	۵	۵۱۸	امام کے پیچھے قرآن سننے میں مذاہب اربعہ	۴۸۲
۵۳۳	غزوہ بدر کے متعلق احادیث	۶		فقہاء حنبلیہ کے اس مسئلہ میں مختلف اور متضاد	۴۸۳
۵۳۸	سورۃ الانفال کے مضامین کا خلاصہ	۷	۵۱۸	اقوال ہیں	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	جنگ بدر میں قتل ملائکہ کے متعلق احادیث اور آثار	۲۸	۵۳۹	سورۃ الانفال کے مقاصد	۸
۵۵۸			۵۴۰	یسئلونک عن الانفال (۱۰-۱۱)	۹
	جنگ بدر میں قتل ملائکہ کے متعلق مفسرین اسلام کی آراء	۲۹	۵۴۲	انفال کا معنی اور اس کے مصداق میں مفسرین کے نظریات	۱۰
۵۶۱			۵۴۳	مال غنیمت کے استحقاق میں صحابہ کرام کا اختلاف	۱۱
	غزوہ بدر میں فرشتوں کے قتل کے متعلق امام رازی کا تبدیل شدہ نظریہ	۳۰	۵۴۴	تفہیل (کسی نمایاں کارنامہ پر مجاہدوں کو غنیمت سے زائد انعام دینے) میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۱۲
۵۶۷			۵۴۵	تفہیل میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۱۳
	غزوہ بدر میں فرشتوں کے قتل کے متعلق مصنف کی تحقیق	۳۱	۵۴۵	تفہیل میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۱۴
۵۶۹			۵۴۶	تفہیل میں فقہاء احناف کا نظریہ	۱۵
	اذیغشیکم الناس امنہ منہ وینزل علیکم (۱۱-۱۹)	۳۲	۵۴۷	وجہ کا معنی	۱۶
۵۷۰			۵۴۷	اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۷
	غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی امداد کی چھ انواع جس دن کی صبح جنگ ہونی تھی اس رات مسلمانوں پر نیند کا طاری ہونا	۳۳	۵۴۸	اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے متعلق احادیث اور آثار	۱۸
۵۷۲			۵۵۰	ایمان میں کمی اور زیادتی کی تحقیق	۱۹
	اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	۳۴	۵۵۱	مال حرام سے نجات کے طریقے	۲۰
۵۷۴			۵۵۱	میں یقیناً مومن ہوں یا میں انشاء اللہ مومن ہوں کہنے میں فقہاء اور متکلمین کا اختلاف	۲۱
	بدر میں رسول اللہ ﷺ کی قیام گاہ اور بارش کا نزول	۳۵	۵۵۲	مبحث مذکور میں فریقین کے درمیان محاکمہ	۲۲
۵۷۴			۵۵۳	"میں یقیناً مومن ہوں" کہنے کے دلائل	۲۳
	بدر کے دن بارش کے نزول میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۳۶	۵۵۳	"میں انشاء اللہ مومن ہوں" کہنے کے دلائل کا تجزیہ	۲۴
۵۷۴			۵۵۳	بعض صحابہ کے نزدیک لشکر کفار سے مقابلہ کا ناگوار ہونا اس کا پس منظر اور پیش منظر	۲۵
	بقیہ چار نعمتوں کی تفصیل	۳۸	۵۵۳	ابوسفیان کے قافلہ تجارت پر حملہ کو بعض صحابہ کے ترجیح دینے کا بیان	۲۶
۵۷۴			۵۵۳	غزوہ بدر کے دن نبی ﷺ کا گڑگڑا کر دعا کرنا	۲۷
	رسول اللہ ﷺ کا مقتولین بدر سے خطاب فرمانا اور سماع موتی کی بحث	۳۹			
۵۷۶					
	سماع موتی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کی توجیہ	۴۰			
۵۷۷					
	سماع موتی کے ثبوت میں بعض دیگر احادیث اور آثار	۴۱			
۵۸۴					
	زحف کا معنی	۴۲			
۵۸۹					
۵۸۹					

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۰۶	ظالموں پر عذاب کے نزول میں صالحین کا شمول	۶۱		اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں سے دگنی یا اس سے	۳۴
	بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے نیکو کاروں کو	۶۲		کم ہو تو پھر مسلمانوں کا میدان سے بھاگنا جائز	
۶۰۸	عذاب کیوں ہوگا؟	۵۹۰		نہیں	
	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی	۶۳		میدان جنگ سے بھاگنے کی ممانعت قیامت تک	۳۵
۶۰۹	اطاعت اور شکر گزاری کرے	۵۹۱		کیلئے عام ہے یا یوم بدر کے ساتھ مخصوص ہے	
	اللہ اور رسول سے خیانت کی ممانعت کے شان	۶۴	۵۹۲	مسلمانوں سے کفار بدر کے قتل کی نفی کے محال	۳۶
۶۱۰	نزول میں متعدد روایات			و ماریت اذرمیت کے شان نزول میں	۳۷
۶۱۱	حضرت ابولہبہ انصاری کی توبہ	۶۵	۵۹۳	مختلف اقوال	
۶۱۲	اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کے محال	۶۶		نبی ﷺ سے خاک کی مٹی پھینکنے کی نفی اور	۳۸
	امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے کے متعلق	۶۷	۵۹۳	اثبات کے محال	
۶۱۳	قرآن مجید کی آیات		۵۹۵	معجزات کا مقدور ہونا	۳۹
	امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے کے متعلق	۶۸	۵۹۵	اچھی آزمائش کا معنی	۵۰
۶۱۳	احادیث اور آثار			اللہ نیک مسلمانوں کی نصرت اور حمایت فرماتا	۵۱
۶۱۷	مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کا معنی	۶۹	۵۹۶	ہے بدکاروں کی نہیں	
	مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے متعلق قرآن مجید	۷۰		یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ	۵۲
۶۱۷	کی آیات		۵۹۶	ورسولہ (۲۸-۴۰)	
۶۱۷	مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے متعلق احادیث	۷۱	۵۹۸	رسول اللہ کے حکم پر عمل کا واجب ہونا	۵۳
	یا ایہا الذین امنوا ان تتقوا اللہ	۷۲	۵۹۸	اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا واحد ہونا	۵۴
۶۱۸	یجعل لکم (۲۹-۳۷)			اللہ تعالیٰ کی معلومات و اقیحہ اور اس کی معلومات	۵۵
	کبیرہ گناہوں کے اجتناب سے صغیرہ گناہ معاف	۷۳	۶۰۰	فرضیہ	
۶۲۰	ہوتے ہیں			فرض نماز میں بھی رسول اللہ ﷺ کے بلانے	۵۶
۶۲۰	مومنوں اور کافروں کا دنیا اور آخرت میں فرق	۷۴		پر حاضر ہونا واجب ہے اور نفل نماز میں ماں کے	
	جب نبی ﷺ نے دنیا میں گناہگاروں کے لیے	۷۵	۶۰۱	بلانے پر	
	شفاعت کر دی ہے تو آخرت میں شفاعت کیوں		۶۰۲	مسلمانوں کے حق میں کیا چیز حیات آفرس ہے	۵۷
۶۲۱	ہوگی؟			انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ کے	۵۸
۶۲۱	اللہ تعالیٰ کا فضل	۷۶	۶۰۳	حائل ہونے کے محال	
	کفار قریش کا نبی ﷺ کو قتل کرنے کی سازش	۷۷	۶۰۳	بنو آدم کے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے کا معنی	۵۹
۶۲۲	کرنا		۶۰۵	رحمان کے دو انگلیوں سے کیا مراد ہے	۶۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	واعلموا انما غنمتم من شئی	۹۶		اللہ تعالیٰ کا کفار کی سازش کو ناکام کر کے آپ کو	۷۸
۶۳۸	(۳۱-۳۴)		۶۲۳	ان کے نرغہ سے نکال لانا	
۶۳۸	ربط مضمون	۹۷	۶۲۳	نصر بن الحارث کے جھوٹے دعوے	۷۹
۶۳۸	انقل، تنفیل اور سلب کی مختصر تشریح	۹۸		کسی قوم میں جب اس کا نبی موجود ہو تو اس قوم پر	۸۰
۶۳۸	فنے کا معنی	۹۹	۶۲۶	عذاب نہیں آتا	
۶۳۹	مال غنیمت کی تعریف	۱۰۰	۶۲۶	کفار کے استغفار کی متعدد تفاسیر	۸۱
۶۳۹	خمس کی تقسیم میں فقہاء شافعیہ کا موقف	۱۰۱	۶۲۷	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۸۲
۶۴۰	خمس کی تقسیم میں فقہاء حنبلیہ کا موقف	۱۰۲		جاہل صوفیاء کے رقص و سرود پر علامہ قرطبی کا	۸۳
۶۴۱	خمس کی تقسیم میں فقہاء مالکیہ کا موقف	۱۰۳	۶۲۷	تبصرہ	
۶۴۱	خمس کی تقسیم میں فقہاء احناف کا موقف	۱۰۴	۶۲۹	قل للذین کفروا (۳۸-۴۰)	۸۴
۶۴۳	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۱۰۵	۶۲۹	سابقہ آیات سے ارتباط اور شان نزول	۸۵
۶۴۳	فتح بدر میں سیدنا محمد ﷺ کی دلیل نبوت	۱۰۶		ایمان لانے سے سابقہ گناہوں کے معاف ہونے	۸۶
۶۴۳	کنار کی تعداد کم دکھانے کی حکمت	۱۰۷	۶۳۰	کے متعلق قرآن اور سنت سے دلائل	
۶۴۵	مسلمانوں کی تعداد کم دکھانے کی حکمت	۱۰۸		کافر کے سابقہ گناہوں کے بخشنے میں اللہ تعالیٰ کا	۸۷
	یا یہا الذین امنوا اذ القیتم	۱۰۹	۶۳۲	لطف و کرم	
۶۴۵	فتنہ (۳۵-۴۸)		۶۳۲	زندیق کی توبہ مقبول ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	۸۸
۶۴۶	آیات سابقہ سے ارتباط	۱۱۰	۶۳۳	زندیق کا معنی اور مفہوم	۸۹
	دشمن سے مقابلہ کی تمنا کی ممانعت کے متعلق	۱۱۱		زندیق، منافق، دہری اور ملحد کی تعریفوں کا باہمی	۹۰
۶۴۶	احادیث		۶۳۳	فرق	
	دشمن اسلام کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کی	۱۱۲		زندیق کی توبہ اور اس کو قتل کرنے کے شرعی	۹۱
۶۴۷	فضیلت اور اجر و ثواب		۶۳۴	احکام	
۶۴۷	دوران قتال اللہ تعالیٰ کے ذکر کے متعلق احادیث	۱۱۳		زندیق کی توبہ مقبول ہونے یا نہ ہونے کے الگ	۹۲
۶۴۸	دوران قتال ذکر کے متعلق علماء کے اقوال	۱۱۴	۶۳۴	الگ محمل	
۶۴۹	اختلاف رائے کی بناء پر مخالفت نہ کی جائے	۱۱۵		زندیق کی توبہ قبول ہونے پر امام رازی کے	۹۳
	مسلمانوں کے زوال کا سبب وحدت ملی کو پارہ پارہ	۱۱۶	۶۳۵	دلائل اور تحقیق مقام	
۶۵۰	کرنا ہے		۶۳۶	فتنہ کا معنی	۹۴
۶۵۱	مشکل الفاظ کے معانی	۱۱۷		صرف جزیرہ عرب سے کفر کا غلبہ ختم کرنا مقصود	۹۵
۶۵۱	فخر اور ریا کی مذمت	۱۱۸	۶۳۶	ہے یا پوری دنیا سے	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۱۵	ہے		۶۵۲	ابلیس کا سراقہ کی شکل میں آکر کفار کو بہکانا	۱۱۹
	جماد کے لیے بندھے ہوئے گھوڑوں کی فضیلت	۱۳۹		ابلیس کو سراقہ کی شکل میں متشکل ہونے کی	۱۲۰
۶۱۷	اور اس دور میں ان کا مصداق		۶۵۲	قدرت دینے کی حکمت	
۶۱۸	نامعلوم دشمنوں کا مصداق	۱۴۰	۶۵۳	اذ یقول المنفقون (۵۸-۴۹)	۱۲۱
	دشمنان اسلام کو ڈرانے اور مرعوب کرنے کی	۱۴۱	۶۵۵	مقتولین بدر کی بوقت موت کیفیت	۱۲۲
۶۱۹	حکمت		۶۵۶	عذاب کے مستحق کو عذاب نہ دینا بھی جائز ہے	۱۲۳
۶۲۰	جماد کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۴۲	۶۵۶	اللہ کسی بندہ پر کوئی ظلم نہیں کرتا	۱۲۴
۶۲۱	جماد کی فضیلت کے متعلق احادیث	۱۴۳	۶۵۷	کفار بدر کا متبعین فرعون کے مماثل ہونا	۱۲۵
	جماد کی حکمت اور اس سوال کا جواب کہ کافروں کو	۱۴۴		اہل مکہ پر اللہ کی ان نعمتوں کا بیان جن کی انہوں	۱۲۶
۶۲۳	قتل کرنا اللہ اور رسول کی رحمت کے منافی ہے		۶۵۷	نے ناشکری کی	
۶۲۳	جماد کے فرض عین ہونے کی صورتیں	۱۴۵		جو قوم خود کو کسی نعمت کا نااہل ثابت کرتی ہے اللہ	۱۲۷
۶۲۵	جماد کے فرض کفایہ ہونے کی صورتیں	۱۴۶	۶۵۸	اس نعمت کو عذاب سے بدل دیتا ہے	
۶۲۶	جماد کے مباح ہونے کی شرائط	۱۴۷	۶۵۹	اس آیت کا پہلی آیت کی تفصیل ہونا	۱۲۸
۶۲۷	جماد کے وجوب کی شرائط	۱۴۸	۶۵۹	بنو قریظہ کی عہد شکنی	۱۲۹
	مال غنیمت کی تقسیم کی تفصیل اور جنگی قیدیوں کو	۱۴۹	۶۶۰	مشکل الفاظ کے معانی	۱۳۰
	فدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے کے متعلق مذاہب			فریق ثانی کی عہد شکنی کی وجہ سے معاہدہ ختم	۱۳۱
۶۲۸	فقہاء		۶۶۰	کرنے کی صورتیں	
	جنگی قیدیوں کو فدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے کے	۱۵۰		مسلمانوں کے سربراہ کی عہد شکنی زیادہ مذموم اور	۱۳۲
۶۲۹	متعلق احادیث		۶۶۱	زیادہ بڑا گناہ ہے	
	جنگی قیدیوں کے فدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے پر	۱۵۱		ولا یحسبن الذین کفروا	۱۳۳
۶۸۲	ساحب ہدایہ کے اعتراض کا جواب		۶۶۲	سبقوا (۶۳-۵۹)	
	کیا موجودہ دور میں بھی جنگی قیدیوں کو لونڈی اور	۱۵۲	۶۶۲	ربط آیات اور شان نزول	۱۳۴
۶۸۲	غلام بنانا جائز ہے؟		۶۶۳	ربط آیات	۱۳۵
۶۸۳	دشمن سے صلح کرنے کا حکم آیا منسوخ ہے یا نہیں	۱۵۳	۶۶۳	تیر اندازی کے فضائل	۱۳۶
	دشمن سے صلح کرنے یا صلح نہ کرنے کے الگ	۱۵۴		اس دور میں تیر اندازی کے مصداق ایٹمی	۱۳۷
۶۸۵	الگ محمل		۶۶۳	میزائل ہیں	
۶۸۶	دشمن کی نیت فاسد ہونے کے باوجود صلح کا جواز	۱۵۵		ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے تفکر کرنا اور اس کے	۱۳۸
	اسلام کی نعمت سے عرب کے مخالف و عہدوں کا	۱۵۶		لئے سائنسی علوم حاصل کرنا افضل ترین عبادت	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۰۲	سے متاثر ہو کر حضرت عباس کا مسلمان ہونا	۱۷۲	۶۸۶	باہم شہر و شکر ہو جانا	۱۵۷
۷۰۳	بد ر کے قیدیوں سے جو مال غنیمت لیا گیا تھا	۱۷۳	۶۸۷	عارضی اور فانی محبت اور دائمی اور باقی محبت کے	۱۵۸
۷۰۴	مسلمان ہونے کے بعد ان کو اس سے زیادہ مال	۱۷۴	۶۸۸	مبادی اور اسباب	۱۵۹
۷۰۵	مل جانا	۱۷۵	۶۸۹	صحابہ کرام کی باہمی محبت کا سبب	۱۶۰
۷۰۶	اللہ تعالیٰ کا علم ماضی، حال اور مستقبل تمام زمانوں	۱۷۶	۶۹۰	حضرت عمر جب اسلام لائے تو مسلمانوں کی کتنی	۱۶۱
۷۰۷	کو محیط ہے	۱۷۷	۶۹۱	تعداد تھی؟	۱۶۲
۷۰۸	اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ ﷺ سے کفار کی	۱۷۸	۶۹۲	یا ایہا النبی حرض المؤمنین	۱۶۳
۷۰۹	خیانت کا بیان	۱۷۹	۶۹۳	علی القتال (۶۵-۶۹)	۱۶۴
۷۱۰	عمد رسالت میں مومنین کی چار قسمیں	۱۸۰	۶۹۴	مسلمانوں پر تخفیف کر کے مشکل حکم کو منسوخ	۱۶۵
۷۱۱	مہاجرین اولین کی دیگر مہاجرین اور انصار پر	۱۸۱	۶۹۵	کرتا	۱۶۶
۷۱۲	افضیلت	۱۸۲	۶۹۶	کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی کی	۱۶۷
۷۱۳	مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے وراثت کا	۱۸۳	۶۹۷	وجوہات	۱۶۸
۷۱۴	مشروع پھر منسوخ ہونا	۱۸۴	۶۹۸	مشکل الفاظ کے معانی	۱۶۹
۷۱۵	ولایت کا معنی	۱۸۵	۶۹۹	بد ر کے قیدیوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا	۱۷۰
۷۱۶	کفار سے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے	۱۸۶	۷۰۰	صحابہ کرام سے مشورہ کرنا	۱۷۱
۷۱۷	دار الحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا	۱۸۷		مال دنیا کی طمع کی وجہ سے بعض صحابہ پر عتاب	۱۷۲
۷۱۸	دو مختلف ملتوں کے ماننے والوں کے مابین دوستی	۱۸۸		نازل ہوانہ کہ رسول اللہ ﷺ پر فدیہ کو ترجیح	۱۷۳
۷۱۹	اور وراثت جائز نہیں	۱۸۹		دینے کی وجہ سے	۱۷۴
۷۲۰	مہاجرین اور انصار کی تعریف و توصیف	۱۹۰		عتاب کی دوسری وجہ بلا اجازت مال غنیمت لینا	۱۷۵
۷۲۱	ہجرت کی تعریف اور ہجرت کے متعلق مختلف	۱۹۱		ہے	۱۷۶
۷۲۲	النوع احادیث	۱۹۲		بد ر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے جوابات	۱۷۷
۷۲۳	ہجرت کے مختلف معانی	۱۹۳		مشرکین کو قتل کرنے کے عمومی حکم سے جنگی	۱۷۸
۷۲۴	ہجرت کے مختلف النوع احادیث میں تطبیق	۱۹۴		قیدیوں کو مستثنیٰ کرنے پر دلائل	۱۷۹
۷۲۵	فتح مکہ کے بعد ہجرت کے منسوخ ہونے کی	۱۹۵		بد ر میں بلا اذن مال غنیمت لینے کے باوجود عذاب	۱۸۰
۷۲۶	وجوہات	۱۹۶		نہ آنے کا سبب کیا تھا؟	۱۸۱
۷۲۷	دار الکفر میں مسلمانوں کی سکونت کا حکم	۱۹۷		یا ایہا النبی قل لمن فی	۱۸۲
۷۲۸	ہجرت کی اقسام	۱۹۸		ایدیکم من الاسری (۷۵-۷۰)	۱۸۳
۷۲۹	ہجرت الی اللہ کی توضیح	۱۹۹		بد ر میں رسول اللہ ﷺ کے غیب کی خبر دینے	۱۸۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
			۷۱۸	زوالا رحام کی تعریف ان کے مصادیق اور ان کی دراشت کے ثبوت میں احادیث	۱۸۹
			۷۱۸	اختتامی کلمات اور دعا	۱۹۰
			۷۲۱	مآخذ و مراجع	۱۹۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۱	چار ماہ کے تعین میں متعدد اقوال	۱۳	۳۳	سورۃ التوبہ	
	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعلان براءت کرنا حضرت	۱۵			
۵۲	ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے	۱۶	۳۵	سورۃ التوبہ کے اسماء اور وجہ تسمیہ	۱
۵۲	حج اکبر کے مصداق کے متعلق احادیث	۱۷	۳۶	سورۃ التوبہ کے اسماء کے متعلق احادیث	۲
۵۵	حج اکبر کے مصداق کے متعلق مذاہب فقہاء	۱۷	۳۷	سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال کی باہمی مناسبت	۳
۵۵	حج اکبر کے مختلف اقوال میں تطبیق	۱۸	۳۸	سورۃ التوبہ کا زمانہ نزول	۴
	جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کے حج اکبر	۱۹	۳۹	سورۃ التوبہ کے نزول کا پیش منظر و پس منظر	۵
۵۵	ہونے کی تحقیق	۲۰	۴۱	سورۃ التوبہ کے مسائل اور مطالب	۶
	جمعہ کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کے	۲۰	۴۲	براءۃ من اللہ ورسولہ (۱-۶)	۷
۵۶	متعلق احادیث			سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن	۸
	جس جمعہ کو یوم عرفہ ہو اس دن حج اکبر ہونے	۲۱	۴۳	الرحیم نہ لکھنے کی توجیہات	
۵۸	پر ایک حدیث سے استدلال			سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں	۹
۵۹	جمعہ کے حج کے متعلق مفسرین کے اقوال	۲۲	۴۵	مذاہب ائمہ	
۶۰	جمعہ کے حج کے متعلق فقہاء کے اقوال	۲۳		سورۃ التوبہ کے مدنی ہونے سے بعض آیتوں کا	۱۰
۶۳	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۲۴	۴۷	استثناء	
	حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کا	۲۵	۴۷	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۱۱
۶۳	منسوخ کرنا		۴۸	آیات سابقہ سے مناسبت	۱۲
	فاقتلو المشرکین سے منسوخ	۲۶		ان مشرکین کا مصداق جن کو چار ماہ کی مہلت	۱۳
۶۵	ہونے والی آیات کا بیان		۴۹	دی گئی	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۱	ملک میں قتل کرنے کے متعلق فقہاء احناف کا مذہب	۲۶	۲۷	فاقتلو المشرکین میں قتل کے عمومی حکم سے مستثنیٰ افراد	۲۷
۸۵	شریعت کی توہین کرنے والا تورات کی تصریح کے مطابق واجب القتل ہے	۲۳	۲۸	فاقتلو المشرکین - الایۃ سے ائمہ ثلاثہ کا تارک نماز کو قتل کرنے پر استدلال اور اس کے جوابات	۲۸
۸۶	آیات سابقہ سے ارتباط	۲۳	۲۹	مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر بنی شیبہ کے قتال سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال اور اس کے جوابات	۲۹
۸۶	فتح مکہ کے لیے جہاد کرنے کے فوائد	۲۵	۳۰	آیات سابقہ سے ارتباط	۳۰
۸۸	اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے واقعات کا علم ہے اور جس چیز کا مطلقاً وقوع نہ ہو اس کے وقوع کو اللہ کا علم شامل نہیں	۲۶	۳۱	مشرکین کو دارالاسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام	۳۱
۸۹	سورۃ التوبہ کی آیت: ۱۶ کے چند تراجم	۲۷	۳۲	کیف یکون للمشرکین عہد	۳۲
۸۹	ماکان للمشرکین ان یعمروا	۲۸	۳۳	ان مشرکین کا بیان جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور جنہوں نے اس معاہدہ کی پابندی کی	۳۳
۹۲	تعمیر کا معنی	۲۹	۳۴	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۳۴
۹۲	کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں مذہب فقہاء	۵۰	۳۵	بعض سوالوں کے جوابات	۳۵
۹۲	کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علماء	۵۱	۳۶	اہل قبلہ کی تکفیر اور عدم تکفیر میں مذہب صحابہ کرام کو دینی بھائی کے بجائے میرے	۳۶
۹۲	دیوبند کا نظریہ	۵۲	۳۷	اصحاب کیوں فرمایا؟	۳۷
۹۵	مسجد بنانے کا جواز اور استحقاق کن امور پر موقوف ہے	۵۲	۳۸	کسی شخص کے تعارف میں اس کی خصوصی صفات ذکر کی جائیں	۳۸
۹۵	مسجد بنانے کے انحصار میں ایمان بالرسول ذکر نہ کرنے کی توجیہات	۵۳	۳۹	کفر کے علم برداروں کا مصداق	۳۹
۹۵	مسجد بنانے کے فضائل اور مسجد کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث	۵۴	۴۰	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آثار	۴۰
۹۷	مسجد کے احکام کے متعلق احادیث	۵۵	۴۱	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق مذہب فقہاء	۴۱
۹۸	اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کعبہ کو آباد کرنے سے افضل ہے	۵۶	۴۲	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق مذہب فقہاء	۴۲
۹۸	سابقین صحابہ کی فضیلت اور اللہ کی رضا کا جنت سے افضل ہونا	۵۷			
۹۹	کفار اور مشرکین سے محبت کا تعلق رکھنا منع	۵۸			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۲	کانظریہ مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء	۷۶	۱۰۰	ہے اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، قریبی اعزہ، وطن، تجارت اور مال و دولت سے زیادہ اللہ	۵۹
۱۱۳	احناف کانظریہ			اور اس کے رسول کا محبوب ہونا	
۱۱۵	ربط آیات اور مناسبت	۷۷	۱۰۲	صحابہ کرام محبت کے اس معیار کا کامل نمونہ تھے	۶۰
۱۱۵	جزیہ کالغوی اور اصطلاحی معنی	۷۸			
۱۱۶	جزیہ کن سے وصول کیا جائے گا	۷۹	۱۰۳		
۱۱۷	جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء	۸۰			
	وقالت الیہود عزیر ابن اللہ	۸۱	۱۰۵	لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرة (۲۹-۳۵)	۶۱
۱۱۸	(۳۰-۳۵)		۱۰۷	آیات سابقہ سے ارتباط	۶۲
	حضرت عزیر کا نام و نسب، ان کا تعارف اور ان	۸۲	۱۰۷	وادی حنین کا محل وقوع	۶۳
۱۱۹	کو ابن اللہ کہنے کا سبب			اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی	۶۳
۱۲۱	آیا حضرت عزیر نبی ہیں یا نہیں	۸۳	۱۰۷	تیاری	
۱۲۱	احبار اور رہبان کا معنی	۸۳	۱۰۷	نبی ﷺ کی اہل حنین سے جہاد کی تیاری	۶۵
	قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں اپنے دینی	۸۵	۱۰۸	نبی ﷺ کا غزوہ حنین کے لیے روانہ ہونا	۶۶
۱۲۲	پیشواؤں کو ترجیح دینے کی مذمت			بعض نو مسلم صحابہ کا حنین کے راستے میں	۶۷
۱۲۲	نبی کے سوا کسی بشر کا قول خطا سے معصوم نہیں	۸۶	۱۰۸	ذات انواط کی تمنا کرنا	
۱۲۵	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت کے صدق پر دلائل	۸۷		حنین میں ابتدائی شکست، شکست کے اسباب	۶۸
۱۲۶	تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ	۸۸	۱۰۸	اور آپ کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد	
	یسودی اور عیسائی علماء کے مال کھانے کے	۸۹		غزوہ حنین میں ابتدائی شکست کے بعد فتح اور	۶۹
۱۲۶	تاجائز طریقے		۱۰۹	کامرانی	
۱۲۷	کنز کا معنی	۹۰	۱۱۰	یوم حنین میں فرشتوں کا نزول	۷۰
	زکوٰۃ نہ دے کر مال جمع کرنے والوں کی قرآن	۹۱	۱۱۰	اہل حنین کو عذاب دینے کا معنی	۷۱
۱۲۷	مجید اور احادیث صحیحہ سے مذمت			اہل حنین میں سے ہوا زن اور ثقیف کا اسلام	۷۲
	جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ موجب	۹۲	۱۱۱	قبول کرنا	
۱۲۸	عذاب نہیں ہے			مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء	۷۳
	ادائیگی زکوٰۃ کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف	۹۳	۱۱۲	شافعیہ کانظریہ	
۱۲۹	صحابہ			مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء ما لکیہ	۷۴
۱۳۱	ان عدة الشہور عند اللہ (۳۷-۳۶)	۹۴	۱۱۲	کانظریہ	
	عبادات اور معاملات میں قمری تقویم کا اعتبار	۹۵		مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء حنبلیہ	۷۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۵۶	نہ ملنے کی تحقیق		۱۳۲	بے	
۱۵۸	مال اور اولاد کا سبب عذاب ہونا	۱۱۶		حرمت والے مہینوں کا بیان اور ان کا شرعی حکم	۹۶
	رسول اللہ ﷺ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق احادیث	۱۱۷	۱۳۲		
۱۵۹	جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا	۱۱۸	۱۳۳	مشرکین کا حرمت والے مہینوں کو موخر کرنا	۹۷
۱۶۰	آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟	۱۱۹	۱۳۵	یا ایہا الذین امنوا مالکم (۳۲-۳۸)	۹۸
	جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا	۱۱۹	۱۳۶	غزوہ تبوک کی تیاری	۹۹
۱۶۱	اسی کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے			جماد کے لیے نکلنے کا وجوب	۱۰۰
۱۶۱	خارجیوں کے ظہور کا سبب	۱۲۰	۱۳۷	غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت	۱۰۱
۱۶۱	خارجیوں کے متعلق اہل سنت کا نظریہ	۱۲۱	۱۴۰	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی وجوہ	۱۰۲
۱۶۲	خارجیوں کی علامت	۱۲۲	۱۴۲	خفافاء ثقالا کے معنی	۱۰۳
	عذاب کے خوف، ثواب کے شوق اور محض رضائے الہی کے لیے عبادت کرنے کے تین مراتب	۱۲۳	۱۴۳	جماد کی اقسام	۱۰۴
۱۶۲	مراتب		۱۴۴	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل	۱۰۵
۱۶۳	رسول اللہ ﷺ کی طرف عطا کرنے کی نسبت	۱۲۴		عفا اللہ عنک لم اذنت لہم	۱۰۶
۱۶۳	انما الصدقات للفقراء (۶۶-۶۰)	۱۲۵	۱۴۴	(۳۳-۳۹)	
۱۶۴	آیات سابقہ کے ساتھ ارتباط	۱۲۶	۱۴۶	عفا اللہ عنک کے متعلق مفسرین سابقین کی تقاریر	۱۰۷
۱۶۵	زکوٰۃ دینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں	۱۲۷	۱۴۷	عفا اللہ عنک کے متعلق مصنف کی تقریر	۱۰۸
	زکوٰۃ لینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں	۱۲۸		جب منافقین کا جماد کے لیے نکلنا اللہ کو ناپسند تھا تو ان کی مذمت کیوں کی گئی؟	۱۰۹
۱۶۸	فقیر کا معنی	۱۲۹	۱۴۹	تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا کی گئی	۱۱۰
۱۶۹	مسکین کا معنی	۱۳۰	۱۵۰		
۱۷۰	فقیر اور مسکین کے معنی میں مذاہب ائمہ اور تحقیق مقام	۱۳۱		ان تصبک حسنة تسوہم	۱۱۱
۱۷۰	والعاملین علیہا کا معنی اور اس کے شرعی احکام	۱۳۲	۱۵۱	(۵۰-۵۹)	
۱۷۱	مولفۃ القلوب کی تعریف اور ان کو زکوٰۃ میں سے دینے کے متعلق مذاہب فقہاء	۱۳۳	۱۵۲	مسئلہ تقدیر	۱۱۲
۱۷۲			۱۵۵	مسلمانوں اور منافقوں کی دو حالتوں کی تفصیل	۱۱۳
			۱۵۵	شان نزول	۱۱۴
				کافر کی زمانہ کفر میں کی ہوئی نیکیوں پر اجر ملنے یا	۱۱۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۸۹	سابقہ قوموں کے عذاب سے منافقوں کو نصیحت فرمانا	۱۵۲	۱۷۴	غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ میں حصہ	۱۳۴
۱۹۰	منافقوں اور مومنوں میں تقابل	۱۵۳		غلاموں، مقروضوں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے لیے	۱۳۵
۱۹۰	دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی نعمتیں	۱۵۴	۱۷۴	تیلیک ضروری نہیں	
۱۹۲	اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا سب سے بڑی نعمت ہونا	۱۵۵	۱۷۶	زکوٰۃ کے تمام مصارف میں تیلیک ضروری ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل	۱۳۶
۱۹۲	جنت کی تخفیف نہ کی جائے	۱۵۶	۱۷۷	تیلیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ	۱۳۷
۱۹۳	یابنہا النبی جاہد الکفار	۱۵۷	۱۷۸	ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اور ایسی زکوٰۃ میں تیلیک کا رکن نہ ہونا	۱۳۸
۱۹۳	(۷۳-۸۰)			آخری چار مصارف میں تیلیک کا اعتبار نہ کرنے کا ثمرہ	۱۳۹
۱۹۶	منافقوں کے خلاف جہاد کی توجیہ	۱۵۸	۱۷۹	زکوٰۃ میں مقروضوں کا حصہ	۱۴۰
۱۹۷	اس حدیث کی تحقیق کہ میں صرف ظاہر پر حکم کرتا ہوں (الحدیث)	۱۵۹	۱۷۹	زکوٰۃ میں نبی سبیل اللہ کا حصہ	۱۴۱
۱۹۷	منافقین نے جو کلمہ کفر کہا تھا اس کے متعلق مفسرین کے اقوال	۱۶۰	۱۸۰	زکوٰۃ میں مسافروں کا حصہ	۱۴۲
۲۰۰	منافق جس مقصد کو حاصل نہ کر سکے اس کے متعلق مفسرین کے اقوال	۱۶۱	۱۸۰	کسی ایک صنف کے ایک فرد پر زکوٰۃ تقسیم کرنے کا جواز	۱۴۳
۲۰۰	منافقین کو غنی کرنے کی تفصیل	۱۶۲	۱۸۱	منافقین کا نبی ﷺ کو "کان" کہنا اور اس پر اللہ کا رد کرنا	۱۴۴
۲۰۰	جلال بن سوید کی توجیہ	۱۶۳		شان نزول اور اللہ اور رسول کے لیے ضمیر واحد لانے کی توجیہ	۱۴۵
۲۰۱	اللہ سے عہد کر کے اس کو توڑنے والا منافق	۱۶۴	۱۸۲	نبی ﷺ کو منافقین کا علم عطا کیا جانا	۱۴۶
۲۰۲	یہ منافق حضرت ثعلبہ بن حاطب تھے یا کوئی اور شخص؟	۱۶۵	۱۸۳	نبی ﷺ کی شان میں توہین کا لفظ کہنا کفر ہے خواہ توہین کی نیت ہو یا نہیں	۱۴۷
۲۰۲	حضرت ثعلبہ بن حاطب کے بدری صحابی ہونے پر تصریحات	۱۶۶	۱۸۴	المنفقون والمنفقت بعضهم	۱۴۸
۲۰۳	حضرت ثعلبہ بن حاطب کو منافق قرار دینے والی روایت کا شدید ضعف	۱۶۷	۱۸۵	من بعض (۷۷-۷۲)	
۲۰۴	اس روایت کے راویوں پر جرح	۱۶۸	۱۸۷	اللہ تعالیٰ کے بھلانے کا معنی	۱۴۹
۲۰۵	اس روایت پر درایتا جرح	۱۶۹	۱۸۸	عذاب مقیم کا معنی	۱۵۰
۲۰۶	اس روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۷۰	۱۸۸	منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشابہت	۱۵۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۲۲	سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر استدلال	۱۸۸	۲۰۷	کے مزاج کے خلاف ہونا	
	وجاء المعذرون من الاعراب	۱۸۹	۲۰۸	سورۃ التوبہ کی ان آیات کا صحیح مصداق	۱۷۱
۲۲۳	(۹۰-۹۳)		۲۰۹	اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر	۱۷۲
۲۲۳	معذورین کی اقسام	۱۹۰	۲۰۹	صحابہ کرام کے صدقات پر منافقین کے طعنے	۱۷۳
۲۲۳	جماد اور نماز میں معذورین کے متعلق احادیث	۱۹۱	۲۱۰	عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا شان نزول	۱۷۴
۲۲۶	اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کا معنی	۱۹۲		عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے قیص عطا	۱۷۵
۲۲۶	کتاب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی	۱۹۳	۲۱۰	فرمانے کی وجوہ	
۲۲۶	رسول اللہ ﷺ کے لیے نصیحت کا معنی	۱۹۴		اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ بن	۱۷۶
۲۲۶	ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کا معنی	۱۹۵	۲۱۱	ابی کے لیے استغفار کی توجیہات	
۲۲۷	عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی	۱۹۶		ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام	۱۷۷
	بڑے سے بڑا نیک بھی اللہ کی بخشش اور اس	۱۹۷	۲۱۲	رازی کا تسامح	
۲۲۷	کی رحمت سے مستغنی نہیں			فرح المخلفون بمقعدہم	۱۷۸
۲۲۸	عبادت سے محروم ہونے کی بناء پر رونا	۱۹۸	۲۱۳	(۸۱-۸۹)	
	يعتذرون اليكم اذ رجعت اليهم	۱۹۹	۲۱۵	ربط آیات	۱۷۹
۲۲۹	(۹۳-۹۹)		۲۱۵	دوزخ کی گرمی	۱۸۰
۲۳۱	اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا	۲۰۰	۲۱۵	کم ہنسنے اور زیادہ رونے کی تلقین	۱۸۱
۲۳۱	منافقین سے ترک تعلق کا حکم	۲۰۱		غزوہ تبوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوہ میں	۱۸۲
۲۳۲	العرب اور الاعراب کا معنی	۲۰۲	۲۱۶	شرکت سے ممانعت کی توجیہ	
	الاعراب سے مراد مدینہ کے گرد رہنے والے	۲۰۳		منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت کا شان	۱۸۳
۲۳۳	ہوتی ہیں		۲۱۷	نزول	
۲۳۳	اعراب کی سنگ دلی اور شقاوت	۲۰۴		عبداللہ بن ابی کے نفاق کے باوجود اس کی نماز	۱۸۴
۲۳۵	الدوائر اور دائرة السوء کے معانی	۲۰۵	۲۱۷	جنازہ پڑھانے کی توجیہات	
۲۳۵	شان نزول اور ربط آیات	۲۰۶		مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کے	۱۸۵
۲۳۵	قربات اور صلوات کے معنی	۲۰۷		باوجود عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کی	
	والسابقون الاولون من	۲۰۸	۲۱۸	توجیہات	
۲۳۶	المہاجرین (۱۰۰-۱۰۶)			کیا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ	۱۸۶
	مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کے	۲۰۹	۲۲۰	ہونا آپ کی محبوبیت کے منافی ہے؟	
۲۳۸	مصادیق میں اقوال			دفن کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا،	۱۸۷
	مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت	۲۱۰	۲۲۱	اور اس سے قبر پر اذان کا استدلال	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۵	تسمیں		۲۳۹	کرنے والوں کی تفصیل	
	والذین اتخذوا مسجدا ضرابا	۲۲۹	۲۴۱	مہاجرین اور انصار کے فضائل	۲۱۱
۲۵۶	(۱۰۷-۱۱۰)			اللہ کی رضا اس پر موقوف ہے کہ مہاجرین اور	۲۱۲
۲۵۶	مسجد ضرار کا پس منظر و پیش منظر	۲۳۰	۲۴۲	انصار کی نیکیوں میں ان کی اتباع کی جائے	
۲۵۸	مسجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت	۲۳۱		مدینہ سے باہر کے منافقین اور ان سے متعلق	۲۱۳
	اس مسجد کا مصداق جس کی بنیاد اول یوم سے	۲۳۲	۲۴۳	اعتراضات کے جوابات	
۲۵۹	تقویٰ پر رکھی گئی		۲۴۴	دو مرتبہ عذاب دینے کی تفصیل	۲۱۴
	مسجد نبوی اور روضہ رسول کی زیارت کے	۲۳۳		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنام	۲۱۵
۲۶۰	فضائل		۲۴۵	منافقین کو مسجد سے نکالنا	
۲۶۱	مسجد قبا کے فضائل	۲۳۴	۲۴۶	حضرت ابولبابہ کی توبہ	۲۱۶
۲۶۱	پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت	۲۳۵	۲۴۷	حضرت ابولبابہ کی توبہ اور شان نزول	۲۱۷
۲۶۲	مشکل الفاظ کے معانی	۲۳۶		انبیاء علیہم السلام کے غیر پر استقلال اور انفراد	۲۱۸
۲۶۲	منافقین کے شک میں پڑنے کی وجوہ	۲۳۷	۲۴۸	صلوٰۃ بھیجنے کی تحقیق	
	ان اللہ اشتری من المؤمنین	۲۳۸	۲۴۸	صلوٰۃ کالغوی اور شرعی معنی	۲۱۹
۲۶۳	انفسہم (۱۱۳-۱۱۱)			انبیاء علیہم السلام پر انفراد صلوٰۃ بھیجنے میں	۲۲۰
	اللہ تعالیٰ کامؤمنین کی جانوں اور مالوں کو جنت	۲۳۹	۲۴۸	مذہب فقہاء	
۲۶۳	کے بدلہ خریدنا			انبیاء علیہم السلام کے غیر پر صلوٰۃ اور سلام بھیجنے	۲۲۱
۲۶۵	تورات اور انجیل میں اللہ کے عہد کا ذکر	۲۴۰	۲۵۹	میں جمہور کا موقف	
۲۶۵	جنت کے بدلہ میں جان و مال کی بیع کی تاکیدات	۲۴۱		انبیاء علیہم السلام کے غیر پر استقلالاً صلوٰۃ	۲۲۲
۲۶۶	اس بیع کے بعد معصیت کا بہت سنگین ہونا	۲۴۲	۲۴۹	پڑھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات	
۲۶۶	التائبون کا معنی	۲۴۳		انبیاء علیہم السلام کے غیر پر انفراد صلوٰۃ نہ بھیجنے	۲۲۳
۲۶۷	العابدون کا معنی	۲۴۴	۲۵۰	کے دلائل	
۲۶۷	الحامدون کا معنی	۲۴۵	۲۵۱	صدقہ کی ترغیب	۲۲۴
۲۶۸	السائحون کا معنی	۲۴۶	۲۵۲	صدقہ کی فضیلت میں احادیث	۲۲۵
۲۶۸	الراکعون الساجدون کا معنی	۲۴۷		نیک اعمال کا حکم دینے اور برے اعمال سے	۲۲۶
	الامروں بالمعروف والنہی عن	۲۴۸	۲۵۳	روکنے کی وجہ	
۲۶۹	المسکر کا معنی			انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے	۲۲۷
۲۷۰	الحافظون لحدود اللہ کا معنی	۲۴۹	۲۵۵	رہتے ہیں	
۲۷۱	ابوطالب کا مرتے وقت کلمہ نہ پڑھنا	۲۵۰		غزوۃ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی چار	۲۲۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۹۱	اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چھوٹی اور بڑی نیکی مقبول ہے	۲۷۱	۲۷۱	ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کا جواب	۲۵۱
۲۹۲	تبلیغ اسلام کے لیے جماد کافرض کفایہ ہونا	۲۷۲	۲۷۲	سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر اعتراض کا جواب	۲۵۲
۲۹۲	حصول علم دین کافرض کفایہ ہونا	۲۷۳	۲۷۳	مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیہات	۲۵۳
۲۹۳	حصول علم دین کے فرض عین ہونے کا محمل	۲۷۴	۲۷۴	زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز	۲۵۴
۲۹۳	حصول علم دین کے فرض کفایہ ہونے کا محمل	۲۷۵	۲۷۵	آزر کے لیے حضرت ابرہیم علیہ السلام کے استغفار کی توجیہ	۲۵۵
۲۹۳	علم دین کے فضائل	۲۷۶	۲۷۶	اواد کا معنی	۲۵۶
۲۹۲	فقہ کالغوی اور اصطلاحی معنی	۲۷۷	۲۷۷	قیامت کے دن آزر کی شفاعت کی توجیہ	۲۵۷
۲۹۲	تقلید شخصی پر دلائل	۲۷۸	۲۷۸	وماکان اللہ لیضل قومًا (۱۱۸-۱۱۵)	۲۵۸
۲۹۲	مسائل فقہیہ میں ائمہ مجتہدین کے اختلاف کے اسباب	۲۷۹	۲۷۹	اشیاء میں اصل اباحت ہے	۲۵۹
۲۹۱	یایہا الذین امنوا قاتلوا (۱۲۹-۱۲۳)	۲۸۰	۲۷۸	آیات سابقہ سے ارتباط کی وجوہ	۲۶۰
۲۹۸	قریب کے کافروں سے جماد کی ابتداء کرنے کی وجوہ	۲۸۱	۲۷۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول فرمانے کی توجیہات	۲۶۱
۳۰۰	دنیا اور آخرت میں منافقین کے عذاب کی تفصیل	۲۸۲	۲۷۹	مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کرنے کا محمل	۲۶۲
۳۰۱	قرآن مجید سے منافقین کی نفرت اور بیزاری	۲۸۳	۲۸۰	غزوہ تبوک کی تنگی اور سختی	۲۶۳
۳۰۲	سابقہ آیات سے ارتباط	۲۸۴	۲۸۱	اللہ تعالیٰ کا بار بار توبہ قبول فرمانا	۲۶۴
۳۰۲	نبی ﷺ کی پانچ صفات	۲۸۵	۲۸۱	رسول اللہ ﷺ، تبوک کے غازیوں اور تین مخالفین کی توبہ کا باہمی فرق	۲۶۵
۳۰۲	من انفسکم کا معنی	۲۸۶	۲۸۲	حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی توبہ قبول ہونے کی تفصیل	۲۶۶
۳۰۲	من انفسکم کا معنی (نبی ﷺ کا نفیس ترین ہونا)	۲۸۷	۲۸۲	یایہا الذین امنوا اتقوا اللہ (۱۲۲-۱۱۹)	۲۶۷
۳۰۵	امت پر سخت احکام کا آپ پر دشوار ہونا	۲۸۸	۲۸۸	صدق کے متعلق احادیث	۲۶۸
۳۰۶	دنیا اور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کا حریص ہونا	۲۸۹	۲۸۹	صدق کی عقلی فضیلت	۲۶۹
۳۰۷	اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کو تسلی دینا	۲۹۰	۲۹۰	شکر اسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ ہونے کے وجوہ کی تحقیق	۲۷۰
۳۰۷	عرش کا معنی	۲۹۱	۲۹۰		
۳۰۸	عرش کے متعلق احادیث و آثار	۲۹۲			
۳۰۸	عرش کی تفسیر میں اقاویل علماء	۲۹۳			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۷	عدل کے ساتھ جزا دینے کی توجیہ	۳۱۱	۲۹۳	آیا سورہ توبہ کی آخری آیت قرآن مجید کی	
۳۲۸	سورج سے الوہیت اور توحید پر استدلال	۳۱۲	۳۰۹	آخری آیت ہے یا نہیں	
۳۲۸	تاریخ کا تعین قمری حساب سے کرنا چاہیے	۳۱۳	۲۹۵	حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی سے لقد	
۳۲۹	منکرین حشر کے احوال	۳۱۴		جاء کم رسول من انفسکم الایہ کا	
۳۲۹	حشر پر ایمان لانے والوں کے احوال	۳۱۵	۳۱۰	سورہ توبہ میں درج ہونا	
۳۳۰	اہل جنت کی گفتگو کا معمول	۳۱۶	۲۹۶	حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کا دو گواہوں	
۳۳۰	ولو یعجل اللہ للناس (۲۰-۱۱)	۳۱۷	۳۱۱	کے برابر ہونا	
	اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے اموال کو	۳۱۸	۲۹۷	لقد جاء کم رسول من انفسکم -	
۳۳۳	بددعا دینے کی ممانعت			الایہ کے وظیفہ سے رسول اللہ ﷺ کی	
۳۳۳	کافر کے مشرّف ہونے کی وجوہ	۳۱۹	۳۱۲	زیارت	
	نزول مصیبت کے وقت مسلمانوں کی فکر اور	۳۲۰		حسبی اللہ لا الہ الاہ پر زہنے کی	۲۹۸
۳۳۳	عمل کیا ہونا چاہیے؟		۳۱۲	فضیلت	
۳۳۶	کافر کو مشرّف فرمانے کی وجوہ	۳۲۱	۳۱۳	کلماتِ شکر	۲۹۹
۳۳۷	اللہ تعالیٰ کے آزمانے پر اعتراض کا جواب	۳۲۲			
۳۳۷	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	۳۲۳	۳۱۵		
۳۳۸	لننظر کے چند مشہور تراجم	۳۲۴			
	مشرکین کا یہ مطالبہ کہ آپ قرآن مجید کو بدل	۳۲۵	۳۱۷	سورہ کاتم اور اس کی وجہ تسمیہ	۳۰۰
۳۳۸	ڈالیں		۳۱۸	سورہ یونس کا زمانہ نزول	۳۰۱
۳۳۹	قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات	۳۲۶	۳۱۸	سورہ التوبہ اور سورہ یونس کی مناسبت	۳۰۲
۳۳۹	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر ایک دلیل	۳۲۷	۳۱۹	سورہ یونس کے مسائل اور مقاصد	۳۰۳
۳۴۰	قرآن مجید کا وحی الہی ہونا	۳۲۸		السرمد تلک کثایت الکتاب الحکیم	۳۰۴
۳۴۰	غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلائل	۳۲۹	۳۲۰	(۱-۱۰)	
	بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دینے میں	۳۳۰	۳۲۲	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل	۳۰۵
۳۴۰	مشرکین کے نظریات			آپ کی نبوت پر مشرکین کا تعجب اور اس کا	۳۰۶
	جس چیز کے وجود کا اللہ کو علم نہ ہو اس کا وجود	۳۳۱	۳۲۳	ازالہ	
۳۴۱	محال ہے		۳۲۴	قدم صدق کے متعدد محال	۳۰۷
	ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر	۳۳۲	۳۲۵	آپ کو ساحر کہنے کا جواب	۳۰۸
۳۴۱	احادیث اور آثار		۳۲۵	مشرکین کے تعجب کو زائل کرنا	۳۰۹
۳۴۲	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل	۳۳۳	۳۲۵	حشر اجساد پر دلائل	۳۱۰

سورہ یونس

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	قرآن مجید کی پیش گوئیاں جو مستقبل میں پوری ہوئیں	۳۵۶	۳۳۳	واذا اذقنا الناس رحمة (۳۰-۳۱)	۳۳۳
۳۶۵	قرآن مجید کے تفصیل الکتاب ہونے کا معنی	۳۵۷	۳۳۶	مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا	۳۳۵
۳۶۶	وان کذبوک فقل لی عملی	۳۵۸	۳۳۷	مصائب اور شدائد میں صرف اللہ کو پکارنا	۳۳۶
۳۶۷	(۳۱-۵۳)		۳۳۷	علامہ آلوسی، شیخ شوکانی اور نواب بھوپالی کا	
۳۶۸	ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے	۳۵۹	۳۳۸	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد	
۳۶۹	کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۳۶۰	۳۳۸	کو ناجائز قرار دینا	
۳۷۰	قیام دنیا کو کم سمجھنے کی وجوہات	۳۶۱	۳۳۹	علامہ آلوسی وغیرہ کی عبارات پر تبصرہ	
۳۷۱	ہر امت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو	۳۶۲	۳۳۹	وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کے معاملہ میں	
۳۷۲	محمل			راہ اعتدال	
۳۷۳	اس سوال کا جواب کہ مشرکین پر عذاب	۳۶۳	۳۴۰	بغاوت کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	
۳۷۴	جلدی کیوں نہیں آتا		۳۴۱	زمین کی پیداوار کی دنیا کے ساتھ مثال	
۳۷۵	نزول عذاب کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ	۳۶۴	۳۴۲	جنت کے داعی کے متعلق احادیث	
۳۷۶	نہیں		۳۴۳	جنت کو دار السلام کہنے کی وجوہات	
۳۷۷	وہابی علماء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے	۳۶۵	۳۴۴	محشر میں مومنین کی عزت اور سرفرازی	
۳۷۸	ضرر اور نفع پہنچانے کی مطلقاً نفی کرنا		۳۴۵	اللہ تعالیٰ کا دیدار	
۳۷۹	آپ سے ضرر اور نفع بالذات پہنچانے کی نفی	۳۶۶	۳۴۶	اللہ تعالیٰ کے حجاب سے کیا مراد ہے؟	
۳۸۰	کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً		۳۴۷	محشر میں کفار کی ذلت اور رسوائی	
۳۸۱	اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی	۳۶۷	۳۴۸	قیامت کے دن شرکاء کی مشرکین سے بیزاری	
۳۸۲	نفع رسائی کے متعلق قرآن مجید کی آیات			اور شرکاء کا مصداق	
۳۸۳	اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی	۳۶۸	۳۴۹	شرکاء کے کلام پر کذب کا اعتراض اور اس	
۳۸۴	نفع رسائی کے متعلق احادیث اور آثار	۳۶۹		کے جوابات	
۳۸۵	وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے	۳۷۰	۳۵۰	قل من یرزقکم من السماء	
۳۸۶	استمداد استغاثہ کے جواز کے متعلق احادیث			والارض (۳۰-۳۱)	
۳۸۷	اور آثار		۳۵۱	توحید کے اثبات پر دلائل	
۳۸۸	وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کی تکفیر کا	۳۷۱	۳۵۲	شرک کا بطلان	
۳۸۹	بطلان		۳۵۳	قیاس اور خبر واحد کے حجت ہونے پر ایک	
۳۹۰	عذاب کی وعید کا برحق ہونا	۳۷۲		اعتراض کا جواب	
۳۹۱			۳۵۴	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر دلائل	
۳۹۲			۳۵۵	تورات میں نبی ﷺ کی آمد کی خوشخبری	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۹۵	حسن نہ ہونے اور مدرج ہونے کے جوابات		۳۸۲	ولوان لکل نفس ظلمت مافی الارض (۶۰-۵۳)	۳۷۲
۳۹۷	معارضہ اور اس کا جواب	۳۸۸	۳۸۳	ظالموں سے فدیہ نہ قبول کیا جانا	۳۷۳
۳۹۷	روایت حدیث میں امام محمد بن اسحاق کا مقام	۳۸۹	۳۸۴	ظالموں کے پشیمانی چھپانے کی توجیہ	۳۷۴
۳۹۹	امام محمد بن اسحاق کو کاذب کہنے کا جواب	۳۹۰	۳۸۴	ظالموں کے درمیان عدل سے فیصلہ کی توجیہ	۳۷۵
۴۰۰	عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ پر جرح کا جواب	۳۹۱	۳۸۴	وعید عذاب کے برحق ہونے پر دلائل	۳۷۶
۴۰۲	عمر بن شعیب کی اس روایت سے استدلال کرنے والے علماء	۳۹۲	۳۸۵	ظاہری ملکیت پر نازاں ہونے والوں کو متنبہ فرماتا	۳۷۷
۴۰۳	بعض تابعین کے اقوال کی توجیہ	۳۹۳	۳۸۵	روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا	۳۷۸
۴۰۳	تعویذ لکانے کے جواز کے متعلق فقہاء تابعین کے فتاویٰ	۳۹۴	۳۸۶	قرآن مجید سے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کے چار مدارج	۳۷۹
۴۰۳	دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق علامہ شامی حنفی کی تصریح	۳۹۵	۳۸۷	قرآن مجید سے جسمانی شفاء حاصل کرنے کی تحقیق	۳۸۰
۴۰۴	دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور دیوبندی عالم شیخ محمد زکریا سہارنپوری کی تصریح	۳۹۶	۳۸۸	نمیمہ اور نولہ وغیرہ کے معنی اور ان کا شرعی حکم	۳۸۱
۴۰۵	دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی تصریح	۳۹۷	۳۸۹	قرآن مجید سے جسمانی شفاء کے حصول کے متعلق احادیث اور آثار	۳۸۲
۴۰۵	تعویذ لکانے کے جواز کے متعلق علامہ ذہبی کی تصریح اور خواب میں ڈرنے کا تعویذ	۳۹۸	۳۹۲	کلمات طیبہ سے دم کرنے کے جواز کے متعلق احادیث	۳۸۳
۴۰۶	تعویذ لکانے کے متعلق علامہ ابن قیم جوزی کی تصریحات اور بخار کا تعویذ	۳۹۹	۳۹۳	دم اور تعویذ کی ممانعت کے متعلق حضرت ابن مسعود کا ارشاد اور امام بغوی سے اس کی توجیہ	۳۸۴
۴۰۶	وضع حمل میں تنگی اور مشکل کے متعلق تعویذ	۴۰۰	۳۹۳	تعویذ اور دم کی ممانعت کے متعلق ابن مکیم اور حضرت عقبہ بن عامر کا ارشاد اور امام بیہقی، امام ابن الاثیر اور دیگر علماء سلف کی توجیہ	۳۸۵
۴۰۸	نکسیر کے متعلق تعویذ	۴۰۱	۳۹۳	تعویذ لکانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت اور اس کے حوالہ جات	۳۸۶
۴۰۸	دل یا سینہ میں درد (انجانا) کے لیے تعویذ	۴۰۲	۳۹۳	حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت کے صحیح اور	۳۸۷
۴۰۸	میعادی بخار (ٹائیفاؤڈ) مثلاً تین دن کے بخار کے لیے تعویذ	۴۰۳	۳۹۳		
۴۰۸	عرق النساء کے لیے تعویذ	۴۰۴			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۲۵	اولیٰ کی صفات	۴۲۵	۴۰۸	گنہگار کے لیے تعویذ	۴۰۵
	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ اور خوفِ خدا	۴۲۶	۴۰۸	ڈاڑھ کے درد کے لیے تعویذ	۴۰۶
۴۲۷	حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا	۴۲۷	۴۰۸	پھوڑے، پھنسیوں اور آبلوں اور ہر قسم کی انفیکشن کے لیے تعویذ	۴۰۷
۴۲۸	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا	۴۲۸	۴۰۹	اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مصداق	۴۰۸
۴۲۹	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا	۴۲۹	۴۰۹	رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی، آپ کی آمد اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا اظہار	۴۰۹
۴۳۰	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک روایت پر علامہ قرطبی کا تبصرہ	۴۳۰	۴۱۰	مشرکین کی خود ساختہ شریعت کی مذمت	۴۱۰
۴۳۱	امام اعظم کے اخلاق، زہد و تقویٰ، عبادت اور خوفِ خدا	۴۳۱	۴۱۲	تشفیع اور بناوٹی زہد اللہ کی ناشکری ہے	۴۱۱
۴۳۲	افعالِ خارقہ (خلافِ عادت کاموں) کی اقسام اور کرامت کی تعریف	۴۳۲	۴۱۳	وماتکون فی شان و ماتتسلو امنہ (۶۱-۷۰)	۴۱۲
۴۳۳	اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات	۴۳۳	۴۱۵	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے مناسبت	۴۱۳
۴۳۴	اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث صحیحہ اور کرامت کے اختیاری ہونے میں علماء کی تصریحات	۴۳۴	۴۱۶	زمین کے ذکر کو آسمان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ	۴۱۴
۴۳۵	اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں غم اور خوف کا ثبوت	۴۳۵	۴۱۶	ولی کالغوی معنی	۴۱۵
۴۳۶	اولیاء اللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ	۴۳۶	۴۱۷	ولی کا اصطلاحی معنی	۴۱۶
۴۳۷	اولیاء اللہ کے لیے آخرت کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ	۴۳۷	۴۱۷	ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق احادیث اور آثار	۴۱۷
۴۳۸	اولیاء اللہ کے غم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ	۴۳۸	۴۱۸	اللہ اپنے محبوب بندے کے کان اور آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کی توجیہ	۴۱۸
۴۳۹	اولیاء اللہ کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت	۴۳۹	۴۱۹	اللہ تعالیٰ کے تردد کرنے کی توجیہ	۴۱۹
			۴۲۰	ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث	۴۲۰
			۴۲۱	ابدال کے متعلق احادیث اور آثار اور ان کی فنی حیثیت	۴۲۱
			۴۲۲	احادیث ابدال کا معنا متواتر ہونا	۴۲۲
			۴۲۳	احادیث ابدال کی مزید توثیق	۴۲۳
			۴۲۴	نجباء اور نقباء وغیرہ کی تعداد	۴۲۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۸	متفرع ہونا			نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا کفار کے	۲۳۰
	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں	۲۶۰	۲۳۷	خوف کی وجہ سے نہ تھا	
۲۵۸	کی دعا کے دو محمل		۲۳۷	شرک کے ابطال پر دلائل	۲۳۱
۲۵۹	بنی اسرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محامل	۲۶۱	۲۳۸	اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا محامل ہونا	۲۳۲
	فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی	۲۶۲	۲۳۹	کفار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل	۲۳۳
۲۶۰	دعائے ضرر کی توجیہ		۲۳۹	واتل علیہم نبانح (۸۲-۷۱)	۲۳۴
	اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی دعا کی	۲۶۳	۲۵۱	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	۲۳۵
۲۶۰	توجیہات			ربط آیات اور انبیاء سابقین کے قصص بیان	۲۳۶
	دعا کی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جہالت	۲۶۳	۲۵۱	کرنے کی حکمتیں	
۲۶۱	ہے			حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو مقدم کرنے	۲۳۷
	بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور	۲۶۵	۲۵۲	کی وجہ	
۲۶۱	فرعون کا غرق ہونا			حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی	۲۳۸
۲۶۲	فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	۲۶۶	۲۵۲	تاگواری کی وجوہ	
	فرعون کے منہ میں حضرت جبرئیل کا مٹی ڈالنا	۲۶۷		حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین میں کفار کا	۲۳۹
۲۶۳	اور اس پر اشکال کا جواب		۲۵۲	کوئی خوف تھا نہ ان سے کسی نفع کی توقع تھی	
۲۶۳	قرآن مجید کی صداقت	۲۶۸		حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کا	۲۵۰
۲۶۳	ولقد بوا انابنی اسرائیل (۱۰۶-۹۳)	۲۶۹	۲۵۳	انجام	
	بظاہر رسول اللہ ﷺ کی طرف قرآن میں شک	۲۷۰	۲۵۴	کافروں کے دلوں پر مہر لگانے کی توجیہ	۲۵۱
	کرنے کی نسبت اور اس سے عام لوگوں کا مراد		۲۵۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	۲۵۲
۲۶۶	ہونا			فرعون اور اس کے درباریوں کے قول میں	۲۵۳
۲۶۷	شک کی نسبت کا عام لوگوں کی طرف ہونا	۲۷۱		تعارض کا جواب اور حضرت موسیٰ کے معجزہ کا	
۲۶۷	شک کی نسبت کے متعلق بعض تراجم	۲۷۲	۲۵۴	جادو نہ ہونا	
۲۶۸	اللہ تعالیٰ کے کلمات کا معنی	۲۷۳	۲۵۵	قوم فرعون کے بیان کردہ دو عذر	۲۵۴
۲۶۹	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	۲۷۴	۲۵۵	جادو کا حکم دینے کی توجیہ	۲۵۵
۲۶۹	حضرت یونس علیہ السلام کا نام و نسب	۲۷۵	۲۵۵	فما امن لموسیٰ الا ذریہ (۹۲-۸۳)	۲۵۶
	حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن	۲۷۶		ربط آیات اور فرعون کے واقعہ سے نبی صلی	۲۵۷
۲۶۹	مجید کی آیات		۲۵۷	اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	
	حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں	۲۷۷	۲۵۷	حضرت موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کا صداق	۲۵۸
۲۷۰	احادیث			اسلام اور ایمان کا معنی اور اس معنی پر توکل کا	۲۵۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۸۵	کردی ہے	۴۷۰	۴۷۸	حضرت یونس علیہ السلام کی سوانح	۴۷۸
۴۸۵	لفظ "وکیل" کے چند تراجم	۴۹۶	۴۷۹	ربط آیات	۴۷۹
۴۸۵	زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم	۴۹۷	۴۸۰	آثار عذاب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام	۴۸۰
۴۸۶	سورہ یونس کی اختتامی دعا	۴۹۸	۴۷۳	کی قوم کا توبہ کرنا	۴۷۳
۴۸۷	سورہ ہود	۴۷۳	۴۸۱	حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول	۴۸۱
۴۸۹	سورہ کاتام	۴۹۹	۴۷۳	کرنے اور فرعون کی توبہ قبول نہ کرنے کی وجہ	۴۷۳
۴۹۰	سورہ ہود کی آیات، زمانہ نزول اور نزول کا	۵۰۰	۴۸۲	حضرت یونس علیہ السلام پر گرفت کی توجیہ اور	۴۸۲
۴۹۰	مقام	۴۷۶	۴۷۵	نگاہ رسالت میں ان کا بلند مقام	۴۷۵
۴۹۰	سورہ ہود کی سورہ یونس کے ساتھ مناسبت	۵۰۱	۴۸۳	حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش پر سید	۴۸۳
۴۹۰	سورہ ہود کے متعلق احادیث	۵۰۲	۴۷۶	مودودی کی تنقید	۴۷۶
۴۹۱	سورہ ہود کے مضامین	۵۰۳	۴۷۷	سید مودودی کی تنقید پر مصنف کا تبصرہ	۴۷۷
۴۹۲	الرنند کتب احکمت ایتہ ثم	۵۰۴	۴۸۵	روئے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بنانا، اللہ	۴۸۵
۴۹۳	فصلت (۱-۵)	۵۰۵	۴۷۸	تعالیٰ کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت	۴۷۸
۴۹۳	قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی	۵۰۶	۴۷۹	میں نہیں	۴۷۹
۴۹۳	استغفار کے حکم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ	۵۰۷	۴۸۶	انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق	۴۸۶
۴۹۳	دنیا میں کافروں کی خوشحالی اور مسلمانوں کی	۵۰۸	۴۸۷	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلیل	۴۸۷
۴۹۳	بد حالی کی توجیہ	۵۰۹	۴۸۸	مومنوں کو ثواب عطا فرمانے کا وجوب اللہ تعالیٰ	۴۸۸
۴۹۷	تہدید اور تبشیر کا مترادف	۵۱۰	۴۸۰	کے وعدہ کی وجہ سے ہے	۴۸۰
۴۹۷	منافقین کے سینہ موڑنے کے محال	۵۱۱	۴۸۹	اسلام کافر تہ کے مطابق ہونا اور کفر کا خلاف	۴۸۹
۴۹۸	وما من دابة فی الارض (۸-۶)	۵۱۲	۴۸۱	فطرت ہونا	۴۸۱
۴۹۹	ربط آیات	۵۱۳	۴۸۱	ریا کاری کا شرک خفی ہونا	۴۸۱
۴۹۹	دابة کا معنی	۵۱۴	۴۸۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے منع کرنے	۴۸۱
۴۹۹	مستقر اور مستودع کا معنی	۵۱۵	۴۸۲	میں امت کی طرف تعریض ہے	۴۸۲
۴۹۹	اللہ تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثالیں	۵۱۶	۴۸۲	وان یمسک اللہ بضر (۱۰۹-۱۰۷)	۴۸۲
۵۰۰	آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنا	۵۱۷	۴۸۳	اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود اپنے بندوں کو نفع	۴۸۳
			۴۸۳	پہنچانا ہے نہ کہ ضرر پہنچانا	۴۸۳
			۴۸۳	اپنے گناہوں کو چھپانا واجب ہے اور ظاہر کرنا	۴۸۳
			۴۸۳	حرام ہے	۴۸۳
			۴۹۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تبلیغ	۴۹۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۱۹	رکھتے تھے تو ان سے گرفت کیوں ہوئی؟	۵۳۳	۵۰۰	عرش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث	۵۱۷
۵۲۰	نیکوں کے لازماً قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے	۵۳۴	۵۰۱	عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراء و نظریات	۵۱۸
۵۲۱	ولقد ارسلنا نوحاً وحالاً قومہ (۲۵-۳۵)	۵۳۵	۵۰۵	ربط آیات	۵۱۹
۵۲۳	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	۵۳۶	۵۰۵	قرآن مجید اور احادیث میں لفظ "امت" کے اطلاقات	۵۲۰
۵۲۳	انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت	۵۳۷	۵۰۶	ولئن اذقنا الانسان منارحمہ (۹-۱۷)	۵۲۱
۵۲۳	حضرت نوح کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات	۵۳۸	۵۰۸	مصیبت میں کفار کا ایوس ہونا اور راحت میں ناشکری کرنا	۵۲۲
۵۲۳	بشر کا معنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت	۵۳۹	۵۰۹	مومن کے لیے مصیبت اور راحت دونوں کا خیر ہونا	۵۲۳
۵۲۵	نبی کی خصوصیات	۵۴۰	۵۱۰	کیا کفار کے طعن و تشنیع کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تبلیغ میں کمی کرنے والے تھے؟	۵۲۴
۵۲۵	قوتِ باصرہ	۵۴۱	۵۱۲	قرآن مجید کا معجز ہونا	۵۲۵
۵۲۶	قوتِ سامعہ	۵۴۲	۵۱۲	ریا کاری کی مذمت اور اس پر وعید	۵۲۶
۵۲۶	قوتِ شامہ	۵۴۳	۵۱۳	تمام اہل ملل پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وجوب	۵۲۷
۵۲۶	قوتِ ذائقہ	۵۴۴	۵۱۵	غیر متمدن دنیا میں رہنے والوں کے لیے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے نہ کہ رسالت پر	۵۲۸
۵۲۷	قوتِ لامہ	۵۴۵	۵۱۵	ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذباً (۱۸-۲۳)	۵۲۹
۵۲۷	فرشتہ کو نبی نہ بتانے کی وجوہ	۵۴۶	۵۱۷	روز قیامت کفار کے خلاف گواہی دینے والوں کے مصادیق	۵۳۰
۵۲۷	پس ماندہ اور کمزور لوگوں کا ایمان لانا نبوت میں	۵۴۷	۵۱۸	کفار مکہ کی چودہ وجوہ سے مذمت	۵۳۱
۵۲۸	طعن کا موجب نہیں	۵۴۸	۵۱۹	کفار کو دگنا عذاب دینا، ایک برائی پر ایک عذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے	۵۳۲
۵۲۸	اللہ تعالیٰ کے نزدیک اغنیاء کی بہ نسبت فقراء کا مقرب ہونا	۵۴۸	۵۵۰	جب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں	۵۳۳
۵۲۸	طبقاتی فرق اور نام و نسب فضیلت کا موجب نہیں	۵۴۹	۵۵۱		
۵۲۹	بشر ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے	۵۵۰	۵۵۲		
۵۳۰	تبلیغ دین پر اجر طلب نہ کرنے سے حضرت نوح کا اپنی نبوت پر استدلال	۵۵۱	۵۵۳		
۵۳۰	مومنوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی وجوہ	۵۵۲			
۵۳۰	شریعت میں مومن کی تکریم اور کافر کی تذلیل	۵۵۳			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	حضرت نوح علیہ السلام کے جوابدہ اڑانے کا عمل	۵۶۹	۵۳۱	مطلوب ہے	
۵۳۵	تور کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق	۵۷۰		حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی ذات سے اللہ کے خزانے اور علم غیب کی نفی کرنا اور اس کی توجیہ	۵۵۳
۵۳۶	حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل	۵۷۱	۵۳۲	جدال کا معنی	۵۵۵
۵۳۶	ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا	۵۷۲	۵۳۳	حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات	۵۵۶
۵۳۷	حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر کیوں بلایا جبکہ وہ کافر تھا؟	۵۷۳	۵۳۳	جب اللہ تعالیٰ کفار کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے تو پھر گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟	۵۵۷
۵۳۸	وقیل یارض ابلغی ماء ک (۳۹-۴۳)	۵۷۴		انسان کے افعال کی قدرت میں مذاہب متکلمین اور جبر و قدر کی وضاحت	۵۵۸
۵۳۸	مشکل الفاظ کے معنی	۵۷۵	۵۳۴	واوحی الی نوح انه لیس یومن من قومک (۳۶-۳۳)	۵۵۹
۵۵۰	اللہ اور اس کے رسول کا جمادات کو خطاب کرنا	۵۷۶		امتناع کذب اور مسئلہ تقدیر	۵۶۰
۵۵۰	جو دی پہاڑ پر کشتی ٹھہرنے کی تفصیل	۵۷۷	۵۳۴	جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریح	۵۶۱
۵۵۱	تکبر کی مذمت اور تواضع کی تعریف	۵۷۸		اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں متاخرین کا مسلک	۵۶۲
۵۵۲	ان بچوں اور جانوروں کا کیا قصور تھا جن کو طوفان میں غرق کیا گیا؟	۵۷۹	۵۳۵	اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں متقدمین کا مسلک	۵۶۳
۵۵۲	اللہ تعالیٰ کسی کافر پر رحم نہیں فرمائے گا	۵۸۰		اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۵۶۴
۵۵۳	حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل	۵۸۱	۵۳۷	اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے متعلق	۵۶۵
۵۵۳	منکرین عصمت کا حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض اور اس کا جواب	۵۸۲		احادیث	
۵۵۴	حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق	۵۸۳	۵۳۸	متاخرین کے اختلاف کا منشاء	۵۶۶
۵۵۵	امام رازی کی تقریر		۵۳۹	کشتی بنانے کی کیفیت، اس کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل	۵۶۷
۵۵۵	حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید ابوالاعلیٰ مودودی کا تبصرہ	۵۸۴		کشتی بنانے کا مذاق اڑانے کی وجوہ	۵۶۸
۵۵۶	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جمہور مفسرین کی توجیہ	۵۸۵	۵۳۱		
۵۵۷	حرام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا عدم جواز	۵۸۶	۵۳۲		
۵۵۷	ایمان اور تقویٰ کے بغیر نسلی امتیاز اور نسبی برتری کی کوئی وقعت نہیں	۵۸۷	۵۳۳		
۵۵۸			۵۳۵		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کی	۶۰۸		اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کا	۵۸۸
۵۷۶	امیدوں کی وجوہات		۵۵۹	معنی	
۵۷۶	شک اور مریب کا فرق	۶۰۹	۵۶۰	وصولِ نعمت میں عوام اور خواص کا فرق	۵۸۹
	اپنی نبوت پر یقین کے باوجود حضرت صالح علیہ	۶۱۰	۵۶۱	غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث	۵۹۰
۵۷۷	السلام نے بصورت شک کیوں بات کی؟		۵۶۱	والی عادا خواہم ہوں (۲۰-۵۰)	۵۹۱
۵۷۷	انبیاء کرام علیہم السلام کی تبلیغ کی ترتیب	۶۱۱		حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہنے کی	۵۹۲
	حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے معجزہ	۶۱۲	۵۶۳	توجیہ	
۵۷۷	ہونے کی وجوہ			امت کے لیے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر	۵۹۳
۵۷۸	اونٹنی سے قوم کی دشمنی کا سبب	۶۱۳	۵۶۳	بعض علماء کے دلائل	
۵۷۸	اونٹنی کو قتل کرنے کی وجوہ	۶۱۳		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم	۵۹۳
۵۷۸	اونٹنی کو قتل کرنے کی تفصیل	۶۱۵	۵۶۳	جواز پر دلائل	
۵۷۹	قوم ثمود پر عذاب نازل ہونے کی تفصیل	۶۱۶		بڑے بھائی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم	۵۹۵
۵۸۰	"الْحَزْرِي" کا معنی	۶۱۷	۵۶۶	کی تلقین کرنا غلط ہے	
۵۸۱	ولقد جاءت رسلنا (۷۶-۶۹)	۶۱۸		حضرت صالح علیہ السلام نے دلائل قائم کیے	۵۹۶
۵۸۲	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	۶۱۹	۵۶۷	بغیر توحید کی دعوت کیوں دی تھی؟	
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے	۶۲۰		انعتیں عطا کرنے کے بعد ان سے استفادہ کی	۵۹۷
	والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی بشارت میں		۵۶۸	توفیق عطا فرمانا	
۵۸۲	مختلف اقوال		۵۶۹	حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ	۵۹۸
۵۸۳	فرشتوں کے سلام کے الفاظ	۶۲۱	۵۶۹	خلاصہ آیات	۵۹۹
۵۸۳	سلام کے متعلق احادیث	۶۲۲	۵۷۰	قوم عاد پر نزولِ عذاب کا پس منظر اور پیش منظر	۶۰۰
	جن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور جن لوگوں	۶۲۳	۵۷۱	والی نمودا خواہم صالحا (۶۸-۶۱)	۶۰۱
	کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے یا		۵۷۳	انسان کو زمین سے پیدا کرنے کے دو محمل	۶۰۲
۵۸۳	مکروہ ہے			انسان اور زمین کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کے	۶۰۳
	سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی	۶۲۴	۵۷۳	وجود پر استدلال	
۵۸۵	احکام اور مسائل			نیکی کاروں اور بدکاروں کے لیے دنیا کا ظرف	۶۰۴
۵۸۶	اسلام میں مہمان نوازی کی حیثیت	۶۲۵	۵۷۴	ہونا	
	مہمان نوازی کے متعلق احادیث اور ان کی	۶۲۶	۵۷۴	عمری کا معنی	۶۰۵
۵۸۷	تشریح		۵۷۵	عمری کے متعلق احادیث	۶۰۶
۵۸۷	مہمان نوازی کے متعلق مذاہب فقہاء	۶۲۷	۵۷۵	عمری میں مذاہب ائمہ	۶۰۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	حضرت لوط علیہ السلام کا نجات پانا اور بد معاش	۶۳۷	۵۸۸	سہمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث	۶۲۸
۶۰۲	کافروں کا بھاگنا			سہمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے	۶۲۹
۶۰۳	قوم لوط کی بستی اٹنے کے متعلق روایات	۶۳۸	۵۸۸	جوابات	
۶۰۳	”بجیل“ کا معنی	۶۳۹		حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ	۶۳۰
۶۰۳	قوم لوط کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات	۶۵۰	۵۸۹	ہونے کی وجوہ	
۶۰۳	اس امت کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات	۶۵۱		حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سہمانوں کے	۶۳۱
	والی مدینہ انعام شعیب	۶۵۲	۵۹۰	فرشتے ہونے کا علم تھا یا نہیں	
۶۰۳	(۸۸-۸۳)			پچھلی امتوں میں بھی کھانے سے پہلے ”بسم	۶۳۲
۶۰۶	ناپ اور تول میں کمی کرنے کی ممانعت	۶۵۳	۵۹۰	اللہ“ پڑھنا تھا	
	لوگوں کو نقصان نہ پہنچانے اور فساد نہ کرنے	۶۵۴	۵۹۱	حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجوہ	۶۳۳
۶۰۷	کے محال		۵۹۱	”یا ویلسی“ کا معنی اور ترجمہ	۶۳۴
۶۰۸	”بقیۃ اللہ“ کا معنی	۶۵۵	۵۹۲	اہل بیت کے مصداق کی تحقیق	۶۳۵
۶۰۹	حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ کی تشریح	۶۵۶		فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے	۶۳۶
	قوم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی	۶۵۷	۵۹۲	مباحثہ پر ایک اعتراض کا جواب	
۶۰۹	تقریر			فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا	۶۳۷
	وبقوم لایجر منکم شقاقی	۶۵۸	۵۹۳	مباحثہ	
۶۱۰	(۸۹-۹۵)		۵۹۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی	۶۳۸
	حضرت شعیب علیہ السلام کے خطاب کا ترجمہ	۶۵۹		ولما جاءت رسلنا لوطا سیئہم	۶۳۹
۶۱۱	اور قوم کو نصیحت		۵۹۶	(۷۷-۸۳)	
۶۱۲	”فقہ“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۶۰	۵۹۷	مشکل الفاظ کے معانی	۶۴۰
	کفار حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو	۶۶۱	۵۹۷	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچنا	۶۴۱
۶۱۳	کیوں نہیں سمجھتے تھے؟		۵۹۸	حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجوہ	۶۴۲
	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی	۶۶۲		حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صلیبی بیٹیوں کو	۶۴۳
۶۱۳	تفصیل		۵۹۸	ناکح کے لیے پیش کیا تھا یا قوم کی بیٹیوں کو؟	
	ولقد ارسلنا موسیٰ بایتنا	۶۶۳	۵۹۹	قوم کی بیٹیوں کے ارادہ پر دلائل	۶۴۴
۶۱۳	(۹۶-۱۰۹)			حضرت لوط علیہ السلام کا مضبوط قبیلہ کی پناہ کو	۶۴۵
۶۱۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	۶۶۴	۶۰۰	طلب کرنا	
	”سلطان“ کا معنی اور علماء کی سلطنت کا	۶۶۵		اللہ تعالیٰ کی پناہ کی بجائے مضبوط قبیلہ کی پناہ کو	۶۴۶
۶۱۷	بادشاہوں کی سلطنت سے زیادہ قوی ہونا		۶۰۱	طلب کرنے کی توجیہات	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۳۱	دائمی عذاب پر امام رازی کے دو اعتراضوں کا جواب	۶۸۳	۶۱۸	آیت، سلطان اور سلطان مبین کا باہمی فرق	۶۲۶
۶۳۱	کفار کے دائمی عذاب پر قرآن مجید سے دلائل	۶۸۳	۶۱۸	فرعون کی گمراہی اور روزخ میں اس کا اپنی قوم کا مقتدا ہونا	۶۲۷
۶۳۲	زیر تفسیر آیت میں کفار کے دائمی عذاب سے استثناء کی توجیہات	۶۸۵	۶۱۸	انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے قصص اور واقعات بیان کرنے کے فوائد	۶۲۸
۶۳۳	اہل جنت کے جنت میں اور اہل نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث	۶۸۶	۶۱۹	کفار کو عذاب و تعدد اور حکمت کا تقاضا ہے	۶۲۹
۶۳۳	کفار کے حصوں کا بیان	۶۸۷	۶۲۰	گزشتہ قوموں کی برائیوں کے مرتکبین پر آنے والے عذاب سے ڈرنا چاہیے	۶۳۰
۶۳۵	ولقد اتینا موسیٰ الكتاب فاختلف فیہ (۱۱۰-۱۲۳)	۶۸۸	۶۲۱	وقوع قیامت کی دلیل	۶۳۱
۶۳۷	توحید و رسالت کا انکار کفار کی پرانی روش ہے	۶۸۹	۶۲۲	کیا حشر کے دن لوگوں کلباتیں کرنا مطلقاً ممنوع ہے؟	۶۳۲
۶۳۷	کفار مکہ پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی وجوہ	۶۹۰	۶۲۲	آیا حشر کے دن لوگ "سعید" اور "شقی" میں منحصر ہوں گے یا نہیں؟	۶۳۳
۶۳۸	وعد اور وعید کی جامع آیت	۶۹۱	۶۲۳	لوگوں کے سعید اور شقی ہونے کے متعلق احادیث	۶۳۴
۶۳۹	"استقامت" کا لغوی اور عرفی معنی	۶۹۲	۶۲۳	جب انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں شقی ہونا لکھ دیا تو پھر معصیت میں اس کا کیا تصور ہے؟	۶۳۵
۶۴۰	"استقامت" کا شرعی معنی	۶۹۳	۶۲۳	"تقدیر معلق" اور "تقدیر مبرم" کے متعلق احادیث	۶۳۶
۶۴۰	صوفیاء کے نزدیک استقامت کا معنی	۶۹۳	۶۲۵	قضاء مبرم کو کوئی ٹال نہیں سکتا	۶۳۷
۶۴۱	"رکون" کا لغوی اور عرفی معنی	۶۹۵	۶۲۶	تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے	۶۳۸
۶۴۱	"رکون" کا شرعی معنی	۶۹۶	۶۲۶	تقدیر میں بحث کرنا ممنوع ہے	۶۳۹
۶۴۲	کفار، بد مذہبوں اور فاسقوں سے میل جول کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۶۹۷	۶۲۷	"سعادت" اور "شقاوت" کا معنی	۶۴۰
۶۴۲	کفار، بد مذہبوں اور فاسقوں سے میل جول کی ممانعت کے متعلق احادیث	۶۹۸	۶۲۷	"زفیر" اور "شہیق" کا معنی	۶۴۱
۶۴۳	اکابر صحابہ پر شیعہ کا سب و شتم اور زیر تفسیر آیت سے اس کا جواب	۶۹۹	۶۲۷	اس اعتراض کا جواب کہ کفار کے عذاب کو آسمان اور زمین کے قیام پر موقوف کرنا دوام عذاب کے منافی ہے	۶۴۲
۶۴۳	نماز کی اہمیت	۷۰۰	۶۲۹		
۶۴۳	دن کی دو طرفوں میں فقہاء صحابہ و تابعین کے اقوال	۷۰۱	۶۲۹		
۶۴۳	نماز فجر کو سفید اور روشن وقت میں پڑھنے، عصر کو دو مثل سایہ کے بعد پڑھنے اور وتر	۷۰۲	۶۳۰		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۶۰	کا تذکرہ		۶۴۴	کے وجوب میں امام ابو حنیفہ کی تائید	
۶۶۱	سورۃ یوسف کے مقاصد اور اہداف	۷۱۹	۷۰۳	پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث	
۶۶۲	حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق احادیث	۷۲۰	۶۴۵	پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ دیگر عبادات سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث	
۶۶۳	الرند تلک ایت الکتب المبین (۱-۶)	۷۲۱	۷۰۳	سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہونے کے دو سبب	
۶۶۴	قرآن مجید کے مبین ہونے کی وجوہ	۷۲۲	۶۴۸	دنیا میں شرک قابل درگزر ہے، ظلم لائق درگزر نہیں	
۶۶۴	اللہ تعالیٰ کے لیے کَعَلَّ کا معنی	۷۲۳	۶۴۹	دنیا کے مشہور فرقتے	
۶۶۵	”قصہ“ کا لغوی معنی	۷۲۴	۶۵۰	اختلاف مذموم ہونے کے باوجود مجتہدین کا اختلاف کیوں محمود ہے؟	
۶۶۵	سورۃ یوسف کو ”احسن القصص“ فرمانے کی وجوہات	۷۲۵	۷۰۷	اللہ، رسول اور کتاب ایک ہے پھر اسلام میں فرتے کیوں ہیں؟	
۶۶۵	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھنا	۷۲۶	۷۰۸	ابتداءً اسلام قبول کرنے والا کس فرتے میں جائے	
۶۶۶	ان ستاروں کے اسماء	۷۲۷	۷۰۹	جنم کا جنوں اور انسانوں سے بھرنا	
۶۶۶	خواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر	۷۲۸	۷۱۰	انبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمت	
۶۶۷	”نیند“ کی تعریف	۷۲۹	۷۱۱	حق، نصیحت اور عبرت کا فرق	
۶۶۷	”خواب“ کی تعریف	۷۳۰	۶۵۳	حرف آخر	
۶۶۷	خواب کی اقسام	۷۳۱	۷۱۲	سورۃ یوسف	
۶۷۰	اتجھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم	۷۳۲	۶۵۳	سورۃ یوسف کا نام، اس کا مقام نزول اور زمانہ نزول	
۶۷۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور بیداری میں زیارت	۷۳۳	۶۵۳	حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہما السلام	
۶۷۲	چند خوابوں کی تعبیروں کے متعلق احادیث	۷۳۴	۶۵۵		
۶۷۵	خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت	۷۳۵	۶۵۶		
۶۷۵	بھائیوں کو خواب سنانے سے منع کرنے کا سبب	۷۳۶	۶۵۷		
۶۷۶	کفار اور فساق کے خواب سچے ہونے کی توجیہ	۷۳۷			
۶۷۶	توجیہ				
۶۷۶	صرف ہمدرد اور خیر خواہ کے سامنے خواب بیان کیا جائے	۷۳۸	۶۵۹		
۶۷۷	عہد خواب کی غلط تعبیر بیان نہ کرے	۷۳۹			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۹۰	فضیلت			کسی کو ضرر سے بچانے کے لیے دوسرے کے	۷۴۰
	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر حضرت	۷۵۹	۶۷۷	عیب بیان کرنے کا جواز	
۶۹۱	یوسف کے صبر سے بہت عظیم ہے		۶۶۷	حسد کے خطرہ سے نعمتوں کے چھپانے کا جواز	۷۴۱
۶۹۱	حسد ایک نفسانی بیماری ہے	۷۶۰		حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف	۷۴۲
۶۹۲	حسد کے متعلق احادیث	۷۶۱		علیہ السلام کی سر بلندی اور ان کے بھائیوں	
	حضرت یوسف کے بھائیوں کا نہیں قتل	۷۶۲	۶۷۸	کے حسد کا پیشگی علم ہونا	
۶۹۲	کرنے یا شہید رکرنے کا منصوبہ بنانا		۶۷۸	سچے خواہوں کے بشارت ہونے کی تفصیل	۷۴۳
۶۹۳	مشکل الفاظ کے معانی	۷۶۳		حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے	۷۴۳
۶۹۳	”لقیظ“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۶۴	۶۷۹	انبیاء ہونے کے دلائل	
۶۹۳	”لقیظ“ کے شرعی احکام	۷۶۵		حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے	۷۴۵
۶۹۵	”لقط“ کا لغوی معنی	۷۶۶	۶۸۱	انبیاء نہ ہونے کے دلائل	
۶۹۵	لقط کے متعلق احادیث	۷۶۷		حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی	۷۴۶
۶۹۶	لقط کو اٹھانے کے حکم میں مذاہب فقہاء	۷۶۸	۶۸۲	نبوت کے متعلق مصنف کا موقف	
	لقط کو اٹھانے کے حکم میں فقہاء احناف کا	۷۶۹	۶۸۲	حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح	۷۴۷
۶۹۷	موقف		۶۸۵	تاویل الاحادیث کے محال	۷۴۸
۶۹۷	لقط کی اقسام اور ان کے احکام	۷۷۰	۶۸۵	تکمیل نعمت کا معنی	۷۴۹
۶۹۸	لقط کا اعلان کرنے کے مقامات اور طریقہ کار	۷۷۱	۶۸۶	لقد کان فی یوسف و اخوته (۱۴-۷)	۷۵۰
۶۹۹	لقط کے اعلان کی مدت میں مذاہب فقہاء	۷۷۲		حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں	۷۵۱
	آج کل کے دور میں لقط کے اعلان کا طریقہ	۷۷۳	۶۸۷	نشانیوں	
۷۰۰	کار			حضرت یوسف کے بھائیوں کی حضرت یوسف	۷۵۲
	اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد لقط کے	۷۷۴	۶۸۷	سے نفرت کا سبب	
۷۰۱	مصرف میں فقہاء احناف کا نظریہ			حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے زیادہ	۷۵۳
۷۰۱	امام شافعی کے دلائل کے جوابات	۷۷۵	۶۸۸	محبت کیوں تھی؟	
	لقط کو صدقہ کرنے کے وجوب کے متعلق	۷۷۶		حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد ہی ان کے	۷۵۴
۷۰۲	احادیث و آثار		۶۸۸	تمام گناہوں کی جڑ تھا	
	حضرت اہلی کی حدیث کی وضاحت اور فقہاء	۷۷۷	۶۸۸	حسد، رشک اور منافست کی تعریفیں	۷۵۵
۷۰۳	احناف کے جوابات کی تفصیل اور منقح		۶۸۹	حسد نہ کرنے کی فضیلت	۷۵۶
	اونٹ پکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول	۷۷۸	۶۹۰	حسد مذموم	۷۵۷
۷۰۴	اللہ ﷻ کے ناراض ہونے کی وجہ			غیر اختیاری صبر کی بہ نسبت اختیاری صبر کی	۷۵۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۷۹	بجائے اپنے بیٹوں کے جرم کے خلاف تفتیش کیوں نہیں کی؟	۷۰۵	۷۷۹	حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھانے کا خطرہ کیوں ہوا؟	۷۷۹
۷۸۰	”صبر جمیل“ کی تعریف	۷۹۵	۷۸۰	فلما ذہبوا بہ واجمعوا (۲۰-۱۵)	۷۸۰
۷۸۱	صبر جمیل کے حصول کے اسباب	۷۹۶	۷۸۱	حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کا راستہ میں زد و کوب کرنا	۷۸۱
۷۸۲	صبر جمیل کی اقسام	۷۹۷	۷۸۲	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی سے مراد وحی نبوت ہے یا الہام؟	۷۸۲
۷۸۳	قافلہ والوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا	۷۹۸	۷۸۳	حضرت یوسف کے بھائیوں کو خبر نہ ہونے کے محال	۷۸۳
۷۸۴	وقال الذی اشترى من مصر (۲۹-۲۱)	۷۹۹	۷۸۴	والد سے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت یوسف کی حکمت	۷۸۴
۷۸۵	حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کے متعلق متعدد روایات	۸۰۰	۷۸۵	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خبر دینا	۷۸۵
۷۸۶	کنعان سے مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچنے کی تفصیل	۸۰۱	۷۸۶	دوڑ میں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان کی شرح	۷۸۶
۷۸۷	عزیز مصر کی فراست	۸۰۲	۷۸۷	دوڑ میں مسابقت کی شرط کے متعلق مذاہب فقہاء	۷۸۷
۷۸۸	اللہ کے امر کے غالب ہونے کے محال	۸۰۳	۷۸۸	انعامی بانڈز کے جواز کی بحث	۷۸۸
۷۸۹	قصہ یوسف میں تقدیر کے غالب آنے کی مثالیں	۸۰۳	۷۸۹	لاٹری اور قمار بازی کے متعلق تعزیرات پاکستان کی دفعات کی تشریح	۷۸۹
۷۹۰	پختگی کی عمر میں متعدد اقوال	۸۰۵	۷۹۰	دفعہ ۳۹۳ (ب) تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی پیشکش کرنا	۷۹۰
۷۹۱	حکم اور علم کی تفسیر میں متعدد اقوال	۸۰۶	۷۹۱	انعامی بانڈز کے متعلق جنس پیر محمد کرم شاہ کا فیصلہ	۷۹۱
۷۹۲	محسنین کی تفسیر میں متعدد اقوال	۸۰۷	۷۹۲	انعامی بانڈز کے جواز کے متعلق جنس شفیع الرحمن کا فیصلہ	۷۹۲
۷۹۳	حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پارسائی کا کمال	۸۰۸	۷۹۳	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خبر کے من گھڑت ہونے کی وجوہ	۷۹۳
۷۹۴	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف کو اور غلاما مخلوق کی بہ نسبت خالق سے حیاء کر بلائق ستائش ہے	۸۰۹	۷۹۴	حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے	۷۹۴
۷۹۵	حضرت یوسف علیہ السلام کے جوابات کی وضاحت	۸۱۱	۷۹۵		
۷۹۶	”ہم“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کے متعلق احادیث	۸۱۲	۷۹۶		
۷۹۷	”وہم بہا“ کے ترجمہ کے دو محمل	۸۱۳	۷۹۷		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۳۹	کو کاٹ لینا			آیا حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ صادر ہوا تھا یا نہیں؟	۸۱۳
۷۳۹	حضرت یوسف علیہ السلام کو "فرشتہ" کہنے کی توجیہ	۸۳۳	۷۳۳	"وہم بہا" کی باطل تفسیریں	۸۱۵
۷۵۰	حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت آزمائش	۸۳۵	۷۳۵	"لو لان رابرهان ربہ" کی باطل تفسیریں	۸۱۶
۷۵۰	اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں	۸۳۶	۷۳۶	"وہم بہا" کے اکثر صحیح اور بعض غلط محامل	۸۱۷
۷۵۱	حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا سبب	۸۳۷	۷۳۷	انبیاء علیہم السلام کو گناہ گار قرار دینے کی توجیہات اور ان کا ابطال	۸۱۸
۷۵۲	حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی علامات	۸۳۸		حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ کی تہمت کار د اور ابطال	۸۱۹
۷۵۲	قید کی مدت	۸۳۹		حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے پر متعدد شہادتیں	۸۲۰
	ودخل معه السجن فتین	۸۴۰	۷۳۸	"لو لان رابرهان ربہ" کو ذکر کرنے کا فائدہ	۸۲۱
۷۵۲	(۳۶-۳۲)		۷۳۹	"لو لان رابرهان ربہ" کے مزید محامل	۸۲۲
	حضرت یوسف کی قید خانہ میں ساتی اور تانبائی سے ملاقات	۸۴۱	۷۴۰	السوء الفحشاء اور المخلصین کا معنی	۸۲۳
۷۵۲	ساتی اور تانبائی کے بیان کیے ہوئے خواب آیا	۸۴۲	۷۴۰	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا	۸۲۴
۷۵۵	سچے تھے یا جھوٹے؟			حضرت یوسف علیہ السلام کی تہمت سے براءت اور ان کے صدق کے شواہد	۸۲۵
	قید خانہ میں کھانا آنے سے پہلے حضرت یوسف کا کھانے کی خبر دینا	۸۴۳	۷۴۱	عزیز مصر کی بیوی کو معافی مانگنے کی تلقین	۸۲۶
۷۵۵	خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کھانے کے متعلق پیش گوئی کی توجیہ	۸۴۴	۷۴۲	عورتوں کے مکر کا عظیم ہونا	۸۲۷
۷۵۶	حضرت یوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات	۸۴۵	۷۴۳	وقال نسوة فی المدینة امرات العزیز (۳۵-۳۰)	۸۲۸
۷۵۸	کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ	۸۴۶		مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی	۸۲۹
۷۵۹	مبدء اور معاد کے اقرار کی اہمیت	۸۴۷	۷۴۳	مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی کا فشاء	۸۳۰
۷۶۰	اللہ کی نعمتوں کے اظہار کا جواز	۸۴۸	۷۴۶	مصری خواتین کی دعوت کا اہتمام	۸۳۱
۷۶۰	دین کا معنی	۸۴۹	۷۴۶	حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن کے متعلق احادیث و آثار	۸۳۲
۷۶۰	شرک سے اجتناب کے اختصا ص کی توجیہ	۸۵۰	۷۴۷	مصری خواتین کا پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں	۸۳۳
۷۶۱	ایمان پر شکر ادا کرنے کا وجوب	۸۵۱			
۷۶۱	حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں توحید	۸۵۲	۷۴۸		
۷۶۱	باری کی تقاریر				

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۵۳	بتوں کے صرف اسماء ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	۷۶۳	۸۷۳	میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے	۷۷۳
۸۵۴	کفار کے اس قول کا رد کہ اللہ نے بتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے	۷۶۳	۸۷۴	غیر اللہ سے استمداد کا جواز	۷۷۴
۸۵۵	اللہ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل	۷۶۴	۸۷۵	مخلوق سے استمداد کی بناء پر حضرت یوسف سے مواخذہ کی توجیہ	۷۷۵
۸۵۶	اس بات کی توجیہ کہ اکثر لوگ اللہ کے استحقاق عبادت کو نہیں جانتے	۷۶۴	۸۷۶	حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت	۷۷۶
۸۵۷	ساقی اور نانباہی کے خواب کی تعبیر	۷۶۵	۸۷۷	وقال الملک انسی اری سبع بقرات (۴۳-۴۹)	۷۷۷
۸۵۸	خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ظن کی توجیہ	۷۶۵	۸۷۸	مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا	۷۷۸
۸۵۹	شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تفسیریں	۷۶۶	۸۷۸	اضغاث احلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۷۸
۸۶۰	حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلانے کے متعلق روایات	۷۶۶	۸۷۹	مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف کا ذکر کرنے کی توجیہ	۷۷۹
۸۶۱	شیطان کے بھلانے کے متعلق اختلاف مفسرین	۷۶۶	۸۸۰	جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم و تکریم لازم ہے	۷۸۰
۸۶۲	نبی کو بھلانے کی توجیہ	۷۶۷	۸۸۱	حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق مستقبل کے لیے پس انداز کرنے اور قومی ضرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کا جواز	۷۸۱
۸۶۳	نبی ﷺ کے نسیان کی تحقیق	۷۶۸	۸۸۲	خواب کا پہلی تعبیر پر واقع ہونا ضروری نہیں	۷۸۱
۸۶۴	سوا اور نسیان کا فرق	۷۶۸	۸۸۳	تمام مقاصد حیات کے لیے شریعت کا متکفل ہونا	۷۸۲
۸۶۵	افعال تبلیغیہ میں سوا اور نسیان کا جواز اور اقوال تبلیغیہ میں سوا اور نسیان کا عدم جواز	۷۶۹	۸۸۴	حضرت یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا	۷۸۲
۸۶۶	بھولنے اور بھلائے جانے کے دو محمل	۷۶۹	۸۸۵	وقال الملک ائتونی بہ (۵۰-۵۲)	۷۸۲
۸۶۷	"لسلہ التعریس" میں نماز فجر قضا ہونے کی تحقیق	۷۷۰	۸۸۷	علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت	۷۸۳
۸۶۸	غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہونے کی تحقیق	۷۷۱	۸۸۸	ہمارے نبی ﷺ کا حضرت یوسف کی تحسین کرنا	۷۸۳
۸۶۹	غزوہ خندق میں نماز قضا ہونے کا سبب	۷۷۲	۸۸۹	رہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توقف کرنے کی وجوہات	۷۸۴
۸۷۰	جماد میں مشغول ہونے کی وجہ سے آیا اب نماز قضا کی جاسکتی ہے؟	۷۷۲	۸۹۰	"بیل بھرد تحریک" کا عدم جواز	۷۸۵
۸۷۱	نبی ﷺ کی نمازوں میں سو کی تحقیق	۷۷۲	۸۹۱	حضرت یوسف کا سمت لگانے والیوں کی تعیین	۷۸۵
۸۷۲	اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات	۷۷۲			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۹۶	غلط نسخ		۷۸۵	نہ کرنا	
	موجودہ طریق انتخاب کی اصلاح کی ایک صورت	۹۱۰	۷۸۵	مصر کی عورتوں کی سازش کی وجوہ	۸۹۲
۷۹۶	صورت			عزیز مصر کی بیوی کا اعتراف اور	۸۹۳
	کافریا فاسق فاجر کی طرف سے عمدہ یا منصب قبول کرنے کی تحقیق	۹۱۱	۷۸۶	حصحص کا معنی	
۷۹۷	حضرت یوسف کے حفیظ اور علیم ہونے کے	۹۱۲	۷۸۶	پس پشت خیانت نہ کرنے کے دو محمل	۸۹۳
۷۹۸	محامل		۷۸۷	حضرت یوسف علیہ السلام نے پس پشت کسی کی خیانت نہیں کی	۸۹۵
	خود ستائی کے ممنوع ہونے کے محامل اور	۹۱۳	۷۸۷	حضرت یوسف کی پاکیزگی پر دلائل	۸۹۶
۷۹۹	حضرت یوسف کی اپنی تعریف کا جواز		۷۸۸	وما ابرئ نفسی (۵۷-۵۳)	۸۹۷
	حضرت یوسف کا اپنی مدح فرمانا تو واضح اور	۹۱۴		حضرت یوسف کے اس قول کی توجیہ کہ "میں	۸۹۸
۷۹۹	انکسار کے خلاف نہیں ہے		۷۸۹	اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا"	
۸۰۰	ایام قحط میں حضرت یوسف کا حسن انتظام	۹۱۵	۷۹۰	عصمت کی تعریف	۸۹۹
۸۰۱	عزیز مصر کی بیوی سے حضرت یوسف کا نکاح	۹۱۶	۷۹۱	نفس امارہ اور نفس مطمئنہ	۹۰۰
	حضرت یوسف کی طہارت اور نزاہت پر	۹۱۷	۷۹۱	بادشاہ کا حضرت یوسف کو اپنے پاس بلانا	۹۰۱
۸۰۳	دلائل			حضرت یوسف سے بادشاہ کے متاثر ہونے کی	۹۰۲
	وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ	۹۱۸	۷۹۲	وجوہات	
۸۰۳	(۶۸-۵۸)			حضرت یوسف کا رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں	۹۰۳
۸۰۶	مشکل الفاظ کے معانی	۹۱۹	۷۹۲	جانا	
	حضرت یوسف کے بھائیوں کا غلہ لینے مصر پہنچنا	۹۲۰		حضرت یوسف کا بادشاہ کے سامنے خواب اور	۹۰۴
۸۰۶	اور حضرت یوسف کا انہیں پہچان لینا		۷۹۳	اس کی تعبیر بیان کرنا	
	بھائیوں کا حضرت یوسف کو نہ پہچانا اور اس کی	۹۲۱		بادشاہ کا حضرت یوسف کو صاحب اقتدار اور	۹۰۵
۸۰۷	وجوہ		۷۹۴	امانت دار قرار دینا	
۸۰۷	بنیامین کو بلوانے کی وجوہ	۹۲۲		طلب منصب کا عدم جواز اور حضرت یوسف	۹۰۶
	حضرت یوسف نے بنیامین کو بلوا کر حضرت	۹۲۳	۷۹۴	کے طلب منصب کی توجیہ	
۸۰۸	یعقوب کو مزید رنج میں کیوں مبتلا کیا؟			موجودہ طریق انتخاب پر حضرت یوسف کے	۹۰۷
۸۰۹	مشکل الفاظ کے معنی	۹۲۴		طلب منصب سے استدلال اور اس کے	
	بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی تھیلی رکھنے کی	۹۲۵	۷۹۵	جوابات	
۸۰۹	وجوہ		۷۹۶	موجودہ طریقہ انتخاب کا غیر اسلامی ہونا	۹۰۸
	برائی کا جواب اچھائی سے دینے میں ہمارے نبی	۹۲۶		امیدوار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے	۹۰۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۲۶	حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات	۹۳۶	۸۱۰	حقیقہ کا نمونہ	
۸۲۷	حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات	۹۳۷	۸۱۲	حضرت یعقوب علیہ السلام کے بنیامین کو بھیجنے کی وجہ	۹۳۷
۸۲۷	حیلہ کے جواز پر علامہ قرطبی کے اعتراضات کے جوابات	۹۳۸	۸۱۳	بنیامین کو ساتھ بھیجنے کے لیے باپ کو تیار کرنا	۹۳۸
۸۲۷	حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات	۹۳۹	۸۱۳	مصیبت میں گھر جانے کا معنی	۹۳۹
۸۲۸	دنیاوی احکام ظاہر برہنی ہیں اور باطنی معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں	۹۴۰	۸۱۴	نظر لگنے کے متعلق احادیث	۹۳۰
۸۲۹	حیلہ کے جواز پر قرآن اور سنت سے دلائل	۹۵۱	۸۱۵	”نظر بد“ میں مذاہب اور اس کے متعلق شرعی احکام	۹۳۱
۸۲۹	حیلہ کی تعریف اور اس کے جواز پر علامہ سرخسی کے دلائل	۹۵۲	۸۱۶	نظر بد کی تاثیرات کی تحقیق	۹۳۲
۸۳۱	حیلہ کے جواز میں معترضین کے منشاء غلطی کا ازالہ	۹۵۳	۸۱۷	ولما دخلوا علی یوسف (۷۹-۷۹)	۹۳۳
۸۳۱	”و فوق کل ذی علم علیہم“ کے ترجمہ میں مصنف کی تحقیق	۹۵۴	۸۱۷	حضرت یوسف کا بنیامین کو یہ بتانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں	۹۳۴
۸۳۲	حضرت یوسف کی طرف منسوب کی گئی چوری کے متعلق روایات	۹۵۵	۸۱۹	اس اعتراض کا جواب کہ حضرت یوسف نے بنیامین کو روک کر باپ کی مزید دل آزاری کی	۹۳۵
۸۳۳	بھائیوں کا حضرت یوسف سے فدیہ لینے کی درخواست کرنا	۹۵۶	۸۲۰	بے قصور قافلہ والوں کو چور کہنے کی توجیہ	۹۳۶
۸۳۵	فلما استیئسوا منه خلصوا نجیاً (۹۳-۸۰)	۹۵۷	۸۲۰	جعل (کسی چیز کو ڈھونڈنے کی اجرت) کی تحقیق	۹۳۷
۸۳۸	بڑے بھائی کا واپس جانے سے انکار کرنا	۹۵۸	۸۲۱	مال اور شخص کی ضمانت کے متعلق احادیث	۹۳۸
۸۳۹	بھائیوں کا حضرت یعقوب کے پاس واپس جانے کا فیصلہ	۹۵۹	۸۲۲	ضمانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام	۹۳۹
۸۳۹	واقعاتی شہادت کے حجت ہونے پر قرآن و سنت اور عقل صریح سے دلائل	۹۶۰	۸۲۳	حضرت یوسف کے بھائیوں کے چور نہ ہونے کے دلائل	۹۴۰
۸۳۹	غیب کے نگہبان نہ ہونے کے محال	۹۶۱	۸۲۳	حضرت یوسف کا بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا	۹۴۱
۸۴۱			۸۲۵	بھائیوں سے چور کی سزا معلوم کرنے کی وجہ	۹۴۲
			۸۲۵	بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری کے الزام کی تحقیق	۹۴۳
			۸۲۵	بھائی کی طرف چوری کی نسبت کو علامہ ماوردی کا گناہ قرار دینا	۹۴۴
			۸۲۵	حیلہ کے جواز کی تحقیق	۹۴۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	بہت فاصلہ سے حضرت یعقوب تک حضرت	۹۸۰	۸۴۱	بستی سے پوچھنے کے معانی	۹۱۲
۸۵۶	یوسف کی خوشبو پہنچنے کی توجیہ			بدگمانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کا	۹۱۳
۸۵۷	"تفندوں" کے معانی	۹۸۱	۸۴۱	استجاب	
۸۵۷	"ضلال" کے معانی	۹۸۲	۸۴۲	بنیامین کے متعلق بات گھڑنے کی توجیہ	۹۱۴
۸۵۷	حضرت یعقوب کی بیٹائی کالوٹ آنا	۹۸۳	۸۴۳	صبر جمیل کی تعریف	۹۱۵
۸۵۸	اپنے مظالم کو دنیا میں معاف کر لینا	۹۸۴	۸۴۳	صبر جمیل کے اجر کے متعلق احادیث	۹۱۶
۸۵۸	بیٹوں کے لیے استغفار کو مؤخر کرنے کی وجوہ	۹۸۵		حضرت یعقوب کے "ہائے افسوس" کہنے کی	۹۱۷
	حضرت یعقوب کا مصر روانہ ہونا اور حضرت	۹۸۶	۸۴۴	توجیہ	
۸۶۰	یوسف کا استقبال کرنا		۸۴۵	مشکل الفاظ کے معانی	۹۱۸
	حضرت یوسف کی ماں کی وفات کے باوجود ان	۹۸۷		جن قرآن کی بناء پر حضرت یعقوب کو حضرت	۹۱۹
۸۶۰	کے والدین کو تخت پر بٹھانے کی توجیہ		۸۴۵	یوسف سے ملاقات کا یقین تھا	
	نبی ﷺ کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کے	۹۸۸		اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے	۹۲۰
۸۶۱	ایمان لانے پر علامہ قرطبی کے دلائل		۸۴۶	کی وجوہ	
	حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر پوری	۹۸۹		حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت	۹۲۱
۸۶۳	ہونے کی مدت میں متعدد اقوال			یوسف کو ڈھونڈنے کے بجائے غلہ کا سوال	
	حضرت یوسف کے لیے حضرت یعقوب کے	۹۹۰	۸۴۷	کیوں کیا؟	
۸۶۳	سجدہ کی توجیہات		۸۴۷	سوال کرنے کی شرائط اور احکام	۹۲۲
۸۶۳	ہماری شریعت میں "سجدہ تعظیم" کا حرام ہونا	۹۹۱	۸۴۸	بھائیوں سے ان کے مظالم پوچھنے کی وجوہ	۹۲۳
۸۶۳	قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث	۹۹۲	۸۵۰	بھائیوں کا حضرت یوسف کو پہچان لینا	۹۲۴
۸۶۳	قیام تعظیم میں مذاہب فقہاء	۹۹۳		حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے	۹۲۵
	آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے	۹۹۴	۸۵۰	سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا	
۸۶۶	ہونے کے متعلق احادیث			حضرت یوسف کے بھائیوں کا اعتراف خطا	۹۲۶
۸۶۷	دعا میں سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا	۹۹۵	۸۵۰	کرنا اور حضرت یوسف کا انہیں معاف فرمانا	
	موت کی دعا کرنے کے متعلق امام رازی کا	۹۹۶		حضرت یوسف کی قمیص سے حضرت یعقوب	۹۲۷
۸۶۸	نظریہ		۸۵۱	کی آنکھوں کا روشن ہونا	
	موت کی دعا کرنے کے متعلق مصنف کی	۹۹۷		ہمارے نبی ﷺ کے کپڑوں اور آپ کے بالوں	۹۲۸
۸۶۸	تحقیق		۸۵۲	سے بیماروں کا شفا یاب ہونا اور دیگر برکتیں	
۸۶۹	حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین	۹۹۸		ولما فصلت العیر قال ابوہم	۹۲۹
	حضرت موسیٰ کا ایک بڑھیا کی رہنمائی سے	۹۹۹	۸۵۳	(۱۰۳-۹۳)	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
			۸۶۹	حضرت یوسف کا تابوت نکالنا	
				حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی ﷺ	۱۰۰۰
			۸۷۰	کو جنت عطا کرنے کا اختیار تھا	
				دفن سے پہلے اور دفن کے بعد میت کو دو سری	۱۰۰۱
			۸۷۲	جگہ منتقل کرنے کی تحقیق	
			۸۷۳	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	۱۰۰۲
			۸۷۳	اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۱۰۰۳
				و کاین من ایتة فی السموت	۱۰۰۳
			۸۷۳	والارض (۱۱۱-۱۰۵)	
				آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود	۱۰۰۵
			۸۷۶	اور اس کی وحدت کی نشانیاں	
				ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے	۱۰۰۶
			۸۷۶	مصادیق	
			۸۷۸	نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا ازالہ	۱۰۰۷
			۸۷۹	”وظنوا انہم قد کذبوا“ کی توجیہات	۱۰۰۸
				اس آیت کے ترجمہ میں بعض مترجمین کی	۱۰۰۹
			۸۸۰	الغرض	
				حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا حسن	۱۰۱۰
			۸۸۳	القصص ہونا	
			۸۸۳	قرآن مجید میں ہر شے کی تفصیل کا محمل	۱۰۱۱
			۸۸۳	حرفِ آخر	۱۰۱۲
			۸۸۵	ماخذ و مراجع	۱۰۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۳۱	زمین کے مختلف طبقات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۱۳	سورۃ الرعد	
۳۲	مختلف ذائقوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۱۵	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۳۲	”صنوان“ اور ”صنو“ کے معنی	۱۶	الرعد کا معنی	۲
۳۳	تعجب اور اغلال کا معنی	۱۷	سورۃ الرعد کے کئی یا مدنی ہونے میں اختلاف	۳
۳۳	انکار حشر کا کفر ہونا اور اس کی سزا	۱۷	سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مناسبت	۴
۳۳	مشکل الفاظ کے معانی	۱۸	سورۃ الرعد کے مضامین اور مقاصد	۵
	کفار کا رحمت اور ثواب کے بجائے عتاب اور عذاب کو طلب کرنا	۱۹	المعرفت فلک ایت الکتاب (۷-۱)	۶
۳۵	عین حال معصیت میں اللہ تعالیٰ کا محاف فرما دینا	۲۰	اجتہاد اور قیاس پر ایک اعتراض کا جواب	۷
۳۶	مشرکین کا یہ کہنا کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟	۲۱	اجتہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور دلیل	۸
۳۶	مشرکین کے فرمائی معجزات پیش نہ کرنے کی وجوہ	۲۱	سورج اور چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۹
۳۷	آپ کو قرآن مجید کا معجزہ کیوں دیا گیا؟	۲۲	عرش پر استواء اور ایسی دیگر صفات کے متعلق حقد میں اور متاخرین کے نظریات	۱۰
۳۷	آپ کے دیگر چند مشہور معجزات	۲۳	مشکل الفاظ کے معانی	۱۱
۳۷	”ولکل قوم ہاد“ میں ہادی کے متعدد محال	۲۴	زمینوں، درختوں اور پھلوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۱۲
۵۰		۲۵	مشکل الفاظ کے معانی	۱۳

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	نمبر
۶۸	سایوں کے سجدہ کرنے کی توجیہ	۴۸		حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق	۲۷
۶۸	سجدہ کی فضیلت کے متعلق احادیث	۴۹	۵۱	قراردینے کی تحقیق	
۶۹	قل من رب السموات والارض (۱۸-۱۶)	۵۰	۵۱	حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل قراردینے کی دلیل کا جواب	۲۸
۷۱	دلائل کے ساتھ بت پرستوں کا رد اور ابطال	۵۱	۵۳	اللہ يعلم ما تحمل کل انسی (۸-۱۵)	۲۹
۷۱	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل	۵۲	۵۳	مشکل الفاظ کے معانی	۳۰
۷۱	سنت اور معتزلہ کے نظریات		۵۵	آیات سابقہ سے مناسبت	۳۱
۷۱	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل	۵۳	۵۵	رحم میں کمی اور زیادتی کے محال	۳۲
۷۲	سنت اور جبریہ کے نظریات			حمل کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت	۳۳
۷۲	جبریہ کے نظریہ کا رد	۵۳	۵۶	میں مذاہب فقہاء	
۷۲	معتزلہ کے نظریہ کا رد	۵۵	۵۷	غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۴
۷۳	نظریہ اہل سنت کی مزید وضاحت	۵۶	۵۷	اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات	۳۵
۷۳	معتزلہ کے اعتراضات کے جوابات	۵۷	۵۸	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے ربط	۳۶
۷۵	جبریہ کے رد پر مزید دلائل	۵۸	۵۸	معقبات کے متعدد محال	۳۷
۷۵	خلق اور کسب کی وضاحت	۵۹		فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات	۳۸
۷۶	مشکل الفاظ کے معانی	۶۰	۶۰	اور حکمتیں	
۷۶	پانی اور جھاگ سے تشبیہ کا بیان	۶۱		نعمت کی ناقدری کرنے والوں سے اللہ کا نعمت	۳۹
۷۷	مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال	۶۲	۶۱	واپس لینا	
	المن یعلم انما انزل الیک من ربک	۶۳	۶۳	بکلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور	۴۰
۷۸	(۱۹-۲۶)			الرعد اور الصواعق کے معانی اور جھگڑا کرنے	۴۱
۸۰	سوال نہ کرنے کا عہد	۶۳	۶۳	والوں کا بیان	
۸۰	سوال کرنے کے جواز کی شرائط	۶۵	۶۳	پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تمثیل کے محال	۴۲
۸۱	توکل کا غلط مفہوم	۶۶		غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا شرک ہے	۴۳
۸۲	توکل کا صحیح مفہوم	۶۷	۶۵	ورنہ نہیں	
۸۲	رشتوں کو جوڑنے کی اقسام	۶۸		افضل اور اوٹی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد	۴۴
۸۳	رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث	۶۹	۶۶	طلب کی جائے	
۸۳	سخت حساب کا معنی	۷۰	۶۶	سجدہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴۵
۸۳	صبر کی اقسام	۷۱		اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی	۴۶
۸۳	صبر کی وجوہ اور جس وجہ سے صبر اللہ کے لیے ہو	۷۲	۶۷	بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا	
۸۵	زکوٰۃ کو ظاہر اور پوشیدہ دینے کے محال	۷۳		لغوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں	۴۷
۸۵	برائی کو اچھائی سے دور کرنے کے محال	۷۴	۶۷	سجدہ ریز ہونا	

تبیان القرآن

بد ششم

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
۱۰۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی دینا	۹۵	۸۶	جن صفات کی بناء پر جنت عطا کی جاتی ہے	۷۵
۱۰۲	مشرکین کے خود ساختہ شرکاء کا رد	۹۶	۸۶	جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہیے	۷۶
۱۰۳	جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا پھر ان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟	۹۷	۸۷	نیک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا	۷۷
۱۰۳	کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب کا فرق	۹۸	۸۷	جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مجتمع ہونا بھی نعمت ہے	۷۸
۱۰۳	جنت کی صفات	۹۹	۸۸	جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق احادیث	۷۹
۱۰۳	جنت نہ بنائے جانے کے متعلق معتزلہ کے دلائل اور ان کے جوابات	۱۰۰	۸۸	مومنوں کے صبر کرنے کی متعدد تفاسیر	۸۰
۱۰۳	مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے خوش ہونا	۱۰۱	۸۹	کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا	۸۱
۱۰۵	انبیاء علیہم السلام کا امر اور نبی سے مکلف ہونا اور عصمت کی تعریف	۱۰۲	۹۰	دنیا میں کافروں کی ترقی اور خوشحالی اور مسلمانوں کی پس ماندگی اور تنگی کی وجوہ	۸۲
۱۰۶	قرآن مجید کو حکم عربی فرمانے کی وجہ اور اس کا قدیم ہونا	۱۰۳	۹۰	و يقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیة (۳۱-۳۷)	۸۳
۱۰۷	ولقد ارسلنا رسلا من قبلک (۳۳-۳۸)	۱۰۴	۹۳	اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور اس کے ہدایت دینے کے محال	۸۴
۱۰۷	قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ نے شادیاں کیوں کیں؟	۱۰۵	۹۳	اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کے مطمئن ہونے اور خوف زدہ ہونے کے درمیان تطبیق	۸۵
۱۰۸	اس اعتراض کا یہ جواب کہ انبیاء سابقین نے تو بہت شادیاں کی تھیں!	۱۰۶	۹۵	مطمئن دلوں کے مصداق	۸۶
۱۰۹	مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے بہت شادیاں کی تھیں	۱۰۷	۹۶	”طوبی“ کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	۸۷
۱۰۹	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تفصیل	۱۰۸	۹۷	رحمن کے انکار کا شان نزول	۸۸
۱۱۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج پر اعتراض کے جوابات	۱۰۹	۹۷	کفار کے فرمائشی معجزات اس لیے نہیں دیئے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے	۸۹
۱۱۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی حکمتیں	۱۱۰	۹۸	اس اشکال کا جواب کہ مومنین اللہ کی قدرت سے مایوس تو نہ تھے	۹۰
۱۱۳	آپ نے کفار قریش کے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں پیش کیے	۱۱۱	۹۸	ہیکس کا ترجمہ علم اور اطمینان کے ساتھ کرنوالے علماء	۹۱
۱۱۷	کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نہ نازل ہوا؟	۱۱۲	۹۹	”ہیکس“ کا ترجمہ ناامیدی کرنے والے علماء	۹۲
۱۱۷		۱۰۰	۹۹	بعض عصاة مومنین کا آیات و عید کے عموم سے مخصوص ہونا	۹۳
			۱۰۰	ولقد استهزیء برسول من قبلک (۳۷-۳۲)	۹۴

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	نمبر
۱۳۳	دنیاوی لذتوں کا بے مایہ ہونا	۱۳	۱۱۸	محو اور اثبات کی تفسیر میں متعدد اقوال	۱۱۳
۱۳۵	بہت دور کی گمراہی کا معنی	۱۵	۱۱۹	قضاء معلق اور قضاء مبرم	۱۱۳
۱۳۵	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عموم	۱۶	۱۱۹	رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث	۱۱۵
۱۳۶	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر قرآن مجید کی آیات	۱۷	۱۲۰	ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض	۱۱۶
۱۳۶	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر احادیث	۱۸	۱۲۰	ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کے جوابات	۱۱۷
۱۳۷	جمادات اور نباتات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت	۱۹	۱۲۰	اطراف زمین کو کم کرنے کے محال	۱۱۸
۱۳۷	رسالت	۲۰	۱۲۱	(آسمانی) کتاب کے عالم کے مصداق میں متعدد اقوال	۱۱۹
۱۳۷	کفار کے سوا کائنات کی ہر چیز آپ کی رسالت کو جانتی ہے	۲۱	۱۲۳	اختتام سورت اور دعا	۱۲۰
۱۳۸	”گوہ“ کا کلہ شہادت پڑھنا	۲۲	۱۲۷	سورۃ ابراہیم	
۱۳۹	انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت	۲۳	۱۲۷	سورت کا نام	۱
۱۴۱	تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے	۲۴	۱۲۸	سورۃ ابراہیم کا زمانہ نزول	۲
۱۴۱	”ایام اللہ“ کا معنی	۲۵	۱۲۸	سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم کی مناسبت	۳
۱۴۲	صبر اور شکر کے متعلق احادیث	۲۶	۱۲۹	سورۃ ابراہیم کے مضامین اور مقاصد	۴
۱۴۳	صبر اور شکر میں عبد اللہ بن مبارک کا معیار اور اس پر کلام	۲۷	۱۳۱	الرتد کتب انزلنا (۶-۱)	۵
۱۴۳	شکر کا معنی اور صابر اور شاکر کے ساتھ نشانیوں کی تخصیص کی توجیہ	۲۸	۱۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کو مسلمان کرنا	۶
۱۴۳	واذ تاذن ربکم لئن شکرتم لا زیدنکم (۷-۱۲)	۲۹	۱۳۲	اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق کی وضاحت جس کے اسلام لانے کا اللہ نے اذن نہیں دیا اس کے اسلام نہ لانے میں اس کا کیا تصور ہے؟	۷
۱۴۶	شکر کا معنی	۳۰	۱۳۲	اسلام کی نشر و اشاعت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہوئی یا دلائل سے؟	۸
۱۴۶	حمد اور شکر کا فرق	۳۱	۱۳۳	”العزیز الحمید“ کا معنی	۹
۱۴۶	جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے	۳۲	۱۳۳	لفظ اللہ کے علم (نام) ہونے پر دلائل	۱۰
۱۴۷	شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۳	۱۳۳	اللہ تعالیٰ کا کسی سمت کے ساتھ شخص نہ ہونا اور بندوں کے افعال کا خالق ہونا	۱۱
۱۴۷	شکر کے متعلق احادیث اور آثار	۳۴	۱۳۳	بت پرستوں کے سخت عذاب کا سبب	۱۲

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
۱۷۰	بووز کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب	۵۷	۱۵۲	اللہ کا شکر نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں	۳۵
	اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ نے کافروں کو	۵۸		حضرت آدم علیہ السلام تک نسب بیان کرنا	۳۶
۱۷۱	ہدایت نہیں دی تو کفر میں ان کا کیا قصور ہے ؟		۱۵۳	درست نہیں	
	و قال الشیطان لما قضی الامر	۵۹		اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر رکھنے کی متعدد	۳۷
۱۷۲	(۲۲-۲۷)		۱۵۴	تفسیریں	
۱۷۳	مستقبل میں ہونے والے مکالمے کو ماضی کے	۶۰		مشرکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بت پرستی	۳۸
	ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ		۱۵۴	کیوں کرتے تھے	
۱۷۴	لما قضی الامر کی تفسیر میں متعدد اقوال	۶۱		اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی	۳۹
۱۷۴	شیطان سے مراد ابلیس ہونا	۶۲	۱۵۵	گناہوں کو بخش دیتا ہے	
۱۷۵	اللہ کا وعدہ اور ابلیس کا وعدہ	۶۳	۱۵۷	توبہ کرنے کی ترغیب میں احادیث	۴۰
۱۷۵	شیطان نے جو سلطان کی نفی کی اس کے دو محمل	۶۴	۱۵۸	انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات	۴۱
	برے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کی بجائے	۶۵		جن خصوصیات کی بناء پر انبیاء علیہم السلام نبی	۴۲
۱۷۶	خود کو مطعون کیا جائے		۱۵۸	بنائے گئے	
۱۷۶	شیطان کے دوسرے کی کیفیت	۶۶	۱۵۹	کافروں کے دیگر شبہات کے جوابات	۴۳
۱۷۷	انسان کے اعضاء پر جنات کے تصرف کی نفی	۶۷		انبیاء علیہم السلام کا کافروں کی دھمکیوں سے نہ	۴۴
۱۷۷	صرخ کا معنی	۶۸	۱۶۰	ڈرنا	
۱۷۸	جنت میں سلام کا معنی	۶۹		سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے	۴۵
۱۷۸	شجرہ طیّہ سے مراد کھجور کا درخت ہے	۷۰	۱۶۰	زیادہ ہونا	
۱۷۹	کھجور کے درخت اور مومن میں وجوہ مشابہت	۷۱	۱۶۲	و قال الذین کفروا المرسلہم (۲۱-۱۳)	۴۶
۱۸۰	شجرہ طیّہ سے مراد شجر معرفت ہے	۷۲	۱۶۳	اس وہم کا ازالہ کہ انبیاء پہلے کافروں کے دین پر تھے	۴۷
	ناپاک کلمہ اور ناپاک درخت کا مصداق اور وجہ	۷۳	۱۶۴	فرمان برداروں کو نافرمانوں کے ملک میں آباد کرنا	۴۸
۱۸۱	مشابہت		۱۶۵	جبار اور عید کا معنی	۴۹
	کلمہ طیّہ کے حاملین کے قول کا دنیا اور آخرت	۷۴	۱۶۶	درام کا معنی	۵۰
۱۸۱	میں ثابت ہونا		۱۶۶	دوزخ کے پانی کی کیفیت	۵۱
	قبر میں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق	۷۵		دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کا	۵۲
۱۸۲	احادیث		۱۶۷	نہ آتا	
۱۸۳	قبر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے	۷۶	۱۶۸	عذاب غلیظ کا معنی	۵۳
	جو مسلمان قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے	۷۷	۱۶۹	کفار کے اعمال کی راکھ کے ساتھ وجہ مشابہت	۵۴
۱۸۵	محفوظ رہیں گے		۱۶۹	تمام مخلوق کی پیدائش مبنی بر حکمت ہے	۵۵
۱۸۶	نیک اعمال کا آخرت میں کام آنا	۷۸	۱۷۰	بووز کا معنی	۵۶

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے مومن ہونے پر دلائل	۱۰۲	۱۸۸	الم تر الی الذین بدلوا (۲۸-۳۳)	۷۹
۲۱۲	نماز میں دعائے مانگنے کے آداب	۱۰۳	۱۸۹	اکل مکہ پر اللہ کی نعمتیں اور ان کی ناشکری	۸۰
۲۱۵	دعا حرام	۱۰۳	۱۹۰	کفار مکہ کا شرک	۸۱
۲۱۶	تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا آیا خلف و عید کو سترم ہے؟	۱۰۵	۱۹۱	اولیاء اللہ سے محبت کا آخرت میں کام آنا	۸۲
۲۱۶	ولا تحسبن اللہ غافلاً (۵۲-۴۲)	۱۰۶	۱۹۳	مشکل الفاظ کے معانی	۸۳
۲۱۷	مشکل الفاظ کے معانی	۱۰۷	۱۹۳	اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتیں	۸۳
۲۱۹	وقوع قیامت پر عقلی دلیل	۱۰۸	۱۹۵	بندوں کی جفا کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی وفا	۸۵
۲۱۹	کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل سمجھتے تھے	۱۰۹	۱۹۵	واذ قال ابراہیم رب اجعل (۳۱-۳۵)	۸۶
۲۲۰	قیامت کے دن کفار کا کف افسوس ملنا	۱۱۰	۱۹۶	مکہ کو امن والا بنانے کی دعا پر اعتراض کے جوابات	۸۷
۲۲۱	کافروں کے مکر کی تفسیر میں متعدد اقوال	۱۱۱	۱۹۶	اولاد ابراہیم کو بت پرستی سے مامون رکھنے کی دعا پر اعتراض کے جوابات	۸۸
۲۲۲	زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال	۱۱۲	۱۹۸	مرتبین کبار کی شفاعت پر دلیل	۸۹
۲۲۳	زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق احادیث	۱۱۳	۱۹۹	شفاعت کی توقع کے باوجود توبہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے	۹۰
۲۲۳	زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال میں تطبیق	۱۱۴	۲۰۲	حضرت ابراہیم کا غیر آباد وادی میں اپنے اہل کو چھوڑنے کا پس منظر اور پیش منظر	۹۱
۲۲۴	آسمان کو تبدیل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۱۵	۲۰۳	حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے پر دلائل	۹۲
۲۲۵	زمین کو دوبار تبدیل کرنے کی تفصیل اور تطبیق	۱۱۶	۲۰۳	عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ آئیں	۹۳
۲۲۶	آسمان کی تبدیلی کے متعلق اقوال	۱۱۷	۲۰۳	زم زم کے فضائل	۹۴
۲۲۶	مجرموں کے اخروی احوال	۱۱۸	۲۰۵	مکہ کو حرم قرار دینے کی وجوہ	۹۵
۲۲۷	ہدایت کے لیے قرآن مجید کا کافی ہونا	۱۱۹	۲۰۵	مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے فضائل	۹۶
۲۲۸	اختتام سورت	۱۲۰	۲۰۶	مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت کے متعلق فقہاء کے نظریات	۹۷
	سورة الحجر		۲۰۹	دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں احادیث	۹۸
۲۳۱	سورت کا نام	۱	۲۱۰	امن اور سلامتی کا ایمان اور اسلام پر مقدم ہونا	۹۹
۲۳۱	الحجر کا معنی	۲	۲۱۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بقیہ دعاؤں کی تشریح	۱۰۰
۲۳۲	الحجر کا مصداق	۳	۲۱۱	نبی معصوم کی دعائے مغفرت کے محامل	۱۰۱

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۴۹	کفار کے انکار اور استہزاء کی وجوہات	۲۶	۲۳۳	۴	الحجر کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح
۲۵۰	مشکل الفاظ (سحر وغیرہ) کے معانی	۲۷	۲۳۳	۵	سورۃ الحجر کے مقاصد
۲۵۱	کفار مکہ کے مطالبہ پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ	۲۸		۶	الرفق تلک ایت الكتاب و قران مبین (۱)
۲۵۱	ولقد جعلنا فی السماء بروجاً (۲۵-۱۶)	۲۹	۲۳۵	۷	کتاب اور قرآن میں کا معنی
۲۵۲	بروج کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۰	۲۳۵	۸	کتاب اور قرآن میں تغایر
۲۵۳	علم نجوم کی تعریف	۳۱	۲۳۵	۹	الکتاب کو قرآن میں پر مقدم کرنے کی وجوہ
۲۵۳	ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم	۳۲	۲۳۶	۱۰	ربما یؤد الذین کفروا (۱۵-۲)
۲۵۴	شہاب ثاقب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۳		۱۱	گنہگار مسلمانوں کو دوزخ سے نکلنا ہوا دیکھ کر کفار کی حسرت اور ندامت
۲۵۵	بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	۳۴	۲۳۷	۱۲	مشکل الفاظ کے معانی
۲۵۵	آپ کی بعثت سے پہلے شہاب ثاقب گرائے جانے کے متعلق متعارض احادیث	۳۵	۲۳۹	۱۳	آیت مذکورہ کا خلاصہ
۲۵۷	ان متعارض احادیث میں قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی تطبیق	۳۶	۲۳۹	۱۴	دنیا میں مشغولیت اور پس امیدوں کی مذمت میں احادیث
۲۵۸	ان احادیث میں علامہ ابن حجر کی تطبیق	۳۷	۲۴۱	۱۵	مستقبل سے امیدیں وابستہ کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل
۲۶۰	حقیقت میں شیطان کو آگ کا شعلہ مارا جاتا ہے یا ستارہ ٹوٹتا ہے	۳۸	۲۴۲	۱۶	کفار مکہ کو زجر و توبیح
۲۶۰	زمین سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	۳۹	۲۴۳	۱۷	کفار کا آپ کو "مجنون" کہنا کوئی نئی بات نہیں
۲۶۱	زمین کو پھیلاتا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے	۴۰	۲۴۳	۱۸	آپ کی تائید کیلئے کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا
۲۶۱	"رواسی" کی تفسیر	۴۱	۲۴۵	۱۹	اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے صیغوں کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ
۲۶۱	"موزون" کی تفسیر	۴۲		۲۰	اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراد ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟
۲۶۲	مشکل الفاظ کے معانی	۴۳	۲۴۵	۲۱	قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب
۲۶۳	کھجوروں میں پیوند کاری کی ممانعت کی احادیث	۴۴	۲۴۶	۲۲	محافظة الشنی لنفسه کا جواب
۲۶۳	اس اشکال کا جواب کہ آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے پیداوار کم ہوئی	۴۵		۲۳	قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں
۲۶۴	"مستقد مین" اور "مستخرین" کی تفسیر میں متعدد استدلال	۴۶	۲۴۷	۲۴	مشکل الفاظ کے معانی
۲۶۶	متعدد استدلال	۴۷	۲۴۸	۲۵	کافروں کے دلوں میں نبیوں کا استہزاء پیدا کرنے پر بحث و نظر

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	نمبر
۲۸۸	”صراط مستقیم“ کی متعدد تفاسیر	۶۸		و لقد خلقنا الانسان من صلصال	۲۸
۲۸۸	انسانوں پر جنات کے تسلط کا رد	۶۹	۲۶۸	(۲۶-۳۳)	
۲۸۹	اس اشکال کا جواب کہ اصحاب اخلاص کو بھی شیطان نے لغزش میں مبتلا کیا	۷۰		مشکل الفاظ (صلصال الجہاں اور مسنون) کے معانی	۳۹
۲۹۱	جہنم کے دروازے اور ان میں عذاب یافتگان	۷۱		انسان کی تخلیق سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	۵۰
۲۹۳	ان المتقین فی جنت و عیون (۶۰-۲۵)	۷۲	۲۷۰	انسان کی خلقت کے مادہ میں مختلف آیات کی توجیہ	۵۱
۲۹۳	متقین کی تحقیق	۷۳		مشکل الفاظ (الجہاں اور نار السموم) کے معانی	۵۲
۲۹۵	چشموں، سلامتی اور امن کی تفسیر	۷۴	۲۷۱	مشکل الفاظ (بشر اور روح) کے معانی	۵۳
۲۹۶	اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب دونوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے	۷۵		فرشتوں کے سجدہ کی کیفیت	۵۴
۲۹۶	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات اور اس کا کفر ہونا	۷۶	۲۷۳	سجدہ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی فضیلت	۵۵
۲۹۷	فلما جاء ال لوط ن المرسلین (۷۱-۷۹)	۷۷	۲۷۷	تمام فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا	۵۶
۲۹۸	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں جانا	۷۸	۲۷۸	اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان مکالمہ کے اہم نکات	۵۷
۳۰۰	قوم لوط کی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں پر ہجوم کرنا	۷۹	۲۷۸	اس اشکال کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ ابلیس کو گمراہ کرنے کے لیے طویل عمر نہ دیتا تو لوگ گناہ نہ کرتے	۵۸
۳۰۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی	۸۰	۲۷۹	جھوٹ کی قباحت	۵۹
۳۰۱	قوم لوط پر عذاب کا نزول	۸۱	۲۸۰	”اخلاص“ کا معنی	۶۰
۳۰۲	”متوسمین“ کا معنی	۸۲	۲۸۱	کیا چیز اخلاص کے منافی ہے ؟	۶۱
۳۰۲	فراست کا معنی اور اس کے مصداق	۸۳		اخلاص کے مراتب اور درجات	۶۲
۳۰۲	فراست کے متعلق احادیث	۸۵		دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنا بھی اخلاص ہے، لیکن کامل اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے	۶۳
۳۰۷	قوم لوط کے آثار	۸۶	۲۸۲	اخلاص کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۶۴
۳۰۷	”اصحاب الایکہ“ کا معنی اور مصداق	۸۷	۲۸۳	اخلاص کے متعلق احادیث	۶۵
۳۰۸	اصحاب الایکہ کا ظلم اور اللہ تعالیٰ کا انتقام	۸۸	۲۸۳	اخلاص کے متعلق صوفیاء اور مشائخ کے اقوال	۶۶
۳۰۸	و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین (۸۰-۹۹)	۸۹	۲۸۳	دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرنا بھی اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے	۶۷
۳۱۰	الحجر کا معنی اور مصداق	۹۰	۲۸۵		

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
	حضرت ام العلاء انصاریہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اشکال	۱۱۴	۳۱۰	واہی حجر کے متعلق احادیث	۹۱
۳۲۹	روایت کے معنی کی تحقیق اور اشکال کا جواب	۱۱۵	۳۱۱	واہی حجر کی احادیث کے احکام	۹۲
۳۲۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور دوسروں کے انجام کے علم کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۱۶	۳۱۱	واہی حجر اور دیگر ممنوعہ جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء	۹۳
۳۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے متعلق احادیث	۱۱۷	۳۱۳	ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے	۹۴
۳۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۱۱۷	۳۱۳	حضرت صالح علیہ السلام کی نشانیاں	۹۵
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۱۱۸	۳۱۴	بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینا	۹۶
۳۳۲	اشکال مذکور کے جواب کا خلاصہ	۱۱۹	۳۱۵	ربط آیات اور سبب نزول	۹۷
۳۳۲	دیگر محدثین اور محققین کی طرف سے اشکال مذکور کے جوابات	۱۲۰	۳۱۵	”السیع الشانی“ کی تفسیر میں متعدد اقوال	۹۸
۳۳۳	مخالفین اعلیٰ حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۱۲۱	۳۱۶	اس اعتراض کا جواب کہ عطف کی بناء پر سورہ فاتحہ قرآن عظیم کی مغائر ہے	۹۹
۳۳۷	اعتراض مذکور کے متعدد جوابات	۱۲۲	۳۱۷	متاع دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عام مفسرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا	۱۰۰
۳۳۸	اعلیٰ حضرت کے جواب کی تقریر	۱۲۳	۳۱۸	مصنف کے نزدیک یہ نسبت امت کی طرف تعریفاً ہے	۱۰۱
۳۴۰	مغفرت ذنب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے پر اعلیٰ حضرت کی دیگر عبارات	۱۲۴	۳۱۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے متاع دنیا کو ترک فرماتے تھے	۱۰۲
۳۴۰	الاتفاق: ۹ کو منسوخ ماننے پر مخالفین اعلیٰ حضرت کے ایک اور اعتراض کا جواب	۱۲۵	۳۲۰	امت کو دنیاوی عیش کے سامان ترک کرنے کی ترغیب	۱۰۳
۳۴۲	سورت کا اختتام	۱۲۶	۳۲۱	اسلام میں دین اور دنیا کا احتراز ہے	۱۰۴
	سورۃ النحل		۳۲۲	تقسیم کرنے والوں کے مصداق میں متعدد اقوال	۱۰۵
۳۴۷	سورت کا نام وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول	۱	۳۲۳	”عصین“ کا معنی	۱۰۶
۳۴۷	سورۃ النحل کے متعلق احادیث	۲	۳۲۳	گنہگار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت	۱۰۷
۳۴۸	سورۃ النحل کے مضامین اور مقاصد	۳	۳۲۵	کفار سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت	۱۰۸
۳۴۹	اتی امر اللہ فلا تستعجلوه (۹-۱)	۴	۳۲۶	”اصدع“ کا معنی	۱۰۹
	عذاب کی وعید سے سورۃ النحل کی ابتداء کرنے کی توجیہ	۵	۳۲۶	جن مذاق اڑانے والے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا	۱۱۰
۳۵۰			۳۲۷	نماز پڑھنے سے رنج اور پریشانی کا زائل ہونا	۱۱۱
			۳۲۷	یقین کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۱۲
			۳۲۸	احادیث میں یقین پر موت کا اطلاق	۱۱۳

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۵	بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغوں کی روئیدگی	۲۸	مستقبل میں آنے والے عذاب کو ماضی سے تعبیر کرنے کی توجیہ	۶	
	زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نشانی	۲۹	۳۵۱	۷	ملائکہ سے جبریل کا مراد ہونا
۳۶۶	سورج اور چاند اور دن اور رات کے تواتر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۳۰	۳۵۲	۸	”روح“ میں متعدد اقوال
	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال	۳۱	۳۵۳	۹	روح سے وحی اور اللہ کے کلام کا مراد ہونا
۳۶۷	سندر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۳۲	۳۵۴	۱۰	قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال
	سندر کی تسخیر کا معنی	۳۳	۳۵۵	۱۱	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل
۳۶۸	کڑوے پانی میں لذیذ مچھلی کا پیدا کرنا	۳۳	۳۵۵	۱۲	مشکل الفاظ کے معانی
	مچھلی پر گوشت کے اطلاق کی بحث	۳۵		۱۳	اون کے لباس پہننے کا جواز
۳۶۹	سندری جانوں کے کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء	۳۶	۳۵۵	۱۴	جمال کا معنی اور مویشیوں کا جمال
	سندری جانوروں کے کھانے کے متعلق مذہب	۳۷		۱۵	بکریوں، گایوں اور اونٹوں کے مقاصد اور وظائف خلقت
۳۶۹	احناف	۳۷	۳۵۶	۱۶	جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت
	گوشت کو کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذاہب فقہاء	۳۸	۳۵۷	۱۷	گھوڑوں، خجروں اور گدھوں کو اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں سے علیحدہ ذکر کرنے کی توجیہ
۳۷۰	گوشت کو کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذاہب احناف	۳۹	۳۵۸	۱۸	گھوڑوں کا گوشت حرام ہونے کے دلائل
	زیورات کے متعلق احادیث	۴۰		۱۹	مذکورہ دلائل کے جوابات اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کے حلال ہونے کے دلائل
۳۷۲	زیورات کے متعلق فقہی احکام	۴۱	۳۵۹	۲۰	گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء
	زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق احادیث اور آثار	۴۲		۲۱	احناف کا موقف
۳۷۶	زیورات کی زکوٰۃ میں مذاہب فقہاء اور بحث و نظر	۴۳	۳۶۰	۲۲	پالتو گدھوں اور خجروں کا گوشت کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء
	”موخر“ کا معنی	۴۴		۲۳	گھوڑوں میں زکوٰۃ کے متعلق احادیث
۳۷۷	زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا اس کی حرکت کے منافی نہیں ہے	۴۵	۳۶۱	۲۴	گھوڑوں میں زکوٰۃ کے متعلق مذاہب فقہاء
	دنیا اور آخرت میں انسان کی ہدایت کے انتظامات	۴۶		۲۵	لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے
۳۷۹	اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال	۴۷	۳۶۳	۲۶	هو الذی انزل من السماء (۲۱-۱۰)
		۴۸	۳۶۵	۲۷	مشکل الفاظ کے معانی

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
۳۹۵	تکبر کی مذمت کے متعلق احادیث	۶۵		اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عموم اور اس کے ساتھ	۳۸
۳۹۶	متکبرین کی مغفرت نہ ہونے کی احادیث کی توجیہ	۶۶	۳۸۱	مغفرت کا ارتباط	
۳۹۶	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کی تحقیق	۶۷		کافروں کو ان کے کفر کے باوجود نعمتیں عطا	۳۹
	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق	۶۸	۳۸۱	فرمانے کی توجیہ	
۳۹۷	حضرت مجدد الف ثانی کا نظریہ		۳۸۲	بتوں کے خد اور سفارشی ہونے کا ابطال	۵۰
	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق	۶۹		”والذین یدعون من دون اللہ“ کی وہ تفسیر	۵۱
۳۹۸	اعلیٰ حضرت کے والد کا نظریہ		۳۸۲	جو سید مودودی نے کی	
	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق	۷۰	۳۸۳	سید مودودی کی تفسیر پر بحث و نظر	۵۲
۳۹۸	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نظریہ			”والذین یدعون من دون اللہ“ میں	۵۳
	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق	۷۱		”یدعون“ کا صحیح ترجمہ ”عبادت کرنا“	
۴۰۰	مصنف کی تحقیق		۳۸۳	ہے ”پکارنا“ نہیں ہے	
	کافروں کو اپنے پیروکاروں کے کفر پر عذاب	۷۲		”والذین یدعون من دون اللہ“ کا مصداق	۵۴
۴۰۱	ہونے کی توجیہ		۳۸۳	اصنام اور بت ہیں انبیاء اور اولیاء نہیں	
۴۰۲	اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا	۷۳		والذین یدعون من دون اللہ سے انبیاء اور	۵۵
	اتحسان اور استحباب		۳۸۶	اولیاء مراد لینے کے شبہات اور ان کے جوابات	
۴۰۶	آیات سابقہ سے ارتباط	۷۴	۳۸۷	انبیاء اولیاء شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت	۵۶
۴۰۵	امام رازی کے نزدیک متقی کا مصداق اور بحث و نظر	۷۵		غوث اعظم اور غوث الثقلین ایسے القاب کا	۵۷
۴۰۷	نیوکاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صورتیں	۷۶	۳۸۹	ثبوت	
۴۰۹	نیوکاروں کا آخرت میں اجر و ثواب	۷۷		شاہ عبدالعزیز اور شیخ اسماعیل دہلوی کا تہ	۵۸
۴۰۹	قبض روح کے وقت نیوکاروں کی کیفیت	۷۸	۳۹۰	مودودی کے نزدیک حجت ہونا	
۴۱۰	کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ	۷۹	۳۹۰	انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی	۵۹
	وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ	۸۰		حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں	۶۰
۴۱۱	(۳۵-۳۰)			صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی	
۴۱۲	کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ	۸۱	۳۹۱	درخواست کرنا	
	تعالیٰ چاہتا تو ہمیں مومن بنا دیتا			حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں	۶۱
۴۱۳	طاغوت کا معنی	۸۲		صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی	
	اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے	۸۳	۳۹۱	درخواست کرنا	
۴۱۴	کافروں کو گمراہ کر دیا تو ان کا گمراہی میں کیا قصور ہے		۳۹۲	اولیاء اللہ سے حاجت روائی	۶۲
۴۱۴	کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا	۸۴	۳۹۳	الہکم الہ واحد (۲۲-۲۳)	۶۳
۴۱۵	کفار کا حشر و نشر کو محال کہنا	۸۵	۳۹۵	کفار مکہ کے شرک پر اصرار کا سبب	۶۴

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
	ایک مقلد کے لیے متعدد دائرہ کی تقلید کا عدم جواز	۱۰۹	۴۱۶	حشر و نشر کے امکان اور وقوع پر دلائل	۸۶
۴۴۸	اور تقلید شخصی کا وجوب		۴۱۶	"کن فیکون" پر ایک اعتراض کا جواب	۸۷
۴۴۹	تقلید پر امام غزالی کے دلائل	۱۱۰	۴۱۷	والذین ہاجروا فی اللہ (۵۰-۴۱)	۸۸
۴۵۰	تقلید پر امام رازی کے دلائل	۱۱۱	۴۱۸	مہاجرین کی تعریف اور تحسین	۸۹
۴۵۰	تقلید پر امام آمدی کے دلائل	۱۱۲	۴۱۹	حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت	۹۰
۴۵۱	تقلید پر شیخ ابن تیمیہ کے دلائل	۱۱۳	۴۱۹	ہجرت کی وجہ سے اسلام کی تقویت	۹۱
۴۵۱	مسئلہ تقلید میں حرف آخر	۱۱۴	۴۲۰	صبر اور توکل	۹۲
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت	۱۱۵		ہجرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ہجرت کی	۹۳
۴۵۲	اور حکمت		۴۲۰	اقسام	
۴۵۳	حجیت حدیث	۱۱۶	۴۲۳	ہجرت منقطع ہونے کے متعلق احادیث	۹۴
	کفار مکہ کو انواع و اقسام کے عذاب سے ڈرانا	۱۱۷	۴۲۵	ہجرت باقی رہنے کے متعلق احادیث	۹۵
۴۵۵	اور دھمکانا		۴۲۵	ہجرت کی متعارض احادیث میں تطبیق	۹۶
۴۵۶	ہر چیز کے سائے کے بعدہ کی توضیح اور توجیہ	۱۱۸	۴۲۷	انسان اور بشر کو نبی اور رسول بنانے کی تحقیق	۹۷
۴۵۷	ہر چیز کے بعدہ ریز ہونے کا محمل	۱۱۹	۴۲۸	اہل الذکر کا مصداق	۹۸
۴۵۸	فرشتوں کا معصوم ہونا	۱۲۰		مسئلہ تقلید پر "فاسئلوا اهل الذکر" سے	۹۹
۴۵۹	وقال اللہ لا تتخذوا الہین (۶۰-۵۱)	۱۲۱	۴۲۸	استدلال	
۴۶۰	الہ کا معنی معبود ہے یا عبادت کا مستحق؟	۱۲۲		آیت مذکورہ سے استدلال پر نواب صدیق حسن	۱۰۰
۴۶۱	توحید پر دلائل	۱۲۳	۴۲۹	خان کے اعتراضات	
۴۶۲	ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟	۱۲۴		اعتراضات مذکورہ کے جوابات اور اس پر دلائل کہ	۱۰۱
۴۶۳	شکر کے شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث	۱۲۵	۴۳۰	اعتبار خصوصیت مورد کا نہیں، عموم الفاظ کا ہوتا ہے	
	مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا اور مصیبت ٹلنے	۱۲۶		آیت مذکورہ کا تمام مسائل کے لیے عام ہونا خواہ	۱۰۲
۴۶۴	کے بعد اللہ کو بھول جانا		۴۳۱	ان کا علم ہو یا نہ ہو	
	اللہ کے لیے حصہ مقرر کرنے پر مشرکین کو زجر و	۱۲۷		تقلید کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی	۱۰۳
۴۶۶	توبیح		۴۳۲	وضاحت	
۴۶۷	بیٹیوں کو عار سمجھنے کی مذمت	۱۲۸	۴۳۳	قرآن کریم سے تقلید پر استدلال	۱۰۴
۴۶۸	بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کے متعلق احادیث	۱۲۹	۴۳۳	احادیث سے تقلید پر استدلال	۱۰۵
	اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کا معنی اور اللہ کے	۱۳۰		آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے تقلید پر	۱۰۶
۴۷۰	اسماء کا توفیقی ہونا		۴۳۴	استدلال	
۴۷۰	ولو یؤخذ اللہ الناس (۷۰-۶۱)	۱۳۱	۴۳۴	غیر مقلد علماء کی عبارات سے تقلید پر استدلال	۱۰۷
۴۷۲	اس سوال کا جواب کہ سب لوگ ظلم کرتے ہیں	۱۳۲	۴۳۶	تقلید کی ضرورت	۱۰۸

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
۴۹۷	ذیابیطس کے مریض کے لیے شہد کا شفاء نہ ہونا	۱۵۷	۴۷۳	اس سوال کا جواب کہ غیر ظالموں کو ہلاک کرنا	۱۳۳
	صوفیاء کے نزدیک علاج کرنا رخصت ہے اور	۱۵۸		عدل کے خلاف ہے	
۴۹۷	علاج کو ترک کرنا عزیمت ہے		۴۷۷	”مفرطون“ کا معنی	۱۳۳
	مشہور صوفی ابوطالب کی کے کلام پر مصنف کا	۱۵۹	۴۷۸	کفار کے مختلف نظریات کا بطلان	۱۳۵
۴۹۹	تبصرہ			اللہ تعالیٰ کی الوہیت تو حید اور مردوں کو زندہ	۱۳۶
	ترک علاج کو افضل کہنے والوں کے دلائل اور ان	۱۶۰	۴۷۹	کرنے پر دلیل	
۵۰۱	کے جوابات			گو بر اور خون کے درمیان دودھ کو پیدا کرنے کی	۱۳۷
	علاج کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث سے	۱۶۱	۴۸۰	صحیح کیفیت	
۵۰۷	مزید دلائل		۴۸۰	ز حیوانوں میں دودھ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟	۱۳۸
	قرآن مجید اور احادیث سے ”پرہیز“ کے ثبوت	۱۶۲	۴۸۱	اوجھڑی میں دودھ پیدا نہ ہونے کے دلائل	۱۳۹
۵۱۰	پر دلائل		۴۸۱	دودھ کی خلقت میں اسرار و دقائق	۱۴۰
۵۱۳	انسان کی عمر کے تغیرات سے اللہ تعالیٰ کے خالق	۱۶۳	۴۸۳	دودھ کی خلقت میں حشر و نشر کے امکان کی دلیل	۱۴۱
	ہونے پر استدلال		۴۸۳	لذیذ طعام اور مشروب کھانے پینے کا جواز	۱۴۲
۵۱۳	”ارذل عمر“ کا معنی اور مصداق	۱۶۳	۴۸۳	دودھ کے متعلق احادیث	۱۴۳
۵۱۳	ارذل عمر سے پناہ طلب کرنا	۱۶۵	۴۸۵	دودھ کا کیمیائی تجزیہ	۱۴۳
	واللہ فضل بعضکم علی بعض	۱۶۶	۴۸۶	سکر کے لغوی معنی کی تحقیق	۱۴۵
۵۱۳	(۷۱-۷۶)		۴۸۷	سکر کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات	۱۴۶
۵۱۶	شرک کے رد پر ایک دلیل	۱۶۷	۴۸۸	ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خمر کی تعریف اور اس کا حکم	۱۴۷
	رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت کا سبب اللہ	۱۶۸	۴۸۹	امام ابوحنیفہ کے نزدیک خمر کی تعریف اور اس کا حکم	۱۴۸
۵۱۶	تعالیٰ کا فضل ہے			اس حدیث کا جواب جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو	۱۴۹
۵۱۸	”خدة“ کے معنی	۱۶۹	۴۹۰	اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے	
۵۱۸	کسی شخص کی بیوی کا اس کی خدمت کرنا	۱۷۰		خمر کا بیعہ حرام ہونا اور باقی مشروبات کا بہ قدر نشہ	۱۵۰
۵۲۰	مشرکین کی اونٹنی عقل	۱۷۱	۴۹۰	حرام ہونا	
۵۲۱	اللہ تعالیٰ کے لیے مثال گھڑنے کے محال	۱۷۲	۴۹۲	شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تحقیق	۱۵۱
۵۲۱	عاجز غلام اور آزاد فیاض کی مثال کی وضاحت	۱۷۳	۴۹۳	شہد کی مکھی کی دو قسمیں	۱۵۲
	گو ننگے عاجز غلام اور نیک آزاد شخص کی مثال	۱۷۳	۴۹۳	شہد کی مکھی کے عجیب و غریب افعال	۱۵۳
۵۲۲	کے محال		۴۹۳	حشرات الاراض کو مارنے کا شرعی حکم	۱۵۴
	وللہ غیب السموت والارض	۱۷۵		علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے متعلق	۱۵۵
۵۲۳	(۷۷-۸۳)		۴۹۵	احادیث	
۵۲۵	مشکل الفاظ کے معانی	۱۷۶	۴۹۶	علاج کرنے کا استحباب	۱۵۶

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	نمبر
۵۵۱	زیر تفسیر آیت کی فضیلت	۱۹۸	۵۲۵	اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعت پر دلائل	۱۷۷
۵۵۱	عدل کا معنی	۱۹۹		اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کے طریقے	۱۷۸
۵۵۲	عدل کی تعریف کی روشنی میں اسلام اور اہلسنت کا برحق ہونا	۲۰۰	۵۲۶	پرندوں کی پرواز سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور توحید پر استدلال	۱۷۹
۵۵۳	احسان کا معنی	۲۰۱	۵۲۵	مشکل الفاظ کے معانی	۱۸۰
۵۵۵	عدل اور احسان میں فرق	۲۰۲	۵۲۹	مذکورہ آیات کا خلاصہ	۱۸۱
۵۵۷	رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا	۲۰۳	۵۲۹	ہڈی کے نجس ہونے کے متعلق علامہ قرطبی کے دلائل	۱۸۲
۵۵۸	الفحشاء المنکر اور البغی سے ممانعت	۲۰۴		خنزیر کے بالوں کا نجس ہونا	۱۸۳
۵۵۹	اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام	۲۰۵	۵۳۰	ہڈی کا پاک ہونا	۱۸۳
	ایک دوسرے سے تعاون کے معاہدہ کے متعلق	۲۰۶	۵۳۲	انسانوں کے بالوں کا طاہر ہونا	۱۸۵
۵۶۰	متعارض احادیث		۵۳۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے متعلق احادیث	۱۸۶
۵۶۰	ان احادیث میں تطبیق	۲۰۷	۵۳۶	فضائل کریمہ کی طہارت پر فنی اعتراضات کے جوابات	۱۸۷
۵۶۱	”مواخاة“ کا معنی	۲۰۸		فضائل کریمہ کی طہارت کے متعلق دیگر علماء کی عبارات	۱۸۸
	حلف المفضل (مظلوم کا بدلہ لینے کا باہمی معاہدہ)	۲۰۹	۵۳۷	ویوم نبعت من کل امة شهيدا	۱۸۹
۵۶۲	عہد شکنی کی مذمت	۲۱۰	۵۳۹	(۸۳-۸۹)	
۵۶۳	مشکل الفاظ کے معانی	۲۱۱		آخرت میں کفار کے احوال	۱۹۰
	سوت کات کر توڑ دینے کی مثال سے کیا مقصود ہے؟	۲۱۲	۵۴۰	عتاب کا معنی	۱۹۱
۵۶۳	بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور پھر ان سے سوال کرنے کی توجیہ	۲۱۳	۵۴۱	قیامت کے دن بتوں اور مشرکوں کا مکالمہ	۱۹۲
۵۶۳	قسم توڑنے کی ممانعت کو دوبارہ ذکر کرنے کی توجیہ	۲۱۴	۵۴۳	قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کسی صورت میں آنے کی توجیہ	۱۹۳
۵۶۵	اخروی نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے افضل ہونا	۲۱۵		دوسروں کو کافر بنانے والوں کو دگنا عذاب ہونا	۱۹۴
۵۶۶	مومن کے ہر عمل کا باعث اجر و ثواب ہونا	۲۱۶	۵۴۳	زمانہ فترت میں علماء مبلغین کا حجت ہونا	۱۹۵
۵۶۶	اعمال کا ایمان سے خلاصہ ہونا	۲۱۷	۵۴۶	قرآن مجید کا ہر چیز کے لیے روشن بیان ہونا	۱۹۶
	مومن کی پاکیزہ زندگی کے متعلق متعدد افعال اور اس کے ضمن میں قناعت اور رزق حلال کی فضیلت	۲۱۸	۵۴۷	ان اللہ یامر بالعدل والاحسان	۱۹۷
۵۶۷	مومن کی دنیا کی زندگی اور کافر کی دنیا کی زندگی کا فرق	۲۱۹		(۹۰-۱۰۰)	
۵۶۹	فرق		۵۴۹		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۲۳۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے مشرکین کے خلاف استدلال	۲۳۰	قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے "اعوذ باللہ"	۲۳۰
۵۹۳	امت کا معنی	۲۳۱	اس آیت کا بہ ظاہر معنی ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے اس کا جواب	۲۳۱
۵۹۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانے کی توجیہات	۲۳۲	لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت	۲۳۲
۵۹۵	ملت ابراہیم کی اتباع کی توجیہ	۲۳۳	واذا بدلنا اية مكان اية (۱۱۰-۱۰۱)	۲۳۳
۵۹۷	یہودیوں کا ہفتہ کو اور عیسائیوں کا اتوار کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا	۲۳۳	شیخ کی وجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب	۲۳۳
۵۹۷	مسلمانوں کا جمعہ کے دن کی ہدایت کو پانا	۲۳۵	سنت سے قرآن مجید کے منسوخ نہ ہونے کے استدلال کا جواب	۲۳۵
۵۹۸	جمعہ کے دن کی چھٹی کا مسئلہ!	۲۳۶	"الحاذ" اور "عجم" کا معنی	۲۳۶
۵۹۹	اتوار کی چھٹی کرنے کے دلائل اور ان کے جوابات	۲۳۷	مشرکین نے جس شخص کے متعلق تعلیم دینے کا	۲۳۷
۶۰۰	جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل	۲۳۸	افتراء کیا تھا اس کے بارہ میں متعدد اقوال	۲۳۸
۶۰۱	حکمت، موعظت، حسنہ اور جدل کے لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۳۹	مشرکین کے افتراء کے متعدد جوابات	۲۳۸
۶۰۲	بدلہ لینے میں تجاوز نہ کیا جائے	۲۳۹	مشرکین کو ہدایت نہ دینے کی وجوہ	۲۳۹
۶۰۳	بدلہ لینے کے بجائے صبر کرنے میں زیادہ فضیلت	۲۴۰	جو کام دائماً ہو اس کو اسم سے اور جو کام عارضی ہو اس کو فعل سے تعبیر کرنا	۲۳۰
۶۰۳	صبر کرنے کی ترغیب	۲۴۱	جان کے خوف سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت اور	۲۳۱
۶۰۳	بدلہ نہ لینے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت	۲۴۲	جان دینے کی عزیمت	۲۳۱
۶۰۵	اختتامی کلمات	۲۴۳	اکراہ (دھمکی دینے) کی تعریف اور اس کے مسائل	۲۳۲
۶۰۷	بنی اسرائیل	۲۴۳	مرتبہ دین کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگانے کی توجیہ	۲۳۳
۶۱۱	سورت کا نام	۲۴۳	جان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ کفر کہنے والوں کی معافی کا حکم	۲۳۳
۶۱۲	سورۃ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول	۲۴۳	یوم ناتی کل نفس تجادل (۱۱۹-۱۱۱)	۲۳۵
۶۱۲	سورۃ النحل اور سورۃ بنی اسرائیل میں مناسبت	۲۴۳	روح اور بدن میں سے ہر ایک عذاب کا مستحق ہے	۲۳۶
۶۱۲	سورۃ بنی اسرائیل کے مشمولات	۲۴۳	قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کہنا	۲۳۷
۶۱۳	سبحن الذی اسرى بعبدہ لیلا (۱-۱۰)	۲۴۳	کفار مکہ پر بھوک اور خوف کو مسلط کرنا	۲۳۸
۶۱۵	سبحان کا معنی	۲۴۳	ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ (۱۲۸-۱۲۰)	۲۳۹

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
۶۵۷	طاہر کا لغوی اور عرفی معنی	۳۱	۶۱۶	سبحان اللہ کہنے کی فضیلت میں احادیث	۷
۶۵۷	طاہر (بدشگونی) کے متعلق احادیث	۳۲	۶۱۷	اسرائیلی کا معنی	۸
۶۵۸	صحائف اعمال کو گلے میں لٹکانے کی توجیہ	۳۳	۶۱۷	خواب میں معراج ہونے کی روایات	۹
۶۵۹	بندہ کا اپنے صحائف اعمال کو پڑھنا	۳۴	۶۱۸	خواب میں معراج کی روایات کے جوابات	۱۰
	اولاد اور شاگردوں کی نیکیوں کا ماں باپ اور	۳۵	۶۲۰	عبد کے معنی	۱۱
۶۵۹	اساتذہ کو طے کا جواز			اللہ تعالیٰ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد	۱۲
۶۶۰	انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے مختار ہے	۳۶	۶۲۱	فرمانا	
	آیا گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا	۳۷	۶۲۲	مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانا	۱۳
۶۶۰	ہے یا نہیں؟		۶۲۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں دکھانا	۱۴
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو	۳۸	۶۲۸	رات کے قلیل وقفہ میں معراج کا ہونا	۱۵
۶۶۲	عذاب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق		۶۲۹	واقعہ معراج کی تاریخ	۱۶
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۳۹	۶۲۹	واقعہ معراج کی ابتداء کی جگہ	۱۷
۶۶۲	متعلق قرآن مجید کی آیات		۶۳۰	معراج کی احادیث میں تعارض کی توجیہ	۱۸
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۴۰		کتب احادیث کے مختلف اقتباسات سے واقعہ	۱۹
۶۶۳	متعلق احادیث		۶۳۰	معراج کا مربوط بیان	
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۴۱	۶۳۳	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو وکیل نہ بنانے کا معنی	۲۰
۶۶۳	متعلق فقہاء مالکیہ کے نظریات		۶۳۳	حضرت نوح علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا	۲۱
	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۴۲		یہودیوں کی دوبارہ سرکشی اور اس کی سزا میں ان	۲۲
۶۶۵	متعلق فقہاء احناف کا نظریہ		۶۳۵	پر دوبارہ دشمنوں کے غلبہ پر بائبل کی شہادت	
۶۶۹	تابیخ اولاد کا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہونا	۴۳	۶۳۷	یہودیوں کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا	۲۳
۶۷۰	مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا	۴۴		بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ان کے	۲۴
۶۷۰	مشرکین کے بچوں کا دوزخ میں داخل ہونا	۴۵	۶۳۸	دشمنوں کو مسلط کرنا	
۶۷۱	مشرکین کی اولاد کا اہل جنت کا خادم ہونا	۴۶		بنی اسرائیل کی غلامی کی ذلت سے مسلمان عبرت	۲۵
۶۷۱	میدان قیامت میں بچوں اور دیگر کا امتحان ہونا	۴۷	۶۵۰	پکڑیں	
	تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا خواہ مسلمان	۴۸	۶۵۱	اسلام کا سب سے مستحکم دین ہونا	۲۶
۶۷۲	ہوں یا کافر			ویدع الانسان بالشر دعاءه بالخیر	۲۷
۶۷۲	خلاصہ بحث	۴۹	۶۵۲	(۱۱-۲۲)	
۶۷۳	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۵۰	۶۵۳	غصہ میں اپنے اور اپنے اہل کے خلاف دعاء کرنا	۲۸
	اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل	۵۱	۶۵۵	انسان کا جلد باز ہونا	۲۹
۶۷۳	کرنے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتا		۶۵۶	قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانے کی وجہ	۳۰

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
۶۹۱	رحم دلی سے بازو جھکانے کا معنی	۷۱		بدکاروں کے لیے وعید اور نیکو کاروں کے لیے بشارت	۵۲
	مشرک ماں باپ کے لیے دعاء کرنے میں	۷۲	۶۷۶		
۶۹۲	مفسرین کے اقوال		۶۷۶	مشکل الفاظ کے معانی	۵۳
	ماں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور	۷۳	۶۷۶	صرف دنیا کے طلب گار کا انجام	۵۴
۶۹۳	نا فرمانی کے نتائج اور ثمرات			نیک اعمال کے مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا	۵۵
۶۹۵	اؤابین کے معانی	۷۴	۶۷۷		
	جن لوگوں پر خرچ کرنا انسان پر واجب ہے اس کے متعلق مذاہب فقہاء	۷۵		نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف ہونا	۵۶
۶۹۶			۶۷۸		
۶۹۸	تذیر کا معنی	۷۶		نیک اعمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقہ	۵۷
۶۹۸	مبذربین کو شیطان کا بھائی فرمانے کی توجیہ	۷۷	۶۷۹	عبادت پر موقوف ہونا	
۶۹۹	شیطان کے ناشکرے ہونے کا معنی	۷۸		نیک اعمال کے مشکور ہونے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توجیہ	۵۸
	اگر سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو نرم روی کے ساتھ معذرت کرنا	۷۹	۶۸۰		
۶۹۹			۶۸۰	امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی حکمتیں	۵۹
۷۰۰	خرچ میں اعتدال کا واجب ہونا	۸۰	۶۸۲	آپ کی طرف عبادت غیر اللہ کی نسبت کی وضاحت	۶۰
	خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ نہ کرنے کی مذمت میں احادیث	۸۱	۶۸۳	شرک کی مذمت اور مشرکین کی ناکامی کی توجیہ	۶۱
۷۰۰				وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ (۲۳-۳۰)	۶۲
	زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی مذمت میں احادیث	۸۲	۶۸۳		
۷۰۱				اس پر دلیل کہ عبادت کا استحقاق صرف اللہ کے لیے ہے	۶۳
۷۰۲	زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور تحقیق	۸۳	۶۸۳		
۷۰۳	اعتدال اور میانہ روی کے متعلق احادیث	۸۴	۶۸۵	لفظ قضی کے متعدد معانی	۶۴
	جن کا توکل کامل ہو ان کے لیے اپنا تمام مال صدقہ کرنے کا جواز	۸۵		اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متصل ماں باپ کی اطاعت کا حکم دینے کی توجیہ	۶۵
۷۰۴			۶۸۶		
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول تبرک کا جواز	۸۶		ماں باپ کے حصول لذت کے نتیجے میں اولاد ہوئی پھر ان کا کیا احسان ہے؟	۶۶
۷۰۵			۶۸۷		
	رزق میں کمی اور زیادتی بندوں کی مصلحت پر مبنی ہے	۸۷		ماں باپ کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۶۷
۷۰۶			۶۸۷		
	ولا تقتلوا اولادکم خشية اطلاق (۳۱-۳۰)	۸۸	۶۸۸	ماں باپ کے حقوق کے متعلق احادیث	۶۸
۷۰۶				ماں باپ کے بڑھاپے اور ان کی موت کے بعد ان سے نیک سلوک کرنا	۶۹
۷۰۸	آیات سابقہ سے مناسبت	۸۹	۶۹۰		
۷۰۸	حسن اور قبح کے عقلی ہونے پر دلائل	۹۰	۶۹۱	ماں باپ کو جھڑکنے اور ان کو آف کہنے کی ممانعت	۷۰

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمارہ	عنوان	نمبر شمارہ
	لیس للانسان الا ماسعی سے ایصال ثواب	۷۰۹	۱۱۷	عورتوں کی آزادی کے نتائج	۹۱
۷۲۷	کے تعارض کا جواب	۷۰۹		حرمیت زنا کی وجوہ	۹۲
۷۲۸	ایصال ثواب کے متعلق احادیث	۷۱۰	۱۱۸	حرمیت زنا کو حرمیت قتل پر مقدم کرنے کی وجہ	۹۳
۷۲۹	آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا	۷۱۰	۱۱۹	کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بارہ جائز صورتیں	۹۴
۷۲۹	آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کے دلوں پر پردہ ڈالنا	۷۱۱		مقتول کے وارث کی قوت کا بیان	۹۵
۷۲۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق	۷۱۲	۱۲۱	ولی مقتول کے تجاؤز نہ کرنے کا معنی	۹۶
۷۳۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی	۷۱۳	۱۲۲	قفا کا معنی	۹۷
۷۳۰	احادیث	۷۱۳		بغیر علم کے ظن پر عمل کرنے کی ممانعت	۹۸
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے متعلق علماء حنفیہ کا نظریہ	۷۱۵		ظن پر عمل کرنے کی شرعی نظائر	۹۹
۷۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے متعلق متاخرین کا نظریہ	۷۱۶	۱۲۳	ظن پر عمل کرنے کی ممانعت کا محمل	۱۰۰
۷۳۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کا انکار کرنے والے علماء	۷۱۷		کان آنکھ اور دل سے سوال کیے جانے کی توجیہ	۱۰۱
۷۳۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے متعلق مصنف کا نظریہ	۷۱۸	۱۲۶	اکڑا کر چلنے کی ممانعت	۱۰۲
۷۳۶	مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل قبروں سے نکلنے کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صداقت	۷۱۹	۱۲۷	تکبر کی مذمت میں احادیث	۱۰۳
۷۳۹	وقل لعبادی یقولوا اللہ ہی احسن	۷۲۱		آیات سابقہ میں مذکورہ تیس احکام کا خلاصہ	۱۰۴
۷۴۰	(۵۳-۶۰)	۷۲۲	۱۲۸	احکام مذکورہ میں اول و آخر توحید کو ذکر کرنے کی حکمت	۱۰۵
۷۴۲	آپس کی گفتگو میں اور تبلیغ میں نرمی اور حسن اخلاق سے کام لینا	۷۲۳	۱۲۹	احکام مذکورہ کے حکیمانہ ہونے کی وجوہ	۱۰۶
۷۴۳	بعض نبیوں کی بعض نبیوں پر فضیلت	۷۲۳		اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کے قول کا ظلم ہونا	۱۰۷
۷۴۳	حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصیت کے ساتھ ذکر کی توجیہ	۷۲۳		ولقد صرفنا فی هذا القرآن (۵۲-۴۱)	۱۰۸
۷۴۳	غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھ کر پکارنے کا رد	۷۲۳		تصریف اور تذکر کا معنی	۱۰۹
۷۴۳	مطلقاً پکارنے اور مدد طلب کرنے کو شرک کہنا صحیح نہیں	۷۲۳		اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل	۱۱۰
۷۴۵		۷۲۶		اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے یا صرف ذوی العقول کرتے ہیں اور یہ تسبیح حالی ہے یا قولی؟	۱۱۱
				ہر چیز کی تسبیح کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق	۱۱۲
				ہر چیز کی حقیقتاً تسبیح کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۱۳
				ہر چیز کی حقیقتاً تسبیح کرنے کے متعلق احادیث	۱۱۴
				کعبہ کی شاخ کے ٹکڑوں کو قبروں پر رکھنے کی تشریح	۱۱۵
				قبر پر قرآن مجید پڑھنے سے عذاب میں تخفیف ہونا	۱۱۶

صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر
۷۶۷	فتح مکہ سے قرآن مجید کی پیش گوئی کا پورا ہونا	۱۵۵	۷۶۷	دوزخ کے عذاب سے انبیاء اور ملائکہ کے ڈرنے کی توجیہ	۱۳۴
۷۶۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہونا	۱۵۶	۷۶۸	کھلم کھلا سود کھانا اور فحش کام کرنا نزول عذاب کا موجب ہے	۱۳۵
۷۶۹	دلوک کا معنی	۱۵۷	۷۶۹	زیر تفسیر آیت کا شان نزول	۱۳۶
۷۶۹	پانچ نمازوں کی فرضیت	۱۵۸	۷۷۰	فرمانی مجزات نازل نہ کرنے کی وجوہ	۱۳۷
۷۷۰	اوقات نماز کے متعلق احادیث اور مذاہب	۱۵۹	۷۷۱	اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت فرمانا	۱۳۸
۷۷۱	تہجد کا معنی	۱۶۰	۷۷۲	شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا	۱۳۹
۷۷۱	تہجد کی رکعات	۱۶۱	۷۷۳	شجرۃ الزقوم کا معنی	۱۴۰
۷۷۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تہجد نفل ہے لیکن نفل کی حیثیت میں فرق ہے	۱۶۲	۷۷۴	شجرۃ الزقوم کو طعون فرمانے کی توجیہات	۱۴۱
۷۷۳	یہ کہنا صحیح نہیں کہ آپ پر تہجد فرض ہے	۱۶۳	۷۷۵	واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم	۱۴۲
۷۷۳	مقام محمود کی تحقیق	۱۶۴	۷۷۵	(۷۱-۷۰)	
۷۷۳	شفاعت کبریٰ کے متعلق احادیث	۱۶۵	۷۷۶	مشکل الفاظ اور مطلق نعروں کی تشریح	۱۴۳
۷۷۴	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام	۱۶۶	۷۷۷	اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	۱۴۴
۷۷۴	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کا جھنڈا عطا کیا جاتا	۱۶۷	۷۷۸	انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہ	۱۴۵
۷۷۴	مسلمانوں کا نکالا جانا	۱۶۸	۷۷۹	یوم ندعوا کل اناس بامامہم (۸۳-۷۱)	۱۴۶
۷۷۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھانا	۱۶۹	۷۸۰	قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا امام سے کیا مراد ہے؟	۱۴۷
۷۷۸	مدخل صدق اور مخرج صدق کی تفسیر میں متعدد اقوال	۱۷۰	۷۸۱	امام کی تفسیر میں صحیح محمل	۱۴۸
۷۷۸	جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں یا اس کی معصیت پر مبنی ہوں ان کو توڑنے کا وجوب	۱۷۱	۷۸۲	کافروں کا دنیا اور آخرت میں اندھا ہونا	۱۴۹
۷۷۹	قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۱۷۲	۷۸۳	کفار کی فرمائشوں کے متعلق اقوال	۱۵۰
۷۸۰	قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۱۷۳	۷۸۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھنے کی توجیہات	۱۵۱
۷۸۱	نشرہ اور مریضوں پر دم کرنے کا حکم	۱۷۴	۷۸۵	آپ کو دگنا مزہ چکھانے کی توجیہات	۱۵۲
۷۸۲	تعویذ لٹکانے کا حکم	۱۷۵	۷۸۶	مگر بن عصمت انبیاء کے اعتراضات اور ان کے جوابات	۱۵۳
۷۸۲	ظالموں کے لیے قرآن مجید کا مزید گمراہی کا سبب ہونا	۱۷۶	۷۸۷	اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں میں کامیابی	۱۵۴

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	نمبر
	بعض انسانوں کی سخاوت کے باوجود انسان کے	۲۰۲	۷۸۳	انسان کا کمزور دل اور ناشکرا ہونا	۱۷۷
۸۰۵	بخیل ہونے کی توجیہ	۷۸۳		نیکیوں اور بریوں پر قرآن مجید کے مختلف آثار	۱۷۸
۸۰۵	بخل کی مذمت میں احادیث	۲۰۳	۷۸۳	متقدمین کی پسندیدہ آیات	۱۷۹
	ولقد اتینا موسیٰ تسع ایت بینت	۲۰۳	۷۸۳	مصنف کی پسندیدہ آیات	۱۸۰
۸۰۷	(۱۰۱-۱۱۱)	۷۸۵		ویسنلونک عن الروح (۸۵-۹۳)	۱۸۱
	حضرت موسیٰ کو نو احکام دیے گئے تھے یا نو	۲۰۵	۷۸۶	روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۸۲
۸۰۹	معجزات	۷۸۷		روح کی موت کی تحقیق	۱۸۳
۸۱۰	بنی اسرائیل سے سوال کرنے کی توجیہ	۲۰۶	۷۸۸	جسم کی موت کے بعد روح کا مستقر	۱۸۴
۸۱۰	سکور بصر، استغوا از اور لقیف کے معانی	۲۰۷	۷۸۹	روح کا حادث اور مخلوق ہونا	۱۸۵
۸۱۱	قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنا	۲۰۸	۷۹۰	نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟	۱۸۶
۸۱۲	قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجہ	۲۰۹		نفس لتارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی	۱۸۷
۸۱۲	ایمان لانے میں اہل کتاب کی عاجزی	۲۱۰	۷۹۰	تعریفات	
۸۱۳	اللہ اور رحمان پکارنے کے متعدد شان نزول	۲۱۱	۷۹۱	عالم خلق اور عالم امر	۱۸۸
	پست آواز اور بلند آواز سے نماز میں قرآن مجید	۲۱۲	۷۹۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟	۱۸۹
۸۱۳	پڑھنے کے محال			رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس	۱۹۰
۸۱۳	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل	۲۱۳	۷۹۳	کے فضل کی دلیل	
	اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دلائل اور وہی	۲۱۳	۷۹۳	دلوں سے علم کا نکل جانا	۱۹۱
۸۱۵	تمام تعریفوں کا مستحق ہے	۷۹۳		قرآن مجید کا متعدد اسالیب سے ہدایت دینا	۱۹۲
۸۱۵	اللہ تعالیٰ کی کبریائی	۲۱۵		تبلیغ اسلام سے دست کش ہونے کے لیے کفار	۱۹۳
۸۱۶	اختتامی کلمات اور دعا	۲۱۶	۷۹۵	مکہ کی پیشکش	
۸۱۷	ماخذ و مراجع	۲۱۷	۷۹۵	کفار مکہ کا فرمائشی معجزات طلب کرنا	۱۹۴
			۷۹۶	فرمائشی معجزات نازل نہ کرنے کی وجوہات	۱۹۵
			۷۹۸	معجزات کے مقدور نبی ہونے کی بحث	۱۹۶
			۷۹۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی تحقیق	۱۹۷
			۸۰۱	وما منع الناس ان يؤمنوا (۹۳-۱۰۰)	۱۹۸
				زمین والوں کے لیے کسی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں	۱۹۹
			۸۰۳	بنایا؟	
				کافر کے سر کے بل چلنے اور قیامت کے دن اس	۲۰۰
			۸۰۳	کے اندھے بہرے اور گونگے ہونے کی توجیہات	
			۸۰۵	حرص کی مذمت	۲۰۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین (تبیان القرآن جلد ہفتم)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۴	دنیا سے رغبت کو کم کرنا	۱۷		سورۃ الکھف	۱
	دنیا کی زینت اور اس سے دامن بچانے کے	۱۸	۳۳	سورۃ کا نام	۲
۴۵	متعلق احادیث		۳۳	سورۃ الکھف کا زمانہ نزول	۳
۴۶	زہد اور قناعت کے متعلق احادیث	۱۹	۳۴	سورۃ الکھف کا سبب نزول	۴
۴۸	زہد اور قناعت کی تعریفات	۲۰		روح کے سوال کو بنی اسرائیل میں اور بقیہ	۵
۴۸	اصحاب کہف کے واقعہ کا شان نزول	۲۱	۳۴	دو سوالوں کو الکھف میں ذکر کرنے کی توجیہ	
۴۹	اصحاب الکھف اور اصحاب الرقیم کی سوانح	۲۲	۳۵	سورۃ الکھف کے متعلق احادیث	۶
۵۶	اصحاب کہف کی دعا کی تشریح	۲۳		سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکھف میں باہمی	۷
	لوگوں کے شر اور فساد سے بچنے کیلئے جنگلوں اور	۲۴	۳۶	مناسبت	
۵۶	غاروں میں رہنے کا جواز		۳۷	سورۃ الکھف کے مشمولات	۸
	عزالت نشینی کے بجائے لوگوں کے ساتھ مل جل	۲۵		الحمد لله الذی انزل علی عبدہ الکتب	۹
۵۷	کر رہنے کی فضیلت		۳۸	(۱-۱۲)	
۵۸	عزالت نشینی اور تمدنی زندگی میں درمیانی کیفیت	۲۶	۴۰	سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکھف کا ارتباط	۱۰
۵۸	نیند کا کانوں کے ساتھ تعلق	۲۷	۴۱	اللہ کی حمد کرنے کا طریقہ	۱۱
۵۹	لنعلم کے چند تراجم اور ان پر اشکال	۲۸	۴۱	قرآن مجید میں کجی نہ ہونے کا معنی	۱۲
	اللہ کے علم کے حادث ہونے کا اشکال اور اس	۲۹	۴۲	انسان کا با اختیار ہونا	۱۳
۶۰	کے جوابات			نبی ﷺ کا منصب ایمان کا راستہ دکھانا ہے	۱۴
۶۱	دو جماعتوں کا مصداق	۳۰	۴۲	رہا ایمان کو پیدا کرنا سو وہ اللہ کا کام ہے	
	نحن نقص علیک نبأهم بالحق	۳۱		زمین کی زینت سے انسان کو امتحان میں مبتلا	۱۵
۶۱	(۱۳-۱۷)		۴۳	کرنا	
۶۲	فتیہ کے معنی	۳۲		اس سوال کا جواب کہ امتحان لینا تو عدم علم کو	۱۶
۶۳	اصحاب کہف کے کھڑے ہونے کی تفسیر میں اقوال	۳۳	۴۴	مستلزم ہے	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	صالحین کی قبروں کے پاس مساجد بنانے کی	۵۵	۶۳	سماع کے دوران قیام پر علامہ قرطبی کا تبصرہ	۳۴
۸۰	ممانعت میں احادیث			بتوں کی عبادت کی ممانعت پر ایک سوال کا	۳۵
۸۰	ممانعت کی احادیث کا منسوخ ہونا	۵۶	۶۳	جواب	
	صالحین کی قبور کے پاس مسجد بنانے کی ممانعت	۵۷	۶۵	مشکل الفاظ کے معانی	۳۶
۸۱	کے محال			اصحاب کہف کے جسموں کو دھوپ سے محفوظ	۳۷
	صالحین کے جوار میں مسجد بنانے پر مفسرین کی	۵۸	۶۵	رکھنے کی دو تفسیریں۔	
۸۳	تصریحات		۶۶	وتحسبہم ایقاظا وهم رقود (۱۸-۲۲)	۳۸
۸۳	اصحاب کہف کی تعداد بتانے والے قائلین	۵۹	۶۷	اصحاب کہف کا کروٹیں بدلنا	۳۹
۸۳	اصحاب کہف کی صحیح تعداد	۶۰	۶۸	الوصید کا معنی	۴۰
	سات اوصاف کے درمیان داؤ کا ذکر نہ کرنا اور	۶۱	۶۸	صالحین کی مجلس کے ثمرات	۴۱
۸۵	آٹھویں وصف سے پہلے داؤ کا ذکر کرنا			ارتکاب معصیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت	۴۲
	ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا.	۶۲	۶۹	کے خلاف نہیں ہے	
۸۶	(۲۳-۳۱)		۷۰	کتوں کو رکھنے کا شرعی حکم	۴۳
۸۸	ان شاء اللہ کہنے کے ترک کی ممانعت	۶۳		اصحاب کہف کا نیند سے اٹھ کر اپنے ایک ساتھی	۴۴
۸۹	ان شاء اللہ کہنے کے فقہی مسائل	۶۴	۷۰	کو شہر کی طرف بھیجنا	
۸۹	نبی ﷺ کو علوم الغیب عطا فرمانا	۶۵	۷۱	وکیل بنانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۴۵
۹۰	ان شاء اللہ کہنے کو بھولنے کی حکمتیں	۶۶	۷۱	وکیل بنانے کے متعلق احادیث	۴۶
۹۰	نسیان کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۷	۷۲	وکالت کا لغوی اور شرعی معنی	۴۷
	رسول اللہ ﷺ کی طرف نسیان کی نسبت کی	۶۸	۷۲	وکالت کے ارکان	۴۸
۹۱	تحقیق		۷۵	موکل کے اعتبار سے شرائط	۴۹
۹۳	غار میں اصحاب کہف کے قیام کی مدت	۶۹	۷۵	وکیل کے اعتبار سے شرائط	۵۰
۹۳	آیا اصحاب کہف اب زندہ ہیں یا نہیں؟	۷۰		جس چیز میں وکالت ہے اس کے اعتبار سے	۵۱
۹۳	سنت اور قیاس پر عمل کرنے کا جواز	۷۱	۷۵	شرائط	
۹۳	نبی ﷺ کو فقراء مسلمین کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم	۷۲		اصحاب کہف اور ان کے شہر والوں کے درمیان	۵۲
۹۵	فقراء اور مساکین کی فضیلت میں احادیث	۷۳	۷۶	ماجر اور ان کی بحث	
	افغیاء کے اسلام کی خاطر فقراء کو مجلس سے نہ	۷۴	۷۷	مزارات پر گنبد بنانے کا ثبوت	۵۳
۹۸	اٹھانے کی توجیہ			صالحین کی قبروں کے پاس مسجد بنانے پر سید	۵۴
	جب انسان کے اختیار اور اس کے اعمال کا	۷۵	۷۹	مودودی کے اعتراضات اور ان کے جوابات	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۳	حرص کی مذمت اور قناعت کی فضیلت	۹۹		خالق اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی جزا اور سزا کی کیا	
۱۱۴	الحشیم کے معنی کی تحقیق	۱۰۰	۹۸	توجیہ ہے	
۱۱۴	بیویوں اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا نامناسب ہے	۱۰۱	۹۹	اس اشکال کا جواب متکلمین سے	۷۶
	الباقیات الصالحات کے بہت بہتر ہونے کی	۱۰۲	۹۹	اس اشکال کا جواب علامہ بہاری سے	۷۷
۱۱۵	وضاحت		۱۰۰	علامہ بہاری کے جواب کی وضاحت	۷۸
۱۱۵	الباقیات الصالحات کا مصداق	۱۰۳	۱۰۰	اس اشکال کا جواب مصنف سے	۷۹
	احوال آخرت میں سے پہاڑوں کو چلانے کا	۱۰۴		ایمان لانے اور اطاعت کرنے میں بندہ کا	۸۰
۱۱۶	معنی		۱۰۰	فائدہ ہے نہ کہ اللہ کا	
	احوال آخرت میں سے زمین کے صاف	۱۰۵	۱۰۱	سرا دقھا کا معنی	۸۱
۱۱۶	میدان ہونے کا معنی		۱۰۲	دوزخ کی آگ کے متعلق آیات اور احادیث	۸۲
۱۱۷	کفار کے پیش ہونے کی پانچ حالتیں	۱۰۶	۱۰۳	جنت کی اجمالی نعمتیں	۸۳
۱۱۹	قیامت کے دن برہنہ حشر کرنا	۱۰۷	۱۰۳	جنت کی تفصیلی نعمتیں	۸۴
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے	۱۰۸	۱۰۳	واضرب لہم مثلاً رجلین (۳۲-۳۳)	۸۵
	لباس پہنانے اور مرتدین کو میرے اصحاب		۱۰۵	مال دار کافر اور مومن کی مثال کا شان نزول	۸۶
۱۲۰	فرمانے کی توجیہ		۱۰۶	جنت اور اس کے مقلوب کا معنی	۸۷
۱۲۰	قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کیا جانا	۱۰۹	۱۰۶	دو باغوں کی صفات	۸۸
۱۲۱	گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے متعلق مذاہب	۱۱۰	۱۰۷	کافر کا اپنے مال پر فخر کرنا اور مسلمان کو حقیر جانا	۸۹
	صغائر اور کبائر کی تقسیم کے متعلق قرآن مجید کی	۱۱۱	۱۰۷	مسلمان کا کافر کو جواب دینا	۹۰
۱۲۱	آیات			لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا معنی اور اس کے	۹۱
۱۲۲	صغائر اور کبائر کے متعلق احادیث	۱۱۲	۱۰۸	متعلق احادیث	
۱۲۳	گناہ کبیرہ کی تعداد	۱۱۳	۱۰۹	ماشاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ کے متعلق احادیث	۹۲
۱۲۴	گناہ کبیرہ کی متعدد تعریفیں	۱۱۴	۱۰۹	ماشاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ کا معنی	۹۳
۱۲۵	مکس کا کالغوی اور اصطلاحی معنی	۱۱۵	۱۱۰	باغ پر کافر کے فخر کرنے کا جواب	۹۴
۱۲۶	بینک سے کاٹی ہوئی زکوٰۃ کا شرعی حکم	۱۱۶	۱۱۰	انبیاء اور صالحین پر مصائب آنے کی حکمت	۹۵
۱۲۷	مکاس کی مذمت میں احادیث	۱۱۷	۱۱۱	صرف اللہ کے پاس اختیارات ہونے کی وجوہ	۹۶
۱۲۷	تکیس لگانے کی تحقیق	۱۱۸		واضرب لہم مثل الحیوۃ الدنیا	۹۷
	انفرادی اور اجتماعی اور ملکی اور قومی ضروریات کیلئے	۱۱۹	۱۱۱	(۳۵-۳۹)	
۱۲۸	نبی ﷺ کا مدد کیلئے مسلمانوں سے اپیل کرنا	۱۱۹	۱۱۲	دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجوہ	۹۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۳۳	حافظ ابن حجر کی تحقیق		۱۲۹	ٹیکس لگانے کے وجوب پر عقلی دلیل	۱۲۰
	حدیث رد شمس پر حافظ سیوطی اور حافظ سخاوی کی تحقیق	۱۳۰		حاکم کی اطاعت کے وجوب پر قرآن مجید سے استدلال	۱۲۱
۱۳۵			۱۳۰		
۱۳۶	حدیث رد شمس پر علامہ زبیدی کی تحقیق	۱۳۱		حاکم کی اطاعت کے وجوب پر احادیث سے استدلال	۱۲۲
	حدیث رد شمس پر علامہ ابن جوزی کے اعتراضات کے جوابات	۱۳۲	۱۳۰		
۱۳۷				حاکم کی اطاعت کے وجوب پر فقہاء سے استدلال	۱۲۳
۱۳۸	حدیث رد شمس پر حرف آخر	۱۳۳	۱۳۱		
۱۳۸	حضرت یوشع بن نون کو "فتی" فرمانے کی توجیہ	۱۳۴		حکومت کا ٹیکس کی آمدنی کو ذاتی تصرف میں لانا ناجائز اور ظلم ہے	۱۲۴
۱۳۹	حضرت خضر کا نام لقب اور کنیت	۱۳۵	۱۳۱		
۱۳۹	مجمع البحرین کا مصداق	۱۳۶	۱۳۲	واذ قلنا للملئکة اسجدوا (۵۳-۵۰)	۱۲۵
۱۳۹	حقبا کے معنی	۱۳۷		ربط آیات ذریت کا معنی اور شیطان کی ذریت کا بیان	۱۲۶
	مجمع البحرین کی طرف سفر کا سبب اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی تعیین	۱۳۸	۱۳۲		
۱۵۰				ان لوگوں کا رد جو حقائق شناسی کا دعویٰ کرتے ہیں	۱۲۷
۱۵۲	سرب کا معنی	۱۳۹	۱۳۳		
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھولنے کی نسبت کرنے کی توجیہ	۱۵۰	۱۳۵	موبق کا معنی	۱۲۸
۱۵۲			۱۳۶	ولقد صرفنا فی هذا القرآن (۵۳-۵۹)	۱۲۹
	سفر میں زاد راہ لینا توکل کے خلاف نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے	۱۵۱		جدال کا معنی اور قرآن اور حدیث میں جدال کے اطلاقات	۱۳۰
۱۵۳			۱۳۷		
۱۵۳	بیماریوں اور مصائب کے بیان کرنے کا جواز	۱۵۲	۱۳۹	گزشتہ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا دستور	۱۳۱
	مصائب اور بیماریوں کے بیان سے صوفیاء کا منع کرنا	۱۵۳	۱۳۹	گزشتہ تباہ ہونے والی بستیاں	۱۳۲
۱۵۵				جن برے کاموں کی وجہ سے کفار پر عذاب نازل کیا گیا	۱۳۳
	مصائب اور بیماریوں کے بیان کرنے کے جواز پر قرآن مجید اور احادیث سے استدلال	۱۵۴	۱۳۱	واذ قال موسیٰ لفته لا ابرح (۷۰-۶۰)	۱۳۴
۱۵۶					
۱۵۷	عیادت کرنے کے ثبوت میں احادیث	۱۵۵	۱۳۳	ربط آیات	۱۳۵
	وما انساہہ میں ضمیر "ہ" پر پیش لگانے کی توجیہ	۱۵۶	۱۳۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف	۱۳۶
۱۵۹			۱۳۳	حضرت موسیٰ کا نام و نسب اور عمر کا بیان	۱۳۷
۱۵۹	پکی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو جانا	۱۵۷	۱۳۴	حضرت یوشع بن نون کا تعارف	۱۳۸
۱۶۰	حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات	۱۵۸		ہمارے نبی ﷺ کیلئے رد شمس کی حدیث پر	۱۳۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۷۹	اللہ اور حقوق العباد کا فرق اور دیگر فقہی مسائل	۱۸۰	۱۶۰	حضرت خضر کو "خضر" کہنے کی وجہ	۱۵۹
۱۷۹	حضرت خضر نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ اور اس کے قتل کی کیفیت	۱۸۱	۱۶۱	حضرت خضر کے نبی ہونے کی تحقیق	۱۶۰
۱۸۰	قال الم اقل لك انك لن تستطيع (۷۵-۸۲)	۱۸۲	۱۶۱	سید ابوالاعلیٰ مودودی کا حضرت خضر کو انسان کے بجائے فرشتہ قرار دینا	۱۶۱
۱۸۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انصاف پسندی اور اُستاذ کا ادب و احترام	۱۸۳	۱۶۳	حضرت خضر کے فرشتہ ہونے کا رد	۱۶۲
۱۸۲	کھانا مانگنے کے سوال کا ضابطہ	۱۸۳	۱۶۳	حضرت خضر کے انسان ہونے پر دلائل	۱۶۳
۱۸۳	تاویل کا معنی	۱۸۵	۱۶۴	حضرت خضر کے نبی ہونے کا ثبوت علماء دیوبند سے	۱۶۴
۱۸۳	بہ قدر ضرورت مال دنیا جمع کرنے کا جواز اور استحباب	۱۸۷	۱۶۵	حضرت خضر کی حیات کے متعلق علماء اُمت کی آراء	۱۶۵
۱۸۵	سمندر میں کام کرنے والے مسکینوں کا بیان	۱۸۷	۱۶۶	حیات خضر کی نفی پر دلائل	۱۶۶
۱۸۵	زیادہ نقصان سے بچنے کیلئے کم نقصان کو برداشت کرنا	۱۸۷	۱۶۸	حیات خضر کے ثبوت پر دلائل	۱۶۷
۱۸۶	لڑکے کو قتل کرنے کی توجیہ	۱۸۹	۱۶۹	حیات خضر کے حق میں اور اُس کے خلاف دلائل پر بحث و نظر	۱۶۸
۱۸۷	یتیم کا معنی اور اس کے شرعی احکام	۱۹۰	۱۷۱	علم لدنی کی تعریف	۱۷۰
۱۸۷	یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث	۱۹۱	۱۷۱	حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب دیئے جانے کی تصریحات	۱۷۱
۱۸۸	یتیم لڑکوں اور ان کے شہر کا نام	۱۹۲	۱۷۲	شریعت، طریقت اور حقیقت کی تعریفیں	۱۷۲
۱۹۰	خزانہ کے مصداق میں اقوال	۱۹۳	۱۷۳	حضرت موسیٰ کا حضرت خضر سے حصول تعلیم کیلئے ادب سے درخواست کرنا	۱۷۳
۱۹۰	یتیم بچوں کے باپ کا تعارف اور مرنے کے بعد بھی مرد صالح کا فیضان	۱۹۴	۱۷۴	حضرت موسیٰ کی درخواست میں ادب کی وجہ	۱۷۴
۱۹۱	حضرت خضر کے نبی ہونے پر دلیل	۱۹۵	۱۷۵	حضرت خضر کے تعلیم دینے سے احترام کی توجیہ	۱۷۵
۱۹۱	حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعہ میں حضرت یوشع بن نون کا کردار	۱۹۷	۱۷۶	تعلیم اور تعلم کے آداب	۱۷۶
۱۹۲	حسن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور عیب کی نسبت اپنی طرف کرنا	۱۹۷	۱۷۷	فانطلقا نہ حتی اذا ركبوا في السفينة (۷۱-۷۴)	۱۷۷
۱۹۲	صفا باطن کا دعویٰ کر کے احکام شرعیہ سے	۱۹۷	۱۷۸	کشتی کا تختہ توڑنے کی تفصیل	۱۷۸
				بھول کی وجہ سے مواخذہ نہ ہونے میں حقوق	۱۷۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۱۷	بسیار خوری کے دینی اور دنیاوی نقصانات	۲۲۱	۱۹۴	استغناء ظاہر کرنا زندگی ہے	
۲۱۹	جنت الفردوس کا مقام	۲۲۲	۱۹۴	تصوف کے جھوٹے مدعی	۱۹۸
۲۱۹	جنت کے فضائل	۲۲۳	۱۹۴	علماء باطن کی تعریف	۱۹۹
	ان جاہل شعراء اور جعلی صوفیاء کا رد جو جنت کو کم	۲۲۴	۱۹۵	علماء ظاہر کی تعریف	۲۰۰
۲۲۱	تر کہتے ہیں		۱۹۵	علماء ظاہر کی علماء باطن پر فضیلت	۲۰۱
۲۲۲	اللہ تعالیٰ کے کلمات کا غیر متناہی ہونا	۲۲۵	۱۹۵	علماء باطن کی علماء ظاہر پر فضیلت	۲۰۲
۲۲۳	بشر کا معنی	۲۲۶		علماء باطن کی فیض آفرینی پر قرآن مجید احادیث	۲۰۳
	کفار انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں بشر کہتے تھے	۲۲۷	۱۹۶	اور آثار سے دلائل	
۲۲۴	اور ان کا رد			علماء باطن اور عارفین کی فیض آفرینی کے	۲۰۴
۲۲۵	انبیاء کا بشر ہونا ہمارے لئے وجہ احسان ہے	۲۲۸	۱۹۷	واقعات	
۲۲۵	رسول اللہ ﷺ کا خود پر بشر کا اطلاق فرمانا	۲۲۹		ویسنلونک عن ذی القرنین	۲۰۵
۲۲۶	نبی اور رسول کا بشر ہونا	۲۳۰	۱۹۸	(۸۳-۱۰۱)	
	رسول اللہ ﷺ کے بشر ہونے کے متعلق اعلیٰ	۲۳۱	۲۰۰	ربط آیات	۲۰۶
۲۲۷	حضرت کا نظریہ		۲۰۱	ذوالقرنین کا مصداق اور اس کی وجہ تسمیہ	۲۰۷
	رسول اللہ ﷺ کے بشر ہونے کے متعلق علماء	۲۳۲	۲۰۲	تورات میں ذوالقرنین کی طرف اشارے	۲۰۸
۲۲۹	دیوبند کا نظریہ		۲۰۳	ذوالقرنین کا تصرف اور اس کا اقتدار	۲۰۹
۲۲۹	علماء دیوبند کے نظریہ پر مصنف کا تبصرہ	۲۳۳	۲۰۳	ذوالقرنین کا پہلا سفر بہ جانب مغرب	۲۱۰
	رسول اللہ ﷺ کے خصائص کے ذکر کے بغیر	۲۳۴	۲۰۵	ذوالقرنین کا دوسرا سفر بہ جانب مشرق	۲۱۱
۲۳۰	آپ کو صرف بشر کہنا جائز نہیں		۲۰۶	ذوالقرنین کا تیسرا سفر بہ جانب شمال	۲۱۲
	نبی ﷺ سے یہ کہلوانے کی توجیہ کہ میں تمہاری	۲۳۵	۲۰۷	یا جوج ماجوج کے متعلق احادیث	۲۱۳
۲۳۱	مثل بشر ہوں		۲۰۸	یا جوج اور ماجوج کے متعلق قدیم علماء کی آراء	۲۱۴
	دکھانے اور سنانے کیلئے عبادت کرنے کی	۲۳۶	۲۰۸	یا جوج اور ماجوج کے متعلق متاخرین کی آراء	۲۱۵
۲۳۲	ممانعت میں احادیث اور آثار		۲۱۲	یا جوج اور ماجوج کے متعلق مصنف کا نظریہ	۲۱۶
۲۳۳	اخلاص کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۳۷	۲۱۲	سد ذوالقرنین کی تحقیق	۲۱۷
۲۳۳	صوفیاء کرام کے نزدیک اخلاص کی تعریفات	۲۳۸		المحسب الذہن کفروا ان یتخذوا	۲۱۸
۲۳۵	اخلاص کے متعلق احادیث اور آثار	۲۳۹	۲۱۴	(۱۰۲-۱۱۰)	
	نیک کاموں کے ظہور پر خوش ہونے سے اجر	۲۴۰	۲۱۶	جن لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں	۲۱۹
۲۳۶	ملنے اور اجر نہ ملنے کے محال		۲۱۷	جن لوگوں کے اعمال کا وزن ضائع نہیں ہوگا	۲۲۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۶	حضرت زکریا کی محراب کا مصداق	۲۶۱		قربانی کے عمل میں مسلمان بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں	۲۴۱
۲۵۷	محراب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۶۲	۲۳۷		
۲۵۷	امام کے محراب میں کھڑے ہونے کی تحقیق	۲۶۳	۲۳۸	اختتامی کلمات	۲۴۲
۲۵۹	حضرت یحییٰ کو بچپن میں نبوت عطا فرمانا	۲۶۴		سورہ مریم	۲۴۳
۲۵۹	حنان اور زکوٰۃ کا معنی	۲۶۵		سورہ مریم کی وجہ تسمیہ اور اُس کے متعلق احادیث و آثار	۲۴۴
۲۶۰	حضرت یحییٰ پر تین بار سلام کی خصوصیت	۲۶۶	۲۴۳		
	یوم میلاد پر خوشی منانے اور یوم وفات پر غم نہ منانے کا جواب	۲۶۷	۲۴۴	سورہ مریم کا زمانہ نزول	۲۴۵
۲۶۱	واذکر فی الکتب مریم (۱۶-۳۲)	۲۶۸	۲۴۴	نجاشی کے سامنے حضرت جعفر کا تعارف اسلام پیش کرنا	۲۴۶
۲۶۳	حضرت مریم کے مشرقی جگہ جانے کی وجوہ	۲۶۹	۲۴۷	الکھف اور مریم میں باہمی مناسبت	۲۴۷
	حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل کا بشرکی صورت میں آنا	۲۷۰	۲۴۷	سورہ مریم کے مشمولات	۲۴۸
۲۶۳	فرشتہ سے ہم کلام ہونا حضرت مریم کی نبوت کو مستلزم نہیں	۲۷۱	۲۴۸	کھنقہ ۵ ذکر رحمت ربک (۱-۱۵)	۲۴۹
۲۶۵	اولیاء اللہ کے مزارات پر مرادیں مانگنا عادت کے خلاف بیٹے کی پیدائش پر حضرت مریم کا تعجب فرمانا اور اس کا ازالہ	۲۷۲	۲۵۰	کھنقہ کی تفسیر	۲۵۰
۲۶۵	حضرت مریم کے حمل کا سبب	۲۷۳	۲۵۰	حضرت زکریا پر رحمت کی توجیہ	۲۵۱
۲۶۶	حضرت مریم کے حمل کی مدت	۲۷۵	۲۵۰	ذکر خفی کی فضیلت	۲۵۲
۲۶۶	یوسف نجار کا تعاون	۲۷۶	۲۵۱	حضرت زکریا کے نداء خفی کرنے کی وجوہ	۲۵۳
	وضع حمل کیلئے حضرت مریم کے دور جانے کی وجوہ	۲۷۷	۲۵۱	دعا کے آداب	۲۵۴
۲۶۶	یہ کہنے کی توجیہ کہ کاش میں اس سے پہلے مرجاتی	۲۷۸	۲۵۲	انبیاء کے علم کا وارث بنایا جاتا ہے ان کے مال کا وارث نہیں بنایا جاتا	۲۵۵
۲۶۷	معاش کے حصول کیلئے کسب کرنا ضروری ہے	۲۷۹	۲۵۲	حضرت زکریا کو اللہ نے بشارت دی تھی یا فرشتوں نے	۲۵۶
۲۶۹	خاموشی کا روزہ رکھنا غیر مشروع ہے	۲۸۰	۲۵۳	سہمی کا معنی	۲۵۷
۲۶۹	حضرت مریم کو لوگوں کا ملامت کرنا	۲۸۱	۲۵۳	حضرت یحییٰ کا نام یحییٰ رکھنے کی وجوہ	۲۵۸
۲۶۹	یا اخت ہارون کی توجیہات	۲۸۲	۲۵۵	حضرت زکریا کے اس سوال کی توجیہ کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا	۲۵۹
	حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کی طرف جواب کا	۲۸۳	۲۵۶	حضرت زکریا کا تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکرنا	۲۶۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۸۶	کفار کیلئے مغفرت کی دعا	۳۰۷	۲۷۰	اشارہ کرنا	
۲۸۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر جمیل کا جاری رہنا	۳۰۸	۲۷۱	حضرت عیسیٰ کا پیدا ہوتے ہی غالی نصاریٰ کا رد فرمانا	۲۸۳
۲۸۷	واذکر فی الکتب موسیٰ (۶۵-۵۱)	۳۰۹	۲۷۱	حضرت عیسیٰ کے مبارک ہونے کا معنی	۲۸۵
۲۷۹	نبی اور رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۱۰	۲۷۱	حضرت عیسیٰ پر زکوٰۃ کی فرضیت کی تحقیق	۲۸۶
۲۷۹	حضرت موسیٰ کا مقرب ہونا	۳۱۱	۲۷۳	حضرت عیسیٰ کا اپنی والدہ کی برأت بیان کرنا	۲۸۷
۲۷۹	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات	۳۱۲	۲۷۳	والسلم علی یوم ولدت (۳۰-۳۳)	۲۸۸
۲۹۰	حضرت ادریس علیہ السلام کی سوانح	۳۱۳		اس شبہ کا جواب کہ یہود و نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کے بچپن میں کلام کرنے کو کیوں نقل نہیں کیا	۲۸۹
۲۹۱	رمل (زاچہ بنانے) کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	۳۱۴	۲۷۵	حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ میں اختلاف	۲۹۰
۲۹۲	حضرت ادریس کا چوتھے یا چھٹے آسمان پر فوت ہونا	۳۱۵	۲۷۵	اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونے پر دلائل	۲۹۱
۲۹۲	حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں زندہ ہونا	۳۱۶	۲۷۶	اللہ ہمارا رب ہے اس کے تقاضے	۲۹۲
۲۹۳	حضرت ادریس کو اوپر اٹھانے اور ان کی زندگی میں علماء اور مفسرین کا اختلاف	۳۱۷	۲۷۷	روز قیامت کے مشاہدہ کا عظیم ہونا	۲۹۳
۲۹۳	حضرت ادریس کے متعلق قول فیصل	۳۱۸	۲۷۸	فضل تعجب کے صیغہ کا معنی اور اللہ تعالیٰ کے اظہار تعجب کی توجیہات	۲۹۴
۲۹۵	سجدہ تلاوت کرنے کے آداب	۳۱۹	۲۷۹	روز قیامت کا یوم حسرت ہونا	۲۹۵
۲۹۵	تعدیل ارکان میں کمی کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کرنا	۳۲۰	۲۷۹	اس دن کا مصداق جب فیصلہ ہو چکا ہوگا	۲۹۶
۲۹۶	مستحب وقت کے بعد نماز پڑھ کر نمازوں کو ضائع کرنا	۳۲۱	۲۸۰	اللہ تعالیٰ پر وارث کے اطلاق کی توجیہ	۲۹۷
۲۹۷	نوافل سے فرائض میں کمی کی تلافی اور تدارک	۳۲۲	۲۸۱	واذکر فی الکتب ابراہیم (۵۰-۴۱)	۲۹۸
۲۹۷	فرض نہ پڑھنے سے نفل نامقبول ہونے کی حدیث ضعیف ہے	۳۲۳	۲۸۱	حضرت ابراہیم کا قصہ شروع کرنے کی وجہ	۲۹۹
۲۹۸	نوافل سے تدارک نہ ہونے کا رد قرآن	۳۲۴	۲۸۲	بتوں کی عبادت کی بطلان کی وجہ	۳۰۰
۲۹۸	حدیث اور تصریحات علماء سے	۳۲۵	۲۸۳	نبی کی اتباع کو تقلید نہ کہنے کی وجہ	۳۰۱
۲۹۸	آیا نوافل سے فرائض کی مقدار میں کمی کا	۳۲۵	۲۸۳	آزر کو شیطان سے متنفر کرنے کی وجہ	۳۰۲
			۲۸۳	شیطان کی ولایت کا معنی	۳۰۳
			۲۸۴	لا رجمنک اور واہجونی کے معنی	۳۰۴
			۲۸۴	سلام کی دو قسمیں سلام تحیت اور سلام متارکہ	۳۰۵
			۲۸۵	کفار اور فساق کو سلام کرنے کی تحقیق	۳۰۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۱۶	کی طرف جانا		۲۹۹	تذکرہ ہوتا ہے یا اس کی کیفیت میں کمی کا	
۳۱۶	مومنوں کا رحمن سے لیا ہوا عہد	۳۳۷		اس نظریہ کا بطلان کہ فرض نہ پڑھنے سے نفل	۳۲۶
	ان کافروں کی مذمت جنہوں نے رحمن کیلئے بیٹا	۳۳۸	۳۰۰	قبول نہیں ہوتے	
۳۱۷	گھڑ لیا			قرض اور نذرانے کی مثال کا جواب اور تحقیق	۳۲۷
۳۱۸	اولیاء کرام کی ولایت کی دلیل	۳۳۹	۳۰۰	مزید	
۳۱۹	لُد کا معنی	۳۵۰	۳۰۱	غی کا معنی	۳۲۸
۳۱۹	رکز کا معنی	۳۵۱	۳۰۱	گناہ کبیرہ کے مرتکب کی مغفرت	۳۲۹
۳۱۹	اختتامی کلمات اور دعا	۳۵۲	۳۰۲	جنت اور جنتیوں کی صفات	۳۳۰
۳۲۳	سورہ طہ	۳۵۳	۳۰۳	جبریل کے زیادہ نہ آنے کی وجہ	۳۳۱
۳۲۳	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	۳۵۴	۳۰۳	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام اللہ نہیں ہے	۳۳۲
۳۲۳	سورۃ مریم اور سورۃ طہ کی باہمی مناسبت	۳۵۵	۳۰۴	ویقول الانسان اذا مات (۸۲-۶۶)	۳۳۳
۳۲۳	سورہ طہ کا زمانہ نزول	۳۵۶	۳۰۶	قیامت کے دن کفار کے حشر کی کیفیت	۳۳۴
۳۲۳	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام	۳۵۷		آیا دوزخ میں دخول کافروں کے ساتھ خاص	۳۳۵
۳۲۶	سورہ طہ کے مقاصد اور مسائل	۳۵۸	۳۰۷	ہے یا ہر شخص دوزخ میں داخل ہوگا	
	طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی	۳۵۹	۳۰۸	دوزخ میں دخول پل صراط سے گزرتا ہے	۳۳۶
۳۲۸	(۱-۲۳)			مسلمانوں کے دخول نار سے مراد ان پر بخار آنا	۳۳۷
۳۳۰	طہ الخ کا شان نزول	۳۶۰	۳۰۹	ہے	
۳۳۰	طہ کے معانی	۳۶۱		دنیاوی فراخ دستی اور تنگ دستی حق اور باطل کا	۳۳۸
۳۳۱	رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ	۳۶۲	۳۱۰	معیار نہیں ہے	
	قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کے اسماء			کفار کے مقام کا زیادہ برا ہونا اور ان کے لشکر کا	۳۳۹
۳۳۲	مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ بھی ہیں	۳۶۳	۳۱۱	زیادہ کمزور ہونا	
۳۳۳	رسول اللہ ﷺ کے اسماء کی تعداد	۳۶۴	۳۱۱	الباقیات الصالحات کا معنی	۳۴۰
۳۳۳	رسول اللہ ﷺ کے اسماء کے معانی	۳۶۵	۳۱۲	العاصی بن وائل کی مذمت	۳۴۱
	رسول اللہ ﷺ کے اسماء کے متعلق دیگر علماء کی	۳۶۶	۳۱۳	بت پرستی کا رد	۳۴۲
۳۳۷	تحقیقات		۳۱۳	ضد کا معنی	۳۴۳
	صرف ڈرنے والوں کے لیے قرآن کے	۳۶۷	۳۱۳	الم تو انا ارسلنا الشیطن (۹۸-۸۳)	۳۴۴
۳۳۸	نصیحت ہونے کی توجیہ		۳۱۵	شیاطین کو کافروں پر مسلط کرنا اور "از" کا معنی	۳۴۵
۳۳۹	قرآن کریم کی عظمت	۳۶۸		محشر میں مومنین کا سوار یوں پر سوار ہو کر جنت	۳۴۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۵۴	کرنا اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دینا	۳۳۹	۳۶۹	سر اور اخفی کا معنی	۳۶۹
۳۵۵	عہد نماز ترک کرنے والے پر نماز کی قضاء کا واجب ہونا	۳۸۸	۳۷۰	اللہ کے واحد ہونے پر ایمان کے مدارج اور مراتب	۳۷۰
۳۵۶	دوقوع قیامت پر دلیل اور قیامت کو مخفی رکھنے کی حکمت	۳۸۹	۳۷۱	مقلد کے ایمان کا صحیح ہونا	۳۷۱
۳۵۶	اللہ تعالیٰ کے اس سوال کی حکمتیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے	۳۹۰	۳۷۲	لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت میں احادیث	۳۷۲
۳۵۷	ہمارے نبی ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کی افضلیت	۳۹۱	۳۷۳	جو شخص فرائض کا تارک ہو اور محرمات کا مرتکب ہو آیا صرف کلمہ پڑھنے سے اس کی نجات ہو جائے گی	۳۷۳
۳۵۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو طول دینے کی حکمتیں	۳۹۲	۳۷۴	اسماء حسنیٰ	۳۷۴
۳۵۹	عصار رکھنے کے فوائد	۳۹۳	۳۷۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کی وجہ	۳۷۵
۳۶۰	عصائے موسیٰ کی تاریخی حیثیت	۳۹۴	۳۷۶	حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کی اجازت سے مدین سے روانہ ہونا	۳۷۶
۳۶۰	عصا کو زمین پر ڈالنے کی وجوہ	۳۹۵	۳۷۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگ کو دیکھنا	۳۷۷
۳۶۱	عصا کے سانپ بن جانے کی حکمتیں	۳۹۶	۳۷۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ندا کو سننا	۳۷۸
۳۶۱	حیۃ ثعبان اور جان کے معانی اور ان میں تطبیق	۳۹۷	۳۷۹	حضرت موسیٰ نے جس کلام کو سنا تھا اس کے سننے کی کیفیت	۳۷۹
۳۶۱	سانپ سے حضرت موسیٰ کے ڈرنے کی توجیہات	۳۹۸	۳۸۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے	۳۸۰
۳۶۲	ید بیضا اور عصا میں کون سے معجزہ زیادہ عظیم ہے	۳۹۹	۳۸۱	نعلین اتارنے کے حکم کی توجیہات	۳۸۱
۳۶۳	فرعون کی طرف جانے کا حکم دینا	۴۰۰	۳۸۲	کلام الہی کے قدیم ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	۳۸۲
۳۶۳	قال رب اشرح لی صدري ۵ (۲۵-۵۴)	۴۰۱	۳۸۳	جو تیوں کیساتھ نماز پڑھنے کے متعلق احادیث	۳۸۳
۳۶۴	شرح صدر کی دعا کی حکمت	۴۰۲	۳۸۴	جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء	۳۸۴
۳۶۴	حضرت موسیٰ کی زبان میں گرہ کی وجوہ	۴۰۳	۳۸۵	نقش نعل پاک پر آیات اور اسماء مبارکہ لکھنے کا شرعی حکم	۳۸۵
۳۶۴	فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴۰۴	۳۸۶	وادی طویٰ کا مصداق	۳۸۶
۳۶۴	وزیر کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	۴۰۵	۳۸۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز ہونا	۳۸۷
۳۶۴	وزارت کیلئے بھائی کی تخصیص کی وجہ	۴۰۶			
۳۶۸	ازر کا معنی	۴۰۷			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۰	اللہ کے دشمنوں سے ڈرنا انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کی سنت ہے	۴۲۵	۳۶۸	حضرت موسیٰ کی ان دعاؤں کا سبب	۴۰۸
۳۷۷	دامی عذاب صرف کفار کو ہوگا	۴۲۶	۳۶۹	حضرت موسیٰ کی دعاؤں کو باریاب کرنے کی وجوہ	۴۰۹
۳۷۹	مباحثہ میں فریق مخالف پر سختی کرنے کے بجائے نرمی سے دلائل پیش کرنا	۴۲۷	۳۶۹	حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی کرنے کا احسان اور عورت کے نبی نہ ہونے پر دلائل	۴۱۰
۳۸۰	اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور توحید پر دلیل	۴۲۸	۳۶۹	حضرت موسیٰ پر ان کے صندوق کو دریا میں سلامت رکھنے کا احسان	۴۱۱
۳۸۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل سے فرعون کا پریشان ہونا	۴۲۹	۳۷۰	فرعون کے گھر حضرت موسیٰ کو پہنچانے کا احسان	۴۱۲
۳۸۱	ندوہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے کے محامل	۴۳۰	۳۷۰	فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈالنے اور ان کی پرورش کا احسان	۴۱۳
۳۸۲	لکھنے کے جواز کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۴۳۱	۳۷۱	اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا معنی	۴۱۴
۳۸۲	علم کی باتوں اور احادیث کے لکھنے کے جواز کے متعلق احادیث	۴۳۲	۳۷۱	حضرت موسیٰ کی ماں پر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا احسان	۴۱۵
۳۸۳	لکھنے کی ممانعت کی احادیث اور ان کے جوابات	۴۳۳	۳۷۱	حضرت موسیٰ پر فرعون سے نجات دینے کا احسان	۴۱۶
۳۸۴	اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پر ایک اور دلیل	۴۳۴	۳۷۲	حضرت موسیٰ کو آزمائشوں سے گزارنا	۴۱۷
۳۸۵	منہا خلقنکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارۃ اخری (۷۶-۵۵)	۴۳۵	۳۷۳	حضرت موسیٰ کو مدین میں پناہ دینے کا احسان	۴۱۸
۳۸۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ایک ہی مٹی سے مخلوق ہونا	۴۳۶	۳۷۳	انبیاء علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا جانا	۴۱۹
۳۸۸	توحید اور رسالت کے وہ دلائل جن کا فرعون نے انکار کیا	۴۳۷	۳۷۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کرنے کا احسان	۴۲۰
۳۹۰	یوم الزینت کا مصداق	۴۳۸	۳۷۴	عصا اور ید بیضا دونشانوں پر آیات کے اطلاق کی توجیہ	۴۲۱
۳۹۱	جادو گروں کی تعداد	۴۳۹	۳۷۵	ذکر میں سستی سے منع کرنے کے محامل	۴۲۲
۳۹۱	سرگوشیاں کرنے والوں اور ان کی سرگوشیوں کا بیان	۴۴۰	۳۷۵	فرعون کے ساتھ نرمی سے کلام کرنے کی وجوہ اور نرم کلام کے محامل	۴۲۳
۳۹۲	بعض مشکل الفاظ کے معانی اور اعراب کا بیان	۴۴۱	۳۷۵	فرعون سے حضرت موسیٰ کے خوف کی توجیہ اور فرط کا معنی -	۴۲۴
۳۹۲	جادو گروں کو لاشعیاں ڈالنے کا حکم دینا کیا کفر کا حکم دینے کو مستلزم ہے	۴۴۲	۳۷۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کی	
۳۹۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کی	۴۴۳			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۰۶	کے جانے کی توجیہ امام رازی کی طرف سے	۳۶۲	۳۹۴	توجیہات	
۳۰۶	فرعون کو کلمہ پڑھنے سے روکنے پر امام رازی کے اعتراض کا جواب	۳۶۳	۳۹۵	حضرت موسیٰ کی لاشی کا جادوگروں کی لاشیوں پر غالب آنا	۳۴۴
۳۰۷	حضرت موسیٰ کا ایک بڑھیا کی رہنمائی سے	۳۶۴	۳۹۵	ساحر کے کہیں کامیاب نہ ہونے کی توجیہ	۳۴۵
۳۰۷	حضرت یوسف کا تابوت نکالنا	۳۶۵	۳۹۶	سحر کی تعریف	۳۴۶
۳۰۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی ﷺ کو	۳۶۶	۳۹۶	سحر کا شرعی حکم	۳۴۷
۳۰۸	جنت عطا کرنے کا اختیار تھا	۳۶۷	۳۹۷	آیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدل سکتی ہے یا نہیں	۳۴۸
۳۱۰	بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلانا	۳۶۸	۳۹۸	فقہاء احناف کے نزدیک سحر کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	۳۴۹
۳۱۰	طور کی دائیں جانب جانے کا بیان	۳۶۹	۳۹۸	تعویذات کے بعض احکام	۳۵۰
۳۱۱	کھانے میں حد سے بڑھنے کا معنی	۳۷۰	۳۹۹	فرعون کے جادوگروں کا ایمان لانا	۳۵۱
۳۱۱	بندہ کا بہت زیادہ گناہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ معاف فرمانا	۳۷۱	۴۰۰	رب العالمین کی بجائے رب حارون و موسیٰ کہنے کی وجوہ	۳۵۲
۳۱۲	بار بار گناہ بخشنے کی وضاحت	۳۷۲	۴۰۱	فرعون کی لاف و گزاف کی توجیہ	۳۵۳
۳۱۲	کیا توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنا توبہ کو کھیل بنانا ہے؟	۳۷۳	۴۰۲	جادوگروں کی اس قول کی توجیہ کہ فرعون نے ان کو جادو کرنے پر مجبور کیا تھا	۳۵۴
۳۱۳	توبہ کرنے ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کے بعد ہدایت کے حصول کی توجیہ	۳۷۴	۴۰۳	فرعون کی بیوی کا ایمان لانا	۳۵۵
۳۱۳	کلمہ پڑھنے سے پہلے کفریہ عقائد سے اظہار برأت ضروری ہے	۳۷۵	۴۰۴	ایمان لانے کے بعد جادوگروں کا فرعون اور اس کے حواریوں کو نصیحت کرنا	۳۵۶
۳۱۵	حضرت موسیٰ کے عجلت کے ساتھ جانے کی توجیہ	۳۷۶	۴۰۵	ولقد اوحینا الی موسیٰ (۸۹-۷۷)	۳۵۷
۳۱۵	بنو اسرائیل کو آزمائش میں ڈالنا	۳۷۷	۴۰۶	حضرت موسیٰ کا رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہونا	۳۵۸
۳۱۷	حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کو پھڑے کی عبادت پر زبرد تو بیخ کرنا	۳۷۸	۴۰۷	بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے جانے کی حکمتیں	۳۵۹
۳۱۷	بنی اسرائیل کا پھڑے کی عبادت پر عذر پیش کرنا	۳۷۹	۴۰۸	سمندر میں بنائے ہوئے خشک راستہ پر فرعون کے جانے کی توجیہ مفسرین کی طرف سے	۳۶۰
۳۱۸	زیورات سے پھڑا بنانے کی تفصیل	۳۸۰	۴۰۹	سمندر میں بنائے ہوئے خشک راستہ پر فرعون	۳۶۱
۳۱۸	پھڑے کو معبود قرار دینے کا بطلان	۳۸۱			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۳۵	قیامت کے وقوع پر کفار کا شبہ	۴۹۸	۴۲۹	ولقد قال لهم هرون من قبل	۴۷۹
۴۳۵	نصف کا معنی	۴۹۹	۴۲۰	(۹۰-۱۰۴)	
۴۳۵	زمینوں اور لوگوں کی قسمیں	۵۰۰		نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے متعلق	۴۸۰
۴۳۶	زمینوں اور لوگوں کی قسموں کی وضاحت	۵۰۱	۴۲۲	احادیث	
۴۳۶	الْعَوَجُ اور اُمت کے معنی	۵۰۲	۴۲۳	بے عمل عالم اور واعظ کے متعلق احادیث	۴۸۱
۴۳۷	قیامت کے دن پکارنے والے کی تفسیر	۵۰۳		حضرت علی مظہر ہارون تھے اور تقیہ نہیں کرتے	۴۸۲
۴۳۸	شفاعت کی تحقیق	۵۰۴	۴۲۴	تھے	
۴۳۸	شفاعت کا لغوی معنی	۵۰۵		حضرت ہارون علیہ السلام کی تبلیغ کا بہترین	۴۸۳
۴۴۰	شفاعت کا اصطلاحی معنی	۵۰۶	۴۲۵	طریقہ	
۴۴۱	شفاعت کے متعلق معتزلہ کا نظریہ	۵۰۷	۴۲۵	حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون پر ناراض ہونا	۴۸۴
۴۴۱	شفاعت کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کا نظریہ	۵۰۸		حمد و ثنا کے بعد چھول بجانے رقص کرنے اور	۴۸۵
۴۴۲	شفاعت کے متعلق غیر مقلدین کا نظریہ	۵۰۹	۴۲۶	اظہار وجد کرنے کا شرعی حکم	
۴۴۲	شفاعت کے متعلق شیعہ کا نظریہ	۵۱۰		حضرت ہارون کے سر کے بال اور ڈاڑھی	۴۸۶
	شیخ محمد بن عبدالوہاب کا شفاعت کے متعلق کا	۵۱۱	۴۲۶	پکڑنے کے اعتراض کے جوابات	
۴۴۳	نظریہ		۴۲۷	حضرت ہارون کے جواب کی وضاحت	۴۸۷
۴۴۳	شفاعت کے متعلق شیخ اسماعیل دہلوی کا نظریہ	۵۱۲		ایمان دلائل سے نہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور	۴۸۸
۴۴۴	شفاعت بالوجاہت کا صحیح معنی	۵۱۳	۴۲۸	عنایت سے ملتا ہے	
۴۴۵	شفاعت محبت	۵۱۴	۴۲۹	حضرت موسیٰ کا سامری کو ملامت کرنا	۴۸۹
۴۴۷	شفاعت اور دعا	۵۱۵	۴۲۹	اثر رسول کے متعلق مفسرین کی توجیہ	۴۹۰
۴۴۸	انبیاء و اولیاء کی دعاؤں کی قبولیت	۵۱۶	۴۲۹	اثر رسول کے متعلق ابو مسلم کی توجیہ	۴۹۱
۴۴۹	شفاعت بالاذن	۵۱۷	۴۳۰	سامری کی دنیا میں سزا	۴۹۲
	رسول اللہ ﷺ کی وجاہت کے متعلق قرآن	۵۱۸	۴۳۰	سامری کے پچھڑے کو جلا کر رکھ کرنا	۴۹۳
۴۴۹	مجید کی آیات		۴۳۱	قرآن مجید پر ذکر کا اطلاق	۴۹۴
۴۵۰	رسول اللہ ﷺ کی وجاہت کے متعلق احادیث	۵۱۹	۴۳۱	قرآن مجید پر ذکر کے اطلاق کی وجوہ	۴۹۵
	رسول اللہ ﷺ کی وجاہت کے متعلق علامہ	۵۲۰		روز حشر کی سختیاں اور اس دن کفار کے احوال	۴۹۶
۴۵۲	نوی علامہ آلوسی اور شیخ ابن تیمیہ کی تصریحات		۴۳۲	اور احوال	
	شفاعت کے متعلق سید ابوالاعلیٰ مودودی کا	۵۲۱		ویسنلونک عن الجبال فقل ينسفها	۴۹۷
۴۵۴	نظریہ		۴۳۳	رہی نساہ (۱۰۵-۱۱۵)	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۸۴	حضرت آدم کا اولوالعزم رسول نہ ہونا	۵۴۲		سید ابوالاعلیٰ کے نظریہ شفاعت پر بحث و نظر اور	۵۴۲
	واذ قلنا للملئکة اسجدوا لادم	۵۴۳	۴۵۵	قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کا علم	
۴۸۵	فسجدوا الا ابلیس ط ابی (۱۲۸-۱۱۶)			ہر شخص کی شفاعت کیلئے مخصوص اذن لینا	۵۴۳
۴۸۷	ابلیس کی حضرت آدم سے عداوت کی وجوہ	۵۴۴	۴۵۷	ضروری نہیں	
۴۸۷	جنت کی نعمتوں کی قدر دلانا	۵۴۵		گناہ کبیرہ کی شفاعت کے جواز اور وقوع پر	۵۴۴
	عصی ادم ربہ فغوی سے حضرت آدم کی	۵۴۶	۴۵۹	قرآن اور حدیث سے دلائل	
	عصمت پر اعتراض اور امام رازی کی طرف		۴۶۱	شفاعت کے متعلق علماء اہل سنت کا نظریہ	۵۴۵
۴۸۸	سے اس کا جواب		۴۶۳	شفاعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۵۴۶
۴۸۹	عصمت انبیاء میں مذاہب	۵۴۷	۴۶۳	انبیاء علیہم السلام کی شفاعت	۵۴۷
	عصی ادم ربہ فغوی کے متعلق علامہ قرطبی	۵۴۸	۴۶۳	حضرت سیدنا محمد ﷺ سے طلب شفاعت	۵۴۸
۴۹۰	مانگی کی تفسیر		۴۶۵	صالحین کی شفاعت مومنین کے لئے	۵۴۹
	عصی ادم ربہ فغوی کے متعلق علامہ آلوسی	۵۴۹	۴۶۵	فرشتوں کی شفاعت	۵۳۰
۴۹۱	کی تفسیر		۴۶۶	شفاعت کے متعلق چالیس احادیث	۵۳۱
	عصی ادم ربہ فغوی کے متعلق سید مودودی	۵۵۰		شفاعت بالوجاہت کی حدیث پر تعجیل حساب	۵۳۲
۴۹۱	کی تفسیر			کی شفاعت اور مسلمانوں کو دوزخ سے نکلانے	
۴۹۲	سید مودودی کی تفسیر پر مصنف کا تبصرہ	۵۵۱	۴۷۷	کی شفاعت کو خلط ملط کرنے کا اشکال	
	وعصی ادم ربہ فغوی کے متعلق مصنف کی	۵۵۲		تعجیل حساب اور دوزخ سے نکلنے کی شفاعت	۵۳۳
۴۹۲	تفسیر		۴۷۷	کو خلط ملط کرنے کے اشکال کا جواب	
۴۹۵	ذکر سے مراد اور "ضنک" کا معنی	۵۵۳	۴۷۸	اشکال مذکور کا جواب مصنف کی جانب سے	۵۳۴
۴۹۵	کافر کی تنگ زندگی کا محمل دینا میں	۵۵۴	۴۸۱	لوگوں کے آگے اور لوگوں کے پیچھے کی تفسیر	۵۳۵
	اس سوال کا جواب کہ کفار دنیا میں عیش و آرام	۵۵۵	۴۸۱	عنّت الوجوہ اور القیوم کے معنی	۵۳۶
۴۹۶	سے ہیں اور مسلمان تنگ دستی میں مبتلا ہیں		۴۸۲	اسم اعظم کے متعلق احادیث	۵۳۷
۴۹۷	کافر کی تنگ زندگی کا محمل قبر میں	۵۵۶	۴۸۳	قرآن مجید کی صفات	۵۳۸
۴۹۷	کافر کی تنگ زندگی کا محمل آخرت میں	۵۵۷	۴۸۳	اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر تنبیہ	۵۳۹
	ولو لا کلمة سبقت من ربک	۵۵۸		قرآن کی تلاوت میں عجلت سے ممانعت کی	۵۴۰
۴۹۹	(۱۲۹-۱۳۵)		۴۸۳	وجوہ	
	آپ کی تکذیب کے باوجود کفار کو عذاب نہ	۵۵۹		نسیان کے باوجود حضرت آدم پر عتاب کیوں	۵۴۱
۵۰۰	دینے کی وجوہ		۴۸۴	ہوا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۲۰	بشری تقاضوں کی وجہ سے آپ کی رسالت پر اعتراض کا جواب	۵۸۳	۵۰۰	نزول عذاب کی میعاد	۵۲۰
۵۲۱	و کم قصمنا من قریة کانت ظالمة	۵۸۳	۵۰۱	نبی ﷺ کو صبر کا حکم دینے کا محمل	۵۲۱
۵۲۵	(۱۱-۲۹)		۵۰۱	نماز کے اوقات اور رات کو نماز پڑھنے کی فضیلت	۵۲۲
۵۲۷	مشکل الفاظ کے معانی	۵۸۵	۵۰۲	نبی ﷺ کی رضا کے محال	۵۲۳
۵۲۸	کفار مکہ کو پھیلی قوموں کا عذاب سنانا	۵۸۶	۵۰۳	مشکل الفاظ کے معانی	۵۲۴
۵۲۸	مشکل الفاظ کے معانی	۵۸۷	۵۰۳	نماز پڑھنے کی تاکید	۵۲۵
۵۲۹	آسمان اور زمین بنانے کی حکمتیں	۵۸۸	۵۰۴	اشیاء میں اصل اباحت ہے	۵۲۶
۵۲۹	اگر فرشتے ہر وقت تسبیح کرتے ہیں تو باقی کام وہ کس وقت کرتے ہیں	۵۸۹	۵۰۵	سورت کا اختتام	۵۲۷
۵۲۹	کافر تو حیات بعد الموت کے قائل نہیں پھر ان پر بتوں کے زندہ نہ کر سکنے کا اعتراض کیوں ہے؟	۵۹۰	۵۰۹	سورة الانبیاء	۵۲۸
۵۳۰	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر عقلی دلائل	۵۹۱	۵۱۰	سورة کا نام	۵۲۹
۵۳۱	عرش عظیم کا رب کہنے کی وجہ	۵۹۲	۵۱۰	سورة طہ اور سورة الانبیاء میں باہمی مناسبت	۵۳۰
۵۳۳	اللہ تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں ہونا اور اغراض نہ ہونا	۵۹۳	۵۱۲	سورة الانبیاء کے مقاصد اور مسائل	۵۳۱
۵۳۳	اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دلیل	۵۹۴	۵۱۳	اقترب للناس حسابہم (۱-۱۰)	۵۳۲
۵۳۶	قرآن مجید اور کتب سابقہ کے تین محال	۵۹۵	۵۱۴	موت یا قیامت آنے سے پہلے نیکیاں کرنے کے متعلق احادیث	۵۳۳
۵۳۶	مشرکین کے اس قول کا رد کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں	۵۹۶	۵۱۴	یوم حساب اگر قریب ہے تو اب تک آچکا ہوتا	۵۳۴
۵۳۷	فرشتوں کا مکلف ہونا	۵۹۷	۵۱۸	قرآن مجید کے حادث ہونے کے اشکال کا جواب	۵۳۵
۵۳۹	نبی ﷺ کی تمام فرشتوں اور نبیوں پر فضیلت	۵۹۸	۵۱۸	آپ کا بشر ہونا آپ کی نبوت کے خلاف نہیں	۵۳۶
۵۳۹	مرتب کبیرہ کیلئے شفاعت کا جواز	۵۹۹	۵۱۹	قرآن مجید کو جادو قرار دینے کا جواب	۵۳۷
۵۴۰	مسئلہ شفاعت میں سید مودودی کی تفسیر پر تبصرہ	۶۰۰	۵۱۹	شعر کا معنی اور رسول اللہ ﷺ کے علم شعر کی تحقیق	۵۳۸
۵۴۱	کفار اور مشرکین کے لیے استغفار اور شفاعت کا عدم جواز اور مسلمانوں کے لیے شفاعت کا جواز	۶۰۱	۵۲۱	کفار مکہ کے آپ کی نبوت پر چھ اعتراضات اور ان کے جوابات	۵۳۹
۵۴۱	اولم یر الذین کفرو ان السموت والارض (۳۰-۳۱)	۶۰۲	۵۲۲	کفار عرب کے فرمائی معجزات نہ بھیجنے کی وجوہ	۵۴۰
۵۴۳			۵۲۳	رسول صرف انسانوں اور مردوں کو بنایا جاتا ہے	۵۴۱
			۵۲۳	مسئلہ تقلید	۵۴۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۶۷	تکلیف کی توجیہات	۶۲۲	۵۴۵	زمین اور آسمان کے فتنے اور رتق کا معنی	۶۰۳
۵۷۰	عیادت اور تعزیت	۶۲۳	۵۴۶	اس اشکال کا جواب کہ بعض چیزوں کو پانی سے نہیں بنایا گیا	۶۰۴
۵۷۱	رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پہلے اور وفات کے بعد کے مفصل احوال	۶۲۳	۵۴۷	پانی سے ہر چیز کی حیات سے متعلق سائنس کا نظریہ	۶۰۵
۵۷۶	رسول اللہ ﷺ کی وفات کی تاریخ کی تحقیق	۶۲۳	۵۴۹	زمین کا اپنے مدار میں گردش کرنا	۶۰۶
۵۷۸	رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ کی تحقیق	۶۲۵	۵۵۰	اس کائنات کی پیدائش کے متعلق سائنس کی تحقیق	۶۰۷
۵۸۲	وفات کے بعد رسول اللہ ﷺ کا اُمت کے اعمال پر مطلع ہونا	۶۲۶	۵۵۳	آسمان کی حفاظت کے دو مجمل	۶۰۸
۵۸۵	بتوں کا انتقام لینے کے لیے رحمن کی مذمت کرنا	۶۲۷	۵۵۴	ہر سیارہ کا اپنے مدار میں گردش کرنا	۶۰۹
۵۸۵	عجلت کا انسان کی فطرت میں داخل ہونا	۶۲۸	۵۵۵	ہر سیارے کی اپنی گردش کے متعلق سائنس کی تحقیق	۶۱۰
۵۸۶	عجلت کی بناء پر کفار کی مذمت کی توجیہ	۶۲۹	۵۵۷	ربط آیات اور شان نزول	۶۱۱
۵۸۶	کفار کی عجلت کے باوجود ان پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی توجیہ	۶۳۰	۵۵۸	ہر نفس کے موت کو چکھنے پر اعتراضات کے جوابات	۶۱۲
۵۸۷	کفار کے استہزاء پر نبی ﷺ کو تسلی دینا	۶۳۱	۵۵۸	اچھی اور بری حالت اور اس میں آزمانے کا معنی	۶۱۳
۵۸۷	قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن (۴۲-۵۰)	۶۳۲	۵۵۸	نبی ﷺ کا اپنی وفات کی خبر دینا	۶۱۴
۵۸۹	دنیا میں کافروں کی حفاظت کرنا	۶۳۳	۵۶۰	آخری ایام میں نبی ﷺ کی نمازیں اور بیماری کی کیفیت	۶۱۵
۵۸۹	لا یصحبون کا معنی	۶۳۴	۵۶۲	ایام مرض میں آپ نے حضرت ابو بکر کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھی تھی یا آپ خود امام تھے	۶۱۶
۵۹۰	پہلے زمین کے کنارے کافروں پر کم ہو رہے تھے اور اب مسلمانوں پر!	۶۳۵	۵۶۵	رسول اللہ ﷺ کا مرض الموت	۶۱۷
۵۹۰	کافروں پر زمین کے کنارے کم ہونے کی سید مودودی کی تفسیر پر تبصرہ	۶۳۶	۵۶۵	فی الریفق الاعلیٰ کے متعلق احادیث	۶۱۸
۵۹۱	میزان میں اعمال کا وزن کرنے کی تحقیق	۶۳۷	۵۶۵	الریفق الاعلیٰ کا معنی	۶۱۹
۵۹۲	میزان میں وزن کرنے کے متعلق احادیث	۶۳۸	۵۶۶	نزع روح کے وقت رسول اللہ ﷺ کو شدید تکلیف ہونا	۶۲۰
۵۹۳	میزان میں وزن کرنے کی حکمتیں	۶۳۹	۵۶۶	نزع روح کے وقت رسول اللہ ﷺ کی شدید	۶۲۱
۵۹۳	میزان کے خطرہ سے بچنے کیلئے حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے	۶۴۰			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۱۲	کے ٹھنڈی ہونے کی کیفیت			اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو حقوق العباد بھی معاف	۶۳۱
۶۱۲	نمرود اور اس کی قوم کا عذاب سے ہلاک ہونا	۶۶۰	۵۹۳	کراوے گا	
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت لوط علیہ	۶۶۱	۵۹۵	وزن کئے جانے والوں کی تین قسمیں	۶۳۲
	السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف		۵۹۷	فرقان کی تفسیر میں مختلف اقوال	۶۳۳
۶۱۳	ہجرت فرمانا		۵۹۸	غیب میں ڈرنے کا معنی	۶۳۴
۶۱۳	شام کا برکت والی سرزمین ہونا	۶۶۲		ولقد اتینا ابراہیم رشده من قبل	۶۳۵
	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی مزید	۶۶۳	۵۹۸	(۷۵-۵۱)	
۶۱۳	نعمتیں		۶۰۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانا	۶۳۶
۶۱۳	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	۶۶۴	۶۰۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانا	۶۳۷
	ونوح اذ نادى من قبل فاستجبنا له	۶۶۵		حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے بتوں	۶۳۸
۶۱۵	(۷۶-۹۳)		۶۰۲	کو توڑنا	
۶۱۸	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	۶۶۶		بتوں کو توڑنے کی بڑے بت کی طرف نسبت	۶۳۹
۶۱۹	حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب	۶۶۷	۶۰۳	کرنے کے جوابات	
	حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت میں	۶۶۸		جھوٹ سے بچنے کیلئے کلام میں تعریض کے	۶۵۰
۶۱۹	احادیث		۶۰۴	استعمال کی تحقیق	
۶۲۰	حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات	۶۶۹	۶۰۶	کنایہ اور تعریض کا فرق	۶۵۱
۶۲۱	حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام و نسب	۶۷۰	۶۰۶	قرآن مجید اور احادیث میں تعریض کا استعمال	۶۵۲
	حضرت سلیمان علیہ السلام کے احوال اور	۶۷۱		حضرت ابراہیم کی قوم نے جو خود کو ظالم کہا اس	۶۵۳
۶۲۱	فضائل		۶۰۸	کی وجوہ	
۶۲۱	حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات	۶۷۲		حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے	۶۵۴
	موشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی	۶۷۳	۶۰۸	والے کا مصداق	
	میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام			حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے	۶۵۵
۶۲۲	کا اجتہادی اختلاف		۶۰۹	کی تفصیل	
	موشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی	۶۷۴		حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے	۶۵۶
۶۲۳	میں ائمہ ثلاثہ کا نظریہ اور ان کے دلائل		۶۰۹	دعا کیوں نہیں کی	
	موشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی	۶۷۵	۶۱۰	چھکلی کو مارنے کا حکم	۶۵۷
۶۲۳	میں امام ابوحنیفہ کا نظریہ اور ان کے دلائل		۶۱۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا	۶۵۸
	ایک اور مسئلہ میں حضرت داؤد اور حضرت	۶۷۶		حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جلانی ہوئی آگ	۶۵۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۳۶	مویشیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا	۶۹۵	۶۲۶	سلیمان علیہما السلام کا اجتہاد	
	حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کی	۶۹۶	۶۲۷	انبیاء علیہم السلام کا اجتہاد	۶۷۷
۶۳۷	تسبیح کرنے کے محال		۶۲۷	عصر حاضر میں اجتہاد کرنے کی تحقیق	۶۷۸
۶۳۸	انبیاء علیہم السلام کا مختلف پیشوں کو اپنانا	۶۹۷	۶۲۸	ضرورت اجتہاد	۶۷۹
	رزق حلال کی طلب کے لیے کسی بھی کام اور	۶۹۸	۶۲۸	مجتہد کی ضرورت	۶۸۰
۶۳۹	پیشے کی فضیلت میں احادیث		۶۲۹	طبقات فقہاء	۶۸۱
	بعض پیشوں کو گھٹیا اور باعث عار سمجھنا صرف	۶۹۹		چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کے متعلق متاخرین	۶۸۲
۶۴۱	اس دور کی لعنت ہے		۶۲۹	علماء کا اجتہادی حکم	
	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہواؤں	۷۰۰		لاؤڈ اسپیکر کے مائیک پر نماز پڑھنے کے متعلق	۶۸۳
۶۴۲	اور نرم ہواؤں کو مسخر کرنا		۶۳۰	اجتہادی حکم	
۶۴۲	جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کرنا	۷۰۱		روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ	۶۸۴
	حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے	۷۰۲	۶۳۰	ٹوٹ جانے کے متعلق اجتہادی حکم	
	معجزات کے مقابلہ میں ہمارے نبی ﷺ کے			ریڈیو اور ٹی وی کی مرمت کی اجرت لینے کا	۶۸۵
۶۴۳	معجزات		۶۳۰	اجتہادی حکم	
۶۴۵	رسول اللہ ﷺ کی جنات پر تصرف کی قدرت	۷۰۳		حالت اضطرار میں مریض کو خون دینے کے	۶۸۶
۶۴۵	جنات کا نبی ﷺ کی شریعت کا مکلف ہونا	۷۰۴	۶۳۱	متعلق اجتہادی حکم	
	جنات کا آپس میں اور انسانوں کے ساتھ نکاح	۷۰۵		ایلوپیتھک اور ہومیو پیتھک دواؤں کے	۶۸۷
۶۴۶	کا شرعی حکم		۶۳۱	استعمال کے متعلق اجتہادی حکم	
	حضرت ایوب علیہ السلام کا نام و نسب اور ان کی	۷۰۶	۶۳۳	بعض دیگر مسائل اجتہادیہ	۶۸۸
۶۴۸	بعثت کی ترتیب			ائمہ اربعہ کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا	۶۸۹
	حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا	۷۰۷	۶۳۳	معنی	
۶۴۸	جانا		۶۳۳	مویشیوں میں اللہ کے حقوق	۶۹۰
	حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے	۷۰۸	۶۳۴	مویشیوں میں بندوں کے حقوق	۶۹۱
۶۴۹	پڑنے کی تحقیق		۶۳۴	مویشیوں کو گویا بھن کرنے کی اجرت کی تحقیق	۶۹۲
۶۵۰	حضرت ایوب کے نقصانات کی تلافی کرنا	۷۰۹		رہن رکھے ہوئے مویشیوں سے استفادہ کی	۶۹۳
	حضرت ایوب کی زوجہ کے لیے قسم پوری کرنے	۷۱۰	۶۳۵	تحقیق	
۶۵۰	میں تخفیف اور رعایت			رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بیع	۶۹۴
۶۵۲	حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے لطیف نکات	۷۱۱	۶۳۵	الوفاء کا حیلہ	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۶۷	قیامت کا خوف اور دہشت	۷۳۳	۶۵۲	اللہ تعالیٰ کے رحم الرحیم ہونے کی وجوہ	۷۱۲
	مشرکین کے اس اعتراض کا جواب کہ پھر عیسیٰ	۷۳۵		کیا دنیا میں مصائب کا آنا اللہ تعالیٰ کے رحم	۷۱۳
۶۶۷	اور عزیر علیہما السلام بھی دوزخ میں جائیں گے		۶۵۳	الرحیم ہونے کے منافی ہے؟	
۶۶۸	مشرکین کا آخرت میں بہرا ہونا	۷۳۶		حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہما السلام	۷۱۴
۶۶۸	ابن الزبیرؓ کا رد	۷۳۷	۶۵۳	کا تذکرہ	
	دوزخ سے دور رکھے جانے اور دوزخ میں	۷۳۸	۶۵۴	حضرت ذوالکفلؑ کو نبی بنانے کا واقعہ	۷۱۵
۶۶۹	داخل ہونے کے تعارض کا جواب		۶۵۵	حضرت ذوالکفلؑ کی نبوت میں علماء کا اختلاف	۷۱۶
۶۶۹	الفرع الاکبر کی تفسیر میں اقوال	۷۳۹	۶۵۵	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	۷۱۷
	الفرع الاکبر سے نہ گھبرانے والوں کے	۷۴۰	۶۵۶	فظن ان لن نقدر علیہ کے ترجمہ کی تحقیق	۷۱۸
۶۶۹	مصدق		۶۵۶	فظن ان لن نقدر علیہ کے مختلف تراجم	۷۱۹
۶۷۰	السجل کے معنی کی تحقیق	۷۴۱	۶۵۷	نقدر بمعنی قدرت کو ائمہ لغت کا کفر قرار دینا	۷۲۰
	عام لوگ حشر میں بغیر لباس کے اور شہداء لباس	۷۴۲	۶۵۷	نقدر بمعنی قدرت کو مفسرین کا کفر قرار دینا	۷۲۱
۶۷۱	کے ساتھ اٹھیں گے		۶۵۸	حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کا قصہ	۷۲۲
	آیا حشر میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ	۷۴۳		علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کی	۷۲۳
	السلام کو لباس پہنایا جائے گا یا ہمارے نبی سیدنا		۶۵۹	تحقیق	
	محمد ﷺ کو اس بحث میں علامہ ابو العباس قرطبی		۶۵۹	حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا قصہ	۷۲۴
۶۷۲	کی تقریر			حضرت مریم میں روح پھونکنے پر اشکال کا	۷۲۵
	نبی ﷺ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے	۷۴۴	۶۶۰	جواب	
۶۷۳	متعلق علامہ ابو عبد اللہ قرطبی کی تقریر			حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ میں اللہ تعالیٰ کی	۷۲۶
	نبی ﷺ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے	۷۴۵	۶۶۰	قدرت کی نشانیاں	
۶۷۳	متعلق حافظ عسقلانی شافعی کی تقریر		۶۶۰	امت کا معنی اور دین اور شریعت کا فرق	۷۲۷
	نبی ﷺ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے	۷۴۶	۶۶۱	دین میں فرقے بنانے کی ممانعت	۷۲۸
۶۷۳	متعلق علامہ عینی حنفی کی تقریر			فمن يعمل من الصلحت وهو مؤمن	۷۲۹
	نبی ﷺ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے	۷۴۷	۶۶۲	(۹۴-۱۱۲)	
۶۷۵	متعلق علامہ طیبی شافعی کی تقریر		۶۶۳	نیک اعمال کے لیے ایمان کا شرط ہونا	۷۳۰
	نبی ﷺ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے	۷۴۸	۶۶۵	علامہ قرطبی پر مواخذہ	۷۳۱
۶۷۵	متعلق ملا علی قاری حنفی کی تقریر		۶۶۵	حرام کا بہ معنی واجب ہونا اور "لا" کا زائد ہونا	۷۳۲
	نبی ﷺ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے	۷۴۹	۶۶۶	یا جوج ماجوج کا تذکرہ	۷۳۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۹۳	اعتراضات مذکورہ کے جوابات	۷۷۰	۶۷۶	متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تقریر	
	صرف توحید کی وحی کی جانے پر اعتراض کا	۷۷۱		نبی ﷺ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے	۷۵۰
۶۹۶	جواب		۶۷۶	متعلق مصنف کی تحقیق	
۶۹۷	مشرکین سے کس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا	۷۷۲		کیا قیامت کے دن برہنہ لوگ ایک دوسرے	۷۵۱
۶۹۸	اختتامی کلمات اور دعا	۷۷۳	۶۷۷	کی طرف دیکھیں گے	
	سورۃ الحج	۷۷۴	۶۷۷	زبور کے معانی	۷۵۲
۷۰۱	سورۃ الحج کی وجہ تسمیہ	۷۷۵	۶۷۸	قرآن مجید کے صدق پر زبور کی شہادت	۷۵۳
۷۰۲	سورۃ الحج کے کئی یا مدنی ہونے کا اختلاف	۷۷۶	۶۷۹	زمین کی وراثت سے جنت کی زمین مراد ہونا	۷۵۴
۷۰۲	سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی باہمی مناسبت	۷۷۷	۶۷۹	زمین کی وراثت سے دنیا کی زمین مراد ہونا	۷۵۵
۷۰۳	سورۃ الحج کے مشمولات	۷۷۸		اس اعتراض کا جواب کہ جب زمین کی وراثت	۷۵۶
۷۰۴	کیا تفسیر کبیر امام رازی نے مکمل نہیں کی؟	۷۷۹		صرف نیک بندوں کو دی جاتی ہے تو پھر کافروں	
۷۰۵	یا ایہا الناس اتقوا ربکم (۱۰-۱)	۷۸۰	۶۸۰	کو حکومتیں اور اقتدار کیوں دیا گیا	
۷۰۷	مشکل الفاظ کے معانی	۷۸۱	۶۸۰	سید مودودی کے جواب پر تبصرہ	۷۵۷
۷۰۷	تقویٰ کی تعریف اور اس کی ضرورت	۷۸۲	۶۸۱	عابدین کا معنی	۷۵۸
	مسلمانوں اور کافروں کے درمیان عددی	۷۸۳		وما ارسلک الا رحمة للعالمین کے	۷۵۹
۷۰۹	نسبت		۶۸۲	مختلف تراجم	
	جدال کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی	۷۸۴	۶۸۲	رحمة للعالمین کی تفسیر صدر الافاضل سے	۷۶۰
۷۰۹	حکم		۶۸۲	رحمة للعالمین کی تفسیر امام رازی سے	۷۶۱
۷۰۹	مرید اور مادر کا بیان	۷۸۸	۶۸۳	رحمة للعالمین کی تفسیر علامہ آلوسی سے	۷۶۲
۷۰۹	بد مذہبوں سے دوستی رکھنے کی ممانعت	۷۸۶	۶۸۳	رحمة للعالمین کی تفسیر مصنف سے	۷۶۳
	انسان کی تخلیق کے مراحل اور زمین کی پیداوار	۷۸۷		رسول اللہ کی رحمت کے متعلق دیگر آیات اور	۷۶۴
۷۱۰	سے حشر و نشر پر استدلال		۶۸۵	ان کی تفسیر میں احادیث	
	کائنات کے امکان سے حشر و نشر کے امکان پر	۷۸۸	۶۸۷	آپ کی رحمت کے عموم کے متعلق احادیث	۷۶۵
۷۱۲	استدلال		۶۸۹	مسلمانوں پر آپ کی رحمت کے متعلق احادیث	۷۶۶
	الحج: ۳ اور الحج ۸ میں تکرار کے اعتراض کا	۷۸۹	۶۹۰	حیوانات اور جمادات پر رحمت کے متعلق احادیث	۷۶۷
۷۱۲	جواب		۶۹۲	آپ کی رسالت کا ہر چیز کو علم ہے	۷۶۸
	ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف	۷۹۰		رسول اللہ ﷺ کے رحمة للعالمین ہونے پر	۷۶۹
۷۱۳	(۱۱-۲۲)		۶۹۳	اعتراضات	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۲۹	مذہب فقہاء			ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے مطالب	۷۹۱
	مکہ کی زمین اور مکانوں کو فروخت کرنے اور کرائے پر دینے کی ممانعت کے دلائل اور ان کا ضعف	۸۱۰	۷۱۶	زیر تفسیر آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال	۷۹۲
۷۳۰	ضعف		۷۱۷	چند اعتراضات کے جوابات	۷۹۳
	مکہ کی زمین اور اس کے مکانوں کو فروخت کرنے اور کرائے پر دینے کے جواز میں قرآن مجید اور احادیث و آثار سے استدلال	۸۱۱	۷۱۸	بہت دور کی گمراہی کا بیان	۷۹۴
۷۳۱	مکہ کی زمین اور مکانوں کو فروخت کرنے اور کرائے پر دینے کے متعلق فقہاء احناف کا مذہب	۸۱۲	۷۱۸	کفار کے ضرر پہنچانے اور نہ پہنچانے میں تعارض کا بیان	۷۹۵
۷۳۲	الحاد کا معنی اور اس کے مصداق کے تعیین میں مختلف اقوال	۸۱۳	۷۱۹	کافروں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کا بیان	۷۹۶
۷۳۳	آیا مکہ میں گناہ کا عذاب بھی دگنا ہوتا ہے یا نہیں؟	۸۱۴	۷۱۹	رسول اللہ ﷺ سے بغض رکھنے والے کو چاہیے کہ خود اپنے بغض میں جل کر مر جائے	۷۹۷
۷۳۴	تعمیر کعبہ کی تفصیل	۸۱۵	۷۲۰	ہدایت دینے کے محامل	۷۹۸
۷۳۵	قیامت تک وہی حج کر سکیں گے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا	۸۱۶	۷۲۰	ادیان مختلفہ اور ان کا شرعی حکم	۷۹۹
۷۳۷	موشیوں کی قربانی کرنے کا طریقہ	۸۱۷	۷۲۱	سورج کے سجدہ کر کے ٹھہرنے کی توجیہ	۸۰۰
۷۳۸	مسافروں اور حجاج پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے	۸۱۸	۷۲۱	سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، درختوں، مومنوں اور کافروں کے سجدہ کی کیفیت	۸۰۱
۷۳۸	قربانی کرنے کا وقت	۸۱۹	۷۲۲	رب کے متعلق جھگڑا کرنے والے دو فریقوں کے مصداق	۸۰۲
۷۳۹	قربانی کا گوشت خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا حکم	۸۲۰	۷۲۳	آخرت میں کفار کی تین قسم کی سزائیں	۸۰۳
۷۳۹	تفت کا معنی	۸۲۱	۷۲۳	ان الله يدخل الذين امنوا (۲۳-۳۳)	۸۰۴
	نذر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اس کی شرائط اور اس کا شرعی حکم	۸۲۲	۷۲۴	آخرت میں مومنوں کے چار قسم کے انعامات	۸۰۵
۷۴۰	نذر کے احکام سے متعلق احادیث	۸۲۳	۷۲۶	مردوں کیلئے سونے اور چاندی کے زیورات کی جنت میں تخصیص کی وجہ	۸۰۶
۷۴۱	نذر ماننے کی ممانعت کے متعدد محامل اور توجیہات	۸۲۴	۷۲۷	دنیا میں ریشم اور سونا چاندی پہننے اور شراب پینے والے کا شرعی حکم	۸۰۷
۷۴۲	توجیہات		۷۲۸	مسجد حرام سے روکنے والوں کی مذمت کا شان نزول	۸۰۸
			۷۲۹	مکہ کی زمین اور اس کے مکانوں کو فروخت کرنے اور کرائے پر دینے کی ممانعت میں	۸۰۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۲۳	یہود و نصاریٰ کی عبادت کے مقامات اور	۸۴۶	۷۲۵	نذرمانے کے متعلق مصنف کی تحقیق	۸۲۵
۷۲۳	مسلمانوں کی عبادت کے مقام کو جمع کرنے کی	۸۴۶	۷۲۶	طواف کی اقسام	۸۲۶
۷۲۳	توجیہات	۸۴۶	۷۲۷	کافر کی روح نکلنے کی کیفیت	۸۲۷
۷۲۳	الصوامع، البیوع اور صلوات کے معنی	۸۴۷	۷۲۸	شعائر اللہ کے معنی اور مصداق کی تحقیق	۸۲۸
۷۲۵	خلفاء راشدین کی فضیلت	۸۴۸	۷۲۹	اولیاء اللہ کے مزارات کا شعائر اللہ میں داخل ہونا	۸۲۹
۷۲۵	جن کو اقتدار عطا کیا جائے گا ان کے مصداق	۸۴۹	۷۳۰	اولیاء اللہ کے مزارات کو بوسہ دینا، طواف کرنا	۸۳۰
۷۲۶	مشرکین کی مخالفت اور ایذاؤں پر آپ کو تسلی	۸۵۰	۷۳۱	حد رکوع تک جھکنا اور سجدہ کرنے کی ممانعت	۸۳۱
۷۲۶	دینا	۸۵۱	۷۳۲	ہدی کا معنی اور ہدی پر سوار ہونے کے متعلق	۸۳۲
۷۲۷	بچھلی امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل	۸۵۱	۷۳۳	مذہب فقہاء	۸۳۳
۷۲۷	کرنا	۸۵۱	۷۳۴	حرم سے باہر ہدی کو ذبح کرنا جائز نہیں	۸۳۴
۷۲۸	غور و فکر کرنے کا محل آیا دل ہے یا دماغ	۸۵۲	۷۳۵	ولکل امة جعلنا منسکا لید کرو اسم	۸۳۵
۷۲۸	دماغ کے محل عقل ہونے پر دلائل	۸۵۳	۷۳۶	اللہ علی ما رزقہم (۳۸-۳۴)	۸۳۶
۷۲۹	قرآن اور حدیث میں دل کی طرف عقل اور	۸۵۴	۷۳۷	منسک اور مخجین کے معنی	۸۳۷
۷۲۹	ادراک کی نسبت کرنے کی توجیہ	۸۵۵	۷۳۸	صبر کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں	۸۳۸
۷۳۰	عقل کی تعریف میں علماء کے اقوال	۸۵۵	۷۳۹	البدن کا معنی	۸۳۹
۷۳۰	محل عقل کے بارے میں ائمہ مذاہب کے	۸۵۶	۷۴۰	آیا البدن میں گائے شامل ہے یا نہیں	۸۴۰
۷۳۱	اقوال	۸۵۶	۷۴۱	اونٹوں کو نحر کرنے کا طریقہ	۸۴۱
۷۳۱	آخرت میں عذاب کا ایک دن دنیا کے ہزار	۸۵۷	۷۴۲	القانع اور المعتر کے معنی	۸۴۲
۷۳۱	دنوں کے برابر ہوگا	۸۵۸	۷۴۳	آیت مذکورہ کا شان نزول	۸۴۳
۷۳۱	قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین	۸۵۸	۷۴۴	قربانی کی دعا ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد مانگی	۸۴۴
۷۳۲	(۶۳-۳۹)	۸۵۸	۷۴۵	جائے نہ کہ ذبح کرنے کی حالت میں	۸۴۵
۷۳۲	آپ کو پیغام حق سنانے میں ثابت قدم رکھنا	۸۵۹	۷۴۶	قربانی کے جانوروں اور صدقہ فطر میں تنوع	۸۴۶
۷۳۲	الحج: ۵۲ کے چند مشہور تراجم	۸۶۰	۷۴۷	کافروں کو قتل کرنے کی ممانعت کی توجیہات	۸۴۷
۷۳۲	الحج: ۵۲ کا شان نزول	۸۶۱	۷۴۸	کفار سے درگزر کی آیات کا منسوخ ہونا اور ان	۸۴۸
۷۳۲	روایت تلک الغرانیق کا متن	۸۶۲	۷۴۹	سے قتال کی اجازت دینا	۸۴۹
۷۳۲	روایت تلک الغرانیق کی فنی حیثیت پر بحث	۸۶۳	۷۵۰	بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں سے دور	۸۵۰
۷۳۲	ونظر	۸۶۳	۷۵۱	کرنے کے محامل	۸۵۱
۷۳۲	روایت تلک الغرانیق کے بارے میں	۸۶۳			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۰۴	چار قسم کے احکام شرعیہ	۸۸۴	۷۸۰	محدثین کی آراء	
۸۰۵	جہاد کا حق ادا کرنے کی متعدد تفاسیر	۸۸۵		روایت تلک الغرائق کے بارے میں	۸۶۵
۸۰۶	دین میں تنگی نہ ہونے کی متعدد تفاسیر	۸۸۶	۷۸۱	مفسرین کی آراء	
	جب عزیمت (فرض) پر عمل کرنا مشکل ہو تو	۸۸۸	۷۸۴	ایک شبہ کا ازالہ	۸۶۶
۸۰۷	رخصت پر عمل کرنا فرض ہے		۷۸۶	یوم عقیقہ کا معنی	۸۶۷
۸۰۸	دین آسان ہے سو مشکل احکام نہ بتائے جائیں	۸۸۸		آیا اللہ کی راہ میں قتل کئے جانے والے اور طبعی	۸۶۸
۸۰۸	دین آسان ہونے کے متعلق احادیث اور آثار	۸۸۹	۷۸۶	موت مرنے والے دونوں کا اجر برابر ہے	
	حضرت ابراہیم کو مسلمانوں کا باپ فرمانے کی	۸۹۰		اللہ کی راہ میں قتل کئے جانے والے کا اجر و	۸۶۹
۸۱۱	توجیہ		۷۸۸	ثواب	
۸۱۱	ملت کا معنی	۸۹۱	۷۸۹	سزا بقدر جرم دینا عدل ہے	۸۷۰
	اس امت کا نام امت مسلمہ اللہ نے رکھا ہے یا	۸۹۲	۷۹۰	تکواری سے قصاص لینے میں اختلاف فقہاء	۸۷۱
۸۱۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے		۷۹۰	امام ابوحنیفہ پر علامہ القموی کے اعتراض کا جواب	۸۷۲
	رسول اللہ ﷺ کے علم کے عموم پر علامہ آلوسی	۸۹۳	۷۹۰	بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا بہتر ہے	۸۷۳
۸۱۵	کے اعتراضات			رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے	۸۷۴
	علامہ آلوسی کے اعتراضات کے جوابات اور	۸۹۴	۷۹۱	کا محل	
۸۱۶	آپ کے علم کے عموم کا دفاع		۷۹۲	الم تر ان اللہ سخر لکم (۷۵-۷۸)	۸۷۵
	احکام شرعیہ کی تعداد ان کی تعریفات اور ان کی	۸۹۵	۷۹۶	نسک کے معنی کی تحقیق	۸۷۶
۸۲۰	مثالیں			لوح محفوظ میں سب کچھ لکھے ہوئے ہونے کے	۸۷۷
۸۲۱	فرض کی تحقیق	۸۹۶	۷۹۸	متعلق احادیث	
۸۲۱	واجب کی تحقیق	۸۹۷	۷۹۹	المنکر اور یسطون کا معنی	۸۷۸
۸۲۲	سنت مؤکدہ کی تحقیق	۸۹۸	۸۰۰	بتوں کا عجز اور ان کی پرستش کا باطل ہونا	۸۷۹
۸۲۳	سنت غیر مؤکدہ کی تحقیق	۸۹۹	۸۰۲	بت پرستوں کا اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کرنا	۸۸۰
۸۲۳	مستحب کی تحقیق	۹۰۰		فرشتوں کو رسول بنانے کی آیتوں میں تعارض کا	۸۸۱
۸۲۵	حرام کی تحقیق	۹۰۱	۸۰۲	جواب	
۸۲۵	مکروہ تحریمی کی تحقیق	۹۰۲		بعض فرشتوں اور بعض انسانوں کو بیٹا بنانے کا	۸۸۲
۸۲۶	اساءت کی تحقیق	۹۰۳	۸۰۳	اعتراض اور اس کا جواب	
۸۲۷	مکروہ تنزیہی کی تحقیق	۹۰۴		یا ایہا الذین کا خطاب صرف مومنوں کو شامل	۸۸۳
۸۲۸	خلاف اولیٰ کی تحقیق	۹۰۵	۸۰۳	ہے	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۵۵	اس دور میں غلام اور باندی بنانے کا عدم جواز	۹۳۰	۸۲۹	مباح کی تحقیق	۹۰۶
	عورتوں کا غلاموں سے جنسی عمل کرنا، ہم جنس پرستی، استمناء بالید اور متعہ	۹۳۱		ہر مباح مستحب کے ضمن میں متحقق ہوگا یا مکروہ کے ضمن میں	۹۰۷
۸۵۵	امانت اور عہد کی حفاظت کرنے کا حکم	۹۳۲	۸۳۱	سورۃ الحج کا اختتام	۹۰۸
۸۵۶	نماز کو سستی اور غفلت سے پڑھنے اور وقت نکلنے کے بعد پڑھنے کی ممانعت	۹۳۳	۸۳۵	سورۃ المؤمنون	۹۰۹
۸۵۷	کیا جنت میں دخول صرف ان ہی صفات سے ہوگا جن کا المؤمنون کی ابتداء میں ذکر ہے؟	۹۳۴	۸۳۵	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ اور اس سورۃ کی فضیلت	۹۱۰
۸۵۹	الفردوس کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	۹۳۵	۸۳۶	سورۃ المؤمنون کا زمانہ نزول	۹۱۱
۸۶۰	جنت کے وارث ہونے کا معنی	۹۳۶	۸۳۷	سورۃ المؤمنون اور سورۃ الحج کی باہمی مناسبت	۹۱۲
۸۶۰	تخلیق انسان کے مراحل کی حدیث	۹۳۷	۸۳۸	سورۃ المؤمنون کے اہداف اور مقاصد	۹۱۳
۸۶۱	مخلوق کی ضروریات اور مصلحتوں کی رعایت	۹۳۸	۸۴۰	قد افلح المؤمنون (۱-۲۲)	۹۱۴
۸۶۲	انگور، کھجور، تین اور دودھ کے غذائی اور طبی فوائد	۹۳۹	۸۴۲	الخشوع کا لغوی معنی	۹۱۵
۸۶۳	دودھ کے غذائی اور طبی فوائد	۹۴۰	۸۴۳	الخشوع کا اصطلاحی معنی	۹۱۶
	ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یقوم اعبدوا اللہ (۲۳-۳۲)	۹۴۱	۸۴۳	الخشوع کے درجات	۹۱۷
۸۶۳	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	۹۴۲	۸۴۶	قرآن مجید میں الخشوع کے اطلاقات	۹۱۸
۸۶۵	حضرت نوح علیہ السلام کا قوم کو پیغام پہنچانا اور ان کا پیغام کو مسترد کرنا	۹۴۳		الخشوع کے متعلق لفظاً اور معنی احادیث	۹۱۹
۸۶۵	حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے اہم نکات	۹۴۴	۸۴۸	الخشوع کے متعلق آثار صحابہ اور اقوال تابعین	۹۲۰
۸۶۶	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد ان کی قوم کو طوفان میں غرق کرنے کا خلاصہ	۹۴۵		نماز میں خضوع اور خشوع کے وجوب پر قرآن مجید سے دلائل	۹۲۱
۸۶۶	حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ	۹۴۶	۸۴۹	نماز میں خضوع اور خشوع کے وجوب پر احادیث سے دلائل	۹۲۲
۸۶۷	وقال الملا من قومہ الذین کفروا (۳۳-۵۰)	۹۴۷	۸۵۰	نماز میں خشوع کے وجوب کا محمل	۹۲۳
۸۶۹	رسول کا اپنی قوم کی طرف پیغام پہنچانا اور قوم کا سرکشی سے اس پیغام کو رد کرنا	۹۴۸	۸۵۱	خشوع کے فوائد	۹۲۴
۸۷۰	رسول کا قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر ان کی	۹۴۹	۸۵۱	نماز میں خشوع کرنے والوں کی چند مثالیں	۹۲۵
			۸۵۳	لغو کا لغوی معنی	۹۲۶
			۸۵۴	لغو کا اصطلاحی معنی	۹۲۷
			۸۵۴	زکوٰۃ کے معانی	۹۲۸
				بغیر نکاح کے باندیوں سے جنسی عمل کرنے کے جواز کی توجیہ	۹۲۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۹۱	وہو الذین انشأ لكم السمع والابصار (۷۸-۹۲)	۹۶۷	۸۷۱	ہلاکت کی دعا کرنا	۹۵۰
۸۹۲	اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں اور بندوں کی ناشکری	۹۶۸	۸۷۱	حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آنے والے دیگر انبیاء کا قصہ	۹۵۱
۸۹۳	حشر کے وقوع میں مشرکین کے شبہات اور ان کے جوابات	۹۶۹	۸۷۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	۹۵۲
۸۹۳	مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور بت پرستی کے بطلان پر دلائل	۹۷۰	۸۷۳	حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قصہ	۹۵۳
۸۹۳	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے اور اس کا شریک نہ ہونے پر دلائل	۹۷۱	۸۷۳	یاہا الرسل کلوا من الطیب (۵۱-۷۷)	۹۵۴
۸۹۵	قل رب اما ترینی ما یوعدون (۹۳-۱۱۸)	۹۷۲	۸۷۴	تمام رسولوں سے بیک وقت خطاب کرنے کی توجیہ	۹۵۵
۸۹۵	نبی ﷺ سے اس دعا کرانے کی توجیہ کہ اللہ آپ کو ظالموں کے عذاب میں شامل نہ کرے	۹۷۳	۸۷۴	اپنی حلال کمائی سے کھانے کی ترغیب اور ناپاک اور حرام چیزیں کھانے کی ترہیب (ممانعت)	۹۵۶
۸۹۸	نبی ﷺ کو کفار کا عذاب دکھانا	۹۷۴	۸۸۰	امت کا معنی	۹۵۷
۹۰۰	برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی نصیحت اور نبی ﷺ کی سیرت میں اس کی مثالیں	۹۷۵	۸۸۲	غمرۃ کا معنی اور مصداق	۹۵۸
۹۰۰	شیطان کے وسوسوں اور اس کے حاضر ہونے سے پناہ طلب کرنے کے متعلق احادیث	۹۷۶	۸۸۲	کافروں کے کفر کے باوجود ان کو نعمتیں دینے کی وجوہ	۹۵۹
۹۰۳	موت کے وقت دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی تمنا کرنے والے کافر ہوں گے اور بدکار مسلمان	۹۷۷	۸۸۳	مومنوں کی تحسین کی پانچ وجوہ	۹۶۰
۹۰۵	موت کے وقت ہر شخص کو لازماً علم ہوگا کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے یا اس کے اعداء میں سے	۹۷۸	۸۸۳	اللہ تعالیٰ کے ظلم نہ کرنے کی وجوہ	۹۶۱
۹۰۶	لعل اور کلا کا معنی	۹۷۹	۸۸۴	کفار کے کروت اور ان پر نزول عذاب کی کیفیت	۹۶۲
۹۰۷	برزخ کا معنی	۹۸۰	۸۸۵	نکوص، سر اور ہجر کے معانی	۹۶۳
۹۰۷	قیامت کے دن رشتوں کا قائم نہ رہنا اور اپنے اپنے حقوق وصول کرنا	۹۸۱	۸۸۵	مشرکین کے تکبر کے محال	۹۶۴
۹۰۷	قیامت کے دن نبی ﷺ کے نسب نکاح اور سراں کے رشتوں کے سوا تمام رشتوں کا	۹۸۲	۸۸۶	عشاء کی نماز کے بعد جاگ کر باتیں کرنے کا شرعی حکم اور اس کے متعلق احادیث	۹۶۵
			۸۸۷	حضرت ابوبکر کے مہمانوں کی حدیث سے استنباط شدہ مسائل	۹۶۶
			۸۸۹	مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجوہ اور ان کا رد اور ابطال	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
			۹۰۸	منقطع ہو جانا	
				حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل	۹۸۳
			۹۱۰	اور مناقب کی احادیث	
			۹۱۳	موازین کے محامل	۹۸۴
			۹۱۵	آخرت میں کفار کے چار اوصاف	۹۸۵
			۹۱۶	آخرت میں حساب کے متعلق احادیث	۹۸۶
				دوزخ میں کافروں کی چھ دعائیں جو وہ چھ ہزار	۹۸۷
			۹۱۸	سال تک کریں گے	
			۹۲۰	نیک مسلمانوں کو اچھی جزا عطا فرمانے کی وجہ	۹۸۸
				کفار کو آخرت میں دنیا کی ناپائیداری پر متنبہ	۹۸۹
			۹۲۱	کرنا	
			۹۲۱	المومنون کی ابتداء اور انتہاء میں مناسبت	۹۹۰
			۹۲۲	اختتامی کلمات	۹۹۱
			۹۲۵	ماخذ و مراجع	۹۹۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین (تبیان القرآن جلد ہشتم)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۸	کوڑے مارنے کے مسائل اور فقہی احکام	۱۸	۲۹	سورۃ النور	
	زانی کو کوڑے مارنے کے بعد شہر بدر کرنے میں	۱۹	۳۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۵۹	مذہب فقہاء	۲۰	۳۱	سورۃ النور کی فضیلت میں احادیث اور آثار	۲
	زانی اور زانیہ کو شہر بدر کرنے میں فقہاء احناف کا	۲۰	۳۲	سورۃ النور اور سورۃ المؤمنون کی باہمی مناسبت	۳
۶۰	موقف اور دلائل	۲۱	۳۳	سورۃ النور کا زمانہ نزول	۴
	ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات اور فقہاء احناف	۲۱	۳۷	النور کے مسائل اور مقاصد	۵
۶۱	کے دلائل	۲۲	۴۰	سورۃ انزلنا و فرضنا و انزلنا فیہا ایت	۶
	غیر شادی شدہ زانی کو صرف کوڑے مارنے کے	۲۲	۴۰	بینت (۱-۱۰)	
۶۱	ثبوت میں احادیث	۲۳	۴۱	نحوی اشکال کا جواب انزال پر اعتراض کا جواب	۷
۶۲	رجم کی تحقیق	۲۳	۴۱	اور سورت اور فرض کا معنی	
۶۲	قرآن مجید سے رجم کا ثبوت	۲۳	۴۳	زنا کا لغوی معنی	۸
۶۳	رجم کی منسوخ التلاوت آیت	۲۵	۴۳	فقہاء حنبلیہ کے نزدیک زنا کی تعریف	۹
۶۵	آیت رجم کی بحث	۲۶	۴۵	فقہاء شافعیہ کے نزدیک زنا کی تعریف	۱۰
۶۶	رجم کی احادیث متواترہ	۲۷	۴۵	فقہاء مالکیہ کے نزدیک زنا کی تعریف	۱۱
	زانیہ کے لئے صرف زانی سے نکاح کی اجازت	۲۸	۴۵	فقہاء احناف کے نزدیک زنا کی تعریف	۱۲
۶۷	کی احادیث	۲۸	۴۸	حد زنا کی شرائط	۱۳
۶۸	زانیہ سے مومن کے نکاح کی ممانعت کی توجیہات	۲۹	۴۹	احصان کی تحقیق	۱۴
	زانیہ سے مومن کے نکاح کی ممانعت کا منسوخ	۳۰		زنا کی ممانعت اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا	۱۵
۶۹	ہونا	۳۰	۴۹	کے متعلق قرآن مجید کی آیات	
۶۹	قذف کا لغوی معنی	۳۱		زنا کی ممانعت مذمت اور دنیا اور آخرت میں اس	۱۶
۷۰	قذف کا شرعی معنی	۳۲	۵۰	کی سزا کے متعلق احادیث اور آثار	
۷۰	قرآن مجید کی روشنی میں قذف کا حکم	۳۳	۵۷	زنا کی حد میں عورت کے ذکر کو مقدم کرنے کی توجیہ	۱۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۰	حضرت عائشہ کی برأت پر علماء شیعہ کے دلائل	۵۶	۷۰	احادیث کی روشنی میں قذف کا حکم	۳۴
۹۱	حضرت عائشہ کے فضائل	۵۷	۷۱	احسان کی شرائط میں مذاہب فقہاء	۳۵
۹۲	حدیث افاک سے استنباط شدہ مسائل	۵۸	۷۱	احسان کی شرائط میں مذاہب احناف	۳۶
۹۶	حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ ”میں حضور کے لئے قیام نہیں کروں گی میں صرف اللہ کی حمد کروں گی“	۵۹	۷۲	کوڑے مارنے کے احکام	۳۷
۹۷	حدیث افاک پر بعض معاصرین کے اعتراضات	۶۰	۷۲	جس پر حد قذف لگ چکی ہو اس کی شہادت قبول کرنے میں اختلاف فقہاء	۳۸
۹۷	اعتراضات مذکورہ کے جوابات	۶۱	۷۳	لعان کے متعلق احادیث	۳۹
۱۰۲	شہاب الزہری کون تھے؟ کیا تھے؟ کیسے تھے؟	۶۲	۷۵	لعان کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴۰
۱۰۳	حضرت عائشہ کی فضیلت میں احادیث اور آثار	۶۳	۷۵	لعان کے شرعی معنی میں مذاہب فقہاء	۴۱
۱۱۱	یایہا الذین امنوا لا تتبعوا خطوات الشیطن ط (۲۶-۲۱)	۶۴	۷۶	لعان کی وجہ تسمیہ	۴۲
۱۱۳	الفحشاء والمنکر اور التزکیہ کے معانی	۶۵	۷۶	زانی کو از خود قتل کرنے کا حکم	۴۳
۱۱۴	حضرت ابو بکر کے افضل امت ہونے پر دلائل اور نکات	۶۶	۷۷	لعان کے بعد تفریق میں مذاہب فقہاء	۴۴
۱۱۸	حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے منافقوں کی اخروی سزا	۶۷	۷۷	فقہاء احناف کے نظریے پر دلائل	۴۵
۱۱۹	حضرت عائشہ کے لئے جنت کی بشارت	۶۸	۷۹	علامہ نووی کے اعتراضات کے جوابات	۴۶
۱۲۰	یایہا الذین امنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا (۳۳-۲۷)	۶۹	۸۰	لعان کی وجہ سے بچے کے نسب کی نفی میں مذاہب فقہاء	۴۷
۱۲۳	بغیر اجازت گھروں میں داخلے کی اور دیگر آداب کے متعلق احادیث اور آثار	۷۰	۸۰	ان الذین جاء و بالافک عصبة منکم ط (۲۰-۱۱)	۴۸
۱۲۶	بیوت غیر مسکونہ (غیر رہائشی) عمارات کی تعیین	۷۱	۸۱	مشکل الفاظ کے معانی	۴۹
۱۲۷	مردوں کو نیچی نگاہ رکھنے کے متعلق احادیث	۷۲	۸۲	النور ۱۰-۱۱ کی مختصر تفسیر	۵۰
۱۲۸	عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے کے متعلق احادیث	۷۳	۸۲	حضرت عائشہ پر تہمت کی مفصل حدیث	۵۱
۱۳۱	ایمانی کا معنی	۷۴	۸۷	سفر میں بیوی کو ساتھ لے جانے کے لئے قرعہ اندازی میں مذاہب	۵۲
۱۳۱	عبدالنبی نام رکھنے کی تحقیق	۷۵	۸۹	نزول وحی سے پہلے رسول اللہ کا حضرت عائشہ کی برأت کے متعلق علم اور شبہات کے جوابات	۵۳
۱۳۱	نکاح کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۶	۸۹	کسی نبی کی زوجہ نے کبھی بدکاری نہیں کی	۵۴
۱۳۲	نکاح کی فضیلت میں احادیث	۷۷	۸۹	حضرت عائشہ کی برأت پر علماء اہل سنت کے دلائل	۵۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۵۱	تقلید مخطی، جہل مرکب، تقلید مصیب، عین الیقین اور حق الیقین کی تعریف	۹۹	۱۳۴	نکاح کے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء	۷۸
	علم کا ذوی العقول کے ساتھ مختص ہونا اور حیوانات کے ادراک پر علم کا اطلاق نہ کیا جانا	۱۰۰	۱۳۶	جو شخص مجرد ہو وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھے	۷۹
۱۵۲	پرنندوں اور حیوانوں کی معرفت اور علم کے شواہد	۱۰۱	۱۳۶	غلاموں اور باندیوں کے بعض احکام	۸۰
۱۵۳	جمادات، نباتات اور حیوانات کے علم پر قرآن مجید سے دلائل	۱۰۲	۱۳۸	اللہ نور السموات والارض ط (۳۵-۴۰)	۸۱
۱۵۴	جمادات، نباتات اور حیوانات کے علم کے ثبوت میں احادیث	۱۰۳	۱۴۰	نور کالغوی اور اصطلاحی معنی	۸۲
۱۵۶	کنکریوں، طعام اور پرنندوں کی تسبیح کے متعلق احادیث اور آثار	۱۰۴	۱۴۰	اللہ پر نور کے اطلاق کی توجیہات	۸۳
۱۵۹	علم کی تعریف میں خلاصہ بحث	۱۰۵	۱۴۱	احادیث میں اللہ پر نور کا اطلاق	۸۴
۱۶۰	مشکل الفاظ کے معانی	۱۰۶	۱۴۱	مشکل الفاظ کے معانی	۸۵
	مخلوقات کے تنوع سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر استدلال	۱۰۷		آپ پر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تب بھی آپ کی نبوت عالم میں آشکارا ہو جاتی	۸۶
۱۶۱	فیصلہ کے لئے قاضی کے بلانے پر جانے کا وجوب	۱۰۸	۱۴۲	مساجد کی تعمیر، مساجد میں ذکر اور تسبیح اور مساجد کے آداب کے متعلق احادیث	۸۷
۱۶۲	انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ (۵۷-۵۱)	۱۰۹	۱۴۳	ان لوگوں کا مصداق اور اجر جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی	۸۸
۱۶۳	کتاب، سنت اور حکام مسلمین کی اطاعت کی تاکید	۱۱۰	۱۴۳	قیامت کے دن دلوں اور آنکھوں کے الٹ پلٹ جانے کا معنی	۸۹
۱۶۴	جوامع الکلم کی مثال	۱۱۱	۱۴۵	عبادت میں غفلت نہ کرنے والوں کا اجر	۹۰
۱۶۵	منافقین کی قسموں کا غیر معتبر ہونا	۱۱۲	۱۴۵	سراب اور البقیعہ کا معنی اور شان نزول	۹۱
۱۶۶	کتب سابقہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات	۱۱۳	۱۴۶	کفار کے اعمال سراب کی طرح دھوکا ہیں یا سمندر کی تاریکی کی طرح بے فیض ہیں	۹۲
۱۶۷	النور: ۵۵ کا شان نزول	۱۱۴	۱۴۷	الم تر ان اللہ یسبح له من فی السموات والارض والطیر صفت (۵۰-۴۱)	۹۳
۱۶۸	ہنگ دستی کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی	۱۱۵	۱۴۸	”کیا آپ نے نہیں دیکھا“ اس سے مراد استفہام تقریری ہے	۹۴
	نواب قنوجی کا آیت استخلاف کو خلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص نہ قرار دینا	۱۱۶	۱۵۰	جانداروں اور بے جانوں کی تسبیح	۹۵
۱۶۹	بعض آیات میں عموم الفاظ کی بجائے خصوصیت	۱۱۷	۱۵۰	حیوانات کے ادراک پر علم کے اطلاق کی توجیہ	۹۶
			۱۵۰	علم کی تعریف	۹۷
			۱۵۱	تخیل، تکذیب، شک، وہم اور ظن کی تعریفات	۹۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت خواہ مل کر یا الگ الگ	۱۳۴	۱۶۹	مورد کا اعتبار کیا جاتا ہے	
۱۸۸	گھر میں دخول کے وقت گھروالوں کو سلام کرنا	۱۳۵	۱۷۱	آیت استخلاف کے خلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص ہونے پر دلائل	۱۱۸
۱۸۸	انما المؤمنون الذین امنوا باللہ ورسولہ واذاکانو معہ (۶۳-۶۴)	۱۳۶	۱۷۱	دلائل مذکورہ پر اعتراضات کے جوابات	۱۱۹
۱۸۹	امر جامع (مجمع ہونے والی مہم) کا بیان	۱۳۷	۱۷۴	آیت استخلاف سے حضرت علیؑ بارہ امام یا امام مہدی کے مراد نہ ہونے پر دلائل	۱۲۰
۱۹۱	پیری اور مریدی کے آداب	۱۳۸		حضرت علیؑ کی خلافت کا برحق ہونا خلفاء ثلاثہ کے برحق ہونے پر موقوف ہے	۱۲۱
۱۹۱	مشکل الفاظ کے معانی	۱۳۹	۱۷۵	آیت استخلاف سے شیعہ مفسرین کا حضرت علیؑ بارہ اماموں اور امام مہدی کی خلافت پر استدلال	۱۲۲
۱۹۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تاکید	۱۴۰		علماء شیعہ کی تفسیروں پر مصنف کا تبصرہ	۱۲۳
۱۹۲	لا تجعلوا دعاء الرسول کے تین محامل	۱۴۱	۱۷۶	اس امت کی پہلی اجتماعی ناشکری قتل عثمان ہے	۱۲۴
۱۹۳	ندایا محمد پر اعتراض کے جوابات	۱۴۲	۱۷۸	حکمران دنیاوی امور کے منتظم ہیں اور علماء دینی امور کے	۱۲۵
۱۹۳	احادیث آثار علماء متقدمین اور علماء دیوبند سے	۱۴۳	۱۷۹		
۱۹۴	نداء یا محمد کا ثبوت				
۱۹۵	اللہ تعالیٰ کا یا محمد فرمانا	۱۴۴	۱۸۰	یا ایہا الذین امنوا لیستأذنکم الذین ملکتم ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم	۱۲۶
	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تصریحات سے نداء یا محمد کا جواز	۱۴۵		(۶۱-۵۸)	
۱۹۶	محمد کا جواز				
	اللہ تعالیٰ کے خالق اور مستحق عبادت ہونے پر دلیل	۱۴۶	۱۸۱	تین اوقات میں گھر میں دخول کے لئے نوکروں اور نابالغ لڑکوں کو اجازت لینے کا حکم	۱۲۷
۱۹۹	سورۃ النور کے اختتامی کلمات	۱۴۷	۱۸۳	اجازت مذکورہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے یا باقی ہے	۱۲۸
۱۹۹				بالغ لڑکوں کو گھر میں داخل ہونے کے لیے ہر وقت اجازت طلب کرنا ضروری ہے	۱۲۹
۲۰۱	سورۃ الفرقان			بوڑھی عورتوں کے حجاب کی وضاحت	۱۳۰
۲۰۳	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	۱		بیماروں اور معذوروں کے ساتھ مل کر کھانے کی اجازت کے اسباب	۱۳۱
	قرآن مجید کے سات حروف پر نازل ہونے کی تحقیق	۲	۱۸۳		
۲۰۴			۱۸۵		
۲۰۶	سورۃ الفرقان کا زمانہ نزول	۳			
۲۰۷	سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کی باہمی مناسبت	۴	۱۸۶		
۲۰۸	سورۃ الفرقان کے مشمولات	۵	۱۸۶		
۲۱۰	نبوک الذی نزل الفرقان علی عبدہ (۹-۱)	۶			
۲۱۱	بسم اللہ کے معانی	۷	۱۸۷		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۲۳	رزق اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے اسباب اور وسائل کو تلاش کر کے اختیار کرنا	۲۷	۲۱۲	تبارک، الفرقان، النذیر اور العلمین کے معانی	۸
۲۲۶	ترک اسباب پر صوفیاء کے دلائل اور ان کے جوابات اور توکل کا صحیح مفہوم	۲۸	۲۱۳	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عموم	۹
۲۲۸	اہل نعمت کی اہل مصیبت سے شکر میں اور اہل مصیبت کی اہل نعمت سے صبر میں آزمائش	۲۹	۲۱۳	اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کی تمہید	۱۰
۲۲۹	وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملئکة او نری ربنا (۲۱-۳۳)	۳۰	۲۱۳	شرک کی پستی	۱۱
۲۳۱	ایمان لانے کو فرشتوں کے نزول اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر معلق کرنے کا جواب	۳۱	۲۱۳	مشرکین کا یہ اعتراض کہ یہ قرآن اہل کتاب کے تعاون سے بنایا گیا ہے	۱۲
۲۳۱	حجرا محجورا کے دو محمل	۳۲	۲۱۳	مشرکین کے اعتراض مذکور کا جواب	۱۳
۲۳۲	ہباء منشورا کا معنی	۳۳	۲۱۵	پیغام حق نہ سنانے پر کفار کا آپ کو مال اور حکومت کی پیش کش کرنا	۱۴
۲۳۳	قیامت کا دن جو پچاس ہزار سال کا ہو گا وہ مومنوں پر کتنا طویل ہو گا؟	۳۴	۲۱۶	کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ بازاروں میں چلتے ہیں	۱۵
۲۳۳	قیامت کے احوال	۳۵	۲۱۶	کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ کے پاس سونے چاندی کے محلات کیوں نہیں اور آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں؟	۱۶
۲۳۳	عقبہ بن ابی معیط کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنا اور اس کی دنیا اور آخرت میں سزا	۳۶	۲۱۷	تبرک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک (۱۰-۲۰)	۱۷
۲۳۶	کیسے شخص کو دوست بنایا جائے؟	۳۷	۲۱۹	باغات اور محلات کے طعنہ کا جواب	۱۸
۲۳۶	مہجور کا معنی	۳۸	۲۲۰	دوزخ کی آنکھوں، کانوں اور زبان کے متعلق احادیث	۱۹
۲۳۷	قرآن مجید کو تدریجاً نازل کرنے کی وجوہ	۳۹	۲۲۰	تغیظ اور زفیور کے معنی	۲۰
۲۳۹	ولقد اتینا موسیٰ الكتاب وجعلنا معہ اخاہ ہرون وزیرا (۳۳-۳۵)	۴۰	۲۲۱	کفار کا جہنم میں جھونکا جانا اور ان کا موت کی دعا کرنا	۲۱
۲۴۰	فرعون کی طرف صرف حضرت موسیٰ کو جانے کا حکم دیا تھا یا ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی؟	۴۱	۲۲۱	آیا دوزخ میں کوئی اچھائی ہے؟	۲۲
۲۴۱	حضرت نوح کی قوم نے صرف حضرت نوح کی تکذیب کی تھی پھر یہ کیوں فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی؟	۴۲	۲۲۲	جنت میں ہر چاہی ہوئی چیز کے ملنے کا محمل	۲۳
۲۴۱	”الرّس“ کا معنی	۴۳	۲۲۲	اللہ کے وعدہ کی بناء پر اس سے سوال کرنا	۲۴
			۲۲۳	نعمتوں کی بہتات کی وجہ سے لوگوں کا کفر اور شرک کرنا	۲۵
			۲۲۴	”ہورا“ کے معنی اور شرک کی مذمت	۲۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۵	اصہار (سرالی رشتہ داروں) کے مصادیق	۶۳		اصحاب الرس کی تفسیر اور ان کے مصداق کے متعلق متعدد اقوال	۴۴
۲۵۵	نکاح سے حرمتِ مصاہرت کا متفق علیہ ہونا اور زنا سے حرمتِ مصاہرت کا متفق علیہ نہ ہونا	۶۵	۲۴۲	قریش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور آپ کو اذیت پہنچانا	۴۵
۲۵۵	زنا سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہ ہونے پر فقہاء مالکیہ اور شافعیہ کے دلائل اور ان کے جوابات	۶۶	۲۴۳	اپنی خواہش کے پرستاروں کے مصادیق	۴۶
۲۵۵	امام شافعی کا یہ اعتراض کہ زنا گناہ ہے اور وہ صبر کی نعمت کے حصول کا سبب نہیں بن سکتا!	۶۷	۲۴۴	کفار سے سننے اور عقل کی نفی کی توجیہ	۴۷
۲۵۶	زنا سے حرمتِ مصاہرت کے ثبوت میں فقہاء احناف اور فقہاء حنبلیہ کے دلائل	۶۸	۲۴۵	کفار کا چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہونا	۴۸
۲۵۸	زنا سے حرمتِ مصاہرت کے ثبوت میں احادیث اور آثار	۶۹	۲۴۵	الم تر الی ربک کیف مد الظل ^۴ ولو شاء لجعله ساکناً ^۵ (۶۰-۴۵)	۴۹
۲۵۸	زنا سے حرمتِ مصاہرت کے ثبوت میں فقہاء حنبلیہ کا موقف	۷۰	۲۴۸	ظل اور فی کا معنی	۵۰
۲۶۰	تبرک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجاً وقمراً منیراً (۷۱-۷۷)	۷۱	۲۴۸	کفر کے اندھیروں کا ختم ہونا اور ایمان کے سورج کا طلوع ہونا	۵۱
۲۶۳	بروج کے لغوی اور عرفی معنی	۷۲	۲۴۹	طہور کا معنی اور اس کا مصداق	۵۲
۲۶۳	رات کی کوئی عبادت قضاء ہو جائے تو اس کو دن میں ادا کر لیا جائے اسی طرح بالعکس	۷۳	۲۴۹	کسی نجس چیز کے گرنے سے اگر پانی میں نجاست کی بو اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ آ جائے تو پانی طہور نہیں رہے گا	۵۳
۲۶۳	قرآن اور حدیث سے رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی فضیلت	۷۴	۲۵۰	دہ درودہ (۱۰x۱۰) کی مقدار میں پانی کا طہور ہونا	۵۴
۲۶۵	زمین پر وقار کے ساتھ چلنے اور جاہلوں سے بحث نہ کرنے کا حکم	۷۵	۲۵۰	قلعتین کی مقدار میں پانی کا طہور ہونا	۵۵
۲۶۶	فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تمام رات قیام کرنے کی مثل ہے	۷۶	۲۵۱	جاری پانی کا طہور ہونا	۵۶
۲۶۷	غراما کا معنی	۷۷	۲۵۱	مختلف علاقوں میں بارش نازل فرمانے کے متعلق احادیث	۵۷
۲۶۸	اسراف کا معنی	۷۸	۲۵۲	بارش کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر دلیل	۵۸
۲۶۸	القتار کا معنی	۷۹	۲۵۲	جہاد کبیر کا معنی	۵۹
۲۶۹			۲۵۳	موج اور حجراً محجوراً کا معنی	۶۰
			۲۵۳	پانی اور بشر کی تفسیر	۶۱
			۲۵۳	نسب کا معنی اور اس کی تحقیق	۶۲
			۲۵۳	صبر کا معنی اور اس کی تحقیق	۶۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۸۸	اختیاری ایمان اور اختیاری اطاعت کا مطلوب ہونا اور جبری ایمان اور جبری اطاعت کا نامطلوب ہونا	۹	۲۷۰	ان لوگوں کا مصداق جو فضول خرچ اور بخل نہیں کرتے	۸۰
۲۸۹	کفار کا بتدریج سرکشی میں بڑھنا	۱۰	۲۷۱	اسلام میں اچھے کھانوں اور اچھے لباس پر پابندی نہیں ہے	۸۱
۲۹۰	زوج کریم کا معنی	۱۱	۲۷۲	میانہ روی کی اسلام میں تاکید	۸۲
۲۹۰	واذ نادى ربك موسى ان انت القوم الظالمين (۳۳-۱۰)	۱۲	۲۷۳	حضرت وحشی کا قبول اسلام	۸۳
۲۹۰	گزشتہ رسولوں کے واقعات سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۱۳	۲۷۴	اللہ تعالیٰ کا گناہوں کے بدلہ میں نیکیاں عطا فرمانا	۸۴
۲۹۳	سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے کی حکمت	۱۴	۲۷۵	دو بار توبہ کرنے والوں کے ذکر کا فائدہ	۸۵
۲۹۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا زیادہ قوی ہونا	۱۵	۲۷۵	زور اور لغو کا معنی	۸۶
۲۹۳	حضرت ہارون علیہ السلام کے لئے رسالت کا سوال کرنے کی توجیہ	۱۶	۲۷۵	قرآن مجید کو غفلت اور بے پرواہی سے سننے کی مذمت	۸۷
۲۹۳	حضرت موسیٰ نے اپنے بجائے حضرت ہارون کی رسالت کا سوال کیا تھا یا اپنی مدد کے لئے؟	۱۷	۲۷۵	مال اور اولاد میں کثرت کی دعا کا جواز	۸۸
۲۹۶	حضرت موسیٰ کی طرف ذنب کی نسبت کی توجیہ	۱۸	۲۷۵	اپنی اولاد کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں مطلوب ہے یا آخرت میں؟	۸۹
۲۹۶	فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناشکری کا الزام لگانا	۱۹	۲۷۷	متقین کا امام بننے کی دعا کریں یا ان کا مقتدی بننے کی؟	۹۰
۲۹۷	حضرت موسیٰ کا ناشکری کے الزام کا جواب دینا	۲۰	۲۷۸	رحمان کے مقبول بندوں کی جزاء	۹۱
۲۹۷	علم کے کمال کے بعد منصب نبوت عطا فرمانا	۲۱	۲۷۸	رحمان کے مردود بندوں کی سزا	۹۲
۲۹۸	فرعون کے اس احسان کا جواب کہ اس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی	۲۲	۲۷۹	سورۃ الفرقان کے اختتامی کلمات	۹۳
۲۹۸	کافر اگر کسی کے ساتھ نیکی کرے تو آیا وہ شکر کا مستحق ہے یا نہیں؟	۲۳	۲۸۱	سورۃ الشعراء	
۳۰۰	اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے متعلق موسیٰ اور فرعون کا مباحثہ	۲۴	۲۸۳	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
			۲۸۳	سورۃ الفرقان سے سورۃ الشعراء کی مناسبت	۲
			۲۸۳	سورۃ الشعراء کے مقاصد اور مسائل	۳
			۲۸۵	سورۃ الشعراء کی فضیلت	۴
			۲۸۶	طَسْمٌ ۝ تِلْكَ آيَةُ الْكُتُبِ الْمُبِينِ ۝ (۹-۱)	۵
			۲۸۷	طَسْمٌ کے محامل	۶
			۲۸۷	الکتاب المبین کا معنی	۷
			۲۸۸	کفار کے ایمان نہ لانے سے شدت غم میں گھلنے سے آپ کو منع فرمانا	۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	اہل معرفت پر مصائب کا آسان ہونا اور مصائب برداشت کرنے پر انہیں مراتب سے نوازنا	۴۳	۳۰۱	آیا فرعون موحد تھا، مشرک تھا یا دہریہ تھا؟	۲۵
۳۱۸	جادوگروں کا اول المؤمنین ہونا	۴۴	۳۰۳	اللہ تعالیٰ کے واجب قدیم اور واحد ہونے کے دلائل کی مزید وضاحت	۲۶
۳۱۹	واو حینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون (۶۸-۵۲)	۴۵	۳۰۴	مباحثہ میں اشتعال میں نہ آنا اور مخاطب کے فہم کے لحاظ سے دلائل کے اسالیب کو تبدیل کرنا	۲۷
۳۲۰	بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی اور فرعون کا تعاقب	۴۶	۳۰۵	ثعبان حیہ اور جان کے معنی	۲۸
۳۲۰	شر ذمہ اور حذرون کے معنی	۴۷	۳۰۵	قال للملا حولہ ان هذا لسحر علیم ۰ (۳۳-۵۱)	۲۹
۳۲۲	بنی اسرائیل کو کس سر زمین کا وارث بنایا گیا تھا؟	۴۸	۳۰۷	فرعون کا حضرت موسیٰ سے مرعوبیت اور ان کے برحق ہونے کے تاثر کو زائل کرنا	۳۰
۳۲۳	ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت	۴۹		فرعون اور اس کے حواریوں کی اپنی کامیابی کے متعلق خوش فہمی	۳۱
	سمندر پر عصا مارنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات	۵۰	۳۰۸	اس کی توجیہات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے لاشعیاں اور رسیاں ڈالنے کا حکم دیا	۳۲
۳۲۳	فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والوں کا بیان	۵۱		غیر اللہ کی قسم کھانے کا ممنوع ہونا	۳۳
۳۲۵	واتل علیہم نبا ابراہیم ۰ اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون ۰ (۱۰۴-۶۹)	۵۲	۳۰۹	سایپوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوفزدہ ہونے کی توجیہات	۳۴
۳۲۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ	۵۳	۳۰۹	بعض علماء کا سحر کو صرف تخیل اور مسریم قرار دینا اور واقع میں اس کی حقیقت کا انکار کرنا	۳۵
۳۲۹	قوم کا معنی اور مصداق	۵۴		سحر کا لغوی اور شرعی معنی	۳۶
۳۳۲	صنم کا معنی	۵۵	۳۰۹	سحر اور کرامت میں فرق	۳۷
۳۳۳	بتوں کی عبادت کا رد فرمانا	۵۶		سحر کے واقع ہونے کے دلائل	۳۸
۳۳۴	بتوں کو دشمن فرمانے کی توجیہ	۵۷	۳۱۰	سحر کی اقسام اور اس کے وقوع میں مذاہب	۳۹
	بتوں کو کفار کا دشمن کہنے کے بجائے اپنا دشمن کہنے کی توجیہ	۵۸	۳۱۱	فرعون کے ساحروں کا ایمان لانا	۴۰
۳۳۴	پہلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کرنا	۵۹	۳۱۳	فرعون کا اپنے عوام کو حضرت موسیٰ سے متنفر کرنے کے لیے جادوگروں پر الزام تراشی کرنا	۴۱
۳۳۵	پھر اس کی پرورش کی نعمت کا ذکر کرنا	۶۰	۳۱۵	صلیب کا معنی	۴۲
	کھلانے پلانے کی نعمت میں لپٹی ہوئی بے شمار نعمتیں	۶۰	۳۱۶		
۳۳۵	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے اسرار	۶۱	۳۱۷		
۳۳۶			۳۱۷		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	آزر کو دوزخ میں ڈالنے پر خلف و عدا اور خلف و عید	۷۹	۳۳۷	عام لوگوں کی بیماری کے اسباب	۶۲
۳۵۴	کے اعتراض کا جواب			نبی علیہ السلام اور نیک لوگوں کی بیماری کے اسباب	۶۳
	وضو کے بعد حضرت ابراہیم کی اس دعا کو پڑھنے کا ثواب	۸۰	۳۳۸	عیب کی نسبت اپنی طرف اور حسن کی نسبت اللہ کی طرف کرنا	۶۴
۳۵۴	قیامت کے دن پردہ رکھنے کی دعا کی تلقین	۸۱	۳۳۹	مرض اور شفاء کے متعلق عارفین کے اقوال	۶۵
۳۵۵	آخرت میں مسلمانوں کے مال کی نفع رسانی	۸۲	۳۳۹	دوا اور علاج کے متعلق احادیث	۶۶
۳۵۶	آخرت میں مسلمانوں کی اولاد کی نفع رسانی	۸۳	۳۴۰	پرہیز کے متعلق احادیث	۶۷
۳۵۷	قلب سلیم کی تعریف اس کی علامات اور اس کا مصداق	۸۴	۳۴۲	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے حق میں موت کا نعمت ہونا	۶۸
۳۵۸	جنت اور دوزخ کی صفات	۸۵	۳۴۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذکر کر کے مغفرت طلب کی اس کی توجیہات	۶۹
۳۶۰	جنت اور دوزخ کس جگہ پر واقع ہے؟	۸۶		حضرت ابراہیم نے کہا ”میرے لئے میری خطا معاف فرما“ اس کی توجیہات	۷۰
۳۶۱	مشرکین ان کے باطل معبودوں اور ان کی عبادت کی ترغیب دینے والوں کی دوزخ میں حالت زار	۸۷	۳۴۳	دوسرے نبیوں کو مانگنے سے عطا کرنا اور ہمارے نبی کو بے مانگے عطا فرمانا	۷۱
	دوزخ میں مشرکین اور بتوں کا ایک دوسرے کو مطعون کرنا	۸۸	۳۴۶	ذنب کا ترجمہ گناہ کرنے کے متعلق مصنف کا موقف	۷۲
۳۶۳	صدیق اور حمیم کا معنی	۸۹	۳۴۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پہلا مطلوب اور حکم کا معنی	۷۳
۳۶۴	مومنوں کی مغفرت اور اس پر کفار کی حسرت کے متعلق احادیث	۹۰	۳۴۸	بعد والوں کی ثنا کے حصول کی دعا کی توجیہات	۷۴
	مومنوں کے دوستوں کا قیامت کے دن کام آنا اور کفار کا اس نعمت سے محروم ہونا	۹۱	۳۴۹	جنت کی دعا کا مطلوب ہونا اور شہر مدینہ سے جنت کا زیادہ محبوب ہونا	۷۵
۳۶۵	مصائب میں گھر کر انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور مصائب دور ہونے کے بعد پھر غافل ہو جانا	۹۲	۳۵۰	حضرت ابراہیم کی آزر کے لیے دعا کی توجیہات	۷۶
۳۶۶	اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا	۹۳	۳۵۱	قیامت کے دن حضرت ابراہیم کی آزر سے ملاقات کے متعلق احادیث	۷۷
۳۶۷	کذبت قوم نوح المرسلین ۵ اذ قال لهم اخوهم نوح الاتقون (۱۲۲-۱۰۵)	۹۴	۳۵۲	قیامت کے دن آزر کی شفاعت کرنے پر اشکال اور اس کے جوابات	۷۸
۳۶۸	ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے	۹۵			
۳۷۰	حضرت نوح کو بھائی کہنے کی توجیہ اور ان کی نبوت	۹۶	۳۵۳		

صفحہ	عنوان	نمبر شمارہ	صفحہ	عنوان	نمبر شمارہ
۳۸۹	کے متعلق احادیث		۳۷۰	پردہ لیل	
۳۹۰	پرنڈوں اور جانوروں کو پالنے اور موذی جانوروں کو قتل کرنے کے متعلق فقہاء کی عبارات	۱۱۶	۳۷۱	مواعظ اور خطابات پر اجرت لینے کا جواز	۹۷
۳۹۰	متعدد منزلہ بلڈنگیں اور خوبصورت عمارات پلازہ اور شاہنگ سنٹر بنانے کا شرعی حکم	۱۱۷	۳۷۳	جن نیک لوگوں کو معاشرے میں پست اور بے وقعت سمجھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہی عزت والے ہیں	۹۸
۳۹۲	کسی کو تادیب اور سرزنش کے لئے زیادہ سزا نہ دی جائے اور دس ڈنڈوں سے زیادہ نہ مارا جائے	۱۱۸	۳۷۴	احکام شرعیہ ظاہر پر مبنی ہیں اور باطن اللہ کے سپرد ہے	۹۹
۳۹۳	قید کرنے اور مالی جرمانے کی سزائیں	۱۱۹	۳۷۵	امیر کافروں کی خوشنودی کے لیے غریب مسلمانوں کو نہ اٹھایا جائے	۱۰۰
۳۹۵	اگر بروقت حکام سے رابطہ نہ ہو سکے تو مسلمان از خود ظلم اور برائی کو مٹائے	۱۲۰	۳۷۷	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف دعا کی توجیہ	۱۰۱
۳۹۶	نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی فرضیت	۱۲۱	۳۷۷	قصہ نوح کے بعض اسرار	۱۰۲
۳۹۷	ناگزیر حالات کے سوائے نیکی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کو ترک نہ کیا جائے	۱۲۲	۳۷۹	جاہل پیروں کی بیعت کا حرام ہونا	۱۰۳
۳۹۷	اگر برائی اور ظلم کو روکنا ناگزیر ہو تو مسلمان از خود کارروائی کریں	۱۲۳	۳۸۰	کذبت عاد بالمرسلین ○ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون (۱۲۳-۱۲۰)	۱۰۳
۳۹۸	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے خود نیک ہونا ضروری نہیں ہے	۱۲۴	۳۸۱	قوم عاد کا مختصر تعارف	۱۰۵
۳۹۹	ہتھیاروں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فتنہ کہنے کا بطلان	۱۲۵	۳۸۲	قوم عاد کے عبث لہو و لعب کے متعلق اقوال	۱۰۶
۳۹۹	کسی شخص سے محبت کی وجہ سے امر بالمعروف کو ترک نہ کیا جائے	۱۲۶	۳۸۲	لہو و لعب اور کبوتر بازی کے متعلق احادیث	۱۰۷
۳۹۹	امر بالمعروف میں ملائمت کو اختیار کیا جائے	۱۲۷	۳۸۳	محدثین کے نزدیک لہو کی تعریف	۱۰۸
۴۰۰	قوم ہود کا تکبر اور اس کا ہلاک ہونا	۱۲۸	۳۸۴	جسمانی صحت کے حصول کے لیے جائز کھیلوں اور ورزشوں کا جواز	۱۰۹
۴۰۱	کذبت نعود المرسلین ○ اذ قال لهم اخوهم صلح الا تتقون (۱۵۹-۱۴۱)	۱۲۹	۳۸۵	لہو باطل (غیر شرعی شغل) کے نقصانات	۱۱۰
۴۰۲	قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجنا	۱۳۰	۳۸۵	لہو باطل اور کبوتر بازی کے متعلق فقہاء کی تصریحات	۱۱۱
۴۰۳	مشکل الفاظ کے معانی	۱۳۱	۳۸۶	جن کاموں سے انسان فاسق ہو جاتا ہے اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوتی	۱۱۲
۴۰۳	جسمانی اور روحانی لذتیں	۱۳۲	۳۸۷	ہمارے زمانہ کے بناوٹی صوفیاء کا سماع، رقص اور دھمال کرنا	۱۱۳
			۳۸۷	پرنڈوں اور جانوروں کو پالنے کے متعلق احادیث	۱۱۴
			۳۸۹	موذی جانور اور حشرات الارض کو قتل کرنے	۱۱۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۲۲	قسطاس (عدل کرنے) کے متعلق احادیث	۱۵۳	۴۰۳	فساد اور شرکی دو قسمیں	۱۳۳
۴۲۳	قسطاس (عدل کرنے) کے متعلق آثار	۱۵۴	۴۰۴	حضرت صالح علیہ السلام سے دلیل کا مطالبہ	۱۳۴
۴۲۴	عدل کے متعلق اقوال علماء	۱۵۵	۴۰۴	حضرت صالح کا چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھانا	۱۳۵
۴۲۵	عدل عقلی اور عدل شرعی	۱۵۶		قوم ثمود کا اونٹنی کو قتل کرنا اور ان کا عذاب سے	۱۳۶
۴۲۵	عدل اور احسان	۱۵۷	۴۰۵	ہلاک ہونا	
۴۲۶	عدل اور انصاف کے فوائد	۱۵۸		قوم ثمود کے نادم ہونے کے باوجود عذاب آنے	۱۳۷
۴۲۷	فساد کی دو قسمیں	۱۵۹	۴۰۶	کی توجیہ	
۴۲۷	جہلت کا معنی	۱۶۰		اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے قہر و غلبہ کے	۱۳۸
۴۲۷	طبیعت، خصلت، خلق اور عادت کا فرق	۱۶۱	۴۰۷	آثار اور تقاضے	
۴۲۸	جہلت کے متعلق احادیث	۱۶۲		کذبت قوم لوط والمرسلین ○	۱۳۹
۴۲۹	حسن اخلاق کے متعلق احادیث	۱۶۳	۴۰۸	(۱۶۰-۱۷۵)	
	وہ افعال جو حسن اخلاق کا مصداق ہیں اور نبی	۱۶۴	۴۰۹	حضرت لوط علیہ السلام کی اہل سدوم کی طرف بعثت	۱۴۰
۴۳۰	علیہ السلام کے اخلاقی حسنہ			جنسی اعضاء اور جنسی عمل کا ذکر اشارہ اور کنایہ	۱۴۱
	خصلت اور عادت کا معنی اور آیا عادت کا بدلنا	۱۶۵	۴۱۰	سے کرنے کی تلقین	
۴۳۲	ممکن ہے یا نہیں؟		۴۱۱	عورتوں سے عمل معکوس کرنے کی ممانعت	۱۴۲
	اصحاب لئیكة کا اپنے انکار پر اصرار اور ان	۱۶۶	۴۱۲	عمل قوم لوط کی سزا	۱۴۳
۴۳۶	پر عذاب کا نازل ہونا		۴۱۲	قوم لوط کی بُری خصلتیں	۱۴۴
	سورة الشعراء میں انبیاء علیہم السلام کے قصص کی	۱۶۷		حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی زبان درازی اور	۱۴۵
۴۳۷	تنقیح		۴۱۳	عذاب کا مستحق ہونا	
۴۳۷	مستقبل میں عذاب سے نجات کا مدار	۱۶۸		حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت اور اس	۱۴۶
	وانہ لتنزیل رب العالمین ○ نزل بہ	۱۶۹	۴۱۳	کا عذاب	
۴۳۸	الروح الامین (۱۹۲-۲۲۷)		۴۱۵	حدود کے نفاذ کا رحمت ہونا	۱۴۷
۴۴۰	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل	۱۷۰		کذب اصحاب لئیكة المرسلین ○	۱۴۸
۴۴۱	حضرت جبرئیل علیہ السلام کو روح الامین کہنے کی وجہ	۱۷۱	۴۱۶	(۱۷۶-۱۹۱)	
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن مجید کو نازل	۱۷۲	۴۱۸	حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ	۱۴۹
۴۴۱	کرنے کی کیفیت		۴۲۰	حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام بعثت	۱۵۰
	حضرت جبرئیل علیہ السلام نے قرآن مجید کے علاوہ	۱۷۳	۴۲۱	اہل مدین اور اصحاب الایکہ	۱۵۱
۴۴۲	دیگر احکام کے متعلق بھی آپ پر وحی نازل کی ہے		۴۲۱	قسطاس کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۵۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۶۱	قربت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا			قرآن مجید کے عربی زبان میں ہونے کی تحقیق	۱۷۴
۴۶۲	رحم کی تراوٹ سے فائدہ پہنچانا	۱۹۳	۴۴۶	اور غیر عربی الفاظ کا جواب	
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خاص و عام کو اللہ	۱۹۴	۴۴۷	عربی زبان کی فضیلت	۱۷۵
۴۶۲	کے عذاب سے ڈرانا		۴۴۷	عربی زبان کی تاریخ	۱۷۶
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اقربین کی	۱۹۵		سابقہ آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کے مذکور	۱۷۷
۴۶۳	دعوت کر کے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا		۴۴۸	ہونے کے محال	
	اہل بیت اور اپنے دیگر قربت داروں کو رسول اللہ	۱۹۶		آیا قرآن مجید کو غیر عربی میں پڑھنا جائز ہے یا	۱۷۸
۴۶۴	صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں نفع پہنچانا		۴۴۹	نہیں؟	
۴۶۵	نفع رسائی کی بظاہر نفی کی روایات کی توجیہ	۱۹۷	۴۴۹	غیر عربی میں قرآن مجید پڑھنے کی مزید تحقیق	۱۷۹
	اس پر دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع	۱۹۸		آیا ترجمہ قرآن پر قرآن مجید کا اطلاق ہو سکتا ہے	۱۸۰
۴۶۶	اور ضرر کی نفی ذاتی نفع اور ضرر پر محمول ہے		۴۵۰	یا نہیں؟	
۴۶۷	نسب پر اعتماد کرنے کے بجائے عمل کی کوشش کی جائے	۱۹۹	۴۵۱	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	۱۸۱
۴۶۷	خطا کاروں کے لیے استغفار اور منکروں سے برأت	۲۰۰	۴۵۲	کفار مکہ کا عناد اور ہٹ دھرمی	۱۸۲
۴۶۸	اللہ تعالیٰ کے غالب اور رحیم ہونے کا معنی	۲۰۱		کفار کی ہٹ دھرمیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی	۱۸۳
۴۶۸	توکل کی تحقیق	۲۰۲	۴۵۳	دینا	
۴۶۹	حق توکل کا معنی	۲۰۳	۴۵۴	اللہ کے عذاب کو جلد طلب کرنے کی مذمت	۱۸۴
۴۶۹	آیا اسباب کو ترک کرنا توکل میں داخل ہے یا نہیں؟	۲۰۴	۴۵۴	اس فانی زندگی پر مغرور نہ ہونے کی تلقین	۱۸۵
۴۷۰	توکل کی تعریف میں صوفیاء کے اقوال	۲۰۵		جرم کے بغیر بھی عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں	۱۸۶
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کی عبادت کی	۲۰۶	۴۵۵	ہے	
۴۷۱	تفتیش کرنا		۴۵۶	انسان کو خیر اور شر کا اختیار عطا فرمانا	۱۸۷
۴۷۲	تہجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت	۲۰۷	۴۵۷	اس پر دلائل کہ شیاطین قرآن کو نازل نہیں کر سکتے	۱۸۸
	انبیاء علیہم السلام کے ذنوب کی توجیہ اور بندہ کے	۲۰۸		شیاطین فرشتوں کا کلام نہیں سن سکتے اس کی توجیہ	۱۸۹
۴۷۳	شکر اور اللہ کے شکر کا معنی		۴۵۸	اور بحث و نظر	
	قرآن مجید میں مذکور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے	۲۰۹		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اللہ کی عبادت سے	۱۹۰
۴۷۴	ذنب کا ترجمہ گناہ کرنے کی تحقیق		۴۵۹	ممانعت کی توجیہ	
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت قیام اور ساجدین	۲۱۰		عشیرۃ کا معنی اور صلہ رحم میں الاقرب فالاقرب	۱۹۱
۴۷۶	میں دیکھنے کے دیگر محال		۴۶۰	کی ترجیح	
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابویں کریمین (والدین	۲۱۱		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے	۱۹۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۹۰	(مسک اول آپ کے والدین کا اصحاب فترت سے ہونا)	۲۴۷	۴۷۷	کریمین کے ایمان کے ثبوت میں احادیث	۲۱۲
۴۹۰	مسک ثانی آپ کے والدین کا دین ابراہیم پر ہونا	۲۴۷	۴۸۰	والدین کریمین کے ایمان پر امام فخر الدین رازی کے دلائل	۲۱۳
۴۹۰	آپ کے تمام آباء کے مومن ہونے کے متعلق احادیث	۲۴۸	۴۸۱	والدین کریمین کے ایمان پر علامہ قرطبی کے دلائل	۲۱۳
۴۹۲	زمین کبھی مومنوں سے خالی نہیں رہی اس کے متعلق احادیث	۲۴۹	۴۸۳	والدین کریمین کے ایمان پر علامہ سہلی کے دلائل	۲۱۵
۴۹۳	اولاد ابراہیم کے ایمان پر قائم رہنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۲۳۰	۴۸۳	والدین کریمین کے ایمان پر علامہ ابی مالکی کے دلائل	۲۱۶
۴۹۳	حضرت عبدالمطلب کے ایمان کی بحث	۲۳۱	۴۸۳	والدین کریمین کے ایمان کے ثبوت میں حافظ سیوطی کے دلائل	۲۱۷
۴۹۶	نشر العلمین المنیفین فی احیاء الابوین الشریفین کا خلاصہ (والدین کریمین کو زندہ کرنے والی حدیث کی تقویت اور ترجیح کی وجہ)	۲۳۲	۴۸۵	المقامة السندسية فی النسبة المصطفوية کا خلاصہ (آپ کے والدین کو زندہ کرنا اور ان کا ایمان لانا)	۲۱۷
۴۹۷	والدین کریمین کو زندہ کرنے والی حدیث کی سند کی تحقیق	۲۳۳	۴۸۵	آپ کے والدین کریمین کا اہل فترت سے ہونا اور غیر معذب ہونا	۲۱۸
۴۹۸	الدرج المنیفہ فی الالباء الشریفہ کا خلاصہ	۲۳۴	۴۸۶	آپ کے والدین کا مومن ہونا اور آپ کے نسب کی طہارت پر حضرت عباس کے اشعار	۲۱۹
۴۹۹	التمظیم والمنہ فی ان ابوی رسول اللہ فی الجنة کا خلاصہ (والدین کریمین کو قبر میں زندہ کرنے کے متعلق پہلی حدیث)	۲۳۵	۴۸۷	تنزیہ الانبیاء عن تشبیہ الاغیاء کا خلاصہ (آپ کی تعظیم آپ کے والدین کے ایمان کو مستلزم ہے)	۲۲۰
۵۰۰	اس حدیث کے متن پر علامہ ابن جوزی کے اعتراضات کے جوابات	۲۳۶	۴۸۸	السبیل الجلیلہ فی الالباء العلیہ کا خلاصہ	۲۲۱
۵۰۱	اس حدیث کی سند پر علامہ ابن جوزی کے اعتراضات کے جوابات	۲۳۷	۴۸۸	آپ کے والدین کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی سو وہ غیر معذب ہیں	۲۲۲
۵۰۱	محمد بن حسن بن زیاد نقاش پر ابن جوزی کی جرح کا جواب حافظ ذہبی سے	۲۳۸	۴۸۸	آپ کے والدین اصحاب فترت سے ہیں اس لئے نجات یافتہ ہیں	۲۲۳
۵۰۱	محمد بن یحییٰ اور احمد بن یحییٰ پر جرح کا جواب حافظ ذہبی اور حافظ عسقلانی سے	۲۳۹	۴۸۹	آپ کے والدین کو زندہ کرنا اور ان کا ایمان لانا اور اس کے مخالف احادیث کی تاویل	۲۲۴
۵۰۱	والدین کریمین کو زندہ کر کے ایمان لانے کی	۲۴۰	۴۸۹	آپ کے والدین ملت ابراہیم پر تھے	۲۲۵
				مسالک الحنفاء فی والذی المصطفیٰ	۲۲۶

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۱۳	تشریح	۵۰۲	حدیث میں حفاظ حدیث کا اختلاف	
۵۱۳	کاہنوں کی اقسام	۲۵۶	اصحاب کہف کو زندہ کیے جانے سے والدین	۲۳۱
۵۱۳	نجومیوں سے سوال کی ممانعت	۲۵۷	کریمین کو زندہ کئے جانے پر استدلال	
۵۱۵	شہاب ثاقب کے متعلق حدیث اور اس کی تشریح	۲۵۸	والدین کریمین کو زندہ کیے جانے اور اس کے	۲۳۲
	ستاروں کی تاثیر کی نفی کے متعلق احادیث اور ان	۲۵۹	خلاف احادیث میں تطبیق	
۵۱۶	کی تشریح	۵۰۳	حضرت آمنہ کے موحده ہونے پر دلیل	۲۳۳
۵۱۷	علم نجوم کا لغوی معنی	۲۶۰	جب حضرت آمنہ مومنہ تھیں تو آپ کو ان کے	۲۳۴
۵۱۷	علم نجوم کے اصول اور مبادی	۲۶۱	لیے استغفار کی اجازت کیوں نہیں ملی اور آپ	
۵۱۸	علم نجوم کا اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حکم	۲۶۲	نے ان کو دوزخی کیوں فرمایا؟	
	علم نجوم کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء (امام غزالی)	۲۶۳	تمام انبیاء کی امہات کے ایمان سے حضرت آمنہ	۲۳۵
	امام بخاری، علامہ سیوطی، ملا علی قاری، علامہ شامی، امام	۲۶۴	کے ایمان پر استدلال	
	احمد رضا، علامہ امجد علی، مفتی احمد یار خاں، مفتی وقار	۲۶۵	ابولہب کے عذاب میں تخفیف سے حضرت آمنہ	۲۳۶
۵۱۹	الدین اور شیخ ابن تیمیہ وغیرہم کے آراء)	۲۶۶	کے غیر معذب ہونے پر استدلال	
	اخباروں میں شائع ہونے والی نجومیوں کی پیش	۲۶۷	ابوین کریمین کے معذب ہونے کی احادیث کے	۲۳۷
۵۲۶	گوئیوں اور غیب کی خبروں پر مصنف کا تبصرہ	۲۶۸	منسوخ ہونے کی نظائر اور اطفال مشرکین کے	
۵۲۷	جفر کا لغوی معنی	۲۶۹	ایمان سے استدلال	
۵۲۷	جفر کا اصطلاحی معنی	۲۷۰	زمانہ جاہلیت میں دین ابراہیم پر قائم رہنے والے	۲۳۸
۵۲۸	علم جفر کا تفصیلی تعارف	۲۷۱	دوسرے لوگ	
	علم جفر کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء (اعلیٰ)	۲۷۲	والدین کریمین کے ایمان کی نفی پر ملا علی قاری کے	۲۳۹
	حضرت مولانا وقار الدین اور شیخ ابن تیمیہ کی	۲۷۳	دلائل	
۵۳۰	آراء)	۲۷۴	ملا علی قاری کے دلائل پر مصنف کا تبصرہ	۲۵۰
	علم جفر کی بنیاد پر اخبارات و رسائل میں غیب کی	۲۷۵	ملا علی قاری کے افکار پر ان کے استاد ابن حجر کی	۲۵۱
۵۳۲	خبروں اور پیش گوئیوں پر مصنف کا تبصرہ	۲۷۶	تبصرہ	
	حساب و کتاب اور سائنسی آلات کے ذریعہ پیش	۲۷۷	ملا علی قاری پر علامہ آلوسی کا تبصرہ	۲۵۲
۵۳۲	گوئیوں کا شرعی حکم	۲۷۸	دلائل اور وجوہات جن کی بناء پر قرآن مجید	۲۵۳
۵۳۳	چاند نظر آنے کی سائنسی اور تکنیکی وجوہ	۲۷۹	شیطان کا نازل کیا ہوا نہیں ہے	
۵۳۶	شعر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور شعر کی تاریخ	۲۸۰	افاک اور اٹیم کے معنی	۲۵۴
	نیک لوگوں کی پیروی کرنے سے آپ کی نبوت	۲۸۱	کاہن کا معنی، کاہن کے متعلق احادیث اور ان کی	۲۵۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	جنت کی تعریف اور تحسین اور جنت کے مطلوب	۱۳	۵۳۷	کے برحق ہونے پر استدلال	
۵۵۷	ہونے پر قرآن اور حدیث میں تصریحات		۵۳۷	شعراء کا ہر وادی میں بھٹکتے پھرنا	۲۷۴
۵۶۱	اللہ کی رضا کا بہت بڑا درجہ ہے	۱۴	۵۳۸	اشعار کی مذمت میں احادیث اور ان کا محمل	۲۷۵
۵۶۳	جنت کی تخفیف نہ کی جائے	۱۵		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لینے کے لئے	۲۷۶
	اس سورت کے قصص انبیاء علیہم السلام میں سے	۱۶	۵۳۹	کفار کی ہجو کرنا	
۵۶۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا قصہ		۵۴۱	اشعار کی فضیلت میں احادیث	۲۷۷
۵۶۳	اہل کا معنی	۱۷	۵۴۳	حکیمانہ اشعار کا معدن و منبع	۲۷۸
۵۶۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگ کو دیکھنا	۱۸	۵۴۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار نہ کہنے کا سبب	۲۷۹
	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت میں جو آگ	۱۹	۵۴۳	اختتام سورت	۲۸۰
۵۶۵	دیکھی وہ اصل میں کیا چیز تھی؟		۵۴۵	سورۃ النمل	
۵۶۷	اللہ کا کلام سننے کی کیفیت	۲۰	۵۴۷	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے آواز سن	۲۱	۵۴۷	سورۃ النمل اور سورۃ الشعراء کی باہمی مناسبت	۲
	کر کیسے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس باب		۵۴۷	سورۃ النمل کے مضامین اور مقاصد	۳
۵۶۸	میں امام قنولی کی تحقیق			طس لتلك آیت القرآن و کتاب	۴
	نبی کیسے جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس باب	۲۲	۵۴۹	مبین (۱-۱۴)	
۵۶۹	میں مصنف کی تحقیق		۵۵۰	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معانی	۵
	نبی کو ابتدائے نبوت میں اپنے نبی ہونے کا علم ہوتا	۲۳	۵۵۱	طاسین کے اسرار	۶
	ہے یا نہیں اس باب میں سید مودودی کا نظریہ اور		۵۵۱	اس سورت کو قرآن اور کتاب مبین فرمانے کی وجہ	۷
۵۷۰	اس پر مصنف کا تبصرہ			ہدایت اور بشارت کو مومنین کے ساتھ مخصوص	۸
۵۷۵	حیہ، جان اور ثعبان کے معنی اور ان میں تطبیق	۲۴	۵۵۱	کرنے کی توجیہات	
۵۷۵	رسولوں کے اللہ سے ڈرنے یا نہ ڈرنے کی تحقیق	۲۵		اس سوال کا جواب کہ ایمان والوں کے ذکر کے	۹
۵۷۵	انبیاء علیہم السلام کا اللہ سے ڈرنا	۲۶	۵۵۲	بعد آخرت پر یقین رکھنے والوں کا ذکر کیوں فرمایا	
۵۷۶	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ڈرنا	۲۷		زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی پھر کی سورت میں اس	۱۰
۵۷۷	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ سے ڈرنا	۲۸	۵۵۳	کے ذکر کی توجیہ	
۵۷۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ سے ڈرنا	۲۹		جب کفریہ کاموں کو اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا ہے تو	۱۱
۵۷۹	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اللہ سے ڈرنا	۳۰	۵۵۴	پھر اس کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟	
۵۷۹	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ سے ڈرنا	۳۱		دوزخ سے پناہ مانگنے اور جنت کے حصول کی دعا	۱۲
۵۸۰	عصمت کی تحقیق	۳۲	۵۵۵	کے متعلق آیات اور احادیث	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	جہاد کے گھوڑوں کے معائنہ کی مشغولیت کی وجہ سے حضرت سلیمان کی عصر کی نماز کا قضا ہونا	۵۳	۵۸۱	رسولوں کے اللہ سے نہ ڈرنے کا محمل	۳۳
۵۹۹	حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد	۵۴	۵۸۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلی کو گھونسا مار کر ہلاک کر دینا آیا گناہ تھا یا نہیں؟	۳۴
۶۰۰	حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد کے بیان میں مضطرب روایات میں تطبیق	۵۵	۵۸۲	قبلی کے قتل کو ظلم فرمانے کی تحقیق	۳۵
۶۰۰	حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث صحیح پر سید مودودی کے اعتراض کے جوابات	۵۶	۵۸۳	عوام اور خواص کے معاصی کا فرق	۳۶
۶۰۱	حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجتہاد میں اصابت رائے	۵۷	۵۸۳	عصا کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات	۳۷
۶۰۲	حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعاتی شہادت سے استدلال	۵۸	۵۸۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور قمیص میں بٹن لگانے کی تحقیق	۳۸
۶۰۳	ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے کب اختلاف کر سکتا ہے	۵۹	۵۸۶	دو آیتوں میں تعارض کا جواب	۳۹
۶۰۳	حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا ملک عطا کرنا جو کسی اور کو نہ دیا گیا ہو	۶۰	۵۸۷	کفار اور مشرکین کو تنبیہ	۴۰
۶۰۴	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کرنا	۶۱	۵۸۷	ولقد اتینا داؤد و سلیمان علما (۳۱-۱۵)	۴۱
۶۰۴	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو مسخر کرنا	۶۲	۵۸۹	اس سورت میں انبیاء علیہم السلام کے قصص میں سے	۴۲
۶۰۵	حضرت سلیمان علیہ السلام کے معمولات اور ان کے احوال و کوائف کے متعلق احادیث	۶۳	۵۹۰	حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا دوسرا قصہ	۴۳
۶۰۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات	۶۴	۵۹۱	حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب اور ان کا جالوت کو قتل کرنا	۴۴
۶۰۹	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے عظیم علم کے مصداق کے متعلق مفسرین کے اقوال	۶۵	۵۹۲	حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت اور ان کی سیرت کے متعلق احادیث اور آثار	۴۵
۶۱۱	علم کی فضیلت	۶۶	۵۹۳	حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کے متعلق احادیث اور آثار	۴۶
۶۱۲	جہل کی مذمت	۶۷	۵۹۳	حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کی ادائیگی کا طریقہ	۴۷
۶۱۵	اپنے آپ کو عالم کہنے یا جنتی کہنے کی تحقیق	۶۸	۵۹۴	حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی	۴۸
۶۱۶	من عرف نفسه فقد عرف ربه کے حدیث ہونے کی تحقیق	۶۹	۵۹۵	حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں	۴۹
۶۱۷	من عرف نفسه فقد عرف ربه کے معانی اور محال	۷۰	۵۹۷	حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر	۵۰
۶۱۷	حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر	۷۱	۵۹۸	حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات	۵۱
			۵۹۸	حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام و نسب اور انبیاء مبعوثین کی ترتیب	۵۲
			۵۹۸	قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۳۰	محفوظ ہونا		۶۱۹	ادا کرنا	
	مسافت بعیدہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا چیونٹی کو کیسے شعور ہوا اور آپ نے اس کا کلام کیسے سن لیا؟	۹۲	۶۱۹	اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں نعمت علم کی خصوصیت	۷۲
۶۳۲	تبسم، شخک اور قہقہہ کے معانی اور وجوہ استعمال	۹۳	۶۲۰	وراثت کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۳
۶۳۳	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے اور ہنسنے کے متعلق احادیث	۹۴	۶۲۲	سنی مفسرین کے نزدیک حضرت سلیمان، حضرت داؤد کی نبوت اور علم کے وارث تھے نہ کہ مال کے	۷۴
۶۳۴	انسان کے والدین کی نعمتوں کا بھی اس کے حق میں نعمت ہونا	۹۵	۶۲۳	شیعہ مفسرین کے نزدیک حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے مال کے وارث تھے نہ کہ نبوت و علم کے	۷۵
۶۳۵	ادا ایگی شکر کا طریقہ	۹۶	۶۲۴	شیعہ مفسرین کے دلائل کے جوابات	۷۶
۶۳۶	حضرت سلیمان کا اپنے جد کریم کی اتباع میں جنت اور بعد از وفات ثناء جمیل کی دعا کرنا	۹۷	۶۲۶	علم کا وارث بنانے اور مال کا وارث نہ بنانے کے ثبوت میں روایات ائمہ اہل سنت	۷۷
۶۳۷	انبیاء علیہم السلام اپنے صالح ہونے کی دعا کیوں کرتے تھے؟	۹۸	۶۲۶	علم کا وارث بنانے اور مال کا وارث نہ بنانے کے ثبوت میں روایات ائمہ شیعہ	۷۸
۶۳۸	شیخ اور امام یا امیر کی معرفت اور اس کی بیعت اور اطاعت کا ضروری ہونا	۹۹	۶۲۷	تحدیث نعمت (اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا)	۷۹
۶۳۹	حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہمارے لئے تنبیہ اور نصیحت	۱۰۰	۶۲۸	نطق اور منطق کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۸۰
۶۵۰	حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہ کی گمشدگی کے متعلق جو سوال کیا تھا اس کی وجوہ	۱۰۱	۶۲۹	طیر کے معانی	۸۱
۶۵۱	حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا	۱۰۲	۶۲۹	چیونٹیوں اور بعض پرندوں کے متعلق احادیث	۸۲
۶۵۲	تقدیر کا تدبیر پر غالب آنا	۱۰۳	۶۳۱	انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا پرندوں کی باتیں سمجھنا	۸۳
۶۵۲	تربیت دینے اور ادب سکھانے کے لئے جانوروں کو مارنے اور سزا دینے کا جواز	۱۰۴	۶۳۲	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیوانوں کی باتیں کرنا اور آپ کی تعظیم کرنا	۸۴
۶۵۳	ہدہ کی سزا کے متعلق متعدد اقوال	۱۰۵	۶۳۲	حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز دی جانے کا محمل	۸۵
۶۵۳	عربی قواعد کے خلاف قرآن مجید کی کتابت کی تحقیق	۱۰۶	۶۳۳	سلطان کے متعلق احادیث	۸۶
			۶۳۵	حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور ان کا لشکر	۸۷
			۶۳۶	وادی کا معنی	۸۸
			۶۳۷	نملہ کا معنی	۸۹
				جس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ڈرایا تھا وہ مذکر تھی یا مونث؟	۹۰
			۶۳۷	انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا اور ان کے اصحاب کا	۹۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۶۸	تصریحات			قواعد رسم الخط کے خلاف مصحف میں مذکور الفاظ کی	۱۰۷
	اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی	۱۲۳	۶۵۵	فہرس	
	طرف دیکھنے کی ممانعت کے متعلق قرآن اور سنت		۶۵۶	قواعد رسم الخط کی مخالفت کے جوابات کی تنقیح	۱۰۸
۶۶۸	سے دلائل			ہد ہد کا ملک سبا کی سیر کر کے حضرت سلیمان علیہ	۱۰۹
۶۶۹	مردوں سے عورتوں کے کلام کی ممانعت	۱۲۵	۶۵۷	السلام کی خدمت میں آنا	
	عورت کو سربراہ مملکت بنانے کی ممانعت پر قرآن	۱۲۶		ہد ہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو	۱۱۰
۶۶۹	اور سنت کا استدلال			اپنے علم کا اظہار کیا اس کی علامہ زختری کی طرف	
	عورتوں کی سربراہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء	۱۲۷	۶۵۸	سے توجیہ	
۶۷۱	مالکیہ کی تصریحات		۶۵۹	علامہ زختری کی توجیہ کا رد اور اس کی صحیح توجیہ	۱۱۱
	عورتوں کی سربراہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء	۱۲۸		انبیاء علیہم السلام کے علم غیب کے متعلق علامہ قرطبی	۱۱۲
۶۷۱	شافعیہ کی تصریحات		۶۶۰	کا نظریہ	
	عورتوں کی سربراہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء	۱۲۹	۶۶۰	ملکہ سبا کی تحقیق	۱۱۳
۶۷۲	حبلیہ کی تصریحات		۶۶۱	ملکہ سبا کا تعارف	۱۱۴
	حدود اور قصاص کے سوا عورتوں کی قضاء کے جواز	۱۳۰	۶۶۱	آیا جن اور انسان کا نکاح عقلاً ممکن ہے یا نہیں؟	۱۱۵
۶۷۳	کے متعلق فقہاء احناف کا موقف		۶۶۲	آیا جن اور انسان کا نکاح شرعاً جائز ہے یا نہیں؟	۱۱۶
	حدود اور قصاص کے ماسوا میں عورت کی قضاء کا	۱۳۱		بلیقہ کی حکمرانی سے عورت کی حکمرانی پر استدلال	۱۱۷
	جواز اس کو مستلزم نہیں کہ اس کو دیوانی عدالت کا		۶۶۳	کا جواب	
۶۷۳	قاضی بنا دیا جائے			عورت کے وزیر اعظم ہونے کے جواز کے دلائل	۱۱۸
	عورت کو سربراہ مملکت بنانے کے عدم جواز کے	۱۳۲	۶۶۳	اور اس کے جوابات	
۶۷۵	متعلق فقہاء احناف کی تصریحات			امامت اور خلافت کی تین تعریفیں اور ان پر بحث	۱۱۹
۶۷۵	تحت بلیقہ کی صفت	۱۳۳	۶۶۵	ونظر	
۶۷۶	ان لا یسجدوا کی متعدد نحوی ترکیبیں اور تراجم	۱۳۴		آیا اس دور میں مسلمانوں پر خلیفہ کو مقرر کرنا	۱۲۰
۶۷۷	تحت بلیقہ اور عرش الہی دونوں کے عظیم ہونے کا فرق	۱۳۵	۶۶۶	واجب ہے یا نہیں؟	
۶۷۷	خبر واحد اور خبر متواتر وغیرہ کی تعریفیں اور ان کے احکام	۱۳۶		عورت کو مردوں کے کسی بھی ادارہ کی سربراہ بنانے	۱۲۱
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب میں پہلے اپنا	۱۳۷	۶۶۷	کی ممانعت	
	نام لکھنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب			عورت کے گھر سے بے پردہ نکلنے کے متعلق قرآن	۱۲۲
۶۷۸	میں پہلے اللہ کا نام لکھنا		۶۶۷	اور سنت کی تصریحات	
	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر بادشاہوں کی	۱۳۸		پردہ کے لزوم کے متعلق قرآن اور سنت کی	۱۲۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۹۱	سامنے حاضر کرنے کی کیفیت		۶۷۸	طرف مکاتیب	
۶۹۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت "گن" کے مظاہر	۱۵۵	۶۷۹	ہدیہ کا بقیس کو مکتوب پہنچانا	۱۳۹
۶۹۳	ولی اور اس کی کرامت کی تعریفیں اور کرامت کے وقوع پر دلائل	۱۵۶	۶۸۰	نبی کے ادب سے ایمان پانا اور نبی کی بے ادبی سے ایمان سے محروم ہونا اور دنیا و آخرت کی ذلت	۱۴۰
۶۹۴	بقیس کے ایمان لانے کی تفصیل	۱۵۷	۶۸۰	حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟	۱۴۱
۶۹۵	بقیس کے نکاح کا بیان	۱۵۸	۶۸۱	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتیب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا کب شروع کیا؟	۱۴۲
۶۹۵	ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صلحان اعبدوا اللہ (۵۹-۴۵)	۱۵۹	۶۸۱	آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بقیس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا تھا یا اپنی بادشاہت تسلیم کرنے کا؟	۱۴۳
۶۹۸	اس سورت میں حضرت صالح علیہ السلام کا تیسرا قصہ	۱۶۰	۶۸۲	قالت یا ایہا الملؤ الفتونی فی امری ما کنت قاطعة امری حتی تشهدون (۳۳-۳۲)	۱۴۴
۶۹۸	حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کا تعارف	۱۶۱	۶۸۵	مشورہ کی اہمیت	۱۴۵
۶۹۹	نحوست اور بدشگونی کی تحقیق	۱۶۲	۶۸۵	ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کے جواز اور استحسان کے متعلق احادیث	۱۴۶
۶۹۹	اونٹنی کو قتل کرنے والے نو آدمیوں کے نام	۱۶۳	۶۸۷	بقیس کے بھیجے ہوئے ہدیہ کی تفصیل	۱۴۷
۷۰۰	حضرت صالح کے مخالفین کی سازش کو اللہ تعالیٰ کا ناکام بنانا	۱۶۴	۶۸۷	بقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہونا	۱۴۸
۷۰۰	قوم ثمود کے ہلاک ہونے کی کیفیت	۱۶۵	۶۸۸	تخت بقیس منگوانے کی وجوہات	۱۴۹
۷۰۱	حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے تبعین کا الحجرت سے نکل جانا	۱۶۶	۶۸۸	عفریت کا معنی	۱۵۰
۷۰۱	اس سورت میں حضرت لوط علیہ السلام کا چوتھا قصہ	۱۶۷	۶۸۹	عفریت من الجن کی پیش کش کہ وہ دربار پرخواست ہونے سے پہلے تخت کو حاضر کر دے گا	۱۵۱
۷۰۱	قوم لوط کو بے حیائی کے کاموں پر بصیرت رکھنے والا بھی فرمایا اور جاہل بھی اس کی توجیہ	۱۶۸	۶۹۰	حضرت سلیمان کے ولی کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بقیس کو حاضر کر دینا	۱۵۲
۷۰۲	قوم لوط پر زمین کا پلٹ دینا	۱۶۹		جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس کا مصداق کون تھا؟	۱۵۳
۷۰۲	فعل قوم لوط کی سزا اور اس کی دینی اور دنیاوی خرابیاں	۱۷۰		تخت بقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے	
۷۰۳	ہر اہم کام کی ابتداء بسم اللہ الحمد للہ اور صلوة و سلام سے کرنے میں قرآن حدیث اور سلف صالحین کی اتباع ہے	۱۷۱			
۷۰۳	اس اعتراض کا جواب کہ کفار کے خود ساختہ معبودوں میں بھی کوئی اچھائی ہے	۱۷۲			
۷۰۵					

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۱۸	حکمت			امن خلق السموات والارض وانزل لكم	۱۷۳
۷۱۹	مضطر اور مکروہ کی فریادری سے توحید پر استدلال	۱۹۱	۷۰۵	من السماء ماء (۶۶-۶۰)	
۷۲۰	حشر و نشر کا ثبوت اور شرک کا ابطال	۱۹۲	۷۰۷	اللہ تعالیٰ کا اپنی توحید پر دلائل بیان فرمانا	۱۷۴
۷۲۰	بل ادا رک علمہم فی الاخرة کے معنی	۱۹۳		آسمانوں اور زمینوں کی نعمتیں عطا کرنے سے	۱۷۵
۷۲۱	علم غیب کی تحقیق	۱۹۴	۷۰۷	توحید پر استدلال	
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق	۱۹۵	۷۰۸	تصویر بنانے کے شرعی حکم کی تحقیق	۱۷۶
۷۲۱	سید ابوالاعلیٰ مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظریہ			جاندار کی تصویر بنانے کی تحریم اور ممانعت کے	۱۷۷
۷۲۲	سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تفسیر پر مصنف کا تبصرہ	۱۹۶	۷۰۸	متعلق احادیث	
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ کہنے کے	۱۹۷		بے جان چیزوں کی تصویر بنانے کے جواز کی	۱۷۸
۷۲۳	متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں کی تصریح		۷۰۹	حدیث	
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے	۱۹۸		تصویر بنانے کے حکم میں فقہاء شافعیہ اور مالکیہ کا	۱۷۹
۷۲۳	ثبوت میں اعلیٰ حضرت کے دلائل		۷۰۹	نظریہ	
۷۲۵	غیب کا لغوی معنی	۱۹۹	۷۱۰	تصویر بنانے کے حکم میں فقہاء احناف کا نظریہ	۱۸۰
۷۲۵	غیب کا اصطلاحی معنی	۲۰۰	۷۱۱	تصویر اور فوٹو گراف کے متعلق علماء ازہر کا نظریہ	۱۸۱
	رسول اللہ کو علم غیب دیئے جانے کے متعلق قرآن	۲۰۱	۷۱۱	تصویر اور فوٹو گراف کے متعلق مصنف کا موقف	۱۸۲
۷۲۶	مجید کی آیات		۷۱۲	ویڈیو اور ٹی وی کی تصاویر کا شرعی حکم	۱۸۳
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق	۲۰۲		جو علماء دلائل کی بناء پر فوٹو اور ٹی وی کی تصاویر کے	۱۸۴
۷۲۶	احادیث		۷۱۳	جواز کے قائل ہیں ان پر لعن طعن نہیں کرنی چاہیے	
۷۲۸	انمل: ۶۵ میں اللہ کے غیر سے علم غیب کی نفی کا محمل	۲۰۳		ضرورت کی بناء پر پاسپورٹ کے فوٹو گراف کی	۱۸۵
۷۲۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی کی ایک دلیل	۲۰۴	۷۱۳	رخصت	
	وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا و اباثنا	۲۰۵		زمین کی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر	۱۸۶
۷۳۲	اننا لمخرجون (۸۲-۶۷)		۷۱۵	استدلال	
۷۳۳	کفار کی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۲۰۶	۷۱۶	مضطر کے مصداق کے متعلق اقوال	۱۸۷
۷۳۵	موت کا قیامت صغریٰ ہونا	۲۰۷	۷۱۷	مضطر (بے قرار) کی دعا	۱۸۸
۷۳۵	مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سینہ صاف رکھیں	۲۰۸		قرآن اور حدیث سے اس پر استدلال کہ مضطر اور	۱۸۹
۷۳۶	یہودیوں کا اختلاف کن امور میں تھا؟	۲۰۹		مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ مومن ہو	
۷۳۷	سماع موتی کے ثبوت میں احادیث اور آثار	۲۱۰	۷۱۷	یا کافر	
	جن کے ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا	۲۱۱		مظلوم مسافر اور والد کی دعا جلد قبول فرمانے کی	۱۹۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۶۳	سورۃ القصص		۷۴۰	وہی دو اہم ایمان سے مشرف ہوگا	
۷۶۵	سورت کا نام	۱	۷۴۱	اللہ تعالیٰ کے قول واقع ہونے کی تفسیر میں اقوال	۲۱۲
۷۶۵	القصص کی انمل سے مناسبت	۲		دآبۃ الارض کی صورت اور اس کے محل خروج کے	۲۱۳
۷۶۶	سورۃ القصص کے مشمولات	۳	۷۴۲	متعلق احادیث آثار اور مفسرین کے اقوال	
۷۶۷	سورۃ القصص کے اغراض	۴		ویوم نحشر من کل امة فوجا ممن	۲۱۴
	طسم ۰ تلک ایت الکتب المبین	۵	۷۴۵	یکذب بایتنا فہم یوزعون (۹۳-۸۳)	
۷۶۸	(۱-۱۳)		۷۴۷	حشر کے دن کفار کے کفر و شرک پر زجر و توبیح	۲۱۵
۷۷۰	طسم کا معنی	۶		دن اور رات کے تعاقب میں توحید رسالت اور	۲۱۶
۷۷۰	سورۃ القصص کا خلاصہ	۷	۷۴۸	حشر کی دلیل	
۷۷۱	مومنوں پر تلاوت کرنے کی تخصیص کی توجیہ	۸	۷۴۸	صور کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۱۷
۷۷۱	شیعہ کا معنی	۹	۷۴۹	صور اور صور پھونکنے کے متعلق احادیث	۲۱۸
۷۷۱	بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی وجوہ	۱۰	۷۴۹	کتی بار صور پھونکا جائے گا؟	۲۱۹
۷۷۲	بنی اسرائیل کو امامت اور بادشاہت سے نوازنا	۱۱	۷۵۰	تین بار صور پھونکنے کے دلائل اور ان کے جوابات	۲۲۰
۷۷۳	فرعون کا اپنے خدشات کا شکار ہونا	۱۲	۷۵۲	دو بار صور پھونکنے کے دلائل	۲۲۱
	حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کا معنی اور اس	۱۳	۷۵۳	نفخۃ الصعق سے کون کون سے افراد مستثنیٰ ہیں؟	۲۲۲
۷۷۳	وحی کا بیان			کیا حضرت موسیٰ کا ہمارے نبی سے پہلے ہوش	۲۲۳
	حضرت موسیٰ کی ولادت کے سلسلہ میں ارہاصات	۱۴	۷۵۵	میں آنا ان کی افضلیت کو مستلزم ہے؟	
۷۷۴	(اعلان نبوت سے پہلے کے خلاف عادت واقعات)			نفخۃ الصعق سے استثناء میں علامہ قرطبی کا	۲۲۴
۷۷۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام	۱۵	۷۵۷	آخری قول	
	حضرت موسیٰ کے فرعون کے گھر پہنچنے میں مزید	۱۶		قیامت کے دن پہاڑوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ریزہ	۲۲۵
۷۷۷	ارہاصات		۷۵۷	ریزہ ہونے کی مختلف حالتیں	
	حضرت موسیٰ کی ماں کے دل خالی ہونے کے	۱۷	۷۵۸	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سب سے بڑی نیکی ہونا	۲۲۶
۷۷۸	محال		۷۵۹	نیکی کا اجر نیک کام سے کیوں افضل ہے؟	۲۲۷
۷۷۹	دوسری عورتوں کا دودھ نہ پینے کی وجوہ	۱۸		قیامت کے دن عام مسلمان کیسے بے خوف ہوں	۲۲۸
۷۷۹	اکثر لوگوں کے نہ جاننے کے محال	۱۹	۷۶۰	گے جب کہ انبیاء کرام بھی خوف زدہ ہوں گے	
	فرعون کی بیوی اور حضرت موسیٰ کی بہن کے فضائل	۲۰	۷۶۱	شہر مکہ کی اہمیت اور خصوصیت	۲۲۹
	اور جنت میں ان کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم		۷۶۲	سورۃ انمل کا خاتمہ	۲۳۰
۷۸۰	کے نکاح میں ہونا				

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۹۶	اس بات کا جواب کہ منکوحہ کے تعین کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا اور شعیب علیہ السلام نے کسی ایک بیٹی کا تعین نہیں کیا تھا	۳۷	۷۸۰	ولما بلغ اشدہ واستوی اتینہ حکما وعلما (۱۳-۲۱)	۲۱
۷۹۶	بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہے	۳۸	۷۸۲	اشد اور استوی کے معنی کی تحقیق	۲۲
۷۹۶	خدمت اور کسی کام کو مہر قرار دینے پر امام مالک اور امام شافعی کا استدلال	۳۹	۷۸۳	اس کی تحقیق کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے یا اس کو چالیس سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے؟	۲۳
۷۹۷	امام مالک اور امام شافعی کے استدلال کے مفسرین	۴۰	۷۸۵	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلیق کائنات سے پہلے نبوت سے متصف ہونا	۲۴
۷۹۷	احناف کی طرف سے جوابات	۴۱	۷۸۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور علم دینے کا معنی	۲۵
۷۹۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جانا	۴۲	۷۸۷	حضرت موسیٰ کے شہر میں دخول کے وقت لوگوں کے غافل ہونے کا معنی	۲۶
۸۰۰	فلما قضی موسیٰ الاجل و سار باہلہ انس من جانب الطور (۲۲-۲۹)	۴۳	۷۸۷	عصمت انبیاء پر اعتراض کا جواب	۲۷
۸۰۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام اللہ سننے کی کیفیت	۴۴	۷۸۸	حضرت موسیٰ کے اس قول کی توجیہ کہ ”میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا“	۲۸
۸۰۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہنے کی خصوصیت	۴۵	۷۸۸	قرآن مجید اور احادیث سے ظالم کی مدد کرنے کی ممانعت	۲۹
۸۰۵	شب معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا	۴۶	۷۹۰	اپنی جماعت کے اسرائیلی کو کھلا ہوا گمراہ کہنے کی توجیہ	۳۰
۸۰۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے ہم کلام ہونے کی بنا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ہم کلام ہونے کا انکار	۴۷	۷۹۰	اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو جبار (دادا گیر) کیوں کہا تھا؟	۳۱
۸۰۷	انکار مذکور کے رد پر دلائل	۴۸	۷۹۱	ولما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان یھدینى سواء السبیل (۲۲-۲۸)	۳۲
۸۰۹	ہمارے نبی کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے پر دلائل	۴۹	۷۹۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنا اور شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلانا	۳۳
۸۱۰	درخت سے آنے والی آواز کی مختلف عبارات اور مقصود کا واحد ہونا	۵۰	۷۹۳	حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کے گھر جانا	۳۴
۸۱۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے	۵۱	۷۹۳	لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو نکاح کی پیشکش کرنے کا جواز اور استحسان	۳۵
۸۱۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے تسلی دے کر فرعون کی طرف روانہ کرنا	۵۲	۷۹۵	قرآن مجید اور احادیث میں اجارہ (اجرت لے کر کام کرانے) کا ثبوت	۳۶
۸۱۲	حضرت موسیٰ کا فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچانا اور فرعون کا تکبر سے اس کو رد کرنا				

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۲۸	مخصوص ہونے کے ثبوت میں احادیث	۶۹	۸۱۳	فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور اس کا عبرتناک انجام	۵۳
۸۲۹	مسلمین کے لقب سے صرف ہمارے نبی کے			فرعون نے خدا کو دیکھنے کے لئے بلند عمارت بنوائی	۵۴
	تبعین کے مخصوص ہونے کے ثبوت میں احادیث		۸۱۴	تھی یا نہیں؟	
	ان علماء کے دلائل جو اسلام اور مسلمین کے وصف کو	۷۰		ولقد اتینا موسیٰ الکتب من بعد ما	۵۵
	تمام شرائع اور تمام امتوں کے لئے عام قرار دیتے		۸۱۵	اهلکنا القرون الاولى (۵۰-۴۳)	
۸۲۹	ہیں اور ان کے جوابات		۸۱۷	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	۵۶
	لفظ اسلام کو ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ	۷۱	۸۱۸	قرن کا معنی اور نبیوں اور رسولوں کی تعداد	۵۷
۸۳۰	مخصوص کرنے کی وجوہات		۸۱۸	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت	۵۸
	اس اعتراض کا جواب کہ قرآن مجید میں بعض اہل	۷۲	۸۱۹	مشرکین کے شبہات کے جوابات	۵۹
۸۳۲	کتاب کو بھی مسلمین کہا گیا ہے			ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون	۶۰
	سید مودودی کا علامہ سیوطی کے موقف کو رد کرنا اور	۷۳	۸۲۱	(۶۰-۵۱)	
۸۳۳	اس پر مصنف کا تبصرہ			ایک بار پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے لگاتار	۶۱
۸۳۶	کفار کی لغو اور بے ہودہ باتیں	۷۴	۸۲۳	آیتیں نازل کرنے کی حکمت	
	سلام کی دو قسمیں سلام متارکہ اور سلام تحیت اور	۷۵		جن مومنین اہل کتاب کو دگنا اجر دیا جائے گا ان	۶۲
۸۳۷	علامہ آلوسی کی غلط نقل اور اس کا رد		۸۲۳	کے مصادیق	
۸۳۹	ابوطالب کے ایمان کے متعلق آیات اور احادیث	۷۶		جن لوگوں کو ان کے نیک اعمال دگنا اجر دیا جائے	۶۳
۸۳۹	ابوطالب کے متعلق مفسرین اہل سنت کی تصریحات	۷۷	۸۲۴	گا اس کی وجہ استحقاق	
	ابوطالب کے اسلام لانے کی روایت پر امام بیہقی	۷۸		مومنین اہل کتاب کے لئے دُگنے اجر کی بشارت	۶۴
۸۴۱	اور علامہ ابی کا تبصرہ			زمانہ رسالت کے ساتھ مخصوص ہے یا قیامت تک	
	ابوطالب کے اسلام لانے کی روایت پر علامہ	۷۹	۸۲۵	کے لئے عام ہے؟	
۸۴۲	آلوسی کا تبصرہ			اس کی تحقیق کہ اسلام اور مسلمین کا لفظ ہمارے نبی	۶۵
	ابوطالب کے ایمان کے متعلق مفسرین شیعہ کی	۸۰		صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے تبعین کے	
۸۴۳	تصریحات		۸۲۶	ساتھ مخصوص ہے	
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت دینے اور نہ دینے	۸۱		لفظ اسلام کا ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ	۶۶
۸۴۴	کے محال		۸۲۶	مخصوص ہونے کے ثبوت میں آیات	
	کفار کے اس شبہ کے تین جوابات کہ اگر ہم ایمان	۸۲		لفظ مسلمین کے ہمارے نبی کے تبعین کے ساتھ	۶۷
۸۴۵	لے آئے تو ہماری دنیاوی نعمتیں زائل ہو جائیں گی		۸۲۷	مخصوص ہونے کے ثبوت میں آیات	
	الفمن وعدنه وعدا حسنا فهو لاقیه کمین	۸۳		لفظ اسلام کے ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ	۶۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۶۳	مشرکین کے مددگار بننے کی ممانعت کے محمل	۱۰۳	۸۴۶	متعنه (۶۱-۷۵)	
	اس آیت کی توجیہ کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں	۱۰۳	۸۴۸	مومن اور کافر کی دنیا اور آخرت میں تقابل	۸۴
۸۶۳	میں سے نہ ہوں			قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے بطور	۸۵
۸۶۵	اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے پر دلائل	۱۰۵	۸۴۹	زجر و توبیح کلام فرمانا	
۸۶۵	اختتامی کلمات اور دعا	۱۰۶	۸۴۹	جن چیزوں کو اللہ نے پسند فرمایا	۸۶
۸۶۷	ماخذ و مراجع	۱۰۷	۸۵۰	استخارہ کے متعلق احادیث	۸۷
			۸۵۱	استخارہ کا طریقہ	۸۸
				اولیاء اللہ کو مشکل کشا کہنے کو سید مودودی کا شرک	۸۹
			۸۵۱	قراردینا اور اس کا جواب	
			۸۵۳	اسباب معیشت کی نعمتیں	۹۰
			۸۵۳	ایک آیت کو دو بار ذکر فرمانے کی توجیہ	۹۱
				ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم	۹۲
			۸۵۳	واتینہ من الکنوز (۷۶-۸۲)	
				قارون کا نام و نسب اور اس کے مال دولت کی	۹۳
			۸۵۶	فراوانی	
				قارون کا اپنے مال کو عطیہ الہی قرار دینے کی	۹۴
			۸۵۶	بجائے اپنی قابلیت کا ثمرہ سمجھنا	
			۸۵۷	قارون کا اپنے مال و دولت پر اترانا اور اکڑنا	۹۵
			۸۵۸	قارون کو زمین میں دھنسا دینا	۹۶
				قارون کی حضرت موسیٰ سے دشمنی اور حضرت موسیٰ	۹۷
			۸۵۸	کی اس کے خلاف دعا کرنے کی وجہ	
			۸۵۹	ویکان کا معنی اور اس کی ترکیب	۹۸
				تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین	۹۹
			۸۵۹	لا یریدون علوا فی الارض (۸۴-۸۸)	
			۸۶۰	علو اور فساد کے معنی	۱۰۰
			۸۶۱	معاد کے متعلق مختلف اقوال	۱۰۱
				بعثت سے پہلے آپ کو نبی بنائے جانے کا علم تھا یا	۱۰۲
			۸۶۲	نہیں؟	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین (تبیان القرآن جلد نہم)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۵	طوفان نوح کا تمام روئے زمین کو محیط ہونا	۱۸	۳۳	سورۃ العنکبوت	
۵۷	طوفان نوح کا صرف بعض علاقوں پر آنا	۱۹	۳۵	سورت کا نام	۱
۶۰	اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنے اور اس کو سجدہ کرنے سے اس کا قرب حاصل ہونا	۲۰	۳۵	سورۃ العنکبوت کے متعلق احادیث	۲
۶۱	مشرکین کا رد فرمانا	۲۱	۳۶	سورۃ العنکبوت کا زمانہ نزول	۳
۶۲	حشر کا ثبوت اور عذاب اور ثواب کا بیان	۲۲	۳۶	سورۃ العنکبوت کے مشمولات	۴
۶۳	والذین کفروا بآیت اللہ (۲۳-۳۰)	۲۳	۳۸	الم ○ احسب الناس ان یترکوا (۱-۱۳)	۵
۶۴	توحید رسالت اور آخرت کے عقائد کی تعلیم کے بعد ان کو تائید اور ہرانا	۲۴	۴۰	رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی آزمائشیں	۶
۶۵	جو لوگ دلائل سے لاجواب ہو جائیں وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں	۲۵	۴۱	سابقہ امتوں کی آزمائشیں	۷
۶۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا	۲۶	۴۲	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کے جوابات	۸
۶۷	عقائد میں اندھی تقلید کا مذموم ہونا	۲۷	۴۳	اللہ تعالیٰ کا غنی اور بے نیاز ہونا	۹
۶۷	حضرت لوط اور حضرت سارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا	۲۸	۴۵	شرک اور معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنے کا حکم	۱۰
۶۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا اہم واقعہ	۲۹	۴۵	والدین کی اطاعت کے متعلق احادیث	۱۱
۶۹	حضرت ابراہیم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی توجیہ اور دیگر مسائل	۳۰	۴۸	العنکبوت: ۱۰-۹ کے متعدد اسباب نزول	۱۲
۶۹	حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق احادیث	۳۱	۵۰	دوسرے لوگوں کے حقوق ضائع کرنے یا ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا	۱۳
۶۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی اتباع کی ترغیب	۳۲	۵۱	جو شخص کسی گناہ کا سبب بنے گا اس پر لوگوں کے اس گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا	۱۴
۷۰			۵۳	ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ (۱۳-۲۲)	۱۵
			۵۵	حضرت نوح علیہ السلام کی حیات کا اجمالی خاکہ	۱۶
				اس کی تحقیق کہ طوفان نوح تمام زمین پر آیا تھا یا بعض علاقوں پر؟	۱۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۸	کائنات کی ہر چیز کا برحق ہونا	۵۲	۷۰	قوم لوط کا راستوں کو منقطع کرنا	۳۳
	اتل ما او حی الیک من الکتاب	۵۳	۷۱	قوم لوط کا برسر مجلس بے حیائی کے کام کرنا	۳۴
۸۹	(۴۵-۵۱)			ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری	۳۵
۹۰	انبیاء سابقین کے احوال سے نبی ﷺ کو تسلی دینا	۵۴	۷۲	(۳۱-۳۴)	
	اس اشکال کا جواب کہ نماز مُرے کاموں سے	۵۵	۷۴	قوم لوط پر نزول عذاب کا پس منظر و پیش منظر	۳۶
	روکتی ہے پھر بعض نمازی مُرے کام کیوں کرتے		۷۵	آیا جنت میں عمل قوم لوط ہو گا یا نہیں؟	۳۷
۹۱	ہیں؟			جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پر علامہ آلوسی	۳۸
۹۳	ذکر اللہ کی فضیلت میں احادیث	۵۶	۷۶	کے دلائل	
	اہل کتاب کے ساتھ بحث میں نرمی اور سختی کرنے	۵۷		جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پر مصنف کے	۳۹
۹۴	کے محمل		۷۶	دلائل	
	جب دلائل متعارض ہوں تو توقف کیا جائے یا کسی	۵۸	۷۷	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا	۴۰
۹۵	ایک صورت کو ترجیح دی جائے؟		۷۷	عاد اور ثمود کی ہلاکت	۴۱
	اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے ہی اہل	۵۹	۷۸	قارون کا ذکر کر کے نبی ﷺ کو تسلی دینا	۴۲
۹۶	کتاب کے لقب کے مستحق ہیں			قارون کے ذکر کو فرعون اور ہامان کے ذکر پر مقدم	۴۳
	نبی ﷺ کے لکھنے اور پڑھنے کا ثبوت اور یہ آپ	۶۰	۷۸	کرنے کی وجوہ	
۹۷	کے اُمی ہونے کے منافی نہیں ہے			تمام دنیا کے کافروں کو کس کس نوع کے عذاب	۴۴
	ہمارے نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کی متعدد آیات کے	۶۱	۷۹	دیئے گئے؟	
۹۸	مصدق ہیں		۸۰	مکڑی کے گھر کا سب سے کمزور گھر ہونا	۴۵
	معجزہ کا حصول نبی کے اختیار میں نہیں اور معجزہ کا	۶۲	۸۱	غار ثور کے منہ پر مکڑی کا جالا بنانا	۴۶
۹۹	دکھانا نبی کے اختیار میں ہے			مکڑی کے جالوں کے متعلق احادیث اور ان کے	۴۷
۱۰۰	تورات وغیرہ پڑھنے پر نبی ﷺ کا ناراض ہونا	۶۳	۸۲	شرعی احکام	
	قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا	۶۴		پہلے زمانے کے نیک لوگوں کی عبادت کرنے کا	۴۸
۱۰۱	(۵۲-۶۳)		۸۳	بطلان	
	سیدنا محمد ﷺ کی رسالت کے برحق ہونے پر	۶۵		قرآن مجید میں بیان کردہ مثالوں کی فہم صرف	۴۹
۱۰۳	دلائل		۸۳	علماء کو حاصل ہے	
۱۰۳	کفار مکہ کے عذاب میں تاخیر کی وجہ	۶۶	۸۴	عالم دین کی تعریف اور اس کی شرائط	۵۰
	زمین پر دوزخ کے وجود کے متعلق روایات اور	۶۷		عالم دین کے فرائض اور نیکی کا حکم دینے کی تفصیل	۵۱
۱۰۴	بحث و نظر		۸۶	اور تحقیق	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۲۱	محسنین کا معنی اور مصداق	۸۵		کن صورتوں میں کفار کے ملک سے ہجرت کرنا	۶۸
۱۲۲	سورۃ العنکبوت کا اختتام	۸۶	۱۰۶	فرض ہے اور کن میں نہیں	
۱۲۵	سورۃ الروم		۱۰۷	جنت کے بالا خانوں کا کون مستحق ہوگا؟	۶۹
۱۲۵	سورت کا نام	۱		مستقبل کے تحفظ کے لیے مال جمع کرنے یا نہ	۷۰
۱۲۵	سورۃ الروم کے متعلق احادیث	۲	۱۰۸	کرنے کے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق	
۱۲۶	سورۃ الروم کی سورۃ العنکبوت سے مناسبت	۳		نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کی تنگی اور وسعت	۷۱
۱۲۶	سورۃ الروم کے مشمولات	۴	۱۰۸	کے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق	
۱۲۸	الم ○ غلبت الروم (۱-۱۰)	۵		لوگوں کی ضرورت اور ان کے ضرر کے وقت ذخیرہ	۷۲
	رومیوں کی ایرانیوں پر فتح کی پیش گوئی کی	۶		اندوزی کی ممانعت اور حالت توسع میں اس کا	
۱۲۹	احادیث		۱۰۹	جواز	
	جوئے میں جیتی ہوئی رقم کو صدقہ کرنے کے حکم پر	۷		نبی ﷺ کے اہل کے پاس ایک سال کا طعام	۷۳
۱۳۱	اشکال کے جوابات		۱۱۱	ہونے کے باوجود ان کی تنگی اور عسرت کی توجیہ	
۱۳۲	زیر تفسیر آیات کے مسائل اور فوائد	۸	۱۱۱	توکل کا صحیح معنی اور مفہوم	۷۴
	اللہ کے وعد اور وعید کا معنی اور ان کی خلاف ورزی	۹		اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر روزمرہ کے	۷۵
۱۳۳	کی تحقیق		۱۱۲	مشاہدات سے استدلال	
	دنیا دار لوگوں اور دین دار لوگوں کی سوچ اور فکر کا	۱۰	۱۱۳	وما هذه الحیوة الدنیا (۶۳-۶۹)	۷۶
۱۳۵	فرق			دنیا کا معنی اور دنیا کے خیس اور گھٹیا ہونے کے	۷۷
	انسان کے اپنے نفس اور خارجی کائنات سے اللہ	۱۱	۱۱۳	متعلق احادیث	
۱۳۵	تعالیٰ کی توحید پر دلائل		۱۱۵	دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا فرمانے کی وجہ	۷۸
۱۳۷	قیامت اور حشر و نشر پر دلائل	۱۲	۱۱۵	دار آخرت کا حقیقی زندگی ہونا	۷۹
	انبیاء کا انکار کرنے والے کفر کے مرتکب ہوئے	۱۳		اخلاص کا معنی اور مؤمن اور کافر کے اخلاص کا	۸۰
۱۳۷	اور عذاب دوزخ کے مستحق ہوئے		۱۱۶	فرق	
۱۳۸	اللہ یبدؤ الخلق ثم یعیدہ (۱۱-۱۹)	۱۴	۱۱۷	مشرکین کی ناشکری اور ان کا ظلم	۸۱
	قیامت کے دن مشرکین کے احوال اور ابلیس کے	۱۵	۱۱۸	والذین جاہدوا فینا کے دس محامل	۸۲
۱۳۹	صیغہ کی تحقیق			اس حدیث کی تحقیق کہ جس نے اپنے علم کے	۸۳
۱۴۰	جنت میں سماع کی تحقیق	۱۶		مطابق عمل کیا اللہ اس کو ان چیزوں کا علم عطا فرماتا	
۱۴۲	پانچ نمازوں کے اوقات	۱۷	۱۱۹	ہے جن کا اس کو علم نہیں	
۱۴۳	ومن ایتہ ان خلقکم (۲۷-۲۰)	۱۸	۱۱۹	جہاد بالنفس کے جہاد اکبر ہونے کی تحقیق	۸۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۵۸	محققین کے نزدیک فطرت کا معنی کامل خلقت ہی ہے	۳۵	۱۳۵	انسان اور بشر کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	۱۹
۱۵۹	اپنے جسم کے بعض اعضاء نکلا کر کسی کو دے دینا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے	۳۶	۱۳۶	مردوں اور عورتوں کے مناسب جنسی تقاضوں اور ان کی متوازن شرح پیدائش سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	۲۰
۱۵۹	اپنے جسم کے بعض اعضاء کو نکلوانا یا کٹوانا تغیر خلق اللہ ہے	۳۷	۱۳۸	اس خارجی کائنات اور انسان کی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے توحید پر استدلال	۲۱
۱۶۰	انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق احادیث	۳۸	۱۳۹	انسان کی نیند اور طلب رزق کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال	۲۲
۱۶۰	انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق فقہاء مذاہب کی تصریحات	۳۹	۱۴۰	زمین کی روئیدگی سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	۲۳
۱۶۰	انسان کے بالوں سے پیوند کاری کی ممانعت پر ایک شبہ کا جواب	۴۰	۱۴۱	زمین اور دیگر سیاروں کی حرکت سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	۲۴
۱۶۲	مشلہ کی تحریم سے استدلال پر ایک اعتراض کا جواب	۴۱	۱۵۰	سب اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں	۲۵
۱۶۳	انسان کی اپنے جسم پر عدم ملکیت سے استدلال پر اعتراض کا جواب	۴۲	۱۵۰	زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بلند صفات	۲۶
۱۶۳	ایک صحابی کے ہاتھ کاٹنے پر مواخذہ سے اعضاء کی پیوند کاری کی ممانعت پر استدلال	۴۳	۱۵۰	ضرب لکم مثلا من انفسکم (۲۸-۴۰)	۲۷
۱۶۵	استدلال مذکور پر اعتراض کا جواب	۴۴	۱۵۳	انسان اپنے نوکروں کو اپنا شریک کہلوانا پسند نہیں کرتا تو وہ اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک کیوں کہتا ہے؟	۲۸
۱۶۵	تکریم انسانیت سے اعضاء کی پیوند کاری کی ممانعت پر استدلال	۴۵	۱۵۴	ایک انسان کے اعضاء کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری کی تحقیق	۲۹
۱۶۶	استدلال مذکور پر ایک اعتراض کا جواب	۴۶	۱۵۴	فطرت کا لغوی معنی	۳۰
۱۶۶	احیاء نفس سے اعضاء کی پیوند کاری کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب	۴۷	۱۵۴	فطرت کا شرعی معنی	۳۱
۱۶۸	انسان کے اعضاء کے ساتھ پیوند کاری کے جواز پر ایثار نفس سے استدلال	۴۸	۱۵۶	ہر بچہ کی فطرت پر پیدائش کی حدیث	۳۲
۱۶۹	استدلال مذکور کا ابطال	۴۹	۱۵۶	اگر فطرت سے مراد دین حق یا اسلام ہو تو پھر یہ حدیث عموم پر نہیں رہے گی	۳۳
۱۶۹	مہاجرین پر انصار مدینہ کے ایثار کی تفصیل	۵۰	۱۵۷	الروم: ۱۳۰ اور اس حدیث میں فطرت سے مراد کامل ہیئت اور صحیح و سالم خلقت ہے	۳۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۸۹	فقہاء احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا ضابطہ	۶۵	۱۷۰	صرف اصحاب صبر کے لیے تنگی میں اپنے اوپر ایثار کی اجازت ہے ہر شخص کے لیے نہیں	۵۱
۱۹۰	حرف آخر	۶۶	۱۷۱	تنگی میں دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا ضابطہ	۵۲
۱۹۰	نیب کا معنی	۶۷		اپنے اوپر اپنے عیال پر اور دوسروں پر خرچ کرنے کی ترتیب	۵۳
	نماز کے عمدہ ترک کرنے کو کفر اور شرک قرار دینے کی توجیہ	۶۸	۱۷۲	ترتیب مذکور کے متعلق مزید احادیث	۵۴
۱۹۱	ہر فریق کا اپنے نظریہ سے مطمئن اور خوش ہونا	۶۹	۱۷۳	جنگ یرموک میں حضرت عکرمہ کے جاں بلب اور پیاسے ہونے کے باوجود پانی دوسروں کو دے کر مرجانے کا جواب	۵۵
۱۹۲	نفس اور روح کے تقاضے	۷۰		ایک کتے کو پانی پلانے سے مغفرت کے حصول سے پیوند کاری پر استدلال اور اس کا جواب	۵۶
	راحت اور مصیبت کے ایام میں مومنوں اور کافروں کے احوال	۷۱	۱۷۳	مردہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکالنے اور اضطرار کی بنیاد پر پیوند کاری سے استدلال کا جواب	۵۷
۱۹۲	شکر اور صبر کی تلقین	۷۲	۱۷۵	گردوں کے کام کی توضیح	۵۸
۱۹۳	اپنا مال قرابت داروں کو دینے کی فضیلت	۷۳		خون اور پیشاب سے قرآن مجید کو لکھنے سے	۵۹
۱۹۵	معاوضے کی طلب سے کسی کو ہدیہ دینا	۷۴	۱۷۶	اعضاء کی پیوند کاری پر استدلال اور اس کا جواب	۶۰
	معاوضہ کی طلب سے ہدیہ دینے میں مذاہب فقہاء	۷۵	۱۸۰	سرجری کی تعلیم اور مشق کے لیے غیر مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کے جواز اور مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کے عدم جواز کی تحقیق	۶۱
۱۹۶	ظہر الفساد فی البر والبحر (۵۳-۴۱)	۷۶	۱۸۴	غیر مسلم اموات کے احترام لازم نہ ہونے اور ان کی اہانت کے جواز میں احادیث	۶۲
۱۹۷	بحر و بر کے فساد کا مجمل	۷۷		غیر مسلم اموات کے احترام لازم نہ ہونے اور ان کی اہانت کے جواز میں فقہاء اسلام کی عبارات	۶۳
۲۰۰	اللہ پر بندوں کا حق نہ ہونا	۷۸		مسلم اموات میں سرجری کے عدم جواز اور غیر مسلم اموات میں اس کے جواز کی اصل	۶۴
۲۰۱	بارش کے ذریعہ بندوں پر رحمت نازل فرمانا	۷۹	۱۸۵	مطلقاً مردے کی ہڈی توڑنے کی ممانعت اور مسلمان مردے کی ہڈی توڑنے کی حدیثوں میں	۶۵
۲۰۳	اللہ الذی خلقکم من ضعف (۶۰-۵۳)	۸۰		تعارض کا جواب	
۲۰۴	عذاب قبر کے متعلق احادیث	۸۱	۱۸۶		
۲۰۵	قیامت کے دن کفار کا جھوٹ بولنا	۸۲			
۲۰۵	لاہم يستعینون کا معنی	۸۳	۱۸۷		
۲۰۵	کفار کے مطلوبہ معجزات نہ دینے کی وجہ	۸۴			
۲۰۶	سورۃ الروم کا اختتام	۸۵	۱۸۸		
۲۰۷	سورۃ لقمان				
۲۰۷	سورۃ کا نام	۱			
۲۰۷	سورۃ لقمان کا زمانہ نزول	۲	۱۸۸		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	غناء اور سماع کے متعلق مفسرین احناف کی	۲۴	۲۰۸	سورۃ لقمان کی سورۃ الروم سے مناسبت	۳
۲۲۸	تصریحات		۲۰۹	سورۃ لقمان کے مضمولات	۴
۲۲۹	جائز اور ناجائز سماع	۲۵		الم ○ تلک ایت الکتاب الحکیم	۵
۲۳۰	دکھاوے کے لیے حال کھیلنے کی خرابیاں	۲۶	۲۱۱ (۱-۱۱)		
۲۳۰	سماع کے اسباب	۲۷	۲۱۲	بسم اللہ کے اسرار	۶
۲۳۱	سماع کی حقیقت	۲۸	۲۱۲	الف لام میم کے اسرار	۷
	سماع کی انواع، شرائط، آلات موسیقی کے استعمال	۲۹		قرآن مجید کا ہدایت اور رحمت ہونا اور محسنین کا	۸
۲۳۱	اور تواجد کی تحریم اور ممانعت پر دلائل		۲۱۳	معنی	
	غناء اور سماع کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا	۳۰	۲۱۳	نماز قائم کرنے کے معانی	۹
۲۳۳	فاضل بریلوی کی تحقیق		۲۱۵	زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۰
	کفار کی سزا کے ذکر اور مومنوں کی جزاء کے ذکر کا	۳۱	۲۱۶	انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ کا فرض نہ ہونا	۱۱
۲۳۵	تقابل			زکوٰۃ کی تاکید اور اس کے فضائل کے متعلق	۱۲
	آسمانوں کا مستدیر (گول) اور ایک دوسرے سے	۳۲	۲۱۷	احادیث	
۲۳۶	منفصل ہونا		۲۱۸	آخرت پر یقین اور ہدایت پر قائم رہنے کا معنی	۱۳
	زمین کا متزلزل نہ ہونا اس کی حرکت کے منافی	۳۳	۲۱۹	مفلحین کا معنی	۱۴
۲۳۸	نہیں		۲۱۹	لھو الحدیث کا محمل غناء کو قرار دینا	۱۵
۲۳۸	اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر دلائل	۳۴	۲۲۰	غناء کی تحریم اور ممانعت میں قرآن مجید کی آیات	۱۶
۲۳۸	توحید کی فضیلت اور شرک کی مذمت	۳۵	۲۲۰	غناء کی تحریم اور ممانعت میں احادیث اور آثار	۱۷
۲۳۹	ولقد اتینا لقمن الحکمة (۱۹-۱۲)	۳۶		جس قسم کے اشعار کا دف کے ساتھ یا بغیر دف	۱۸
۲۴۱	حکیم لقمان کا تعارف	۳۷	۲۲۲	کے ساتھ سماع جائز ہے	
	حکمت کے معانی، اس کی تعریفات اور اس کے	۳۸	۲۲۵	آلات موسیقی کے ساتھ سماع کا حرام ہونا	۱۹
۲۴۲	اطلاقات			آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء احناف کا	۲۰
۲۴۳	حکیم لقمان کی حکمت آمیز باتیں	۳۹	۲۲۵	نظریہ	
۲۴۴	ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کی حکمت آمیز احادیث	۴۰		آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء شافعیہ کا	۲۱
۲۵۰	حکیم لقمان کو شکر کرنے کی تلقین	۴۱	۲۲۶	نظریہ	
۲۵۱	حکیم لقمان کے بیٹے کا نام اور اس کا دین	۴۲		آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء مالکیہ کا	۲۲
۲۵۱	شرک کے ظلم عظیم ہونے کی توجیہ	۴۳	۲۲۷	نظریہ	
۲۵۲	لفظ عام سے عموم اور خصوص مراد لینے کا ضابطہ	۴۴	۲۲۷	آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۲۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۷۲	ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل	۶۴	۲۵۲	ماں کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی وجوہات	۴۵
۲۷۳	تقلید اور عقیدہ کا فرق	۶۵	۲۵۳	والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجوہات	۴۶
۲۷۳	عقائد میں تقلید کے جواز یا عدم جواز کی بحث	۶۶		اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۴۷
۲۷۴	اللہ کے پاس حسن انجام کا پانا	۶۷	۲۵۵	حضرت موسیٰ کا حضرت خضر سے حصول تعلیم کے لیے ادب سے درخواست کرنا	۴۸
	کافروں کی تکذیب سے آپ کو غم کرنے کی ممانعت کی توجیہ	۶۸	۲۵۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست میں ادب کی وجوہ	۴۹
۲۷۵	آپ کو الحمد للہ کہنے کے حکم کی توجیہ	۷۰		حضرت خضر کے تعلیم دینے سے احتراز کی توجیہ	۵۰
۲۷۵	اللہ تعالیٰ کے غمی ہونے کی وجوہ	۷۱	۲۵۵	تعلیم اور تعلم کے آداب	۵۱
	بعض واعظین کا اللہ کے ذکر کو فانی اور رسول اللہ ﷺ کے ذکر کو باقی قرار دینا	۷۲	۲۵۷	اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے متعلق احادیث اور آثار	۵۲
۲۷۷	کلمات اللہ کا غیر متناہی ہونا	۷۳	۲۵۸	اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور توقیر کے متعلق فقہاء اور علماء کے اقوال	۵۳
	رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے کے معانی	۷۴		استاذ کی تعظیم و تکریم کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دلائل	۵۴
۲۷۸	الم تر ان الفلک تجری (۳۱-۳۳)	۷۵	۲۵۹	کافر ماں باپ کی خدمت کرنے کا استحسان	۵۵
	صبر اور شکر کی فضیلت میں احادیث اور آثار	۷۶		اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کا مصداق	۵۶
۲۸۰	صوفیاء کے نزدیک صبر کی تعریفات	۷۷	۲۶۲	تلاش رزق میں اعتدال چاہیے	۵۷
۲۸۱	صوفیاء کے نزدیک شکر کی تعریفات	۷۸	۲۶۳	انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے	۵۸
۲۸۲	معتدل لوگوں کا بیان	۷۹	۲۶۳	صبر اور عزیمت کی تفصیل	۵۹
	اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت کی وضاحت	۸۰	۲۶۵	لا تصعر کا معنی	۶۰
۲۸۳	علوم خمسہ کی نفی کی آیت کا شان نزول	۸۱		آہستگی سے چلنے کی فضیلت اور بھاگ کر چلنے کی مذمت	۶۱
۲۸۵	مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی	۸۲	۲۶۵	گدھے کی آواز کی مذمت اور مرغ کی بانگ کی فضیلت	۶۲
۲۸۵	مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی کی احادیث	۸۳	۲۶۶	الم تر و ان اللہ سخیر لکم (۲۰-۳۰)	۶۳
	مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی کا محمل اور مفاعیل الغیب کا معنی	۸۴	۲۶۷		
۲۸۶	بارش کے نزول کا علم	۸۵			
۲۸۶	ماؤں کے رحم کا علم	۸۶			
۲۸۷	کل کا اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم	۸۷			
۲۸۸	مرنے کی جگہ کا علم	۸۸			
۲۸۹					

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	عالم الغیب کا معنی اس کا ربط اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا	۱۵	۲۹۰	قیامت کا علم	۸۹
۳۱۲	ہر چیز اور ہر مخلوق کو حامل حسن بنانا	۱۶	۲۹۱	علوم خمسہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا نبی ﷺ کے علم عطا کرنے کے منافی نہیں ہے	۹۰
۳۱۳	انسان کو مٹی سے بنانا	۱۷		رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ و علم روح وغیرہ دیئے جانے کے متعلق جمہور علماء اسلام کی تصریحات	۹۱
۳۱۴	پانی کی ایک حقیر بوند سے انسان کو بنانا	۱۸	۲۹۲	اللہ تعالیٰ کی ذات میں علوم خمسہ کے انحصار کی خصوصیت کا باعث	۹۲
۳۱۴	روح کی طرف روح کی اضافت کا معنی	۱۹		حرف آخر	۹۳
۳۱۴	روح کی تحقیق	۲۰	۲۹۵		
۳۱۴	روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۱	۲۹۶		
۳۱۵	روح کے مصداق میں مختلف اقوال	۲۲	۳۰۱	سورة السجدة	
۳۱۶	روح کی صحیح تعریف	۲۳	۳۰۱	سورة کا نام	۱
	روح کے جسم لطیف ہونے، بدن میں حلول کرنے، منتقل ہونے اور درد اور لذت کا ادراک کرنے کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات	۲۴	۳۰۱	سورة السجدة کے فضائل میں احادیث	۲
۳۱۶	روح کے جسم لطیف ہونے اور مذکورہ صفات کے حامل ہونے کے ثبوت میں احادیث	۲۵	۳۰۲	سورة السجدة کی سورة لقمان سے مناسبت	۳
۳۱۷	شہداء کی روحوں کو جنت کا رزق ملنا	۲۶	۳۰۳	سورة السجدة کے مشمولات	۴
۳۱۷	مومن اور کافر کی روحوں کو قبر میں ان کے جسموں میں داخل کرنا	۲۷	۳۰۴	الم ○ تنزيل الكتاب لا ريب فيه (۱۱-۱)	۵
۳۱۸	مومن اور کافر کی روحوں کی ان کے جسموں سے نکلنے کی کیفیت اور ان کے برزخی حالات اور ان کا باہمی فرق	۲۸	۳۰۵	الف - لام - میم کے نکات	۶
۳۱۹	ضلال کے معانی	۲۹	۳۰۶	قرآن مجید کی مختلف النوع ہدایات	۷
۳۲۳	اللہ تعالیٰ، ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے موت دینے کے محال	۳۰		اس اشکال کا جواب کہ اہل عرب کے پاس تو پہلے بھی کئی رسول اور عذاب سے ڈرانے والے آئے تھے	۸
۳۲۳	آیا ملک الموت تمام مخلوق پر موت طاری کرتے ہیں یا خاص مخلوق پر	۳۱	۳۰۶	اس اشکال کا جواب کہ اگر آپ صرف قریش مکہ کے رسول ہیں تو پھر اہل کتاب کے لیے رسول نہیں ہیں جن چھ دنوں میں دنیا بنائی گئی ان کی تفصیل	۹
۳۲۵	ملک الموت پر موت کا آنا	۳۲	۳۰۸	منگل کے دن کو منحوس سمجھنے کی تحقیق	۱۰
۳۲۶	ولو تری اذ المجرمون ناكسوا (۱۲-۲۲)	۳۳	۳۰۸	اللہ تعالیٰ کے تدبیر کرنے کا معنی	۱۱
۳۲۶			۳۰۹	ایک ہزار سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف کاموں کے چڑھنے کے محال	۱۲
			۳۱۰	پچاس ہزار سال کے دن اور ایک ہزار سال کے دن کی آیتوں میں تطبیق	۱۳
			۳۱۱		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۳	ولقد اتینا موسیٰ الكتاب (۲۳-۳۰)	۵۲	۳۲۸	قیامت کے دن کفار کے ایمان لانے کا ثمر آور نہ ہونا	۳۴
۳۲۵	سیدنا محمد ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے محامل	۵۳	۳۲۹	تمام جنات اور انسانوں کے ہدایت یافتہ نہ بنانے کی توجیہ	۳۵
۳۲۶	انعام تا کہ تمہیں جسمانی خوراک حاصل ہو	۵۴	۳۳۰	جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھرنے کے متعلق احادیث	۳۶
۳۲۶	ہدایت کے پانی سے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا انعام تا کہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو	۵۵	۳۳۱	دوزخ میں اللہ کے قدم ڈالنے کی توجیہ	۳۷
۳۲۶	انعام تا کہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو	۵۶	۳۳۲	نسیان کے دو معنی	۳۸
۳۲۷	آیا فیصلہ کے دن سے دنیا میں کفار کی ٹھکت کا دن مراد ہے یا روز قیامت؟	۵۷	۳۳۲	سجدہ تلاوت کے آداب	۳۹
۳۲۷	آیا ہر حال اور ہر جگہ میں مشرکین سے جہاد واجب ہے یا نہیں؟	۵۸	۳۳۲	نماز میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ	۴۰
۳۲۸	نبی ﷺ کے انتظار کرنے اور کفار کے انتظار کرنے کا فرق	۵۸	۳۳۳	رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق احادیث	۴۱
۳۲۸	سورۃ السجدہ کا اختتام	۵۹	۳۳۳	رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات	۴۲
۳۲۹	سورۃ الاحزاب		۳۳۴	تجانی اور مضامین کا معنی	۴۳
۳۲۹	سورۃ کا نام	۱	۳۳۵	تہجد اور رات کے دیگر نوافل پڑھنے کی فضیلت اور ان کی رکعات کی تعداد میں احادیث	۴۴
۳۲۹	سورۃ الاحزاب کا زمانہ نزول	۲	۳۳۵	اہل جنت کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا درجہ	۴۵
۳۵۰	سورۃ الاحزاب کے مشمولات	۳	۳۳۷	مومن اور فاسق کا دنیا اور آخرت میں مساوی نہ ہونا	۴۶
۳۵۰	بنو نضیر کو جلا وطن کرنا اور غزوة الاحزاب کا سبب	۴	۳۳۸	ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہ کرنے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کے دلائل	۴۷
۳۵۱	غزوة الاحزاب کا مختصر ذکر	۵	۳۳۸	ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات اور امام ابو حنیفہ کی طرف سے دلائل	۴۸
۳۵۲	غزوة بنو قریظہ کا مختصر ذکر	۶	۳۳۹	عذاب ادنیٰ اور عذاب اکبر کے مصادیق	۴۹
۳۵۲	غزوة الاحزاب میں قضاء ہونے والی نمازیں	۷	۳۴۰	ظلم کے لغوی اور عرفی معنی	۵۰
۳۵۳	غزوة الاحزاب میں وقوع پذیر ہونے والے معجزات	۸	۳۴۱	ظلم کی سزاؤں اور عذاب کے متعلق احادیث اور ان کی ضروری تشریح	۵۱
۳۵۵	یا ایہا النبی اتق اللہ (۱-۸)	۹	۳۴۱		
۳۵۶	نبی ﷺ کو ندا کرنے کی توجیہ	۱۰			
۳۵۷	نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۱			
۳۵۷	علامہ اسماعیل حقی کے نزدیک نبی ﷺ کو نام کے بجائے صفات کے ساتھ ندا کرنے کی توجیہ	۱۲			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۷۵	منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارنے کا حکم	۳۰	۳۵۸	مصنف کے نزدیک آپ کو ذات اور صفات دونوں کے ساتھ ندا کرنے کا جواز	۱۳
۳۷۶	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات	۳۱	۳۶۰	کفار کا آپ کو پیغام توحید سنانے سے روکنے کی ناکام کوشش کرنا	۱۴
۳۷۸	اقسط، خطاً اور مغفرت اور رحمت کے معانی اور ان کی وضاحت	۳۲	۳۶۰	آپ کو ڈرنے کا حکم دینے کی توجیہ	۱۵
۳۷۸	خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنے پر وعید	۳۳	۳۶۱	رسول اللہ ﷺ کا مجوسیوں، مشرکوں اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنے کا حکم دینا	۱۶
۳۷۹	مومنوں کی جانوں اور مالوں پر ان کی بہ نسبت نبی ﷺ کو تصرف کرنے کا زیادہ اختیار ہے	۳۴	۳۶۲	کفار اور فساق کی مشابہت کے حکم کی تحقیق	۱۷
۳۸۰	مومنوں کی جانوں اور مالوں پر ان کی بہ نسبت نبی ﷺ زیادہ شفیق ہیں	۳۵	۳۶۲	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں علامہ مناوی کی تحقیق	۱۸
۳۸۰	عام مسلمانوں کی نسبت نبی ﷺ مسلمانوں کے حقوق کے زیادہ کفیل اور ضامن ہیں	۳۶	۳۶۳	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں شیخ عبد الحق دہلوی کی تحقیق	۱۹
۳۸۱	سربراہ مملکت کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت میں ان کا کفیل اور ضامن ہو	۳۷	۳۶۳	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں فقہاء احناف کی تحقیق	۲۰
۳۸۲	ازواج مطہرات کے مومنوں کی مائیں ہونے کی وضاحت	۳۸	۳۶۵	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تحقیق	۲۱
۳۸۲	مہاجروں اور بنائے ہوئے بھائیوں کی باہمی وراثت کا منسوخ ہونا	۳۹	۳۶۷	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق	۲۲
۳۸۲	مسلمانوں اور کافروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا	۴۰	۳۶۹	لباس میں مشابہت کی وجہ سے صرف ظاہری اور دنیاوی حکم لاگو ہوگا	۲۳
۳۸۳	یوم میثاق میں انبیاء علیہم السلام سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے متعدد محامل	۴۱	۳۶۹	بد عقیدگی، بدعات اور بد اعمالیوں میں مشابہت کی وجہ سے کفر، گمراہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا	۲۴
۳۸۵	انبیاء علیہم السلام سے سوال کے متعدد محامل	۴۲	۳۷۰	اتباع وحی کے محامل اور بدعت سیرہ کی تعریف	۲۵
۳۸۶	یا ایہا الذین امنوا اذکروا نعمۃ اللہ	۴۳	۳۷۱	کسی شخص کے اندر دودل نہ بنانے کے متعدد محامل	۲۶
۳۸۶ (۹-۲۰)	غزوة الاحزاب میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور احسان کا بیان	۴۴	۳۷۲	قلب کے مصداق کے متعلق قدیم اور جدید آراء	۲۷
۳۸۸			۳۷۳	ظہار کی تعریف اس کا حکم اور اس کا کفارہ	۲۸
				بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں، بہن کہنے کا شرعی حکم	۲۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۰۶	مصنف کے نزدیک حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے اس آیت کا قرآن میں مندرج ہونا راجح ہے	۶۱	۳۹۱	احادیث صحیحہ اور فقہاء اسلام کے اقوال سے مدینہ منورہ کو یشرب کہنے کی ممانعت	۳۵
۳۰۷	دو شہادتوں سے کسی آیت کا قرآن مجید میں درج کرنا آیا تو اتر کی شرط کے خلاف ہے یا نہیں؟	۶۲	۳۹۳	منافقوں کے اس قول کے محال اے اہل یشرب واپس جاؤ	۳۶
۳۰۸	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	۶۳	۳۹۳	گھروں کے غیر محفوظ ہونے کے محال	۳۷
۳۰۸	منافقوں کو عذاب نہ دینے پر ایک اشکال کا جواب	۶۴	۳۹۴	جہاد سے بھاگنے والوں کی سرزنش	۳۸
۳۰۹	اللہ تعالیٰ کا کفار کو غزوہ خندق سے بے نیل مرام لوٹانا	۶۵	۳۹۵	مسلمانوں کو جہاد سے باز رکھنے کے لیے منافقوں کی کوششیں اور ان کا خوف اور ان کی چرب زبانی	۳۹
۳۱۰	بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دینا	۶۶	۳۹۶	لقد کان لکم فی رسول اللہ (۲۱-۲۷)	۵۰
۳۱۱	غزوہ بنو قریظہ کے متعلق احادیث	۶۷	۳۹۷	نبی ﷺ کی ذات میں سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کا نمونہ	۵۱
۳۱۲	حضرت سعد نے جو موت کی دعا کی تھی اس پر اعتراضات کے جوابات	۶۸	۳۹۸	نبی ﷺ کی ذات میں عبادات اور معاملات کا نمونہ	۵۲
۳۱۳	ان مفتوحہ علاقوں کے محال جہاں صحابہ نہیں پہنچے تھے	۶۹	۴۰۰	اللہ کے ذکر میں کامل اجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر مکمل جملہ ہو اور ذکر کرنے والے کو اس کا معنی معلوم ہو	۵۳
۳۱۳	یایہا النبی ﷺ قل لازواجکم	۷۰	۴۰۰	غزوہ الاحزاب کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کے محال	۵۴
۳۱۴	نبی ﷺ کا ازواج مطہرات کو طلاق کا اختیار دینا	۷۱	۴۰۱	مجاہدین کو مردوں سے تعبیر کرنے کا سبب	۵۵
۳۱۵	طلاق کا اختیار دینے کا سبب اور اس کی نوعیت	۷۲	۴۰۱	بعض مجاہدین کے نذر ماننے کی تحسین کی توجیہ	۵۶
۳۱۶	بیوی کو طلاق کا اختیار دینے سے وقوع طلاق اور مدت اختیار میں مذاہب فقہاء	۷۳	۴۰۲	جب کہ نذر ماننا مکروہ ہے	۵۷
۳۱۷	نبی ﷺ کی ازواج کی تفصیل	۷۴	۴۰۳	جہاد کی نذر پوری کرنے والے صحابہ کے مصادیق	۵۸
۳۱۹	ازواج مطہرات کا مقام بیان فرمانا	۷۵	۴۰۳	سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے ملنا	۵۹
۳۲۰	ازواج مطہرات پر زیادہ گرفت فرمانے کی توجیہ	۷۶	۴۰۴	حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب	۶۰
۳۲۱	ومن یقنت منکن للہ (۳۱-۳۴)	۷۷	۴۰۵	سورۃ توبہ کی آخری آیت آیا حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے قرآن مجید میں مندرج ہوئی یا حضرت ابو خزیمہ کی شہادت سے؟	۶۰
۳۲۲	ازواج مطہرات کو دگنا اجر عطا فرمانا	۷۸			
۳۲۲	عیش و عشرت اور دنیاوی لذتوں میں غلو نہ کرنے کی تلقین	۷۹			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۳۷	آیت تطہیر کے مصادیق	۹۵	ازواج مطہرات اور سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ	۸۰
۴۳۷	آیت تطہیر سے ازواج مطہرات کا مراد ہونا	۹۶	عنین کی باہمی فضیلت میں محاکمہ	۴۲۳
۴۳۸	آیت تطہیر سے اہل بیت کا مراد ہونا	۹۷	عورت کا مردوں سے اپنی آواز کو مستور رکھنے کا حکم	۸۱
۴۴۰	مصنف کے نزدیک اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا	۹۸	بغیر شرعی ضرورت کے خواتین کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت	۴۲۴
۴۴۰	تصریحات لغت سے اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا	۹۹	تبرج اور جاہلیت اولیٰ کی تفسیر	۴۲۵
۴۴۰	قرآن مجید کی نصوص سے اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کا شامل ہونا	۱۰۰	جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے گھر سے نکلنے پر اعتراض کا جواب	۴۲۶
۴۴۰	احادیث صحیحہ کے اطلاقات میں اہل کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا	۱۰۱	حضرت عائشہ کا اصلاح کے قصد سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وغیرہما کے ساتھ بصرہ روانہ ہونا	۴۲۷
۴۴۱	اہل بیت میں ازواج مطہرات اور آپ کی عترت کے دخول کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات	۱۰۲	قاتلین عثمان کا ان صحابہ کے تعاقب میں حضرت علی کو بصرہ روانہ کرنا اور فریقین میں صلح کے مذاکرات	۴۲۸
۴۴۱	شیعہ علماء کے اس اعتراض کا جواب کہ اہل بیت کے ساتھ مذکر کی ضمائر کیوں لائی گئیں؟	۱۰۳	قاتلین عثمان کا سازش کر کے بصرہ میں مسلمانوں کے دو فریقوں میں جنگ کر دینا	۴۲۹
۴۴۲	شیعہ علماء کا اہل بیت کی عصمت کو ثابت کرنا اور اس کا جواب	۱۰۴	قاتلین عثمان کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر تسلط اور تغلب	۴۳۰
۴۴۳	ازواج مطہرات کا احادیث کو پہنچانا	۱۰۶	قاتلین عثمان سے قصاص نہ لینے پر سید مودودی کا تبصرہ	۴۳۱
۴۴۶	کتب احادیث مقبولہ کا حجت ہونا	۱۰۷	مشاجرات صحابہ میں مصنف کا نظریہ	۴۳۲
۴۴۸	ان المسلمین و المسلمات (۴۰-۳۵)	۱۰۸	حضرت عائشہ اور حضرت علی کا جنگ جمل میں مسلمانوں کے خون بہنے پر غم اور افسوس کرنا	۴۳۳
۴۵۰	قرآن مجید میں خواتین کا ذکر	۱۰۹	حضرت عائشہ کے متعلق شیعہ کی ناگفتنی روایات	۴۳۴
۴۵۰	اسلام ایمان، قنوت اور خشوع وغیرہ کے معانی	۱۱۰	حضرت عائشہ کے گھر سے نکلنے پر حضرت زینب اور حضرت سودہ کے گھر سے نہ نکلنے کے معارضہ کا جواب	۴۳۴
۴۵۱	بہ کثرت اللہ کا ذکر کرنے کے متعلق احادیث	۱۱۱	حضرت عائشہ کے گھر سے نکلنے پر حضرت زینب اور حضرت سودہ کے گھر سے نہ نکلنے کے معارضہ کا جواب	۴۳۵
۴۵۲	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا غیر کفو میں نکاح ہونا	۱۱۲	حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اصلاحی اقدام پر قرآن مجید سے دلائل	۴۳۶
۴۵۲	نکاح غیر کفو میں مذاہب ائمہ	۱۱۳		
۴۵۳	نکاح غیر کفو کے متعلق احادیث	۱۱۴		
۴۵۴	غیر ہاشمی اور غیر سید کا ہاشمیہ یا فاطمی سیدہ سے نکاح	۱۱۵		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۸۲	الاعراف: ۳۵ سے اجراء نبوت کا معارضہ اور اس کا جواب	۱۳۵	۲۵۶	رسول اللہ ﷺ کا انعام دینا، غنی فرمانا اور تقسیم فرمانا	۱۱۶
۲۸۶	اس اعتراض کا جواب کہ ختم نبوت کا معنی مہر نبوت ہے اور آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں	۱۳۶	۲۵۶	رسول اللہ ﷺ سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تفصیلات	۱۱۷
۲۸۸	اس اعتراض کا جواب کہ لائبی بعدی میں لائے کمال کے لیے ہے نہ کہ نفی جنس کے لیے	۱۳۷	۲۵۸	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی مختصر سوانح	۱۱۸
۲۸۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے متعلق احادیث	۱۳۸	۲۵۹	حضرت زینب سے نکاح میں مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آسانی	۱۱۹
۲۹۰	اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام نافذ کرنے کی توجیہ	۱۳۹	۲۵۹	قدراً مقدوراً کا معنی	۱۲۰
۲۹۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شریعت اسلامیہ پر مطلع ہو کر مسلمانوں میں احکام جاری فرمانا	۱۴۰	۲۵۹	انبیاء علیہم السلام کے ڈرنے کی حقیقت	۱۲۱
۲۹۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں اجتہاد کر کے احکام جاری فرمانا	۱۴۱	۲۶۰	اس کی تحقیق کہ رسول اللہ ﷺ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں	۱۲۲
۲۹۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی ﷺ سے بالمشافہ اسلام کے احکام کا علم حاصل کرنا	۱۴۲	۲۶۱	سیدنا محمد ﷺ کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۲۳
۲۹۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی ﷺ کی قبر انور سے اسلام کے احکام کا علم حاصل کرنا	۱۴۳	۲۶۳	سیدنا محمد ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق احادیث صحیحہ مقبولہ	۱۲۴
۲۹۳	زیارت اور آپ کی تعلیم سے مستفید ہونا	۱۴۴	۲۷۰	احادیث ختم نبوت کی صحیح تعداد	۱۲۵
۲۹۳	اولیاء کرام کا نیند اور بیداری میں آپ کی زیارت کرنا اور آپ سے استفادہ کرنا	۱۴۵	۲۷۱	نبی ﷺ کے بعد مدعی نبوت کی تصدیق کرنے والوں کو فقہاء اسلام کا کافر اور مرتد قرار دینا	۱۲۶
۲۹۴	ایک وقت میں متعدد مقامات پر نبی ﷺ کی زیارت کی کیفیت	۱۴۶	۲۷۲	امام غزالی کی الاقتصاد پر فقہاء اسلام کے تبصرے	۱۲۷
۲۹۵	اس اعتراض کا جواب کہ عہد صحابہ میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت اور آپ سے استفادہ کا اس قدر ظہور کیوں نہیں ہوا	۱۴۷	۲۷۳	منکرین ختم نبوت کا اجمالی جائزہ	۱۲۸
۲۹۶	یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ (۵۲-۴۱)	۱۴۸	۲۷۵	مرزا غلام احمد قادیانی کا ختم نبوت پر ایمان و اصرار	۱۲۹
			۲۸۰	مرزا صاحب کا دعویٰ کہ وہ تشریحی نبی ہیں	۱۳۰
			۲۸۰	مرزا صاحب کا جہاد کو منسوخ قرار دینا	۱۳۱
			۲۸۱	۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت	۱۳۲
			۲۸۲	۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت	۱۳۳
				اس اعتراض کا جواب کہ اگر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو نبی بن جاتے	۱۳۴
			۲۸۳		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۱۱	خلوت صحیحہ سے مہر کے وجوب پر امام رازی کے اعتراض کا جواب	۱۶۹	۴۹۸	رسول اللہ ﷺ کو تقویٰ کا حکم دینے اور آپ کی امت کو ذکر کا حکم دینے کی توجیہ	۱۴۹
۵۱۳	مطلقہ کو نصف مہر اور متاع دینے کے وجوب کے محامل	۱۷۰	۴۹۹	بکثرت ذکر کرنے کے متعلق احادیث	۱۵۰
۵۱۳	خلوت صحیحہ کی تعریف	۱۷۱	۵۰۰	ذکر اور تسبیح کرنے والوں کی اقسام اور ان کے مراتب اور درجات	۱۵۱
۵۱۴	مطلقات کی اقسام اور متاع کا بیان	۱۷۲	۵۰۱	بعض اذکار اور اوراد	۱۵۲
۵۱۴	سراج جمیل کا معنی	۱۷۳	۵۰۱	اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کا معنی	۱۵۳
۵۱۴	حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام دینا	۱۷۴	۵۰۲	اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے محامل	۱۵۴
۵۱۵	نبی ﷺ کی ازواج کا مہر	۱۷۵	۵۰۲	تحت کا معنی اور اس کے مواقع	۱۵۵
۵۱۵	نکاح کی اجازت کے رشتوں میں اسلام کا متوسط حکم	۱۷۶	۵۰۳	نبی ﷺ کے اسماء اور آپ کی صفات	۱۵۶
۵۱۵	جن خواتین نے اپنے آپ کو نبی ﷺ سے نکاح کے لیے پیش کیا	۱۷۷	۵۰۴	رسول اللہ ﷺ کا امت کے حق میں شاہد ہونا	۱۵۷
۵۱۶	بغیر مہر کے محض بہہ سے کوئی خاتون عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے	۱۷۸	۵۰۵	رسول اللہ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کی توحید اور ذات و صفات پر شاہد ہونا	۱۵۸
۵۱۶	آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف آپ پر فرض ہیں امت پر فرض نہیں ہیں	۱۷۹	۵۰۶	رسول اللہ ﷺ کا دنیا میں امور آخرت پر شاہد ہونا	۱۵۹
۵۱۷	آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف آپ پر حرام یا ممنوع ہیں امت پر حرام یا ممنوع نہیں ہیں	۱۸۰	۵۰۷	رسول اللہ ﷺ کا اعمال امت پر شاہد ہونا	۱۶۰
۵۱۸	آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف آپ پر حلال ہیں امت پر حلال نہیں ہیں	۱۸۱	۵۰۸	رسول اللہ ﷺ کو سراج کہنے کی توجیہ	۱۶۱
۵۱۹	انبیاء سابقین علیہم السلام کے اعتبار سے آپ کے خصائص	۱۸۲	۵۰۹	جنت کا حصول اللہ کا بہت بڑا فضل ہے	۱۶۲
۵۱۹	آیا نبی ﷺ پر ازواج میں باریوں کی تقسیم واجب تھی یا نہیں؟	۱۸۳	۵۰۹	کافروں اور منافقوں سے درگزر کرنے کے حکم کا منسوخ ہونا	۱۶۳
۵۲۰	عام مسلمانوں پر ازواج میں باریوں کی تقسیم کا وجوب	۱۸۴	۵۱۰	اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی تفصیل	۱۶۴
۵۲۱			۵۱۰	تہذیب اور شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ جماع اور مباشرت کو کنایہ سے تعبیر کیا جائے	۱۶۵
			۵۱۰	جنسی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے میں مذاہب ائمہ	۱۶۶
			۵۱۰	جنسی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے کے متعلق فقہاء احناف کے موقف پر قرآن اور سنت سے دلائل	۱۶۷
			۵۱۱	جنسی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے میں فقہاء احناف کے موقف پر آثار صحابہ اور فتاویٰ تابعین سے دلائل	۱۶۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۳۹	احادیث اور آثار			ازواج مطہرات کے علاوہ دیگر خواتین سے نکاح	۱۸۵
	بعض دیگر مواقع اور مقامات پر درود پڑھنے کی	۲۰۱	۵۲۲	کرنے کی ممانعت کی توجیہ	
۵۴۰	فضیلت میں احادیث اور آثار		۵۲۲	نکاح سے پہلے عورت کے چہرے کو دیکھنے کا جواز	۱۸۶
۵۴۲	درود ابراہیمی میں تشبیہ اور دوسرے اعتراض کا جواب	۲۰۲	۵۲۳	یا ایہا الذین امنوا لا تدخلوا (۵۳-۵۸)	۱۸۷
۵۴۳	نبی ﷺ پر درود پڑھنے کے حکم میں مذاہب ائمہ	۲۰۳		حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہ اور آیت حجاب	۱۸۸
	ہر بار نبی ﷺ کے ذکر پر درود پڑھنے کے دلائل	۲۰۴	۵۲۵	نازل ہونے کے متعلق احادیث	
۵۴۴	اور ان کے جوابات			حضرت زینب کے ولیمہ کی بعض تفصیلات ولیمہ کا	۱۸۹
۵۴۴	اذان سے پہلے اور بعد درود پڑھنے کا حکم	۲۰۵	۵۲۷	شرعی حکم اور نزول حجاب کی تاریخ	
	جن مواقع اور مواضع پر فقہاء اسلام نے صلوٰۃ و	۲۰۶		دینی اور دنیاوی ضرورت کی بنا پر ازواج مطہرات	۱۹۰
۵۴۵	سلام پڑھنے کو مستحب کہا ہے		۵۲۷	کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت	
	اذان اور اقامت کے وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی	۲۰۷		باہر نکلنے پر حضرت سودہ کو حضرت عمر کے دو بار	۱۹۱
۵۴۵	تحقیق		۵۲۸	ٹوکنے کی وضاحت	
	جن مواقع اور مواضع پر فقہاء اسلام نے صلوٰۃ و	۲۰۸		ازواج مطہرات سے پردہ کی اوٹ سے سوال	۱۹۲
۵۴۷	سلام پڑھنے کو مکروہ کہا ہے		۵۲۸	کرنے کا حکم دیگر مسلم خواتین کو بھی متضمن ہے	
۵۴۷	غیر انبیاء پر استقلالاً صلوٰۃ پڑھنے میں مذاہب ائمہ	۲۰۹	۵۲۹	نبی ﷺ کو کس بات سے ایذا پہنچی تھی؟	۱۹۳
۵۴۸	غیر انبیاء پر استقلالاً سلام پڑھنے کا بھی ممنوع ہونا	۲۱۰		نبی ﷺ کی ازواج دنیا اور آخرت میں آپ کی	۱۹۴
	غیر انبیاء کے لیے استقلالاً لفظ صلوٰۃ استعمال نہ	۲۱۱	۵۲۹	ازواج ہیں	
۵۴۸	کرنے کے دلائل			رسول اللہ ﷺ اور آپ کی ازواج کے متعلق دل	۱۹۵
	نبی ﷺ پر سلام کے بغیر صرف صلوٰۃ پڑھنے کا بلا	۲۱۲	۵۳۰	میں برا خیال لانا بھی مستحق مواخذہ ہے	
۵۸۹	کراہت جواز			خواتین پر ان کے محارم اور ان کی باندیوں سے	۱۹۶
۵۵۱	اللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبا اور گستاخانہ کلمات	۲۱۳	۵۳۱	پردہ نہیں ہے	
	رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخانہ اور نازیبا	۲۱۴		اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ایک صیغہ یا ایک ضمیر	۱۹۷
۵۵۲	کلمات		۵۳۲	میں ذکر کرنے کی تحقیق	
	علامہ قرطبی کا حضرت اسامہ کو امیر بنانے پر	۲۱۵		فقہاء اسلام کے نزدیک نبی ﷺ پر اللہ تعالیٰ اور	۱۹۸
	حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کی شکایت کو اس آیت		۵۳۳	فرشتوں کی صلوٰۃ کا معنی ہے آپ کی حمد و ثنا کرنا	
۵۵۳	کی تفسیر میں ذکر کرنا			رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی فضیلت	۱۹۹
	حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور دیگر صحابہ کی	۲۱۶	۵۳۶	میں احادیث اور آثار	
۵۵۴	شکایات کی توجیہات			دعا کے اول و آخر میں درود پڑھنے کی فضیلت میں	۲۰۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۷۸	امانت کے متعلق احادیث	۲۳۸	۵۵۶	اللہ اور رسول اور مومنوں کو ایذا پہنچانے کا فرق	۲۱۷
	آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر جس امانت کو	۲۳۹	۵۵۶	یا یہا النبی قل لا زواجک (۵۹-۶۸)	۲۱۸
	پیش کیا گیا تھا اس کے مصداق میں آثار اور		۵۵۸	جلباب کی تحقیق	۲۱۹
۵۷۹	اقوال		۵۵۸	چہرہ ڈھانپنے کی تحقیق	۲۲۰
	جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر قرآن	۲۴۰	۵۵۹	عورت کے حجاب کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۲۲۱
۵۷۹	مجید سے استدلال			ذالک ادنیٰ ان یعرفن سے چہرہ ڈھانپنے پر	۲۲۲
	جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر	۲۴۱	۵۶۰	استدلال	
۵۸۰	احادیث سے استدلال			بوڑھی عورتوں کے حجاب میں تخفیف سے عمومی	۲۲۳
۵۸۱	جمادات سے کلام کرنے کی دوسری توجیہ	۲۴۲	۵۶۳	حجاب پر استدلال	
	حمل کا معنی خیانت کرنے پر کتب لغت کی	۲۴۳	۵۶۴	عہد رسالت میں حجاب اور نقاب کے معمولات	۲۲۴
۵۸۲	تصریحات		۵۶۵	عہد توریت میں نقاب اور حجاب کا معمول	۲۲۵
۵۸۲	جن مفسرین نے یحملنہا کا معنی کیا امانت کو اٹھانا	۲۴۴	۵۶۵	چہرے کے حجاب پر شبہات اور ان کے جوابات	۲۲۶
	یحملنہا کی تفسیر بار امانت اٹھانے سے کرنے پر	۲۴۵	۵۶۷	المرجفون اور دیگر اصطلاحی الفاظ کے معانی	۲۲۷
	علامہ قرطبی کی توجیہات اور ان پر مصنف کی بحث	۲۴۶		منافقین کو قتل کرنے اور اور مدینہ بدر کرنے کی سزا	۲۲۸
۵۸۲	ونظر		۵۶۸	کیوں نہیں دی گئی	
	جن مفسرین نے یحملنہا اور حملہا	۲۴۷	۵۶۹	رسول اللہ ﷺ کو قیامت کا علم تھا یا نہیں	۲۲۹
۵۸۳	الانسان میں حمل کا معنی امانت میں خیانت کرنا کیا		۵۶۹	قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے متعلق احادیث	۲۳۰
۵۸۵	انسان کے ظالم اور جاہل ہونے کی توجیہ	۲۴۸	۵۷۱	علم قیامت کی نفی کے متعلق مفسرین کی توجیہات	۲۳۱
	جنس انسان پر امانت پیش کرنے کی حکمت	۲۴۹	۵۷۱	دوزخ میں کفار کے عذاب کی کیفیت	۲۳۲
	کفار کو عذاب دینا، توبہ کرنے والے مومنوں کو		۵۷۲	یا یہا الذین امنوا لا تکونوا (۶۹-۷۳)	۲۳۳
۵۸۶	بخشنا اور انبیاء اور صالحین کو نوازنا ہے۔			منافقوں کا رسول اللہ ﷺ سے اذیت ناک کلام	۲۳۴
۵۸۷	اختتام سورت	۲۵۰	۵۷۳	کرنا اور آپ کا ان کو سزا نہ دینا	
۵۹۱	سورۃ سبا			انبیاء علیہم السلام کا جسمانی عیوب سے بری ہونا	۲۳۵
۵۹۱	سورۃ کا نام اور اس کا زمانہ نزول	۱	۵۷۴	اور دیگر مسائل	
۵۹۱	سورۃ سبا اور سورۃ الاحزاب میں مناسبت	۲	۵۷۶	وجیہ کا معنی	۲۳۶
۵۹۲	سورۃ سبا کے مشمولات	۳		اس کی تحقیق کہ اس آیت میں ان یحملنہا کا	۲۳۷
	الحمد لله الذی له ما فی السموت وما	۴		ترجمہ امانت کو اٹھانا ہے یا امانت میں خیانت کرنا	
۵۹۳	فی الارض (۱-۹)		۵۷۷	ہے	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۱۲	جنان، الجواب، قدور اور راسیات کے معانی	۲۶	۵۹۵	آخرت میں اللہ کی حمد کرنے کے چھ مقامات	۵
۶۱۳	آل داؤد کو شکر کرنے کا حکم	۲۷		حمد کی تعریف، اللہ کی حمد کی اقسام اور حمد اور شکر کی	۶
۶۱۳	حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا طاری ہونا	۲۸	۵۹۶	ادائیگی کا طریقہ	
	حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات و وفات کے	۲۹		زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے خارج	۷
۶۱۳	بعد ان کا قبروں سے نکلنا			ہونے والی اور آسمان سے اترنے اور اس کی	
۶۱۵	قوم سبا کی خوشحالی اور بدحالی	۳۰	۵۹۷	طرف چڑھنے والی چیزیں	
۶۱۶	اہل سبا کی ناشکری اور اس کا انجام	۳۱	۵۹۷	وقوع قیامت پر دلائل	۸
	شیطان کے پیروکاروں کا اس کی پیش گوئی کو سچ کر	۳۲	۵۹۸	رزق کریم کا معنی	۹
۶۱۷	دکھانا		۵۹۹	اہل علم کا مصداق	۱۰
	سبا: ۲۱ میں مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کے ربط اور اللہ تعالیٰ	۳۳	۵۹۹	جز لا یتجزی کے ثبوت پر دلیل	۱۱
۶۱۸	کے علم پر اشکال کا جواب			صدق اور کذب کی صحیح تعریفات اور نظام اور	۱۲
	قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ	۳۴	۵۹۹	جاہظ کی تعریفات پر تبصرہ	
۶۲۰	(۲۲-۳۰)			اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر	۱۳
۶۲۱	اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا	۳۵	۶۰۱	دلائل	
	سبا: ۲۳ میں فرشتوں کے دلوں پر جو ہیبت طاری	۳۶		اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر	۱۴
	ہونے کا ذکر ہے اس کا تعلق آیا دنیا سے ہے یا		۶۰۱	اعتراضات کے جوابات	
۶۲۲	آخرت سے؟		۶۰۲	جنون کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۵
۶۲۳	کفار کے لیے شفاعت نہ ہونے کی دلیل	۳۷	۶۰۳	ولقد اتینا داود منا فضلا (۱۰-۲۱)	۱۶
۶۲۳	موحد اور مشرک میں کون بہتر ہے؟	۳۸	۶۰۵	حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصی فضائل	۱۷
۶۲۴	سبا: ۲۳ کے حکم کا منسوخ ہونا	۳۹	۶۰۶	اویسی کا معنی	۱۸
۶۲۴	فتاح اور علیم کا معنی	۴۰	۶۰۷	حضرت داؤد علیہ السلام کا آہن گر ہونا	۱۹
۶۲۵	کافہ کا معنی	۴۱		جائز پیشوں کی فضیلت اور بعض پیشوں کو برا	۲۰
۶۲۶	تمام مخلوق کے لیے آپ کی رسالت پر دلائل	۴۲	۶۰۸	جاننے کی مذمت	
	پتھروں، پہاڑوں، درختوں اور جانوروں کا آپ کی	۴۳	۶۰۹	زرہ بنانے میں مناسب مقدار کے محال	۲۱
	رسالت کی تصدیق کرنا اور ہر چیز کا آپ کی		۶۰۹	حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی فضائل	۲۲
۶۲۷	رسالت کو پہچاننا		۶۱۰	محراب کے داخل مسجد ہونے کی تحقیق	۲۳
	کفار سے کیے ہوئے معین وقت کے وعدہ کے	۴۴	۶۱۲	محراب کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	۲۴
۶۲۸	متعلق اقوال		۶۱۲	تصویروں کا شرعی حکم	۲۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۴۲	نبی ﷺ کی طرف گمراہی کی نسبت کی تحقیق	۶۳		وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن	۴۵
	کفار کے گھبرانے اور ان کی جائے فرار نہ ہونے	۶۴	۶۲۸	(۳۱-۳۶)	
۶۴۳	کی متعدد تفاسیر		۶۲۹	قیامت کے دن متکبر اور پس ماندہ کافروں کا مناظرہ	۴۶
۶۴۳	تناوش کا معنی	۶۵	۶۳۰	اسروا کا معنی	۴۷
۶۴۳	روزِ حشر کفار کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	۶۶	۶۳۱	مترفین کا معنی	۴۸
۶۴۳	روزِ حشر کفار کی خواہشیں اور ان کا قبول نہ ہونا	۶۷		وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقر بکم	۴۹
۶۴۳	اختتام سورت	۶۸	۶۳۱	(۳۶-۴۵)	
۶۴۶	سورۃ فاطر			مال اور اولاد کی محض کثرت باعث فخر اور پسندیدہ	۵۰
۶۴۶	سورت کا نام	۱	۶۳۳	نہیں	
۶۴۶	سورۃ فاطر کے مشمولات	۲		خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے کے مواضع اور	۵۱
	الحمد لله فاطر السموات والارض	۳	۶۳۴	مقامات اور خرچ کرنے کی فضیلت	
۶۴۸	(۱-۷)		۶۳۵	فرشتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین کا رد	۵۲
۶۴۹	حمد اور فاطر کا معنی	۴	۶۳۶	انکار وحی کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب آنا	۵۳
۶۴۹	ملائکہ کی تعریف	۵		قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله	۵۴
	خوب صورت چہرے، خوب صورت آواز اور	۶	۶۳۷	(۴۶-۵۴)	
۶۵۰	خوب صورت لکھائی		۶۳۸	جماعت کو غور و فکر کی دعوت کیوں نہیں دی؟	۵۵
۶۵۱	چھینک اور ڈکار کا نعمت اور بیماری ہونا	۷		نبی ﷺ کا ہر خاص و عام کو اللہ کے عذاب سے	۵۶
۶۵۲	رحمت اور فتح کی متعدد تفاسیر	۸	۶۳۹	ڈرانا	
۶۵۳	اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا	۹	۶۳۹	توحید رسالت اور آخرت کی نصیحت کا باہمی ربط	۵۷
۶۵۳	نبی ﷺ کو تسلی دینا	۱۰		تبلیغ رسالت کا اجر نہ طلب کرنے سے آپ کے	۵۸
۶۵۴	شیطان کے دھوکے کا بیان	۱۱	۶۴۰	رسول ہونے پر استدلال	
۶۵۵	افمن زین له سوء عمله (۸-۱۳)	۱۲		نبوت عطا کرنے میں سیدنا محمد ﷺ کی تخصیص	۵۹
۶۵۷	برائی کو اچھائی سمجھنے والے اور ان کا شرعی حکم	۱۳	۶۴۰	کی توجیہ	
۶۵۹	بجز زمین کی زرخیزی سے حشر و نشر پر استدلال	۱۴	۶۴۱	حق اور باطل کا فرق	۶۰
۶۵۹	عجب الذنب کی تحقیق	۱۵		سبا: ۵۰ میں نبی ﷺ کی طرف گمراہی کی نسبت کا	۶۱
۶۶۰	تمام عزتیں اللہ کے لیے ہونے کے متعدد محامل	۱۶	۶۴۱	ذکر	
۶۶۱	الکلم الطیب کی تفسیر میں متعدد اقوال	۱۷		سبا: ۵۰ میں نبی ﷺ کی طرف گمراہی کی نسبت	۶۲
۶۶۲	کلمات طیبہ کے چڑھنے کی توجیہات	۱۸	۶۴۲	کے بعض دیگر تراجم اور مصنف کا ترجمہ	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۷۸	اللہ تعالیٰ کے زیادہ اجر عطا فرمانے کی تحقیق	۳۸	۶۶۲	نیک عمل کے محامل	۱۹
۶۷۹	نبیوں کی ایک دوسرے پر فضیلت	۳۹		کلام طیب کی وجہ سے نیک عمل کے اوپر چڑھنے کی تحقیق	۲۰
۶۷۹	امت مسلمہ کا قرآن مجید کا وارث ہونا	۴۰	۶۶۳		
	اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے متعلق شیخ طبری اور علامہ آلوسی کا نظریہ	۴۱	۶۶۴	کفار کے نکر کا بیان	۲۱
۶۸۰			۶۶۵	مٹی اور نطفہ سے انسان کی پیدائش	۲۲
	شیخ طبری اور علامہ آلوسی کے نظریہ پر مصنف کا تبصرہ	۴۲		عمر میں اضافہ کر کے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کو مٹانا	۲۳
۶۸۰			۶۶۵		
۶۸۱	اہل بیت کرام کے فضائل	۴۳		مشرکین کے معبودوں کی حاجت روائی نہ کرنے کے محامل	۲۴
	ظالم مقتصد (متوسط) اور سابق کے مصداق کے متعلق احادیث اور آثار	۴۴	۶۶۶		
۶۸۲				یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ	۲۵
	ظالم مقتصد (متوسط) اور سابق کے مصداق کے متعلق مفسرین کے اقوال	۴۵	۶۶۷	(۱۵-۲۶)	
۶۸۳			۶۶۹	قبر والوں کے سننے کا مسئلہ	۲۶
۶۸۶	مفسرین کے ذکر کردہ مردود اقوال	۴۶	۶۷۰	قبر والوں کے غور و فکر نہ کرنے پر ایک اعتراض کا جواب	۲۷
۶۸۸	ظالم کو مقتصد اور سابق پر مقدم کرنے کی توجیہات	۴۷	۶۷۱	الم تر ان اللہ انزل من السماء (۳۷-۴۷)	۲۸
۶۸۹	تینوں قسم کے مومنوں کا جنت میں داخل ہونا	۴۸	۶۷۳	مشکل الفاظ کے معانی	۲۹
	آخرت میں مومنوں سے غم دور کرنا ان کی مغفرت کرنا اور ان کو ریشم اور زیورات سے مزین کرنا	۴۹	۶۷۴	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	۳۰
۶۹۰				عالم کی تعریف اس کا اللہ سے ڈرنا اور دائمی عبادت کرنا	۳۱
۶۹۰	اللہ کے فضل سے مغفرت اور جنت کا حاصل ہونا	۵۰	۶۷۴		
۶۹۱	آخرت میں کفار کے عذاب کی کیفیت	۵۱	۶۷۵	خوف خدا کی دو قسمیں	۳۲
	انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کتنی عمر کی ضرورت ہے؟	۵۲	۶۷۵	اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن مجید کی بشارتیں	۳۳
۶۹۲					
۶۹۳	نذیر کے محامل	۵۳		اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے احادیث میں بشارتیں	۳۴
۶۹۳	ان اللہ علم غیب السموات (۳۵-۳۸)	۵۴	۶۷۶		
	اس اشکال کا جواب کہ کافروں نے متناہی زمانہ میں کفر کیا تھا اس کی دائمی سزا کیوں دی جائے گی	۵۵	۶۷۶	علماء دین کی فضیلت میں احادیث	۳۵
۶۹۵				انما ینحسی اللہ من عبادہ العلماء میں امام ابوحنیفہ کی قرأت	۳۶
۶۹۶	کفار کے نقصان اٹھانے کا محمل	۵۶	۶۷۷		
۶۹۷	بتوں کی عبادت پر عقلی اور نقلی دلائل کا نہ ہونا	۵۷		تلاوت قرآن اقامت صلوٰۃ اور اداء صدقات کے آداب	۳۷
۶۹۷	آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت فرمانا	۵۸	۶۷۷		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۱۹	لانے کو کس طرح مستلزم ہے؟	۱۷	۶۹۸	زمین کی حرکت پر دلائل	۵۹
۷۲۰	نبی ﷺ کا سورۃ یس پڑھتے ہوئے کفار کے نرغے سے نکل جانا	۱۷	۶۹۹	بُری سازش، فریب اور خیانت کی ممانعت	۶۰
۷۲۳	سامنے اور پیچھے دیوار کھڑی کرنے کے محامل	۱۸	۷۰۱	دوران سفر آثار عذاب دیکھ کر عبرت حاصل کرنا	۶۱
۷۲۴	کفار کو ڈرانا یا نہ ڈرانا صرف ان کے حق میں برابر ہے	۱۹	۷۰۱	اللہ تعالیٰ کا بہترین رج گرفت فرمانا	۶۲
۷۲۵	ان کا بیان جن کو عذاب سے ڈرانا مفید ہے	۲۰	۷۰۱	بنو آدم کے گناہوں سے جانوروں کو ہلاک کرنا	۶۳
۷۲۵	اللہ تعالیٰ کے بے نیاز اور نکتہ نواز ہونا	۲۱	۷۰۲	اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دینے کی حکمتیں	۶۴
۷۲۶	اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرنے کا معنی	۲۲	۷۰۲	اختتام سورت	۶۵
۷۲۷	انسان کے اچھے یا برے اعمال کا لکھا ہوا محفوظ ہونا	۲۳	سورۃ یس		
۷۲۸	نیکی اور برائی کے عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہنے کے متعلق احادیث اور آثار	۲۴	۷۰۷	سورت کا نام	۱
۷۲۸	زیادہ دور سے آ کر مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں احادیث	۲۵	۷۰۷	یس کے فضائل میں احادیث و آثار	۲
۷۲۹	امام حسین کے متعدد معانی اور محامل	۲۶	۷۰۸	یس کے بعض اسماء کی توضیح اور تشریح	۳
۷۳۰	ما کان وما یکون غیر متناہی ہیں لوح محفوظ ان کا محل کس طرح بن سکتی ہے؟	۲۷	۷۰۹	سورۃ یس کے مشمولات	۴
۷۳۱	واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون (۲۱-۱۳)	۲۸	۷۱۱	یس O والقران الحکیم (۱-۱۲)	۵
۷۳۲	انطاکیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھیجنے کے ثبوت میں نقول	۲۹	۷۱۲	بعض سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات ذکر کرنے کی حکمت	۶
۷۳۵	انطاکیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو نہ بھیجنے کے دلائل	۳۰	۷۱۳	حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کے نامعلوم ہونے کی توجیہ	۷
۷۳۶	بشریت کا رسالت کے منافی نہ ہونا	۳۱	۷۱۳	یس کے اسرار و رموز	۸
۷۳۷	کفار کا انبیاء علیہم السلام کو بدشگون اور منحوس کہنا	۳۲	۷۱۵	سیدنا محمد ﷺ کی رسالت کی قسم کھانا	۹
۷۳۸	صاحب یس (حبیب النجار) کا تذکرہ	۳۳	۷۱۶	العزیز اور الرحیم کے ذکر کی حکمت	۱۰
۷۴۰	اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے لیے دور دور سے آنا قدیم زمانہ کا دستور ہے	۳۴	۷۱۶	اس کی توجیہ کہ اہل مکہ کے پاس آپ کے سوا کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا	۱۱
			۷۱۷	سیدنا محمد ﷺ کا تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہونا	۱۲
			۷۱۸	غفلت کا معنی	۱۳
			۷۱۸	کفار کی گردنوں میں طوق ڈالنے کا محمل	۱۴
			۷۱۹	مقمحون کا معنی	۱۵
			۷۲۰	کفار کی گردنوں میں طوق ڈالنا ان کے ایمان نہ	۱۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۵۸	گندم کی روٹی کا عظیم نعمت ہونا	۵۲	۷۴۱	ومالی لا اعبد الذی (۲۲-۳۲)	۳۵
۷۵۹	لفظ سبحان اور تسبیح کا معنی	۵۳		اپنے لیے فطر نسی اور قوم کے لیے والیہ	۳۶
	زمین کی روئیدگی سے وجود باری تعالیٰ اور اس کی	۵۴	۷۴۲	ترجعون فرمانے کی پہلی وجہ	
۷۶۰	توحید پر استدلال			اپنے لیے فطر نسی اور قوم کے لیے والیہ	۳۷
۷۶۱	سلخ کا معنی	۵۵	۷۴۳	ترجعون فرمانے کی دوسری وجہ	
۷۶۱	ظلمت کا اصل اور نور کا عارض ہونا	۵۶		قوم کا حبیب نجار کو قتل کر دینا اور اس کا اپنی قوم کی	۳۸
۷۶۲	زمان اور مکان کے دلائل کی باہمی مناسبت	۵۷	۷۴۴	بہتری چاہنا	
	دن اور رات کے توارد میں وجود باری اس کی توحید	۵۸		دشمنوں اور مخالفوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان	۳۹
۷۶۲	اور حشر اجساد پر دلائل			کو معاف کر دینے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا	
۷۶۳	سورج کے مستقر (منازل) کے متعدد محامل	۵۹	۷۴۴	افضل ہونا	
	غروب کے وقت سورج کا عرش کے نیچے سجدہ کرنا	۶۰		سابقہ امتوں کے کافروں کے خلاف فرشتوں کو	۴۰
۷۶۴	پھر اللہ سے اجازت لے کر طلوع ہونا			نازل نہ کرنے اور ہماری امت کے کافروں کے	
۷۶۴	حدیث مذکور کی تشریح شارحین حدیث سے	۶۱	۷۴۶	خلاف فرشتوں کو نازل کرنے کی توجیہ	
	حدیث مذکور پر یہ اشکال کہ یہ ہمارے مشاہدے	۶۲		حبیب نجار کی طرف قوم کی نسبت کرنے اور بعد کی	۴۱
۷۶۵	اور قرآن وحدیث کی دیگر نصوص کے خلاف ہے		۷۴۸	تخصیص کی توجیہ	
	عرش کے نیچے سورج کے سجدہ کرنے اور وہیں	۶۳	۷۴۸	بستی والوں کو ایک زبردست چیخ سے ہلاک کر دینا	۴۲
	پڑے رہنے پر اشکال کا جواب علامہ آلوسی کی			حدیث من عادلی ولیا کی سند پر حافظ ذہبی	۴۳
۷۶۶	طرف سے		۷۴۹	اور حافظ عسقلانی کے اعتراضات کے جوابات	
۷۶۷	علامہ آلوسی کے جواب پر مصنف کا تبصرہ	۶۴	۷۵۰	حدیث مذکور کا معجزات اور کرامات کی اصل ہونا	۴۴
	سورج کے سجدہ کرنے اور سجدہ میں پڑے رہنے کی	۶۵		نبی ﷺ کے لیے غیب اور قدرت کے ثبوت کے	۴۵
۷۶۸	مصنف کی طرف سے توجیہ		۷۵۰	سلسلہ میں شیخ ابن تیمیہ کی تصریح	
۷۶۸	اشکال مذکور کا مصنف کی طرف سے دوسرا جواب	۶۶		حسرت کا معنی اور اس بستی کے کافروں کی حسرت	۴۶
۷۷۰	چاند کی منازل	۶۷	۷۵۲	کے اسباب	
	سورج اور چاند میں سے کسی کا دوسرے پر سبقت	۶۸	۷۵۳	مکہ کے کافروں کے لیے مقام عبرت	۴۷
۷۷۱	نہ کرنا		۷۵۳	واية لهم الارض الميته (۳۳-۵۰)	۴۸
	قدیم فلاسفہ کے مطابق ہر سیارہ کا اپنے مدار میں	۶۹	۷۵۶	آیات سابقہ سے ارتباط	۴۹
۷۷۱	گردش کرنا		۷۵۶	روٹی کی تعظیم اور تکریم کے متعلق احادیث	۵۰
۷۷۲	ہر سیارہ کی اپنی گردش کے متعلق سائنس کی تحقیق	۷۰	۷۵۸	احادیث مذکورہ کی تشریح	۵۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۹۱	دوسرے صورتوں کی تفصیل	۹۰	۷۷۴	بنیادی ضروریات اور سہولت اور تعیش کی نعمتیں	۷۱
۷۹۲	ماء کی آٹھ قسمیں	۹۱		انسانوں کو کشتی کے ذریعے سفر کی سہولت عطا کرنے کی خصوصی نعمت	۷۲
۷۹۲	مسلمان کسی مرض کی وجہ سے مقررہ نقلی عبادت نہ کر سکیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو اجر عطا فرماتا رہتا ہے	۹۲	۷۷۷	عیش و آرام کے حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا چاہیے	۷۳
۷۹۲	شغل اور فاکھون کے معنی اور ان کی تفسیریں	۹۳	۷۷۹	سامنے اور بعد کے عذاب کے متعدد محامل	۷۴
۷۹۲	جنت کی نعمتوں سے اہل جنت کے محفوظ ہونے کے متعلق احادیث	۹۴	۷۷۹	اللہ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت کی تفصیل	۷۵
۷۹۶	جنت میں حوروں اور نیک خواتین کی صفات کے متعلق احادیث	۹۵	۷۸۰	خرچ کرنے کی ترغیب میں عقلی وجوہات	۷۶
۷۹۷	جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی رضا کے متعلق احادیث	۹۶	۷۸۰	خرچ کی فضیلت اور بخل کی مذمت میں احادیث	۷۷
۷۹۸	اہل جنت پر اللہ کا سلام اور اس کی عظمت اور انفرادیت	۹۷	۷۸۱	مشیت اور رضا میں فرق کرنا چاہیے	۷۸
۸۰۰	مجرمین کے دوسروں سے الگ اور جدا ہونے کی متعدد تفسیریں	۹۸	۷۸۲	دہریوں کا رد اور ابطال	۷۹
۸۰۱	تمام کافروں کی اقسام کا مجرمین کے عموم میں داخل ہونا	۹۹	۷۸۳	کفار قیامت کی خبر کو وعدہ کیوں کہتے تھے؟	۸۰
۸۰۲	عہد کا معنی اور اس کی اقسام	۱۰۰	۷۸۳	قیامت کا اچانک آ جانا	۸۱
۸۰۳	شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تو اس کی ممانعت کا محمل	۱۰۱		ونفح فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ينسلون (۶۷-۵۱)	۸۲
۸۰۳	حکام کی اطاعت کا محمل	۱۰۲	۷۸۶	مشکل الفاظ کے معانی	۸۳
۸۰۵	صرف اعضاء ظاہرہ سے شیطان کی اطاعت اور دل سے شیطان کی اطاعت کرنے کا فرق	۱۰۳	۷۸۷	صور پھونکنے کی تعداد	۸۴
۸۰۶	ان احادیث کا ذکر جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ بھی اللہ کا مطلوب ہیں	۱۰۴	۷۹۰	اس کی تحقیق کہ صور پھونکنے کے بعد بے ہوش ہونے سے کون کون افراد مستثنیٰ ہوں گے؟	۸۵
۸۰۷	شارحین حدیث کی طرف سے احادیث مذکورہ کی توجیہ	۱۰۵		صور سے متعلق سورۃ یس اور سورۃ زمر کی آیتوں کے تعارض کا جواب	۸۶
۸۰۷			۷۹۱	جب صور کی آواز جانداروں کی ہلاکت کا سبب ہے تو پھر دوسرے صور کی آواز سے لوگ زندہ کیوں کر ہوں گے؟	۸۷
				کفار اپنی قبروں کو خواب گا ہوں سے کیوں تعبیر کریں گے؟	۸۸
				کفار نے اللہ تعالیٰ کا ذکر رحمن کے نام سے کیوں کیا تھا؟	۸۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	انبیاء علیہم السلام کے حواس اور عقل کا ڈھلتی ہوئی	۱۲۶	۸۰۸	حدیث مذکور کی مصنف کی طرف سے توجیہ	۱۰۶
۸۲۶	عمر میں زیادہ موثر اور فعال ہونا			شیطان اللہ کے نیک بندوں سے گناہ کرا کر بھی	۱۰۷
	خصوصاً ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے حواس اور	۱۲۷	۸۰۹	نا کام اور ناکام اور ہوتا ہے	
	عقل کا ڈھلتی ہوئی عمر میں زیادہ موثر اور فعال		۸۱۰	انبیاء علیہم السلام کا ملائکہ سے افضل ہونا	۱۰۸
۸۲۷	ہونا			شیطان کی انسانوں سے دشمنی کے اثرات اور ان	۱۰۹
۸۲۸	شعر کی تحقیق	۱۲۸	۸۱۱	سے محفوظ رہنے کا طریقہ	
	قرآن مجید کی بعض آیتوں پر شعر ہونے کا شبہ اور	۱۲۹		اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سیدھے راستے کے معانی	۱۱۰
۸۲۸	اس کا جواب		۸۱۲	اور مطالب	
۸۲۹	گمراہ کن اشعار	۱۳۰	۸۱۳	ذہل اور عقل کے معانی	۱۱۱
	نبی ﷺ کے کہے ہوئے کلام موزون کے شعر	۱۳۱	۸۱۴	عقل کی تعریفات اور اس کی اقسام	۱۱۲
۸۳۱	ہونے نہ ہونے کا مسئلہ			انبیاء علیہم السلام کا کام صرف تبلیغ اور شیطان کا کام	۱۱۳
	نبی ﷺ کو شعر کہنے کی صنعت اور اس فن کا علم تھا یا	۱۳۲	۸۱۵	صرف تزیین ہے پیدا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے	
۸۳۲	نہیں؟		۸۱۵	عقل کے اجزاء اور حصص	۱۱۴
۸۳۳	اچھے اور پسندیدہ اشعار کا بیان	۱۳۳	۸۱۶	دوزخ کے عذاب کی شدت	۱۱۵
	عقل کا زندگی کا سبب ہونا اور زندہ وہ ہے جو اللہ	۱۳۴		قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعضاء ان کی	۱۱۶
۸۳۵	کے لیے زندہ ہو		۸۱۷	نیکیاں بیان کریں گے	
۸۳۶	اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ	۱۳۵		مجرمین کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی	۱۱۷
۸۳۷	توحید کی ترغیب اور شرک کی مذمت	۱۳۶	۸۱۸	طلب کرنے کی توجیہ	
	انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیے	۱۳۷		مجرموں کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی	۱۱۸
۸۳۸	جانے پر کفار کا اعتراض		۸۱۸	طلب کرنے کے متعلق احادیث	
	مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر	۱۳۸	۸۱۹	مجرموں کے مونہوں پر مہر لگانے کی توجیہات	۱۱۹
۸۳۸	دلائل		۸۲۰	طمس اور مسخ کا معنی	۱۲۰
۸۳۹	منکرین حشر کے شبہات اور ان کے جوابات	۱۳۹	۸۲۱	ومن نعمة نكسه في الخلق (۸۳-۶۸)	۱۲۱
۸۴۰	ہڈیوں کے پاک ہونے پر دلائل	۱۴۰	۸۲۲	انسان کی عمروں کے مختلف ادوار	۱۲۲
	انسان کے جسم سے الگ ہونے کے بعد بال کے	۱۴۱	۸۲۳	انسان کی مختلف عمروں کے متعلق احادیث	۱۲۳
۸۴۱	پاک ہونے کے متعلق احادیث		۸۲۴	ارذل عمر کی تحقیق	۱۲۴
	بال ہڈی اور دیگر سخت اور ٹھوس اجزاء کی طہارت	۱۴۲		علماء عالمین اور اولیاء اللہ کا ڈھلتی ہوئی عمر میں	۱۲۵
۸۴۱	میں مذاہب فقہاء		۸۲۵	ارذل عمر کے اثرات سے محفوظ رہنا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۶۳	شہاب ثاقب گرانے پر چند دیگر شبہات کے جوابات	۱۳	۸۴۲	رسول اللہ ﷺ کے فضلات کی طہارت کے متعلق احادیث	۱۳۲
۸۶۳	مارڈ الملاء الاعلیٰ اور شہاب ثاقب وغیرہ کے معانی اور ان کی وضاحت	۱۴	۸۴۵	فضلات کریمہ کی طہارت پر ملا علی قاری کے اعتراضات کے جوابات	۱۳۳
۸۶۴	آیا جنات ہمارے نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے یا نہیں؟	۱۵	۸۴۹	فضلات کریمہ سے متعلق بعض احادیث کی فنی حیثیت اور اس مسئلہ میں جمہور علماء کا موقف	۱۳۵
۸۶۵	جنات کے فرشتوں کی باتیں سننے پر علامہ آلوسی کے اشکالات	۱۶	۸۵۰	اللہ تعالیٰ کی صفات میں مبالغہ کا معنی	۱۳۶
۸۶۶	مصنف کی طرف سے علامہ آلوسی کے اشکالات کے جوابات	۱۷	۸۵۱	کن فیکون پر خطاب بالمعدوم اور تحصیل حاصل کے اعتراض کا جواب	۱۳۷
۸۷۰	مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر دلیل	۱۸	۸۵۱	ملکوت کا معنی	۱۳۸
۸۷۰	تعجب کا معنی	۱۹	۸۵۳	سورۃ یس کا اختتام	۱۳۹
۸۷۱	مشرکین کا قیامت کے انکار پر اصرار کرنا	۲۰	۸۵۳	سورۃ الصفّت	
۸۷۲	انکار حشر کا شبہ اور اس کا ازالہ	۲۱	۸۵۳	سورۃ الصفّت کی وجہ تسمیہ اور اس کا زمانہ نزول	۱
۸۷۲	زجرۃ کا معنی	۲۲	۸۵۵	سورۃ الصفّت کے متعلق احادیث	۲
۸۷۳	احشروا الذین ظلموا (۲۲-۷۳)	۲۳	۸۵۵	سورۃ الصفّت کے مشمولات	۳
۸۷۶	ظالموں کے ازدواج کی تفسیر کے متعدد محامل	۲۴	۸۵۶	والصفت صفا (۱-۲۱)	۴
۸۷۷	پل صراط پر کفار اور مومنین اور فساق اور صالحین کے احوال کے متعلق احادیث	۲۵	۸۵۷	نماز میں صف بستہ کھڑے ہونے کی فضیلت	۵
۸۷۹	نیک کاموں کو دائیں جانب سے شروع کرنے کے متعلق احادیث	۲۶	۸۵۸	زجر کا معنی اور فرشتوں کے زجر کرنے کی تفصیل	۶
۸۸۰	کافر پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کا آخرت میں مکالمہ	۲۷	۸۵۸	اس سوال کا جواب کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے پھر اللہ تعالیٰ نے صف بستہ فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟	۷
۸۸۱	کافروں کے متعلق اللہ کی وعیدات	۲۸	۸۵۹	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل	۸
۸۸۱	مومنوں کے متعلق اللہ کی بشارتیں	۲۹	۸۶۰	آسمان دنیا کا ستاروں سے مزین ہونا۔	۹
۸۸۲	غول بیابان کی تحقیق	۳۰	۸۶۱	کاہنوں کی اقسام	۱۰
۸۸۳	حوروں کو پوشیدہ انڈوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی توجیہ	۳۱	۸۶۱	کاہن کی تعریف اور کاہن کے پاس جانے کا شرعی حکم	۱۱
			۸۶۲	شہاب ثاقب سے مراد آگ کے گولے ہیں یا آسمان دنیا کے ستارے؟	۱۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	ضرورت اور مصلحت کے وقت جھوٹ بولنے کے	۵۵	۸۸۴	جسمانی اور روحانی لذتیں	۳۲
۹۰۱	متعلق فقہاء اسلام کی آراء		۸۸۴	انڈوں کا پاک اور حلال ہونا	۳۳
	تحقیق یہ ہے کہ مواضع ضرورت میں بھی صراحتاً	۵۶	۸۸۵	انڈے کے غذائی اجزاء اور بد پرہیزی کے نقصانات	۳۴
۹۰۳	جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے		۸۸۶	مومن کا اپنے واقف کافر کو دوزخ میں دیکھنا	۳۵
	کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی	۵۷	۸۸۷	اس مومن اور کافر کا ماجرا امام ابن جریر کی روایت سے	۳۶
۹۰۴	بیماری کو طاعون سمجھا تھا؟			اس مومن اور کافر کا ماجرا امام ابن ابی حاتم کی	۳۷
۹۰۵	یمین اور یزفون کا معنی	۵۸	۸۸۷	روایت سے	
	اس پر عقلی اور نقلی دلائل کہ بندہ اپنے افعال کا	۵۹	۸۸۹	عذاب قبر پر ایک اشکال کا جواب	۳۸
۹۰۶	خالق نہیں ہے		۸۹۰	شجرۃ الزقوم کی تحقیق	۳۹
	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہونے	۶۰	۸۹۳	ولقد نادنا نوح (۷۵-۱۱۳)	۴۰
۹۰۸	کی تفصیل		۸۹۵	بعض انبیاء سابقین کے قصص	۴۱
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی	۶۱	۸۹۶	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	۴۲
۹۰۹	آزمائش میں مبتلا کرنے کی حکمتیں		۸۹۶	دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط	۴۳
۹۱۱	حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اولین مہاجر ہونا	۶۲		حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا مصداق اور	۴۴
۹۱۱	عزت نشینی کی فضیلت میں احادیث	۶۳	۸۹۷	حضرت نوح علیہ السلام کے بعض فضائل	
	عزت نشینی کی فضیلت اور استحباب کے متعلق	۶۴	۸۹۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ	۴۵
۹۱۲	فقہاء اسلام کے مختلف اقوال			شیعہ کا لغوی معنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام	۴۶
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صالح بیٹے کو طلب	۶۵	۸۹۸	کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت	۴۷
۹۱۳	کرنا اور اس کی توجیہ		۸۹۸	قلب سلیم کا معنی	۴۸
۹۱۵	حلیم کا معنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلیم ہونا	۶۶	۸۹۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی کواکب پرستی	۴۹
	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر	۶۷		حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستاروں کی طرف	۵۰
۹۱۶	اور پیش منظر		۸۹۹	دیکھنے کا محمل	
	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے مینڈھے	۶۸		حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود کو بیمار کہنے کا	۵۱
۹۱۷	کا مصداق		۸۹۹	پس منظر	
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے ذبح	۶۹	۸۹۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین بظاہر جھوٹ	۵۲
	تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق		۹۰۱	میں بیمار ہوں کہنے کی توجیہات	۵۳
۹۱۸	علیہ السلام؟			تعریف اور توریہ کی تعریفات اور ان کے ثبوت	۵۴
۹۱۹	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر دلائل	۷۰	۹۰۱	میں احادیث	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۳۸	قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء شافعیہ کا مذہب	۹۰	۹۲۰	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر مزید دلائل	۷۱
۹۳۸	قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء مالکیہ کا مذہب	۹۱	۹۲۱	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے دلائل کی توضیح	۷۲
۹۳۹	قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء حنبلیہ کا مذہب	۹۲	۹۲۲	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا تورات سے ثبوت	۷۳
۹۳۹	قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء احناف کا مذہب	۹۳	۹۲۳	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلقوم کٹنے سے محفوظ رہنا ہمارے نبی ﷺ کی وجہ سے تھا	۷۴
۹۳۹	قربانی کے جواز کے لیے صرف تین دنوں کی تخصیص اور تحدید کے متعلق احادیث	۹۴	۹۲۴	رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں	۷۵
۹۴۰	قربانی کے منکرین کے شبہات کا ازالہ	۹۵	۹۲۵	صرف حضرت اسماعیل نہیں بلکہ ہر مسلمان آپ کی وجہ سے ذبح ہونے سے محفوظ رہا	۷۶
۹۴۱	فقہاء احناف کے نزدیک قربانی کے جانور کا معیار	۹۶	۹۲۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا سچا ہونا اور ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے خواب کا سچا ہونا	۷۷
۹۴۲	قربانی کے گوشت کے احکام	۹۷	۹۲۶	قربانی کے فضائل کے متعلق احادیث	۷۸
۹۴۲	قربانی کے دیگر مسائل	۹۸	۹۲۷	قربانی کے شرعی حکم سے متعلق احادیث	۷۹
۹۴۳	قربانی کے اسرار و رموز	۹۹	۹۲۹	ایک جانور کی قربانی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟	۸۰
۹۴۳	ولقد مننا علی موسیٰ و ہارون (۱۱۴-۱۳۸)	۱۰۰	۹۲۹	قربانی کے جانور کی کم از کم کتنی عمر ضروری ہے؟	۸۱
۹۴۶	حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا قصہ	۱۰۱	۹۳۱	وہ عیوب جن کی وجہ سے کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے	۸۲
۹۴۷	حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ اور ان کی مفصل سوانح	۱۰۲	۹۳۱	نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کرنے کی ممانعت	۸۳
۹۴۸	حضرت الیاس علیہ السلام کی ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ سے ملاقات کی روایات	۱۰۳	۹۳۲	قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی کیفیت	۸۴
۹۴۸	ان روایات کو صحیح قرار دینے پر حافظ ذہبی اور حافظ ابن کثیر کے تبصرے	۱۰۴	۹۳۳	قربانی کی کوئی چیز قصائی کو اجرت میں نہ دی جائے	۸۵
۹۴۸	حضرت الیاس علیہ السلام سمیت چار نبیوں کے ابھی تک زندہ ہونے پر حافظ ابن کثیر کا تبصرہ اور مصنف کی توجیہ	۱۰۵	۹۳۵	قربانی کے حکم میں فقہاء شافعیہ کا مذہب	۸۶
۹۵۰			۹۳۵	قربانی کے حکم میں فقہاء حنبلیہ کا مذہب	۸۷
			۹۳۶	قربانی کے حکم میں فقہاء مالکیہ کا مذہب	۸۸
			۹۳۶	قربانی کے حکم میں فقہاء احناف کا مذہب	۸۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۶۳	کسی کو گمراہ کرنے کی قدرت شیطان میں ہے نہ کفار میں، اس مسئلہ میں اہل سنت کے موقف پر دلائل اور تقدیر کا ثبوت	۱۲۲	۹۵۰	حضرت الیاس کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی روایت	۱۰۶
۹۶۵	تقدیر پر وارد ہونے والے اشکالات کو دور کرنے کے لیے علامہ عینی اور دیگر علماء کی تقاریر	۱۲۳	۹۵۱	بعل کا معنی اور اس کی پرستش کا پس منظر اور پیش منظر	۱۰۷
۹۶۷	تقدیر پر وارد ہونے والے اشکالات کو دور کرنے کے متعلق مصنف کی تقریر	۱۲۴	۹۵۱	بعل کی ناکامی اور اس کی پرستش کو چھوڑ کر لوگوں کا حضرت الیاس کی طرف متوجہ ہونا	۱۰۸
۹۶۷	حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا مباحثہ آیا تقدیر میں لکھا ہوا ہونا ارتکاب معصیت پر ملامت کے سقوط کا سبب ہے یا نہیں؟	۱۲۵	۹۵۲	آل یاسین سے مراد آل سیدنا محمد ﷺ ہے	۱۰۹
۹۶۸	فرشتوں کا صفیں باندھ کر عبادت کرنا	۱۲۶	۹۵۳	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	۱۱۰
۹۶۹	رسولوں کے غلبہ سے مراد ان کا دلائل کے اعتبار سے غلبہ ہے	۱۲۸	۹۵۳	وان یونس لمن المرسلین	۱۱۱
۹۷۰	اللہ کی حمد و ثنا کرنے اور رسولوں پر سلام بھیجنے میں مناسبت	۱۲۹	۹۵۴	(۱۸۲-۱۳۹)	۱۱۲
۹۷۲	اختتامی کلمات	۱۳۰	۹۵۶	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	۱۱۳
۹۷۵	ماخذ و مراجع	۱۳۱	۹۵۶	حضرت یونس علیہ السلام کا حسب و نسب اور ابتدائی حالات	۱۱۳
			۹۵۷	حضرت یونس علیہ السلام کا اہل نبیوی کی طرف مبعوث کیا جانا	۱۱۴
			۹۵۷	حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہونا	۱۱۵
			۹۵۸	حضرت یونس علیہ السلام کا غضب ناک ہو کر چلے جانا اور مچھلی کا آپ کو نگل لینا	۱۱۶
			۹۵۹	حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا	۱۱۷
			۹۶۰	حضرت یونس علیہ السلام کا واپس اپنی قوم کی طرف جانا	۱۱۸
			۹۶۱	حضرت یونس علیہ السلام کے فضائل میں احادیث کفار کے اس قول کا رد کہ فرشتے اللہ عزوجل کی بیٹیاں ہیں	۱۱۹
			۹۶۲	اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کے مدعیان کے محال	۱۲۰
			۹۶۳		۱۲۱



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین (تبیان القرآن جلد دہم)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۶	فرعون کو میخوں والے کہنے کی وجہ تسمیہ	۱۷	۲۹	سورہ ص	
۴۷	سابقہ امتوں کے عذاب کو بیان کر کے اہل مکہ کو نزول عذاب سے ڈرانا	۱۸	۲۹	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۴۷	وما یبظروہولاء (۱۵-۲۶)	۱۹	۳۰	ص کا زمانہ نزول	۲
۴۹	لفظ فواق کا معنی اس کا محمل اور اس کے متعلق حدیث	۲۰	۳۱	ص کے اغراض و مقاصد	۳
۵۰	چیخ اور چنگھاڑ کے تین معمل	۲۱	۳۲	ص کے مضامین اور مشمولات	۴
۵۱	قط کا معنی	۲۲	۳۲	تحقیق یہ ہے کہ امام رازی نے ہی تفسیر کو مکمل کیا ہے	۵
۵۱	موت کی تمنا کی ممانعت کے متعلق احادیث	۲۳	۳۵	ص والقرآن ذی الذکر (۱-۱۴)	۶
۵۱	اللہ سے ملاقات اور شہادت کے حصول کے لیے موت کی تمنا کا جواز	۲۴	۳۶	ص کے معانی اور محامل	۷
۵۲	حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ	۲۵	۳۶	اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کیا فرمایا؟	۸
۵۲	حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت کی دس وجوہ	۲۶	۳۷	ولات حین مناص کی تفسیر	۹
۵۳	چاشت اور اشراق پڑھنے کی فضیلت میں احادیث	۲۷	۳۸	کفار کا تکبر اور ان کی مخالفت کس سبب سے تھی؟	۱۰
۵۵	اشراق کی نماز کا وقت	۲۸	۳۹	کفار کی ابوطالب سے شکایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب	۱۱
۵۶	نماز چاشت کی رکعات کی تعداد اور اس کا وقت	۲۹	۴۰	کفار کا اپنے بتوں کی عبادت پر صبر کرنے کا محمل	۱۲
۵۷	پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرنا	۳۰	۴۰	خلق، خلق اور اختلاق کے معانی	۱۳
۵۸	حضرت داؤد علیہ السلام کی بیعت	۳۱	۴۰	کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ محمد تو ذات اور صفات میں ہماری مثل ہیں پھر ان کو وحی رسالت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟	۱۴
۵۹	حضرت داؤد کا محافظان کا لشکر تھا اور ہمارے نبی کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا	۳۲	۴۱	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے متعلق کفار کے شکوک و شبہات کا ازالہ	۱۵
۵۹			۴۳	سابقہ امتوں پر ان کی تکذیب کی وجہ سے عذاب کا نازل ہونا	۱۶
۵۹			۴۶		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۳	جن محتاط مفسرین نے اس اسرائیلی روایت کو مسترد کر دیا	۵۰	۶۰	حکمت کی تعریفات	۳۳
۷۳	حضرت داؤد علیہ السلام کے استغفار کی توجیہات اور محامل	۵۱	۶۲	فصل خطاب کی تفسیر میں متعدد اقوال	۳۳
۷۳	خلیفہ کا معنی اور اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عصمت پر استدلال	۵۲	۶۳	مشکل الفاظ کے معانی	۳۵
۷۶	انسانی معاشرہ میں خلیفہ کی ضرورت	۵۳	۶۳	حضرت داؤد علیہ السلام کے حجرہ کی دیوار پھانڈ کر آنے والے آیا انسان تھے یا فرشتے؟	۳۶
۷۷	انبیاء علیہم السلام کا عموماً اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً خلیفہ اللہ ہونا	۵۴	۶۳	آنے والوں کے فرشتے ہونے پر علامہ ابو بکر بن العربی کے دلائل	۳۷
۷۸	خلیفہ کا خواہش کی اتباع کرنا کیوں عذاب شدید کا موجب ہے؟	۵۵	۶۳	آنے والوں کے انسان ہونے پر امام رازی کے دلائل	۳۸
۷۹	خلافت علی منہاج النبوت کی تحقیق	۵۶	۶۵	آنے والوں کے فرشتے ہونے کی توجیہ	۳۹
۸۰	آیت استخلاف کی تحقیق	۵۷	۶۵	مذکور توجیہ کا امام رازی کی طرف سے جواب	۴۰
۸۱	خلافت کی تعریف	۵۸	۶۶	مذکور توجیہ کا مصنف کی طرف سے جواب	۴۱
۸۲	خلافت کی شرائط	۵۹	۶۶	آنے والوں کے انسان ہونے پر علامہ ابوالحیاء اندلسی کے دلائل	۴۲
۸۳	خلافت منعقد کرنے کے طریقے	۶۰	۶۶	حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف ایک فریق کے بیان پر کیوں فیصلہ کیا؟	۴۳
۸۵	خلیفہ کو منتخب کرنے والوں کے لیے شرائط	۶۱	۶۷	حضرت داؤد علیہ السلام کے استغفار کی توجیہات	۴۴
۸۵	موجودہ مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کا فرق	۶۲	۶۷	سورہ ص کے سجدہ کے وجوب میں اختلاف فقہاء	۴۵
۸۶	وما خلقنا السماء والارض (۴۰-۴۷)	۶۳	۶۸	سورہ ص کے سجدہ تلاوت کے متعلق احادیث اور آثار	۴۶
۸۷	حشر و نشر کے ثبوت پر دلائل	۶۴	۶۹	نماز اور خارج از نماز رکوع سے سجدہ تلاوت کا ادا ہونا	۴۷
۸۸	تدبر اور تذکر کا معنی	۶۵	۶۹	حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے جس فعل پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی تھی اس کے متعلق تورات کا بیان	۴۸
۸۸	قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام کی ناقدری کرنا ہے	۶۶	۷۰	بعض قدیم مفسرین کا تورات کی محرف روایت کو نقل کر کے اس سے استدلال کرنا	۴۹
۸۹	قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب	۶۷	۷۰		
۹۰	حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ	۶۸			
۹۰	مشکل الفاظ کے معانی	۶۹			
۹۰	حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال	۷۰			
۹۰			۷۳		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۰۸	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسل ہونا	۸۷		حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت کی توجیہ	۷۱
۱۰۸	ہواؤں اور جنات پر تصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے	۸۸	۹۱	جمہور مفسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت	۷۲
۱۰۸	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہوائیں مسخر کی گئی تھیں وہ نرم و ملائم تھیں یا تند و تیز؟	۸۹	۹۲	جمہور مفسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت پر امام رازی کا رد	۷۳
۱۱۰	جو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے ان کے مختلف النوع فرائض	۹۰	۹۳	حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت کی صحیح توجیہ	۷۴
۱۱۰	جن جنات کو زنجیروں سے جکڑا گیا ان کی جسامت پر ایک اعتراض کا جواب	۹۱	۹۵	حضرت سلیمان علیہ السلام کا آزمائش میں مبتلا ہونا	۷۵
۱۱۱	حضرت سلیمان علیہ السلام کا دنیاوی و اخروی قرب	۹۲	۹۶	حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے متعلق اسرائیلی روایات	۷۶
۱۱۲	واذکر عبدنا ایوب (۶۳-۶۱)	۹۳	۹۶	اسرائیلی روایات کا رد علامہ زنجبیری سے	۷۷
۱۱۳	حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ	۹۴	۹۹	اسرائیلی روایات کا رد امام رازی سے	۷۸
۱۱۳	حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا جانا	۹۵	۱۰۰	اسرائیلی روایات کا رد علامہ ابو الیمان اندلسی سے	۷۹
۱۱۳	حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کی تحقیق	۹۶	۱۰۱	اسرائیلی روایات کا رد علامہ اسمعیل حقی سے	۸۰
۱۱۳	بعض مفسرین کا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شیطان کی تاثیر قرار دینا	۹۷	۱۰۲	اسرائیلی روایات کا رد علامہ آلوسی سے	۸۱
۱۱۶	محققین کے نزدیک شیطان کو کسی انسان کے جسم پر تسلط اور تصرف حاصل نہیں ہے	۹۸	۱۰۳	حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کا محمل	۸۲
۱۱۷	حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کو شیطان کی طرف جو منسوب کیا تھا اس کی توجیہات	۹۹	۱۰۴	ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر حجاب اور آپ کی توبہ اور استغفار کا محمل	۸۳
۱۱۷	حضرت ایوب علیہ السلام کے نقصانات کی تلافی کرنا	۱۰۰	۱۰۵	ایک دن میں ایک سو بار توبہ کرنے کی توجیہ اور توبہ کی اقسام	۸۴
۱۱۹	حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے لیے قسم پوری کرنے میں تخفیف اور رعایت	۱۰۱	۱۰۶	دعا میں اخروی مطالب کو دنیاوی مطالب پر مقدم رکھنا	۸۵
۱۱۹	حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے لطیف نکات	۱۰۲	۱۰۶	حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کہ ان کو ایسی سلطنت دی جائے جو دوسروں کو نہ ملے آیا یہ قول حسد کو مستلزم ہے؟	۸۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۳۰	بہت بڑی خبر کے مصداق میں متعدد احتمالات	۱۲۳	۱۰۳	مشکل حالات میں انبیاء علیہم السلام کی استقامت	
	الملاء الاعلیٰ سے مراد وہ فرشتے ہیں جن سے تخلیق آدم کے متعلق مشورہ لیا گیا	۱۲۴		یاد دلا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمانا	
۱۳۰	الملاء الاعلیٰ کی دوسری تفسیر کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو گناہوں کے کفارے میں بحث کر رہے تھے	۱۲۵	۱۲۰	انبیاء علیہم السلام کا خالص دار آخرت کے ساتھ مشغول ہونا	۱۰۴
۱۳۲	اللہ تعالیٰ کی صورت اور اس کے ہاتھوں کی تفسیر میں متقدمین اور متاخرین کے نظریات	۱۲۶	۱۲۱	عصمت انبیاء پر دلیل	۱۰۵
۱۳۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کا علم دیا جانا	۱۲۷	۱۲۲	مکروہ تزہیٰ اور خلاف اولیٰ کا گناہ نہ ہونا	۱۰۶
۱۳۴	منکرین عموم علم رسالت کا آپ کے علم کلی پر اعتراض	۱۲۸	۱۲۳	عصمت کی تعریف اور معصوم اور محفوظ کا فرق	۱۰۷
۱۳۵	اعتراض مذکور کے جوابات	۱۲۹	۱۲۴	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اپنے والد اور بھائی سے منفصل کرنے کی توجیہ	۱۰۸
	اگر آپ کو علم کلی دے دیا گیا تھا تو پھر بعد میں قرآن مجید کیوں نازل ہوتا رہا؟	۱۳۰	۱۲۶	جنت عدن کے متعلق احادیث اور آثار	۱۰۹
۱۳۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم پر امت کے علم کے عموم سے معارضہ اور اس کا جواب	۱۳۱	۱۲۷	جنت کے دروازے کھلے رکھنے کے اسرار اور نکات متقین کے لیے جنت کی نعمتیں	۱۱۰
۱۳۶	بشر کا معنی اور اس کی تخلیق کا مادہ	۱۳۲	۱۲۸	اس پر دلائل کہ طاعین سے مراد کفار ہیں نہ کہ اصحاب کبار	۱۱۲
۱۳۷	روح کا معنی، روح پھونکنے کا محمل اور ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم کا عدم جواز	۱۳۳	۱۲۹	غساق کی تفسیر میں حدیث اور آثار	۱۱۳
۱۳۸	ابلیس کا معنی اور اس کا جنات میں سے ہونا	۱۳۴	۱۳۰	من شکله ازواج کا معنی	۱۱۴
۱۳۹	حضرت آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنانے کی توجیہ	۱۳۵	۱۳۱	دوزخ میں کافروں کے سرداروں اور پیروکاروں کا مناظرہ	۱۱۵
۱۵۰	مٹی کا آگ سے افضل ہونا	۱۳۶	۱۳۲	قل انما انا منذر (۸۸-۶۵)	۱۱۶
	ابلیس کے اس زعم کا بطلان کہ وہ حضرت آدم سے افضل ہے	۱۳۷	۱۳۳	آیات سابقہ سے ارتباط	۱۱۷
۱۵۱	تکبر کی مذمت میں احادیث	۱۳۸	۱۳۴	اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے سے اس کی توحید پر استدلال	۱۱۸
۱۵۱	امام رازی کے اس پر دلائل کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا سے ہو رہا ہے	۱۳۹	۱۳۵	اللہ تعالیٰ کے غفار ہونے کے متعلق احادیث	۱۱۹
۱۵۳	ہے	۱۴۰	۱۳۶	بار بار گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بخش دینا	۱۲۰
			۱۳۷	تاب کے لیے بُری جگہ اور بُرے لوگوں کو چھوڑ دینے کا استحباب	۱۲۱
			۱۳۸	اولیاء کرام کی وجاہت	۱۲۲
			۱۳۹		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۷۷	اعتراض اور امام رازی کے جوابات	۱۵۳	۱۳۰	امام رازی کے دلائل کے جوابات اور بحث و نظر	
۱۷۸	معتزلہ کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے جواب اور رضا بقدر کی تحقیق	۱۸	۱۳۱	تکلف اور متکلفین کا معنی	
۱۸۱	اللہ تعالیٰ کا کفر اور معصیت کو پسند نہ فرمانا	۱۹	۱۳۲	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت اٹھا کر جو پیغام پہنچایا اس کی تفصیل	
	جزاء کا مدار اعمال پر بھی ہے اور ان کے اسباب پر بھی	۲۰	۱۳۳	تکلف اور تصنع کرنے کی مذمت میں احادیث	
۱۸۱	راحت اور مصیبت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس سے دعا کرنا ضروری ہے	۲۱	۱۳۴	قرآن مجید کا جن اور انس کے لیے نصیحت ہونا	
۱۸۲	تہجد کی نماز کے فضائل	۲۲	۱۳۵	سورۃ ص کا اختتام	
۱۸۳	تہجد کی نماز کے فضائل میں احادیث	۲۳		سورۃ الزمر	
۱۸۶	سجدہ کی فضیلت پر دلائل	۲۴	۱	سورت کا نام	
۱۸۶	نماز میں قیام کی فضیلت پر دلائل	۲۵	۲	الزمر کا زمانہ نزول	
	سجدہ اور قیام میں رات گزارنے والوں کے مصادیق	۲۶	۳	الزمر اور ص میں مناسبت	
۱۸۸	طلب ثواب کے لیے عبادت کرنے کا جواز اور طلب رضا کے لیے عبادت کرنے کا افضل ہونا	۲۷	۴	الزمر کے مشمولات	
۱۸۹	حکماء اور متکلمین کی اصطلاح میں علم کی تعریف	۲۸	۵	تنزیل الکتب من اللہ (۱-۹)	
۱۹۱	محدثین کی اصطلاح میں علم کی تعریف	۲۹	۶	انزال اور تنزیل کا فرق	
۱۹۲	علم دین کی تفصیل	۳۰	۷	اخلاص کا لغوی معنی	
۱۹۲	علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات	۳۱	۸	اخلاص کا اصطلاحی معنی	
۱۹۳	علم کی فضیلت میں احادیث	۳۲	۹	اخلاص کی حقیقت	
۱۹۵	قل یعباد الذین امنوا (۲۱-۱۰)	۳۳	۱۰	اخلاص کی ترغیب اور ترہیب کے متعلق احادیث	
	نیک اعمال کے اجر حسن سے مراد دنیا کا اجر نہیں، آخرت کا اجر ہے	۳۴	۱۱	اخلاص کے متعلق اقوال علماء	
۱۹۷	اللہ کی زمین کی وسعت کے تین محامل: دنیا کی زمین کی وسعت، جنت کی زمین کی وسعت اور رزق کی وسعت	۳۵	۱۲	جاہل صوفیاء کے خود ساختہ احکام کا رد	
۱۹۹	صبر کے معانی	۳۶	۱۳	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل	
۲۰۰			۱۴	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ستر فرمانا	
			۱۵	انسان کو پیدا کرنا اور اس کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازنا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے	
			۱۶	اللہ تعالیٰ کا تمام جہانوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہونا	
			۱۷	اللہ تعالیٰ کو تمام افعال کا خالق ماننے پر معتزلہ کا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۱۸	دل کی سختی کے اسباب	۵۵	۲۰۱	صبر کا بے حساب اجر عطا فرمانے کی وجوہ	۳۷
	قرآن مجید سن کر جن کے خوف خدا سے روٹ گئے	۵۶	۲۰۱	صبر کی جزاء کے متعلق احادیث اور آثار	۳۸
۲۱۹	کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے بشارتیں			نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اسلام لانے	۳۹
	قرآن مجید سن کر اظہار وجد کرنے والوں کے	۵۷	۲۰۳	کے حکم کی توجیہ	
۲۱۹	متعلق صحابہ کرام اور فقہاء تابعین کی آراء			کفار کے نقصان زدہ ہونے کے متعلق احادیث	۴۰
	قرآن مجید سننے سے رقت طاری ہونے کی	۵۸	۲۰۴	اور آیات میں باہم ظاہری تعارض کا جواب	
	فضیلت اور مترنم آواز اور سازوں کے ساتھ		۲۰۵	کفار کے نقصان زدہ ہونے کی عقلی وجوہ	۴۱
۲۲۰	اشعار سن کر اظہار وجد کرنے کی مذمت			آگ کے اوپر تلے حصوں کو آگ کے سائبان	۴۲
۲۲۱	عذاب کی چہرے کے ساتھ خصوصیت کی توجیہ	۵۹	۲۰۶	کہنے کی توجیہ	
۲۲۲	قرآن مجید کے تین اوصاف	۶۰		اے میرے بندو! آیا اس کے مخاطب مومن ہیں یا	۴۳
۲۲۳	اللہ تعالیٰ کی توحید پر آسان سادہ اور عام فہم دلیل	۶۱	۲۰۶	کافر؟	
	ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور	۶۲	۲۰۷	طاغوت کا معنی اور مصداق	۴۴
۲۲۳	کفار کی موت کا فرق			اس کا بیان کہ بشارت کس نعمت کی ہے، کون	۴۵
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے متعلق دیگر	۶۳	۲۰۸	بشارت دے گا، کب دے گا اور کس کو دے گا؟	
۲۲۴	مفسرین کی تقاریر			باب عقائد میں باطل نظریات کو ترک کر کے برحق	۴۶
	اس پر دلائل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت	۶۴	۲۰۹	نظریات کو اپنانا	
۲۲۵	آنی ہے، یعنی قلیل وقت کے لیے			معاملات اور عبادات میں صحیح افعال اور احسن	۴۷
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ثبوت	۶۵	۲۱۰	افعال	
۲۲۷	میں احادیث			گناہ کبیرہ کے مرتکبین کی شفاعت پر ایک اعتراض	۴۸
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق مستند علماء	۶۶	۲۱۲	کا جواب	
۲۲۹	کی تصریحات اور مزید احادیث		۲۱۳	جنت کے بالا خانے	۴۹
	سلام کے وقت آپ کی روح کو لوٹانے کی حدیث	۶۷	۲۱۴	وعد اور وعید کا فرق	۵۰
۲۳۱	کے اشکال کے جوابات		۲۱۴	مشکل الفاظ کے معانی	۵۱
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ	۶۸		انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حال کو زمین کی پیداوار	۵۲
۲۳۳	کی حیات کے مظاہر		۲۱۵	کے حال پر قیاس کرے	
۲۳۵	اجسام مثالیہ کا تعدد	۶۹	۲۱۵	افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام (۲۲-۳۱)	۵۳
	انبیاء اور اولیاء کا آن واحد میں متعدد جگہ موجود	۷۰		انسان کے دل میں اللہ کے نور کا معیار اور اس کی	۵۴
۲۳۶	ہونا		۲۱۷	علامتیں	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۶۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنانے میں کامل جانفشانی کی	۸۹	۲۳۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت	۷۱
۲۶۷	اللہ یتوفی الانفس (۵۲-۴۲)	۹۰	۲۴۰	عام مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت	۷۲
۲۷۰	نفس کے معنی کی تحقیق	۹۱		نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر دعا کرنے کا جواز	۷۳
۲۷۰	نفس اور روح کے ایک ہونے پر دلائل	۹۲	۲۴۲	اور استحسان	
۲۷۱	نفس اور روح کے مغائر ہونے پر دلائل	۹۳		نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں	۷۴
	نفس اور روح کے اتحاد اور تغایر میں حافظ ابن عبد البر کی تحقیق	۹۴	۲۴۳	خصوصی احادیث اور آثار	
۲۷۲	نفس اور روح کے متعلق امام رازی کی تحقیق	۹۵	۲۴۶	نماز جنازہ کے بعد دعا سے ممانعت کے دلائل اور ان کے جوابات	۷۵
۲۷۳	نفس اور روح کے متعلق مصنف کی تحقیق	۹۶		قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑنے والوں کے مصداق	۷۶
۲۷۴	بتوں کی شفاعت کرنے کا رد اور ابطال	۹۷	۲۴۹		
۲۷۴	آخرت میں کفار کے عذاب کی تفصیل	۹۸	۲۵۱	فمن اظلم ممن کذب (۳۱-۳۲)	۷۷
	راحت اور مصیبت کے ایام میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا	۹۹	۲۵۳	اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والوں کے متعدد مصداق	۷۸
۲۷۷	قل یعبادی الذین اسرفوا (۶۳-۵۳)	۱۰۰		سچے دین کو لانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے کے مصداق میں متعدد اقوال	۷۹
۲۷۹	الزمر: ۵۳ کے شان نزول میں متعدد روایات	۱۰۱	۲۵۳	ان اقوال میں راجح قول کا بیان	۸۰
۲۸۰	حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا	۱۰۲	۲۵۴	اہل جنت کے دلوں کا کینہ اور حسد سے پاک ہونا	۸۱
۲۸۱	قنوط کا معنی اور غفوا اور مغفرت کا فرق	۱۰۳	۲۵۴	کفارہ کا معنی اور زیادہ نیک کاموں کی تفسیر	۸۲
	اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوسی کی ممانعت کے متعلق آیات احادیث اور آثار	۱۰۴	۲۵۵	الزمر: ۳۵ میں علامہ قرطبی کی "اسوا" کی تفسیر پر بحث و نظر	۸۳
۲۸۲	اس کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟	۱۰۵	۲۵۶	الزمر: ۳۵ میں علامہ زحشری اور علامہ آلوسی کی "اسوا" کی تفسیر پر بحث و نظر	۸۴
۲۸۵	احسن نازل شدہ چیز کی متعدد تفسیریں	۱۰۶	۲۵۷	الزمر: ۳۵ میں امام رازی کی اسوا کی تفسیر پر بحث و نظر	۸۵
	قیامت کے دن فساق کی اپنی بد اعمالیوں پر ندامت اور اظہار افسوس	۱۰۷	۲۵۹	الزمر: ۳۵ میں بعض اردو تفاسیر پر تبصرہ	۸۶
۲۸۷	تکبر کی تعریف اور متکبرین کا حشر	۱۰۸	۲۶۲	کفار کی دھمکیوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے	۸۷
۲۸۷	اللہ تعالیٰ کو بندروں اور خنزیریوں کا خالق کہنا ممنوع ہے	۱۰۹	۲۶۳	متوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا	۸۸
۲۸۸			۲۶۴		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۱۲	المومن کی الزمر سے مناسبت	۳		یہ کہنا کفر ہے کہ میری آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں اور دیگر کفر یہ محاورے	۱۱۰
۳۱۲	سورۃ المومن کے مشمولات	۴	۲۸۹		
۳۱۲	حَمَّ تَنْزِيلِ الْكُتُبِ مِنَ اللَّهِ (۹-۱)	۵		مقالید کا معنی اور اس کی تفسیر میں درج حدیث کی تحقیق	۱۱۱
۳۱۵	حَمَّ کا معنی	۶	۲۸۹		
۳۱۶	العزیز اور العظیم کا معنی	۷	۲۹۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانوں کا مالک ہونا	۱۱۲
	غافر الذنب، قابل التوب اور شدید العقاب کے معانی	۸	۲۹۱	قل افغیر اللہ تامرونی اعبد (۶۳-۷۰)	۱۱۳
۳۱۶	جدال کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور جدال کی اقسام	۹		الزمر: ۶۵ کی توجیہ جس میں فرمایا ہے: اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے	۱۱۴
۳۱۸	ربط آیات	۱۰	۲۹۳		
۳۱۹	حاطین عرش کی صورت اور ان کی تعداد	۱۱		اس اعتراض کا جواب کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے جسمانی اعضاء کا ثبوت ہے	۱۱۵
	امام رازی کی طرف سے نبیوں کے اوپر فرشتوں کی فضیلت کی ایک دلیل	۱۲	۲۹۴	صور پھونکنے کی تحقیق	۱۱۶
۳۲۰	امام رازی کی دلیل کا مصنف کی طرف سے جواب	۱۳	۲۹۶	قیامت کے دن جو امور سب سے پہلے وقوع پذیر ہوں گے	۱۱۷
	آیا فرشتوں کی شفاعت سے صرف ثواب میں اضافہ ہوتا ہے یا بغیر توبہ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں؟	۱۴	۲۹۶	رب کے نور سے کیا مراد ہے نور عقلی یا نور حسی؟	۱۱۸
۳۲۲	حاطین عرش کی دعا کے نکات	۱۵	۲۹۸	رب کے نور کی تفسیر میں امام رازی سے اختلاف	۱۱۹
۳۲۳	ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم (۲۰-۱۰)	۱۶	۲۹۹	ہر نفس کے مکمل حساب کی وضاحت	۱۲۰
۳۲۴	قیامت کے دن کفار کے اپنے اوپر غصہ کی وجوہ	۱۷	۲۹۹	وسبق الذین کفروا الی جہنم (۷۵-۷۱)	۱۲۱
۳۲۶	المومن: ۱۰ کے بعض تراجم	۱۸	۳۰۱	قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت	۱۲۲
۳۲۷	دو موتوں اور دو حیاتوں کی تفسیر میں متقدمین کے اقوال	۱۹	۳۰۱	قیامت کے دن مؤمنوں کے ثواب کی کیفیت	۱۲۳
۳۲۸	دو موتوں اور دو حیاتوں پر اعتراضات کے جوابات	۲۰	۳۰۲	سورۃ الزمر کا اختتام	۱۲۴
۳۲۹	المومن: ۱۱ کی تفسیر میں امام رازی کا سدی کی تفسیر کو اختیار کرنا	۲۱	۳۰۴	مصنف کی والدہ کی وفات	۱۲۵
	دیگر مفسرین کا حضرت ابن عباس کی طرف منسوب تفسیر کو اختیار کرنا	۲۲	۳۰۵	قرآن و حدیث سے ماں کا مقام	۱۲۶
۳۲۹			۳۰۶	جن احادیث سے امی کی مغفرت متوقع ہے	۱۲۷
			۳۰۷	جن واقعات سے امی کے مقرب ہونے کا پتا چلتا ہے	۱۲۸
			۳۱۱	سورۃ المومن	
			۳۱۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	
			۳۱۱	المومن اور دیگر الحوامیم کے متعلق احادیث	

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
	مدعی نبوت کو قتل نہ کرنے پر ایک اعتراض اور امام	۳۳۱	۳۳	مذکورہ مفسرین کے جواب کا صحیح نہ ہونا	۲۳
۳۵۰	رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب			حضرت ابن عباس کی طرف منسوب 'سدی اور ابن	۲۴
۳۵۰	اعتراض مذکور کا مصنف کی طرف سے جواب	۳۳۱	۳۵	زید کی تفسیر کا صحیح نہ ہونا	
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے بعض	۳۳۲	۳۶	المومن: ۱۱ کی تفسیر میں مصنف کا موقف	۲۵
۳۵۲	حصہ کے پورا نہ ہونے پر اعتراض کا جواب	۳۳۲		خوارج کی تعریف اور ان کا مصداق	۲۶
	اس مرد مومن کی حضرت موسیٰ کو پہچاننے کی ایک اور	۳۳۳	۳۷	خوارج کے متعلق احادیث	۲۷
۳۵۳	کوشش	۳۳۳		آفاق اور انفس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں	۲۸
۳۵۳	مرد مومن کا قوم فرعون کو بار بار نصیحت کرنا	۳۳۳	۳۸	اللہ تعالیٰ خود بلند ہے اور مخلوق کے درجات بلند	۲۹
	حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے	۳۳۳	۳۹	کرنے والا ہے	
۳۵۴	زمانہ کے کافروں میں مماثلت	۳۳۵		روح کو وحی سے تعبیر کرنے کی وجوہ	۳۰
۳۵۵	جبار اور متکبر کا معنی اور ان کے متعلق احادیث	۳۳۶	۵۰	قیامت کے دن لوگوں کی مستور چیزوں کا ظاہر ہونا	۳۱
	فرعون نے خدا کو دیکھنے کے لیے جو بلند عمارت	۳۳۷	۵۱	قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی	۳۲
۳۵۶	بنوائی تھی اس کی توجیہ	۳۳۸		ظلم کی اقسام اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے ظلم کی نفی	۳۳
۳۵۷	وقال الذی امن یا قوم اتبعون (۲۸-۵۰)	۳۳۸	۵۲	الایمان اور کاظمین کا معنی	۳۴
	آل فرعون کے مرد مومن کی قوم فرعون کو توحید اور	۳۳۹	۵۳	مرکب کبیرہ کی شفاعت پر معتزلہ کے اعتراض کا	۳۵
۳۶۰	دنیا سے بے رغبتی کی نصیحتیں			جواب	
۳۶۱	بہ قدر جرم سزا دینا	۳۳۹	۵۴	آنکھوں کی خیانت اور دل کی چھپی ہوئی باتیں	۳۶
۳۶۱	اعمال کے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل	۳۴۰	۵۵	اولم یسیروا فی الارض فی نظر و (۲۱-۲۷)	۳۷
۳۶۱	جنت کی نعمتیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار	۳۴۲	۵۶	کفار مکہ کو دنیا کے عذاب سے ڈرانا	۳۸
۳۶۲	لا جرم کا معنی	۳۴۲	۵۷	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت	۳۹
۳۶۳	تفویض کا معنی	۳۴۲	۵۸	موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا قصہ بیان فرمانا	
۳۶۴	آل فرعون کے مرد مومن کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھنا	۳۴۲	۵۹	فرعون کی قوم فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے	۴۰
	آل فرعون کو قبر میں اور آخرت میں عذاب پر پیش	۳۴۲	۶۰	قتل سے کیوں باز رکھنا چاہتی تھی؟	
۳۶۵	کرنا	۳۴۵		حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اسرار و رموز	۴۱
۳۶۵	عذاب قبر کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات	۳۴۶	۶۱	وقال رجل مومن من ال فرعون (۲۸-۳۷)	۴۲
۳۶۶	عذاب قبر کے ثبوت میں احادیث	۳۴۶	۶۲	قوم فرعون کے مرد مومن کا تعارف اور اس کی	۴۳
	عذاب قبر کی نفی پر قرآن مجید سے دلائل اور ان کے	۳۴۶	۶۳	فضیلت اور اس کے ضمن میں حضرت ابو بکر کی	
۳۷۴	جوابات	۳۴۹		فضیلت	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات اور دعا کی شرائط اور	۸۳	۳۷۴	عذاب قبر کے خلاف عقلی شبہات کے جوابات	۶۴
۴۰۱	اوقات کے متعلق علماء اور فقہاء کے اقوال		۳۷۶	عذاب قبر کی مزید وضاحت	۶۵
	بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے متعلق امام	۸۴	۳۷۷	دوزخ میں کافروں کا مباحثہ	۶۶
۴۰۲	رازی کی توجیہ			آخرت میں کفار کی دعاؤں کو قبول نہ فرمانا آیا اللہ	۶۷
۴۰۲	امام رازی کے جواب پر مصنف کی نقد و نظر	۸۵	۳۷۸	تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے کے منافی ہے یا نہیں؟	
	اللہ الذی جعل لکم الیل لتسکنوا فیہ	۸۶	۳۷۹	انا لننصر رسلنا والذین امنوا (۶۰-۵۱)	۶۸
۴۰۶	(۶۱-۶۸)		۳۸۱	رسولوں اور مومنین کی نصرت کے محامل	۶۹
	رات کو عبادت، غفلت اور معصیت میں گزارنے	۸۷	۳۸۲	کفار اور مشرکین کے اعذار کا ناقابل قبول ہونا	۷۰
۴۰۸	والے			حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی دنیا	۷۱
۴۰۹	اللہ تعالیٰ کی انسان پر تین قسم کی نعمتیں	۸۸	۳۸۲	میں نصرت	
	قرآن اور ذکر میں مشغول ہونا زیادہ افضل ہے یا	۸۹		ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی	۷۲
۴۱۰	دعا کرنے میں؟		۳۸۳	نصرت	
۴۱۱	تخلیق انسان کے مراحل	۹۰		ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے	۷۳
۴۱۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار	۹۱	۳۸۴	حکم کی مفسرین کے نزدیک توجیہات	
	الم ترالی الذین یجادلون فی آیات اللہ	۹۲		ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے حکم	۷۴
۴۱۲	(۶۹-۷۸)		۳۸۵	کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نزدیک توجیہات	
	المومن: ۶۹ میں مجادلین سے مراد مشرکین ہیں یا	۹۳		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کتنی بار استغفار	۷۵
۴۱۳	منکرین تقدیر؟		۳۸۹	کرتے تھے اور آپ کے استغفار کا محمل	
	منکرین تقدیر کے متعلق احادیث اور ان سے	۹۴		نیک اعمال کا مشکلات سے بچانا اور عذاب سے	۷۶
۴۱۵	تعلقات کا شرعی حکم		۳۹۰	چھڑانا	
۴۱۶	مشکل الفاظ کے معانی	۹۵	۳۹۲	فتنہ باز لوگوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا	۷۷
۴۱۶	آخرت میں کفار کا عذاب	۹۶	۳۹۳	حشر و نشر پر دلیل	۷۸
۴۱۷	مشرکین کے فرماشی معجزات عطا نہ کرنے کی وجہ	۹۷	۳۹۴	ایمان کامل کا معیار	۷۹
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی اور علم ماکان وما	۹۸		المومن: ۶۰ میں دعا کا معروف معنی مراد ہے یا دعا	۸۰
۴۱۷	یکون پر ایک اعتراض کا جواب		۳۹۵	سے عبادت کرنے کا معنی مراد ہے؟	
۴۱۸	نبیوں رسولوں کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق	۹۹	۳۹۵	دعا کی ترغیب اور فضیلت میں احادیث	۸۱
	جن نبیوں کا قرآن مجید میں صراحتاً نام ہے اور جن	۱۰۰		دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات اور قبولیت دعا کی	۸۲
۴۲۰	کا اشارتا نام ہے		۳۹۷	شرائط	

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
۴۴۵	کفار مکہ کو آسمانی عذاب سے ڈرانے کی توجیہ	۲۲۰	۱۸	اللہ الذی جعل لکم الانعام (۷۹-۸۵)	۱۰۱
۴۴۵	امام رازی کی توجیہ اور اس پر مصنف کا تبصرہ	۲۲۲	۱۹	اللہ تعالیٰ کے بندوں پر انعامات اور احسانات	۱۰۲
	اس امت سے صرف آسمانی عذاب اٹھایا گیا ہے	۲۲۳	۲۰	توحید اور رسالت پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں	۱۰۳
۴۴۶	مسخ اور وسخ کا عذاب نہیں اٹھایا گیا	۲۲۳		کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت	۱۰۴
۴۴۷	قوم عاد کی طرف متعدد رسول آنے کے محال		۲۱	موت کے فرشہ یا آثار عذاب کو دیکھ کر توبہ قبول نہ ہونے کی تحقیق	۱۰۵
۴۴۸	قوم عاد کا تکبر	۲۲۳	۲۲	سورت المؤمن کا خاتمہ	۱۰۶
۴۴۹	رتح صرصر کا معنی	۲۲۶	۲۳		
	قوم عاد پر آندھی کا عذاب بھیجنے کے متعلق احادیث	۲۲۷	۲۴	سورۃ حم السجدۃ	
۴۴۹	اطلاقات قرآن میں ریح اور ریح کا معنوی فرق اور اس پر بحث و نظر	۲۲۷	۲۵	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۴۵۰	ایام نحسات کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال	۲۳۰	۲۶	حم السجدہ کا زمانہ نزول	۲
۴۵۲	بعض ایام کے منحوس ہونے کے ثبوت میں احادیث	۲۳۱	۲۷	حم السجدہ کے مشمولات	۳
۴۵۳	بعض ایام کے مبارک ہونے کے ثبوت میں احادیث	۲۳۱	۲۸	حم ۰ تنزیل من الرحمن الرحیم (۱-۸)	۴
۴۵۴	بعض ایام کی نحوست کے ثبوت میں پیش کی گئی احادیث کی تحقیق	۲۳۲	۲۹	حم کے معانی	۵
۴۵۵	بعض دنوں کے منحوس ہونے کے متعلق مصنف کی تحقیق	۲۳۸	۳۰	قرآن مجید کی دس صفات	۶
۴۵۵	منحوس کا معنی	۲۳۸	۳۱	کفار کے دلوں پر پردوں اور کانوں میں ڈاٹ کا سبب	۷
۴۵۶	نحوست اور بدشگونی کے رد میں قرآن مجید کی آیات	۲۳۹	۳۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی تحقیق	۸
۴۵۷	عورت، گھوڑے اور مکان میں نحوست کی روایت کے جوابات	۲۴۲	۳۳	استقامت کا معنی اور اس کی اہمیت	۹
۴۶۰	نحوست اور بدشگونی کے بحث میں خلاصہ کلام	۲۴۳	۳۴	استقامت کو استغفار پر مقدم کرنے کی توجیہ	۱۰
۴۶۲			۳۵	زکوٰۃ نہ دینے پر مشرکین کی مذمت کی توجیہ	۱۱
				آیا کفار فروع کے مخاطب ہیں یا نہیں؟	۱۲
				مومن کی صحت کے ایام کے نیک اعمال کا سلسلہ مرض اور سفر میں بھی منقطع نہیں ہوتا	۱۳
				قل انکم لتکفرون بالذی (۹-۱۸)	۱۴
				مشرکین کے کفر کی تفصیل	۱۵
				زمین آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کرنے کی تفصیل	۱۶
				زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کرنے کے متعلق احادیث اور آثار	۱۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۸۲	عباد صالحین پر اللہ تعالیٰ کے انعامات	۵۶	۴۶۳	اس سوال کا جواب کہ قوم شہود ہدایت پانے کے بعد کیسے گمراہ ہوگئی	۳۶
۴۸۳	فرشتوں کا مؤمنین کے لیے معاون اور مددگار ہونا	۵۷	۴۶۵	صاعقہ کا معنی	۳۷
۴۸۵	فرشتے موت کے وقت مؤمنین کو جن انعامات کی بشارت دیتے ہیں	۵۸	۴۶۵	ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار (۱۹-۲۵)	۳۸
۴۸۷	ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ	۵۹	۴۶۸	انسان کے اعضاء کے نطق کے ثبوت میں احادیث	۳۹
۴۸۹	سابقہ آیات سے مناسبت	۶۰	۴۶۸	انسان کے اعضاء کے نطق کی کیفیت میں اقوال مفسرین	۴۰
۴۸۹	واعظ اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وعظ پر خود بھی عمل کرے	۶۱	۴۶۹	کان آنکھ اور کھال کی خصوصیت کی توجیہ	۴۱
۴۹۰	”میں انشاء اللہ مومن ہوں“ یا ”میں بالیقین مومن ہوں“ کہنے کی تحقیق	۶۲	۴۶۹	اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس گمان کی مذمت کہ اس کو بندوں کے اعمال کا علم نہیں ہوگا	۴۲
۴۹۲	قرآن اور سنت سے انبیاء اور مرسلین کی دعوت کا ثبوت	۶۳	۴۶۹	اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے متعلق احادیث	۴۳
۴۹۲	قرآن اور سنت سے علماء دین کی دعوت کا ثبوت	۶۴	۴۷۰	عتاب کا معنی اور دوزخ میں کفار کے عذاب کا لزوم	۴۴
۴۹۳	علماء دین کی اقسام	۶۵	۴۷۱	قیض کا معنی	۴۵
۴۹۳	قرآن اور سنت سے امراء اور حکام کی دعوت کا ثبوت	۶۶	۴۷۱	جہاد بالنفس اور جہاد اکبر کے متعلق احادیث	۴۶
۴۹۵	قرآن اور سنت سے مؤذنین کی دعوت کا ثبوت	۶۷	۴۷۲	مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو قول ثابت ہے اس کا بیان	۴۷
۴۹۶	اذان کی فضیلت میں احادیث	۶۸	۴۷۳	اللہ تعالیٰ کے گناہ کا ارادہ کرنے کے متعلق امام رازی اور ابوعلی جبائی کی معرکہ آرائی	۴۸
۴۹۷	انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا	۶۹	۴۷۳	امام رازی اور ابوعلی جبائی کے درمیان مصنف کا محاکمہ اور اللہ تعالیٰ کی تزیہ اور تعظیم	۴۹
۴۹۹	مسجد میں اذان دینے کا شرعی حکم	۷۰	۴۷۶	وقال الذین کفروا لا تسمعوا (۲۶-۳۲)	۵۰
۵۰۲	قرآن اور سنت سے عام مؤمنین کی دعوت کا ثبوت	۷۱	۴۷۷	کفار کے جرائم اور ان کی سزا	۵۱
۵۰۳	نیکی اور بدی کے متعلق مفسرین کے اقوال	۷۲	۴۷۹	استقامت کا لغوی اور شرعی معنی	۵۲
۵۰۴	حسن اخلاق کے متعلق احادیث	۷۳	۴۷۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استقامت کی تفسیر	۵۳
۵۰۵	لوگوں کی زیادتی پر صبر کرنا اور انہیں جواب نہ دینا	۷۴	۴۸۰	صحابہ کرام اور فقہاء تابعین سے استقامت کی تفسیر	۵۴
	اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے		۴۸۱	استقامت کے حصول کا دشوار ہونا	۵۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۲۱	اللہ تعالیٰ کا علم غیب قطعی اور ذاتی ہے اور مخلوق کو بالواسطہ غیب کا علم ہو سکتا ہے	۹۵	۵۰۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنا	۷۵
۵۲۲	انسان کی ناپاسی اور ناشکری	۹۶		غصہ نہ کرنے اور معاف کر دینے کی فضیلت میں	۷۶
۵۲۳	قرآن پر ایمان لانے کی کافروں کو نصیحت	۹۷	۵۰۷	قرآن اور سنت کی تصریحات	
۵۲۳	انسان کے اپنے نفسوں میں اور اس کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں	۹۸	۵۰۹	غصہ کرنے کے دینی اور دنیاوی نقصانات	۷۷
۵۲۳	قرآن عقلیہ اور شواہد کے خلاف شہادت کا غیر معتبر ہونا	۹۹	۵۱۰	اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پر دلیل	۷۸
۵۲۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کا تہمت سے بری ہونا	۱۰۰	۵۱۰	سورج گہن کے وقت نماز پڑھنا	۷۹
۵۲۵	قرآن عقلیہ اور شواہد کے خلاف شہادت کے غیر معتبر ہونے کے متعلق فقہاء اسلام کی تصریحات	۱۰۱	۵۱۰	سورج گہن کی نماز کے طریقہ میں مذاہب ائمہ	۸۰
۵۲۸	آفاق اور نفس کی نشانیوں کا تجزیہ	۱۰۲	۵۱۱	فقہاء احناف کے نزدیک سورج گہن کی نماز کا طریقہ	۸۱
۵۲۹	حکم السجدہ کا خاتمہ	۱۰۳	۵۱۲	آیت سجدہ	۸۲
۵۳۳	سورة الشوریٰ		۵۱۲	فرشتوں کی دائمی تسبیح پر ایک اشکال کا جواب	۸۳
۵۳۳	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۵۱۲	بشر اور فرشتوں میں باہمی افضلیت کی تحقیق اور	۸۴
۵۳۵	الشوریٰ کا زمانہ نزول	۲	۵۱۲	امام رازی کی تفسیر پر بحث و نظر	
۵۳۵	الشوریٰ کے مقاصد اور مباحث	۳	۵۱۳	حشر و نشر کے امکان پر ایک دلیل	۸۵
۵۳۷	حَمَّ ○ عَسَق (۹-۱)	۴	۵۱۳	الحاد کا معنی اور اس کا مصداق	۸۶
۵۳۸	حَمَّ ○ عَسَق کی تاویلات	۵	۵۱۵	جعلی پیروں اور بناوٹی صوفیوں کا الحاد	۸۷
۵۳۹	وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶		قرآن مجید کے سامنے اور پیچھے سے باطل نہ آنے کے محال	۸۸
۵۴۰	وحی کے متعلق احادیث	۷	۵۱۶	کفار کی دل آزار باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۸۹
۵۴۲	اللہ تعالیٰ علی الاطلاق عظیم اور بلند ہے	۸	۵۱۶	قرآن مجید کو غور سے نہ سننے کی وجہ سے کفار کا قرآن کی ہدایت سے محروم ہونا	۹۰
۵۴۲	فرشتوں کا تسبیح اور حمد کرنا	۹	۵۱۷	ولقد اتینا موسیٰ الکتب (۳۶-۳۵)	۹۱
۵۴۳	فرشتے صرف مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں یا تمام روئے زمین والوں کے لیے؟	۱۰	۵۱۷	اہل مکہ کی دل آزار باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۹۲
۵۴۳	اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مستقل مددگار بنا لینا گمراہی ہے	۱۱	۵۱۸	ظلم کی مذمت میں احادیث	۹۳
۵۴۳			۵۱۹	الیہ یرد علم الساعة (۵۳-۴۷)	۹۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۶۳	مجذوب اور سالک کی تعریفات	۳۱	۵۴۳	مکہ کو ام القریٰ فرمانے کی توجیہ	۱۲
۵۶۳	امام رازی کے نزدیک اصول اور عقائد میں قیاس جائز نہیں اور فروع اور احکام میں قیاس جائز ہے	۳۲	۵۴۳	قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عموم	۱۳
۵۶۲	انبیاء علیہم السلام کے بعد دین میں تفرقہ ڈالنے والے کون تھے عرب یا اہل کتاب؟	۳۳	۵۴۴	ایک فریق کے جنتی اور دوسرے فریق کے دوزخی ہونے کے ثبوت میں احادیث	۱۴
۵۶۴	الشوریٰ: ۱۵ سے دس مسائل کا استنباط	۳۴	۵۴۵	بتوں کو ولی اور کار ساز بنانے کی مذمت	۱۵
۵۶۹	اسلام کے خلاف یہود کا اعتراض اور امام رازی کی طرف سے اس کا جواب	۳۵	۵۴۸ (۱۹-۱۰)	وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ	۱۶
۵۶۹	یہود کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے	۳۶	۵۴۸	نزاعی اور اختلافی امور کو اللہ پر چھوڑ دینے کی متعدد تفسیریں	۱۷
۵۷۱	داحضہ کا معنی	۳۷	۵۵۰	قیاس کی نفی پر امام رازی کے نقل کردہ دلائل	۱۸
۵۷۲	الشوریٰ: ۱۸-۱۷ کا خلاصہ	۳۸	۵۵۱	نفی قیاس کی امام رازی کی دلیل پر مصنف کا تبصرہ	۱۹
۵۷۲	میزان کا لغوی اور شرعی معنی	۳۹	۵۵۲	قیاس کی مشروعیت پر دلائل	۲۰
۵۷۳	عجلت کی مذمت اور اطمینان سے کام کرنے کی فضیلت	۴۰	۵۵۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنے کی تحقیق	۲۱
۵۷۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکمت کی وجہ سے وقوع قیامت کی خبر نہ دینا	۴۱	۵۵۴	عہد رسالت میں اجتہاد کے ثبوت پر دلائل	۲۲
۵۷۴	کون سا علم باعث فضیلت ہے؟	۴۲	۵۵۶	صریح حدیث پر عمل کرنے سے حضرت عمر کے منع کرنے کی توجیہات	۲۳
۵۷۴	بندوں پر اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کا معنی	۴۳	۵۵۸	عہد رسالت میں اجتہاد کرنے کے ثبوت میں مزید احادیث	۲۴
۵۷۵	من کان یرید حرث الاخرة نزدلہ فی حرثہ (۲۹-۲۰)	۴۴	۵۶۰	اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے مماثلت کی نفی	۲۵
۵۷۷	حرث کا معنی	۴۵	۵۶۱	آسمانوں اور زمینوں کی چابیوں کے محامل اور رزق کی اقسام	۲۶
۵۷۸	دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب کا فرق	۴۶	۵۶۱	تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہونا اور شریعتوں کا متعدد ہونا	۲۷
۵۷۹	دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کے متعلق احادیث	۴۷	۵۶۱	دین اور شریعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۸
۵۸۰	خود ساختہ شریعتوں کی مذمت	۴۸	۵۶۲	مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ	۲۹
۵۸۱	اپنی عبادت کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھنا	۴۹	۵۶۳	اجتہاد کا معنی	۳۰
۵۸۱	تبلیغ رسالت پر قربت سے محبت کے اجر کے سوال پر ایک اعتراض	۵۰			
۵۸۲					

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۹۹	مال کی زیادتی کی خرابیاں	۶۹		اعتراض مذکور کا یہ جواب کہ اس سے مراد رحم	۵۱
۶۰۰	بعض لوگوں کو امیر اور بعض لوگوں کو فقیر بنانے کی مصلحتیں	۷۰	۵۸۳	کی قرابت ہے اور اس کی تائید میں مستند احادیث	
۶۰۱	کشادگی رزق کی وجہ سے سرکشی کی وجوہات	۷۱		اعتراض مذکور کا یہ جواب کہ اس سے مراد اہل بیت	۵۲
۶۰۱	غیث اور قنوط کا معنی	۷۲		کی محبت ہے اور فضائل اہل بیت میں احادیث	
	بارش ہونے اور بارش نہ ہونے کی وجوہ کے متعلق	۷۳	۵۸۴	صحیحہ	
۶۰۱	احادیث			فضائل اہل بیت میں سابقین کی نقل کردہ موضوع	۵۳
۶۰۳	”ولی حمید“ کا معنی	۷۴	۵۸۵	احادیث	
۶۰۳	مشکل الفاظ کے معانی	۷۵		اس اعتراض کا یہ جواب کہ قربی سے مراد اللہ تعالیٰ	۵۴
۶۰۳	الشوری: ۲۹ کے اسرار	۷۶	۵۸۷	کا قرب ہے	
	وما اصابکم من مصیبة لہما کسبت ایدیکم	۷۷		محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کا عقیدہ صرف اہل	۵۵
۶۰۴ (۳۰-۳۳)			۵۸۸	سنت و جماعت کی خصوصیت ہے	
	مؤمنوں کے مصائب کا ان کے لیے کفارہ ذنوب	۷۸	۵۸۸	محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے متعلق احادیث	۵۶
	نہ ہونے پر امام رازی کے پیش کردہ دلائل اور ان کے جوابات		۵۸۹	اقرار اور شکر کا معنی	۵۷
۶۰۵				سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک اعتراض	۵۸
	مؤمنوں کے مصائب کا ان کے لیے کفارہ ذنوب	۷۹	۵۹۰	کا جواب	
۶۰۷	ہونے کے ثبوت میں احادیث اور آثار		۵۹۱	توبہ کا لغوی اور عرفی معنی	۵۹
۶۰۹	خلاصہ بحث	۸۰	۵۹۱	توبہ کے متعلق احادیث	۶۰
	سمندر میں رواں دواں کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی نشانیاں	۸۱	۵۹۲	مسلمانوں کی بعض دعائیں قبول نہ فرمانے کی حکمتیں	۶۱
۶۱۰			۵۹۳	الشوری: ۲۷ کا شان نزول	۶۲
۶۱۰	اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل	۸۲		آیا ایک سے زائد لباس رکھنا سرکشی اور بغاوت	۶۳
۶۱۱	دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا فرق	۸۳	۵۹۴	ہے؟	
۶۱۱	اثم، کبیرہ اور فحش کا معنی	۸۴	۵۹۴	ایک سے زائد لباس رکھنے کے ثبوت میں احادیث	۶۴
۶۱۲	چند کبار کا بیان	۸۵	۵۹۵	زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور تحقیق	۶۵
۶۱۵	حالت غضب میں معاف کرنے کی فضیلت	۸۶	۵۹۶	اسراف اور اقرار کا محمل	۶۶
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں	۸۷		لذت اور آسائش کے لیے مال خرچ کرنا اسراف نہیں	۶۷
۶۱۶			۵۹۶	ہے	
۶۱۶	نماز نہ پڑھنے پر وعید	۸۸	۵۹۹	مال و دولت کی تقسیم میں مساوات کی خرابیاں	۶۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۳۳	انسان کے کفر کا سبب	۱۰۶	۶۱۷	شوریٰ کا معنی	۸۹
۶۳۴	مذکر اور مؤنث کی پیدائش کی علامات	۱۰۷	۶۱۷	مشورہ کرنے کے متعلق احادیث	۹۰
۶۳۴	انبیاء علیہم السلام کو اولاد عطا فرمانے کی تفصیل	۱۰۸	۶۱۸	الشوریٰ: ۳۸ کا شان نزول	۹۱
۶۳۴	بٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ	۱۰۹		نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا باہمی	۹۲
۶۳۵	اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں	۱۱۰	۶۱۸	مشاورت سے اہم کاموں کو انجام دینا	
۶۳۶	وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۱۱		بدلہ لینے اور بدلہ نہ لینے کی آیتوں میں بہ ظاہر	۹۳
۶۳۷	ضرورت وحی اور ثبوت وحی	۱۱۲	۶۱۹	تعارض کا جواب	
۶۳۹	وحی کی اقسام	۱۱۳		قرض خواہ اپنا حق مقروض کی لاعلمی میں بھی لے	۹۴
	اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام	۱۱۴	۶۲۰	سکتا ہے	
۶۴۱	ہونے کے متعلق شارحین حدیث کی تحقیق		۶۴۱	بدلہ لینے کے جواز میں احادیث	۹۵
	اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام	۱۱۵	۶۲۲	بدلہ نہ لینے اور معاف کر دینے کے متعلق احادیث	۹۶
۶۴۶	ہونے کے متعلق مفسرین کی تحقیق			عام مسلمان اپنے اوپر زیادتی کرنے والے کو خود	۹۷
	نزول قرآن سے پہلے آپ کو اجمالی طور پر قرآن	۱۱۶	۶۲۳	سزا دے سکتا ہے یا نہیں؟	
۶۴۷	عطا کیا جانا		۶۲۵	ظلم اور ناحق سرکشی کرنے والوں کے مصادیق	۹۸
	اس اشکال کے جوابات کہ نزول قرآن سے پہلے	۱۱۷	۶۲۵	انکم فیکس اور دیگر ٹیکسوں کی تحقیق	۹۹
۶۴۷	آپ کو کتاب کا پتا تھا نہ ایمان کا			اپنے مال کے حق اور عزت کے حق کو معاف	۱۰۰
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اور ایمان کے علم کی	۱۱۸	۶۲۶	کرنے کے سلسلہ میں علماء کے نظریات	
۶۴۷	نفی کی دیگر مفسرین کی طرف سے توجیہات		۶۲۸	عزم عزیمت اور رخصت کا معنی	۱۰۱
۶۴۸	اشکال مذکور کی مصنف کی طرف سے توجیہات	۱۱۹		ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعدہ	۱۰۲
۶۴۹	سورۃ الشوریٰ کا اختتام	۱۲۰	۶۲۹	(۵۳-۴۴)	
۶۵۱	سورۃ الزخرف			اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دینے کی نسبت کرنی	۱۰۳
۶۵۱	سورت کا نام	۱		چاہیے اور گمراہ کرنے کی نسبت شیطان کی طرف	
۶۵۱	سورت کے مقاصد	۲	۶۳۱	کرنی چاہیے	
۶۵۳	حمّٰی والکتب المبین (۱-۱۵)	۳		اس سوال کا جواب کہ قرآن مجید کی ایک آیت	۱۰۴
۶۵۳	حمّٰی والکتب المبین کی تفسیریں	۴		میں قیامت کے دن کفار کے بیٹا ہونے کا ذکر	
۶۵۵	کتاب کو قرآن عربی فرمانے کی وجوہ	۵	۶۳۲	ہے اور دوسری آیت میں نابینا ہونے کا ذکر ہے	
	لوح محفوظ میں قرآن مجید اور مخلوق کے اعمال کا	۶		وعد اور وعید سنانے کے بعد انسان کو اللہ پر ایمان	۱۰۵
۶۵۵	ثابت ہونا	۶۳۳		لانے کی دعوت	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	جبریہ کی حمایت میں امام رازی کے عقلی دلائل کے جوابات	۲۸	۶۵۶	کفار مکہ کی شقاوت اور ایذا رسانی	۷
۶۷۱			۶۵۷	انسان کا ظلم اور اللہ تعالیٰ کا کرم	۸
۶۷۲	”مستمسکون“ کا معنی	۲۹	۶۵۸	انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت کا ہونا	۹
۶۷۲	امت کے معانی	۳۰	۶۵۸	زمین کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے نعمتیں	۱۰
۶۷۳	دنیاوی مال و متاع کا مذموم ہونا	۳۱		بارش نازل کرنے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر استدلال	۱۱
۶۷۳	”اھدی“ کے معنی میں مترجمین کی آراء	۳۲	۶۵۸		
۶۷۵	تقلید کی تحقیق	۳۳	۶۵۹	ازواج کی تخلیق سے توحید پر استدلال	۱۲
۶۷۶	واذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ (۲۶-۳۵)	۳۴		چوپایوں اور کشتیوں کی تخلیق سے توحید پر استدلال	۱۳
۶۷۷	کفار مکہ کی بت پرستی کے خلاف اسوۃ ابراہیم سے استدلال	۳۵	۶۶۰		
۶۷۷				سفر پر روانہ ہونے کے وقت سواری پر بیٹھنے کے بعد کی دعا	۱۴
۶۷۸	اہل مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کا کفر اور استہزاء	۳۶	۶۶۰		
۶۷۸			۶۶۱	سفر سے واپسی کی دعا	۱۵
۶۷۹	کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا	۳۷	۶۶۲	جمال کا معنی اور موسیٰ کیوں کا جمال	۱۶
۶۸۱	دنیا کی زیب و زینت کفار کے لیے ہے	۳۸	۶۶۲	بکریوں، گایوں اور اونٹوں کے مقاصد اور وظائف خلقت	۱۷
۶۸۱	اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا حقیر ہونا	۳۹	۶۶۳	جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت	۱۸
۶۸۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فقر کو پسند کرنے کی وجوہ	۴۰	۶۶۳	ام اتخذ مما یخلق بنت (۱۶-۲۵)	۱۹
۶۸۳	ومن یعش عن ذکر الرحمن (۳۶-۳۵)	۴۱	۶۶۵	اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا ہونا محال ہے	۲۰
۶۸۳	اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا وہاں معصیت میں شیطان کی اتباع دوزخ میں شیطان کی اتباع کو مستلزم ہے	۴۲	۶۶۶	عورتوں کے ناقص ہونے کی وجوہ	۲۱
۶۸۵	کفار مکہ کی ضد اور عناد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۴۳	۶۶۷	کفار کے اس قول کا رد کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں	۲۲
۶۸۵			۶۶۷	کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے	۲۳
۶۸۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے متعلق احادیث	۴۴	۶۶۸	معتزلہ کا جبریہ پر اعتراض اور امام رازی کا جبریہ کی طرف سے جواب	۲۴
۶۸۶			۶۶۹	جبریہ کی حمایت میں سورۃ الانعام کی تقریر	۲۵
۶۸۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے قرآن مجید کا شرف عظیم ہونا	۴۶	۶۶۹	جبریہ کی حمایت میں امام رازی کے عقلی دلائل	۲۶
۶۸۷			۶۷۰	انسانوں کے لیے اختیار کے ثبوت میں مصنف کی تقریر	۲۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۷	گزشتہ رسولوں سے سوال کرنے کی توجیہات	۲۵	۲۸۸	”انسی متوفیک ورافعک الی“ پر مرزائیہ کے اعتراض کا جواب	۴۰۸
۴۸	ولقد ارسلنا موسیٰ بایتنا (۳۶-۵۶)	۲۶	۲۹۰	”ومکروا مکروا اللہ“ سے حضرت عیسیٰ کے نزول پر استدلال	۴۰۸
۴۹	حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصہ کو یہاں ذکر کرنے کے مقاصد اور فوائد	۲۷	۲۹۱	اللہ کی خفیہ تدبیر کے مطابق ایک شخص پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈالنا	۴۰۸
۵۰	ولما ضرب ابن مریم مثلاً (۶۷-۵۷)	۲۸	۲۹۵	”یکلم الناس فی المهد وکھلا“ سے حضرت عیسیٰ کے نزول پر استدلال	۴۰۹
۵۱	الزخرف: ۵۷ کے شان نزول میں پہلی روایت	۲۹	۲۹۶	”وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بہ“ سے حضرت عیسیٰ کے نزول پر استدلال	۴۱۰
۵۲	الزخرف: ۵۷ کے شان نزول میں دوسری روایت	۳۰	۲۹۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان	۴۱۰
۵۳	سید مودودی کا شان نزول میں حدیث وضع کرنا	۳۱	۲۹۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں	۴۱۱
۵۴	مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی بہ نسبت اپنے بتوں کی عبادت کو افضل قرار دینا	۳۲	۳۰۰	مذکورہ استدلال پر مرزائیہ کے اعتراض کا جواب	۴۱۱
۵۵	آیا کفار نے اپنے بتوں کو بہتر قرار دیا تھا یا حضرت عیسیٰ کو؟	۳۳	۳۰۱	”وما محمد الا رسول“ سے مرزائیہ کے اعتراض کا جواب	۴۱۲
۵۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے تھے، خدا یا خدا کے بیٹے نہ تھے	۳۴	۳۰۲	اعتراض کا جواب	۴۱۲
۵۷	فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں نہ ہونے کی ایک اور دلیل	۳۵	۳۰۳	مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات سے حیات مسیح اور نزول مسیح پر استدلال	۴۱۳
۵۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کی تحقیق	۳۶	۳۰۳	مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ مسیح موعود اور دعویٰ نبوت کا ابطال	۴۱۵
۵۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے متعلق احادیث	۳۷	۳۰۳	حضرت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دینا	۴۱۶
۶۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۸	۳۰۴	خلیل کے معانی	۴۱۸
۶۱	یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا دعویٰ کیا	۳۹	۳۰۴	دنیاوی تعلق کا ناپائیدار ہونا	۴۱۸
۶۲	یہود کا حضرت عیسیٰ کے مشابہ قتل کرنا	۴۰	۳۰۴	یعباد لا خوف علیکم الیوم (۸۹-۷۸)	۴۱۹
۶۳	”ہل دفعہ اللہ الیہ“ پر مرزائیہ کے اعتراض کے جوابات	۴۱	۳۰۴	مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں	۴۲۲
۶۴	”انسی متوفیک ورافعک الی“ سے حضرت عیسیٰ کے نزول پر استدلال	۴۲	۳۰۵	سونے اور چاندی کے برتنوں کا حرام ہونا	۴۲۲
		۴۳	۳۰۵	سونے اور چاندی کے ظروف آرائش اور چار انگلی سونے، چاندی اور ریشم کے کام والے کپڑوں کا جواز	۴۲۳
			۳۰۶		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	نصف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت سے متعلق صحاح کی احادیث	۹	۷۲۴	سونے اور چاندی کے ظروف کی تفصیل	۸۳
۷۲۴			۷۲۵	چار انگل ریشم کے کام کے جواز کی مزید تفصیل	۸۴
	نصف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت سے متعلق امام بیہقی کی احادیث	۱۰	۷۲۶	مرد کے زیور پہننے کی تفصیل	۸۵
۷۲۵			۷۲۷	جنت کی وراثت کی توجیہ	۸۶
	نصف شعبان کی شب کے فضائل میں حافظ سیوطی کی روایات	۱۱	۷۲۸	دوزخ کے نگران فرشتے مالک سے اہل دوزخ کا کلام	۸۷
۷۲۷				آپ کے خلاف سازش کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا انتقام لینا	۸۸
۷۲۷	کثرت مغفرت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۲		الزخرف: ۸۰ کا شان نزول	۸۹
۷۲۷	کثرت مغفرت کے متعلق احادیث صحیحہ	۱۳	۷۲۹	اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی مذمت اور اس پر وعید	۹۰
۷۲۸	توبہ اور استغفار کے متعلق احادیث صحیحہ	۱۴	۷۲۹	اس پر دلائل کہ حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں	۹۱
	والدین اور اعزہ کے لیے استغفار کے متعلق احادیث صحیحہ	۱۵	۷۲۹	غیر اللہ کی عبادت کا باطل ہونا	۹۲
۷۲۹			۷۳۰	مشرکین کو بت پرستی پر ملامت کرنا	۹۳
	توبہ پر اصرار کرنے اور استغفار کو لازم رکھنے کے متعلق احادیث صحیحہ	۱۶	۷۳۱	الزخرف: ۸۸ کی نحوی تراکیب	۹۴
۷۳۰			۷۳۱	کافروں کو سلام کرنے کا مسئلہ	۹۵
	دعا قبول نہ ہونے سے نہ اکتائے نہ مایوس ہو بلکہ مسلسل دعا کرتا رہے	۱۷	۷۳۲	الزخرف کا خاتمہ	۹۶
۷۵۱				سورة الدخان	
	شرک، زنا اور قتل ناحق کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا	۱۸	۷۳۲	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۷۵۱			۷۳۲	سورة الدخان کی فضیلت میں احادیث	۲
	کینہ اور بغض کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا	۱۹	۷۳۷	سورة الدخان کے مقاصد اور مسائل	۳
۷۵۲			۷۳۸	خم O والکتب المبین (۱-۲۹)	۴
	والدین کی نافرمانی کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا	۲۰	۷۳۹	حامیم کا معنی	۵
۷۵۳			۷۴۱	"لیلۃ مبارکۃ" سے لیلۃ القدر مراد ہونے کے ثبوت میں آثار	۶
	دعا کی قبولیت سے محروم ہونا	۲۱	۷۴۱	"لیلۃ مبارکۃ" سے لیلۃ القدر مراد ہونے پر دلائل	۷
۷۵۶			۷۴۲	لیلۃ مبارکۃ سے نصف شعبان کی شب مراد ہونے کے متعلق روایات	۸
	عادی شرابی کا شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا	۲۲	۷۴۲		
۷۵۷			۷۴۲		
	چغلی گھانے کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا	۲۳	۷۴۲		
۷۵۷			۷۴۲		
	تصویریں بنانے کی وجہ سے شب برأت میں دعا	۲۴	۷۴۲		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۷۷	آخرت میں متقین کے اجر و ثواب کی بشارت	۴۵	۷۵۸	کی قبولیت سے محروم ہونا	
۷۷۸	امام رازی کا فاسق کو جنت کی بشارت میں داخل کرنا اور مصنف کا اس سے اختلاف	۴۶	۷۵۹	شب برأت میں شب بیداری کرنا اور مخصوص عبادت کرنا	۲۵
۷۷۸	اہل جنت کے درمیان بغض اور کینہ کا نہ ہونا	۴۷	۷۵۹	شب برأت میں صلوٰۃ التبیح اور دیگر نوافل کو باجماعت پڑھنا	۲۶
۷۷۹	حور کا معنی اور جنت میں حوروں سے عقد کا محمل	۴۸	۷۶۰	فرائض کی قضاء کو نوافل کی ادائیگی پر مقدم کرنا	۲۷
۷۸۰	دنیاوی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟	۴۹	۷۶۱	کفار کا اللہ کو خالق ماننا محض ان کا مشغلہ اور دل لگی ہے	۲۸
۷۸۱	اہل جنت کی دائمی نعمتیں	۵۰	۷۶۱	آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا	۲۹
۷۸۲	اس کی تحقیق کہ موت وجودی ہے یا عادی	۵۱	۷۶۱	دوسری روایت میں ہے: آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت	۳۰
۷۸۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار اور کفار مکہ کے انتظار کے الگ الگ محمل	۵۲	۷۶۳	آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجیہ	۳۱
۷۸۲	قرآن مجید کے آسان ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	۵۳	۷۶۳	دونوں روایتوں میں اصح روایت کا بیان	۳۲
۷۸۳	سورۃ الدخان کا خاتمہ	۵۴	۷۶۳	دھوئیں کی دو تفسیروں کے محامل	۳۳
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۶۵	سخت گرفت کے ساتھ پکڑنے کی متعدد تفسیریں	۳۴
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۶۵	قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالنے کی توجیہ	۳۵
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۶۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ماجرا	۳۶
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۶۸	نیک آدمی کی موت پر آسمان اور زمین کا رونا	۳۷
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۶۸	ولقد نجینا بنی اسرائیل (۳۰-۵۹)	۳۸
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۷۱	بنی اسرائیل کی فضیلت اور ان کی آزمائش	۳۹
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۷۱	کفار کے مطالبہ پر ان کے مرے ہوئے باپ دادا کو کیوں نہیں زندہ کیا گیا، الماوردی اور القرطبی کا جواب	۴۰
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۷۲	اعتراض مذکور کا جواب مصنف کی جانب سے	۴۱
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۷۳	تبع اور اس کی قوم کا بیان	۴۲
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۷۵	روز قیامت کو فیصلہ کا دن فرمانے کی توجیہات	۴۳
۷۸۳	سورۃ الجاثیہ		۷۷۶	آخرت میں کفار کے عذاب کی وعید	۴۴
۷۹۰	احادیث				

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۰۵	قرآن مجید کا ہدایت اور رحمت ہونا	۲۹		ان لوگوں کی مذمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۱
۸۰۶	توحید کے مراتب	۳۰		کی زبان سے قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں	
۸۰۷	جرح اور اجتراح کا معنی	۳۱		لائے اور ان لوگوں کی مدح جو آپ سے قرآن	
	کفار کی زندگی اور موت کا مسلمانوں کے برابر نہ	۳۲	۷۹۱	سنے بغیر ایمان لے آئے	
۸۰۷	ہونا			ان لوگوں کی مدح میں احادیث جو آپ کو بن	۱۲
	وخلق الله السموات والارض بالحق	۳۳	۷۹۲	دیکھے آپ پر ایمان لے آئے	
۸۰۹	(۲۴-۲۶)		۷۹۳	ویل کا معنی	۱۳
	اللہ سبحانہ کا کفار اور فجار کو عذاب دینا اس کا ظلم	۳۴	۷۹۳	اصرار کا معنی	۱۴
۸۱۰	نہیں عدل ہے		۷۹۴	آیات مذکورہ کے اشارات	۱۵
	اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف اپنی خواہشوں پر	۳۵		اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری	۱۶
۸۱۱	عمل کرنا اپنی خواہشوں کی عبادت کرنا ہے		۷۹۵	الفلک (۱۲-۲۱)	
	بعض بندوں کو رسول بنانے اور بعض کو گمراہ بنانے	۳۶		بحری جہازوں کا سمندر میں چلنا اللہ تعالیٰ کی کن	۱۷
۸۱۱	کی توجیہ		۷۹۷	نعمتوں پر موقوف ہے؟	
	کفار کے کان اور دل پر مہر لگانے اور ان کی	۳۷	۷۹۷	آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	۱۸
۸۱۲	آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی توجیہ			اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی صفات میں غور و فکر	۱۹
	سورۃ البقرہ اور سورۃ الجاثیہ دونوں میں کانوں اور	۳۸	۷۹۸	کے متعلق احادیث	
۸۱۳	دلوں پر مہر لگانے کے الگ الگ محامل		۷۹۸	الجاثیہ: ۱۳ کے شان نزول کی تحقیق	۲۰
	جو اللہ رسول اور ائمہ کو ہادی نہیں مانے گا وہ	۳۹	۸۰۰	فجور ظاہر اور فجور باطن	۲۱
۸۱۴	شیطان کا قبیح ہوگا		۸۰۰	بنو اسرائیل کو دی گئی نعمتیں	۲۲
۸۱۴	کفار کے نقل کردہ قول پر ایک اعتراض کا جواب	۴۰		بغض و عناد کی بناء پر بنو اسرائیل کا حق سے انکار	۲۳
۸۱۵	دہر کا لغوی اور عرفی معنی	۴۱	۸۰۱	کرنا	
۸۱۵	دہر کے متعلق احادیث	۴۲	۸۰۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ممتاز اور منفرد ہونا	۲۴
۸۱۶	کلمات حدیث کی تشریح	۴۳		آپ کی شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی طرف	۲۵
	کفار اور دہریے بلا دلیل اللہ سبحانہ کا انکار کرتے	۴۴	۸۰۲	التفات کرنا جائز نہیں	
۸۱۶	ہیں		۸۰۳	آپ کو جاہلوں کی اتباع سے منع کرنے کا محمل	۲۶
۸۱۶	حشر و نشر کے انکار پر کفار کی حجت کا جواب	۴۵		بعض مفسرین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی	۲۷
	اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی توحید قیامت اور حشر و	۴۶	۸۰۴	محبت اور ادب سے محروم تفسیر	
۸۱۷	نشر پر دلیل		۸۰۵	بصیرت کے معنی کی تحقیق	۲۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
				وللہ ملک السموات والارض	۴۷
			۸۱۷	(۳۷-۴۷)	
			۸۱۹	کفار کا خسارہ	۴۸
				آیا قیامت کے دن سب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے یا صرف کفار؟	۴۹
			۸۱۹	جاشیہ کی تاویلات	۵۰
			۸۲۰	لوگوں کو ان کے صحائف اعمال کی طرف بلانا	۵۱
			۸۲۱	مؤمنوں اور کافروں کی جزاء کے متعلق احادیث	۵۲
			۸۲۱	اللہ کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعارض کا جواب	۵۳
			۸۲۲	حقیقی کامیابی کا مصداق	۵۴
			۸۲۳	جو لوگ دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو آیا وہ مکلف ہیں یا نہیں؟	۵۵
			۸۲۳	قیامت کے متعلق کفار کے دو گروہ	۵۶
			۸۲۳	مُرے کاموں کی آخرت میں بُری اور ڈراؤنی صورتیں	۵۷
			۸۲۵	اللہ تعالیٰ کے بھلا دینے کی توجیہ	۵۸
			۸۲۵	آخرت سے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنا	۵۹
			۸۲۶	سورۃ الجاشیہ کا اختتام	۶۰
			۸۲۷	ماخذ و مراجع	۶۱



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین (تبیان القرآن جلد یازدہم)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
				سورة الاحقاف	
	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار مکہ کے	۱۸	۳۵		
۴۹	اعتراضات کا جواب		۳۵	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۴۹	الاحقاف: ۹ کی تفسیر میں مفسرین کی آراء	۱۹	۳۵	الاحقاف کا معنی	۲
	الاحقاف: ۹ کو دنیا کے احوال نہ جاننے پر محمول	۲۰	۳۶	الاحقاف کا محل وقوع	۳
۵۰	کرنے والے مفسرین		۳۶	سورة الاحقاف کا زمانہ نزول	۴
۵۱	درایت کا معنی	۲۱	۳۶	سورة الاحقاف کے اغراض و مقاصد	۵
	حافظ ابن کثیر اور ان کے موافقین کا جواب	۲۲		حَمَّ ۝ تنزیل الکتب من اللہ العزیز	۶
۵۲	مصنف کی طرف سے		۳۸	الحکیم. (۱۰-۱)	
	درایت تفصیلی کی نفی پر کتب لغت، مفسرین اور	۲۳	۳۹	حامیم اور تنزیل الکتب کے اشارات اور اسرار و رموز	۷
۵۲	شارحین حدیث کی عبارات سے استشہاد		۴۰	حق کا معنی اور مراد	۸
۵۳	خلاصہ بحث	۲۴		اللہ عزوجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور	۹
	الاحقاف: ۹ کے منسوخ ہونے پر مستند علماء اور	۲۵	۴۱	قرآن مجید کا انکار، استخفاف اور استحقار کفر ہے	
۵۵	مفسرین کی تصریحات		۴۳	”اثارة“ کا معنی	۱۰
	الاحقاف: ۹ سے دنیا کے احوال کے علم کی نفی مراد	۲۶	۴۳	الاحقاف: ۴ کا خلاصہ	۱۱
۵۹	لینے کا بطلان			کاہن، عرف، بدشگونوں اور رمال کی تعریفات اور	۱۲
	الاحقاف: ۹ سے امور آخرت کے علم کی نفی مراد	۲۷	۴۴	ان کا شرعی حکم	
۵۹	لینے پر امام رازی کے اعتراضات کے جوابات		۴۴	ذاتی اور عطائی علم غیب کی تحقیق	۱۳
	مخالفین اعلیٰ حضرت کا اس صحیح حدیث پر اعتراض	۲۸	۴۵	بتوں کے نہ سننے کی قیامت تک کی تخصیص کی وجہ	۱۴
	جس کی بنیاد پر الاحقاف: ۹ کو منسوخ قرار دیا			بتوں کا مشرکین کی عبادت سے قیامت کے دن	۱۵
۶۰	گیا		۴۶	بے زاری کا اظہار کرنا	
	مصنف کی طرف سے متعدد حوالوں کے ساتھ	۲۹	۴۶	کفار قرآن مجید کو جادو کیوں کہتے ہیں؟	۱۶
۶۱	حدیث مذکور کے صحیح ہونے پر دلائل		۴۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افتراء کی تہمت کا ابطال	۱۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۶	عالم ارواح میں آپ کی نبوت کا معنی	۴۸	۶۴	اعلیٰ حضرت کے جواب کی تقریر	۳۰
	بعثت سے پہلے آپ کو اپنی نبوت کا علم ہونے کی تحقیق	۴۹		الاحقاف: ۹ کو منسوخ ماننے پر مخالفین اعلیٰ حضرت کے ایک عقلی اعتراض کا جواب	۳۱
۸۶	الاحقاف: ۱۵ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی منفرد فضیلت اور خصوصیت	۵۰	۶۴	مخالفین اعلیٰ حضرت کے ایک نحوی اعتراض کا جواب	۳۲
۸۷	شام کے سفر کے متعلق حدیث ترمذی	۵۱	۶۵	قیاس کے ثبوت پر دلائل	۳۳
۹۰	حدیث ترمذی پر علامہ ذہبی کی تنقید	۵۲	۶۸	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے علم غیب کی تحقیق	۳۴
۹۱	بحیرئ راہب کا واقعہ کتب سیرت میں	۵۳	۶۹	"شہد شاہد من بنی اسرائیل" کے مصداق کی تحقیق	۳۵
۹۱	احسن اعمال پر ایک اشکال کا جواب	۵۴	۷۰	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی سوانح اور ان کے فضائل	۳۶
۹۲	الاحقاف: ۱۵ میں حضرت ابو بکر کی فضیلت پر ایک اعتراض کا جواب	۵۵	۷۱	وقال الذین کفروا (۲۰-۱۱)	۳۷
۹۲	الاحقاف: ۱۷ کے شان نزول میں مختلف روایات اس قول کی ترجیح کہ یہ آیت کافر کے متعلق نازل ہوئی	۵۶	۷۳	قرآن مجید پر کفار مکہ کے اعتراض کا جواب	۳۸
۹۳	حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی سوانح	۵۸	۷۶	اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کا خوف	۳۹
۹۵	نیکو کار اور بدکار کی پوری پوری جزاء	۵۹	۷۷	فساق مؤمنین کی مغفرت پر دلائل	۴۰
۹۵	پسندیدہ اور لذیذ چیزوں کے حصول کی اجازت	۶۰	۷۷	مغفرت کا سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے	۴۱
	آخرت کے ثواب میں اضافہ کی خاطر پسندیدہ اور لذیذ چیزوں کا ترک کرنا اور زہد کو اختیار کرنا	۶۱	۷۸	اولاد پر ماں باپ کے حقوق خصوصاً ماں کے حقوق کے متعلق احادیث	۴۲
۹۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا زہد	۶۲	۸۰	دودھ پلانے کی انتہائی مدت میں فقہاء احناف کا مذہب	۴۳
۹۶	صحابہ کرام کا زہد اختیار کرنا اور ترک زہد کی مذمت کرنا	۶۳	۸۱	دودھ پلانے کی انتہائی مدت میں ائمہ ثلاثہ کے مذہب	۴۴
۹۸	واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ (۲۶-۲۱)	۶۴	۸۱	چالیس سال کی عمر میں انسان کا اپنی قوت کے کمال کو پہنچ جانا	۴۵
۱۰۰	کفار مکہ کو عبرت دلانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا حال سنانا	۶۵	۸۳	چالیس سال کی عمر پوری ہونے کے بعد نبی کا مبعوث ہونا	۴۶
۱۰۱	الاحقاف اور افک کا معنی	۶۶	۸۳	بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کا علم تھا اس پر دلائل	۴۷
۱۰۲	قوم عاد کی جہالت کی وجوہ	۶۷	۸۵		
۱۰۲	قوم عاد پر آندھی کے عذاب کی کیفیت	۶۸			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۲۲	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۱۰۳	قوم عاد پر عذاب کی تفصیل	۶۹
۱۲۲	سورہ محمد کے متعلق احادیث	۲	۱۰۴	آندھیوں کے متعلق احادیث	۷۰
۱۲۳	سورہ محمد کے اغراض	۳		ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى	۷۱
	الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم (۱۱-۱)	۴	۱۰۶ (۳۵-۲۷)		
۱۲۳				اہل مکہ کے اردگرد کی بستیوں کو ہلاک کر کے ان کو عبرت دلانا	۷۲
۱۲۵	اللہ کی راہ سے روکنے والے کفار کے مصادیق	۵	۱۰۸		
	ایمان لانے کے بعد سابقہ گناہوں کے مٹانے اور	۶	۱۰۸	مشرکین کے لیے بتوں کی شفاعت کا باطل ہونا	۷۳
۱۲۶	گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی تحقیق			قرآن سن کر جنات کا ایمان لانے سے اہل مکہ کو	۷۴
۱۲۷	اسم محمد کی تشریح اور تحقیق	۷		ملامت کرنا کہ وہ قرآن سن کر کیوں ایمان نہیں لاتے؟	
۱۲۷	نام محمد کے فضائل اور خصوصیات	۸	۱۰۹		
	آپ کا نام محمد ہونا آپ کے کمال مطلق ہونے کی	۹		جنات کا نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا	۷۵
۱۲۸	دلیل ہے		۱۱۰		
۱۳۰	نام محمد وصف اور علمیت کا جامع ہے اور نداء یا محمد	۱۰		لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابن مسعود بھی تھے یا نہیں؟	۷۶
۱۳۱	اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عظمتیں	۱۱	۱۱۱		
۱۳۳	جن کافروں کے متعلق جہاد کا حکم ہے ان کا مصداق	۱۲	۱۱۲	لیلۃ الجن کی مختلف روایات میں تطبیق	۷۷
	کفار کا خون بہانے کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء	۱۳	۱۱۳	جنات کے قول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہونے کی وجوہ	۷۸
۱۳۳					
۱۳۵	جہاد کا حکم کب ختم ہوگا	۱۴		کافر جب ایمان لے آئے تو آیا اس کے تمام گناہوں کی مغفرت ہوگی یا بعض گناہوں کی؟	۷۹
۱۳۵	اسیران جنگ کے بارے میں اسلام کی ہدایات	۱۵	۱۱۴		
۱۳۶	جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی مشروعیت کا سبب	۱۶	۱۱۴	آیا اطاعت گزار جنات کو ثواب ہوگا یا نہیں؟	۸۰
۱۳۷	جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کے فوائد اور ثمرات	۱۷		اللہ کی طرف دعوت دینے والی کی احادیث میں	۸۱
	شہداء اور صالحین کے لیے آخرت میں نعمتیں اور	۱۸	۱۱۵	مثالیں	
۱۳۸	دخول جنت میں آسانیاں		۱۱۶	مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل	۸۲
	اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے طریقے اور اللہ کا ان کی مدد فرمانا	۱۹	۱۱۷	اولوا العزم کا معنی	۸۳
۱۳۹			۱۱۸	اولوا العزم رسولوں کے مصادیق	۸۴
۱۳۹	”تعساً لہم“ کے معانی	۲۰	۱۲۰	الاحقاف: ۳۵ منسوخ ہے یا نہیں؟	۸۵
۱۴۰	کفار کے اعمال ضائع کرنے کی وجہ	۲۱	۱۲۱	سورۃ الاحقاف کا خاتمہ	۸۶
	سابقہ امتوں پر عذاب کی کیفیت اور اس زمانہ	۲۲	۱۲۲	سورۃ محمد	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۵۶	جہاد سے روگردانی پر منافقوں کے عذر کو رد کرنا	۴۱	۱۴۰	کے کافروں کے عذاب کی کیفیت	
۱۵۷	محمد: ۲۲ میں "ان تولیتہم" کی دو تفسیریں	۴۲	۱۴۱	ان اللہ یدخل اللدین امنوا (۱۹-۱۲)	۲۳
۱۵۸	صلہ رحم کے متعلق احادیث	۴۳		دنیا کی نعمتوں سے استفادہ میں مؤمن اور کافر کی	۲۴
۱۶۰	لعنت کی اقسام میں علامہ شامی کی تحقیق	۴۴	۱۴۳	نیت اور عمل کا فرق	
۱۶۱	لعنت کی اقسام میں مصنف کی تحقیق	۴۵	۱۴۴	مشرکین کے ظلم و ستم پر آپ کو تسلی دینا	۲۵
	یزید پر لعنت کرنے کی بحث اور اس مسئلے میں	۴۶	۱۴۵	جنت میں انواع و اقسام کے مشروبات	۲۶
۱۶۲	علامہ آلوسی کی رائے			جنت میں دخول کے بعد مغفرت کے ذکر کی	۲۷
۱۶۵	لعن یزید کے بارے میں علامہ ابن حجر کی رائے	۴۷	۱۴۵	توجیہات	
۱۶۷	لعن یزید کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی رائے	۴۸	۱۴۶	آخرت میں کفار کا عذاب	۲۸
	یزید کی تکفیر اور اس پر لعنت کے سلسلہ میں مصنف	۴۹		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے	۲۹
۱۶۸	کا موقف		۱۴۶	میں منافقین کی کیفیت	
۱۶۸	نیک اعمال کو آخر عمر تک ملتوی کرنے کی مذمت	۵۰		ہادی ہدایت اور تقویٰ کے مصداق کے متعلق	۳۰
	یہودی اور مشرکین کس چیز میں ایک دوسرے کے	۵۱	۱۴۷	متعدد اقاویل	
۱۶۹	موافق تھے اور کس چیز میں مخالف تھے؟		۱۴۸	قیامت کی نشانیاں	۳۱
۱۷۰	بغیر ایمان کے نیک اعمال کا غیر مفید ہونا	۵۲		آپ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے عالم تھے پھر	۳۲
۱۷۰	أم حسیب الذین فی قلوبہم (۲۹-۳۸)	۵۳	۱۴۹	کیوں فرمایا: جان لیجئے	
۱۷۲	اللہ تعالیٰ کا منافقین کے نفاق کا پردہ چاک فرمانا	۵۴	۱۴۹	علم کی فضیلت اور علم کا عمل پر مقدم ہونا	۳۳
۱۷۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم تھا یا نہیں؟	۵۵		"واستغفر لذنوبک" پر آپ کی عصمت کی بناء پر	۳۴
۱۷۵	اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا معنی	۵۶	۱۵۰	اشکال	
۱۷۵	مسلمانوں کے اعمال ضائع ہونے کی توجیہات	۵۷	۱۵۰	اشکال مذکور کا جواب علامہ قرطبی مالکی کی طرف سے	۳۵
۱۷۶	نظری عبادات کا شروع کرنے کے بعد واجب ہونا	۵۸		اشکال مذکور کا جواب امام رازی شافعی کی طرف	۳۶
۱۷۶	جہاد کی ترغیب اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجوہ	۵۹	۱۵۱	سے	
	جہاد میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور لھو و لعب	۶۰	۱۵۱	اشکال مذکور کا جواب علامہ آلوسی حنفی کی طرف سے	۳۷
۱۷۸	کافر			اشکال مذکور کا جواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا	۳۸
	اللہ تعالیٰ کے مستغنی ہونے اور مخلوق کے محتاج	۶۱	۱۵۲	فاضل بریلوی کی جانب سے	
۱۷۹	ہونے کی وضاحت		۱۵۳	ویقول الذین امنوا لولا (۲۸-۲۰)	۳۹
۱۸۰	اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی جگہ کس قوم کو دے گا؟	۶۲		قتال اور جہاد کی فرضیت سے مسلمانوں کا خوش	۴۰
۱۸۰	سورۃ محمد کا اختتام	۶۳	۱۵۶	ہونا اور منافقوں کا ناخوش ہونا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	مصنف کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی	۲۱	۱۸۲	سورۃ الفتح	
۲۱۷	طرف مغفرت ذنب کی توجیہات		۱۸۲	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۲۲۲	تنخ کی تحقیق	۲۲	۱۸۳	سورۃ الفتح کی پہلی دو سورتوں سے مناسبت	۲
۲۲۲	تنخ کا لغوی معنی	۲۳	۱۸۳	صلح حدیبیہ کا تذکرہ	۳
۲۲۲	تنخ کی اصطلاحی تعریفات	۲۴		ذوالقعدہ میں عمرہ کے لیے روانہ ہونے اور حدیبیہ	۴
	الاتحاف: ۹ کے الفتح: ۲ سے منسوخ ہونے پر	۲۵	۱۸۳	کے مقام پر رو کے جانے کے متعلق احادیث	
۲۲۳	اعتراض اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا جواب		۱۸۹	صلح حدیبیہ کی باقی ماندہ شرائط	۵
	اعلیٰ حضرت کی عبارت پر خلاف تحقیق ہونے کا	۲۶	۱۹۰	بیعت رضوان کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۶
۲۲۴	الزام اور اس کا جواب		۱۹۱	بیعت رضوان کے متعلق احادیث	۷
۲۲۴	الاتحاف: ۹ کے تنخ پر مولینا اویسی کی تحقیق	۲۷	۱۹۲	بیعت رضوان کا مفصل واقعہ	۸
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت لکھی کے	۲۸	۱۹۳	بشارت کی تعیین سے پہلے عمرہ حدیبیہ کی توجیہ	۹
۲۲۵	اعلان کا آپ کی عظیم خصوصیت ہونا		۱۹۷	سورۃ الفتح کا مقام نزول اور زمانہ نزول	۱۰
	عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر کی مغفرت سے رسول	۲۹	۱۹۷	سورۃ الفتح کے مسائل اور مقاصد	۱۱
	اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی خصوصیت پر		۱۹۹	انا فتحنا لك فتحا مبينا (۱۰-۱)	۱۲
۲۲۷	معارضہ کا جواب		۲۰۰	(الفتح: ۱) سے آیا فتح مکہ مراد ہے یا فتح حدیبیہ؟	۱۳
	صاحب یسین کی مغفرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ	۳۰		آپ کی مغفرت کے حصول کا سبب فتح مکہ ہے یا	۱۴
۲۲۸	وسلم کی مغفرت کی خصوصیت پر معارضہ کا جواب		۲۰۱	فتح حدیبیہ یا فتح حجاب ہے	
	اصحاب حدیبیہ کی مغفرت سے رسول اللہ صلی اللہ	۳۱		مفسرین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی	۱۵
۲۲۹	علیہ وسلم کی مغفرت کی خصوصیت پر معارضہ کا		۲۰۳	طرف مغفرت ذنب کی نسبت کی توجیہات	
	جواب			محمد شین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی	۱۶
	اعلیٰ حضرت ان کے والد گرامی اور دیگر علماء اہل	۳۲	۲۰۶	طرف مغفرت ذنب کی نسبت کی توجیہات	
	سنت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف			اعلیٰ حضرت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی	۱۷
۲۳۰	مغفرت ذنب کی نسبت کو برقرار رکھنا		۲۱۰	طرف مغفرت ذنب کی نسبت کی توجیہات	
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مغفرت ذنب	۳۳		”لیغفر لك الله“ کی تاویل میں غیر مقبول اقوال	۱۸
۲۳۲	کی نسبت کے ثبوت میں مزید احادیث		۲۱۲	کا بیان	
	آثار صحابہ کی روشنی میں آپ کے ساتھ مغفرت	۳۴	۲۱۳	عطاء بن ابی مسلم خراسانی	۱۹
۲۳۴	ذنوب کے تعلق کا بیان			عطاء خراسانی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف	۲۰
۲۳۶	اعلیٰ حضرت کے دونوں ترجموں میں محاکمہ	۳۵	۲۱۵	جو گناہ کی نسبت کی ہے اس کی تاویل کا باطل ہونا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	بیعت رضوان والے درخت کے بھلا دیئے جانے کے ثبوت میں احادیث	۵۳	۲۳۶	”القرآن ذو وجوہ“ کا جواب	۳۶
۲۵۱				منافقوں اور مشرکوں کی ضرر رسانی اور ان کے عذاب کی نوعیت کا فرق	۳۷
	بیعت رضوان والے درخت کے کٹوانے کے ثبوت میں حافظ ابن حجر عسقلانی کے دلائل	۵۴	۲۳۷	اللہ کے لشکر کا مصداق	۳۸
۲۵۲			۲۳۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے اور ”وتعزروه وتوقروه“ کا معنی	۳۹
۲۵۳	روایت کے رجال پر بحث و نظر	۵۵	۲۳۸	”ید اللہ“ کی توجیہات اور ”بما عاهد علیہ اللہ“ میں ضمہ کے اشکال کا جواب	۴۰
۲۵۴	مذکورہ روایت کے مردود ہونے پر دیگر شواہد	۵۶		سیقول لك المخلفون من الاعراب	۴۱
	مذکورہ درخت کٹوانے کے واقعہ کا اثبات کرنے والے مفسرین	۵۷	۲۳۹		
۲۵۵				(۱۱-۱۷)	
	مذکورہ درخت کٹوانے کے واقعہ کا انکار کرنے والے مفسرین	۵۸	۲۴۰	منافقوں کا نذر اور اس کا نام مقبول ہونا	۴۲
۲۵۵			۲۴۲	منافقوں کا اُمر اگمان	۴۳
	اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت اور ان سے حصول فیض کا جواز	۵۹	۲۴۲	منافقین کا غزوہ خیبر میں شرکت کے لیے اصرار اور اللہ اور اس کے رسول کا منع فرمانا اور اس کی حکمتیں	۴۴
۲۵۵				سخت جنگ جو قوم کے متعلق متعدد اقوال	۴۵
۲۵۶	حدیبیہ کے بعد غزوات میں اللہ تعالیٰ کی پیہم نعمتیں	۶۰	۲۴۳	حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت اور امامت پر دلیل	۴۶
	اللہ تعالیٰ کا حدیبیہ میں کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روکنا	۶۱	۲۴۵	مرتد کو قتل کرنے کا وجوب اور اس کو تین دن کی مہلت دینے پر دلائل	۴۷
۲۵۷				کیا مرتد کو قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے؟	۴۸
	محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ابوحنیفہ کا مسلک	۶۲	۲۴۵	کمزور اور معذور لوگوں کے لیے جہاد میں عدم شرکت کی رخصت	۴۹
۲۵۸			۲۴۶	لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک	۵۰
	محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب	۶۳		(۱۸-۲۶)	
۲۵۹			۲۴۷	اصحاب بیعت رضوان کی فضیلت	۵۱
	اس اشکال کا جواب کہ آپ عمرہ حدیبیہ میں اپنے ساتھ اونٹ کیوں لے گئے تھے جب کہ عمرہ میں قربانی نہیں ہے؟	۶۴	۲۴۷	اس بات کی تحقیق کہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی آیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کٹوا دیا تھا یا نہیں؟	۵۲
۲۵۹			۲۴۸		
	حدیبیہ میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہ دینے کی توجیہات	۶۵			
۲۶۱			۲۴۸		
۲۶۱	اللہ کی رحمت میں داخل کرنے کے دو محمل	۶۶	۲۵۰		
	فقہاء مالکیہ کے نزدیک اگر کفار کے خلاف جہاد کرنے سے مسلمانوں کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو پھر ان کے خلاف جہاد نہیں کیا جائے گا	۶۷			
۲۶۲			۲۵۱		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶۸	فقہاء حنبلیہ کے نزدیک ایسی صورت میں اگر جہاد کرنا ناگزیر ہو تو جہاد کیا جائے گا اور نہ نہیں	۲۶۲	۶	بلند آواز سے بولنے کو دو مرتبہ منع کرنے کے الگ الگ محمل	۲۷۶
۶۹	فقہاء شافعیہ کے نزدیک صورت مذکورہ میں دو قول ہیں	۲۶۲	۷	اپنی ضرورت اور آپ کی نعت کے کلمات کو آپ کے سامنے بلند آواز سے پڑھنے کا جواز	۲۷۶
۷۰	فقہاء احناف کے نزدیک صورت مذکورہ میں کفار پر گولی چلانا اور گولہ باری کرنا جائز ہے	۲۶۳	۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست رکھنے والے صحابہ	۲۷۸
۷۱	حمیت اور حمیت جاہلانہ کا معنی	۲۶۳	۹	تقویٰ کو پرکھنے کا معنی	۲۷۸
۷۲	”کلمۃ التقویٰ“ کے متعلق متعدد اقوال	۲۶۳	۱۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے نداء کرنے والوں کے مصادیق	۲۷۹
۷۳	لقد صدق اللہ رسولہ الریا (۲۸-۲۹)	۲۶۳	۱۱	ولید بن عتبہ کا جھوٹی خبر دینا	۲۸۰
۷۴	اللہ تعالیٰ کے ”انشاء اللہ“ فرمانے کی توجیہات	۲۶۵	۱۲	فاسق کی شہادت اور روایت کا شرعی حکم	۲۸۱
۷۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر منڈانے اور بال کتر وانے کے محمل	۲۶۶	۱۳	مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے متعلق احادیث اور آثار	۲۸۲
۷۶	حدیبیہ میں وہ کون سی باتیں تھیں جن کو مسلمان نہیں جانتے تھے؟	۲۶۷	۱۴	حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا	۲۸۳
۷۷	حدیبیہ کے بعد کون سی فتح حاصل ہوئی؟	۲۶۷	۱۵	حضرت معاویہ اور ان کے لشکر کا حضرت علی سے جنگ صفین کے باوجود اسلام سے خارج نہ ہونا	۲۸۴
۷۸	دین اسلام کے غلبہ کے محامل	۲۶۷	۱۶	حضرت علی کے حضرت معاویہ کے متعلق دعائیہ کلمات اور اس سلسلے میں دیگر احادیث	۲۸۶
۷۹	خلفاء راشدین کے فضائل	۲۶۸	۱۷	حضرت علی کے قصاص عثمان نہ لینے کی وجوہ	۲۸۷
۸۰	سجدوں کے اثر سے پیشانی پر نشان	۲۶۹	۱۸	جنگ جمل وقوع پذیر ہونے کی وجہ	۲۸۷
۸۱	تورات اور انجیل میں صحابہ کی صفات	۲۶۹	۱۹	حضرت علی کے دل میں حضرت عائشہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے احترام کے متعلق احادیث اور آثار	۲۸۸
۸۲	صحابہ کرام کے فضائل	۲۷۰	۲۰	جنگ جمل اور جنگ صفین کے متعلق حرف آخر	۲۸۹
۸۳	سورۃ الفتح کا اختتام	۲۷۱	۲۱	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشہور قاتلین	۲۹۰
سورۃ الحجرات					
۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۲۷۲	۲۲	حضرت عثمان کے قاتلین کا دنیا میں انجام	۲۹۱
۲	سورت الحجرات کے مسائل اور مقاصد	۲۷۲	۲۳	مؤمن ایک دوسرے کے بھائی ہیں	۲۹۱
۳	یا ایہا الذین امنوا (۱-۱۰)	۲۷۳			
۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر اپنے قول اور فعل کو مقدم کرنے کی ممانعت	۲۷۵			
۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز کے ساتھ بولنے کی ممانعت	۲۷۵			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۱۱	سورۃ ق		۲۹۲	یا ایہا الذین امنوا لا یسخر قوم (۱۸-۱۱)	۲۴
۳۱۱	سورت کا نام	۱	۲۹۳	بذاق اڑانے کی ممانعت	۲۵
۳۱۱	سورۃ الحجرات کی اس سورت سے مناسبت	۲		ایک دوسرے کو طعنہ دینے اور عیب سے متصف	۲۶
۳۱۱	سورۃ ق کے متعلق احادیث	۳	۲۹۵	کرنے کی ممانعت	
۳۱۲	ق والقران المجید (۱-۱۵)	۴	۲۹۶	فاسق معلن کا فسق بیان کرنے کا جواز	۲۷
۳۱۳	ق کے معانی	۵		ایک دوسرے کو بُرے القاب سے پکارنے کی	۲۸
	مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کفار کیوں	۶	۲۹۶	ممانعت	
۳۱۳	بعید سمجھتے تھے		۲۹۷	مسلمان کے متعلق بدگمانی کے حرام ہونے پر دلائل	۲۹
	مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کے	۷	۲۹۸	ظن اور گمان بے جواز اور عدم جواز کے محمل	۳۰
۳۱۵	اشکال کا جواب		۲۹۹	مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے کی ممانعت	۳۱
۳۱۵	مردوں کے ذرات مختلف کے باہم ممیز ہونے پر دلیل	۸		ملک کی داخلی اور خارجی استحکام کے لیے محکمہ	۳۲
۳۱۶	”امر مریج“ کا معنی	۹	۳۰۰	جاسوسی قائم کرنے کا جواز	
	مردہ انسانوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت	۱۰		غیبت کی تعریف اور غیبت کرنے کو اپنے مردہ	۳۳
۳۱۶	کے دلائل		۳۰۰	بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دینا	
۳۱۸	”اصحاب الروس“ کے مصداق	۱۱		غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے	۳۴
۳۱۸	عاد کا معنی اور مصداق	۱۲	۳۰۱	سے تشبیہ دینے کی وجوہ	
۳۱۸	ایکہ والوں کا مصداق	۱۳	۳۰۲	غیبت کرنے پر عذاب کی وعیدیں	۳۵
۳۱۹	اتباع کا معنی اور مصداق	۱۴	۳۰۲	غیبت کا کفارہ	۳۶
۳۱۹	پہلی بار پیدا کرنے کے بعد تھکنے کا باطل ہونا	۱۵		جن صورتوں میں پس پشت عیب بیان کرنا جائز	۳۷
۳۲۰	ولقد خلقنا الانسان (۲۹-۱۶)	۱۶	۳۰۳	ہے	
۳۲۱	اللہ تعالیٰ کے شہ رگ سے قریب ہونے کا معنی	۱۷	۳۰۵	استدلال مذکور پر ایک اعتراض کا جواب	۳۸
۳۲۲	کرانا کا تبین کا صحیفہ اعمال میں لکھنا	۱۸		اسلام میں ذات پات کا امتیاز نہ کرنے پر	۳۹
	مرض اور سفر کی وجہ سے بندہ جو نیکیاں نہ کر سکے وہ	۱۹	۳۰۶	احادیث سے دلائل	
۳۲۲	بھی لکھی جاتی ہیں			اسلام اور اچھے اخلاق کی بناء پر رشتہ دینے کا حکم	۴۰
۳۲۳	صحیفہ اعمال میں لکھی ہوئی نیکیوں کی برکات	۲۰	۳۰۸	عام ازیں کہ کفو ہو یا غیر کفو	
۳۲۳	موت کی سختیاں	۲۱		الحجرات: ۱۴ کا شان نزول اور ایمان اور اسلام کا	۴۱
	آخرت میں چلانے والے اور گواہی دینے والے	۲۲	۳۰۹	لغوی اور اصطلاحی معنی	
۳۲۳	کا مصداق		۳۱۰	سورۃ الحجرات کا خاتمہ	۴۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۴۲	زیادہ ہے یا سو مرتبہ ”سبحان اللہ“ پڑھنے کا؟			انسان کی دنیا میں غفلت اور آخرت میں اس کی نگاہ کا تیز ہونا	۲۳
	علامہ ابن حجر اور علامہ ابن بطلال کے نزدیک اذکار	۴۵	۳۲۳	قیامت کے دن کافروں اور شیطان سے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کا کلام	۲۴
	ماثورہ کے اجر و ثواب کی بشارت صرف نیکو کاروں کے لیے ہے بدکاروں کے لیے نہیں ہے		۳۲۵	یوم نقول لجہنم (۳۵-۳۰)	۲۵
۳۴۳	علامہ ابن حجر اور علامہ ابن بطلال کی رائے پر مصنف کا تبصرہ	۴۶	۳۲۶	دوزخ میں اللہ کے قدم رکھنے کے متعلق احادیث	۲۶
	”لا الہ الا اللہ“ اور ”سبحان اللہ“ پڑھنے کا	۴۷	۳۲۸	دوزخ میں اللہ کے قدم رکھنے کے محامل	۲۷
۳۴۴	اجر و ثواب میں ایک اور فرق			دوزخ کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کر کے بغیر کسی جرم کے اس کو دوزخ میں ڈال دینا	۲۸
۳۴۴	”ادبار السجود“ کے محامل	۴۸	۳۲۹	اس حدیث پر اعتراض کا وارد ہونا	۲۹
	دوسرے صورتوں میں پھونکنے کے بعد لوگوں کے زندہ ہونے کی کیفیت	۴۹	۳۳۰	اس حدیث کی شرح علامہ ابن بطلال سے	۳۰
۳۴۵	قبروں سے باہر نکلنے کی کیفیت	۵۰	۳۳۰	اس حدیث کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی سے	۳۱
۳۴۵	گناہ گاروں کے حشر کی کیفیت	۵۱		نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو بلا جرم دوزخ میں ڈالنے کے متعلق مصنف کی تحقیق	۳۲
۳۴۶	بندہ کا جن گناہوں پر خاتمہ ہو ان ہی گناہوں میں قیامت کے دن اس کو اٹھایا جانا	۵۲	۳۳۲	زیر بحث حدیث کے متعلق دیگر شارحین کی آراء	۳۳
۳۴۷	بندوں کا جن اعمال پر خاتمہ ہو ان ہی اعمال پر ان کو اٹھائے جانے کے متعلق احادیث	۵۳	۳۳۵	”اواب“ کا معنی	۳۴
۳۴۹	آیات حشر میں بظاہر تعارض	۵۴	۳۳۵	”حفیظ“ کا معنی	۳۵
۳۵۰	آیات حشر میں تعارض کا جواب	۵۵	۳۳۶	اہل جنت کے لیے غیر مترقبہ نعمتیں	۳۶
۳۵۱	جبر کا معنی	۵۶	۳۳۶	مستقین کے لیے غیر مترقبہ نعمتوں کے علاوہ خصوصی مزید انعام	۳۷
۳۵۲	سورۃ ق کا اختتام	۵۷	۳۳۸	”نقبوا“ اور ”لغوب“ کا معنی اور عقل کا محل	۳۸
۳۵۵	سورۃ الذریت		۳۳۹	ق: ۳۹ کا سبب نزول	۳۹
۳۵۵	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۳۳۹	فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کی خاص اہمیت	۴۰
۳۵۵	سورۃ ق اور سورۃ الذریت کی باہمی مناسبت	۲		مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز سنت پڑھنے کی تحقیق	۴۱
۳۵۵	سورۃ الذریت کے مشمولات	۳	۳۳۹	رات کو اٹھ کر تسبیح پڑھنے کے محامل	۴۲
۳۵۷	والذریٰ ذر و ا (۱-۲۳)	۴	۳۴۱	تسبیح پڑھنے کا اجر و ثواب	۴۳
۳۵۸	مشکل الفاظ کے معانی	۵	۳۴۱	آیا سو مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے کا اجر و ثواب	۴۴
۳۵۹	”ذات الحجب“ کے معانی	۶			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۷۵	آسمان میں مخلوق کے رزق کی تفسیریں	۳۰	۳۶۰	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے متعلق کفار مکہ کے مختلف اقوال	۷
۳۷۶	اللہ تعالیٰ کی خبر کے برحق ہونے کو انسان کے کلام کے برحق ہونے سے تشبیہ کی وجوہ	۳۱	۳۶۰	ازل میں کفار کو ایمان سے پھیر دینے کی توجیہ	۸
۳۷۷	هل اتك حديث ضيف ابراهيم (۲۲-۳۰)	۳۲	۳۶۰	”الخراصون“ کا معنی اور اللہ تعالیٰ کے دعائیہ کلام کی توجیہ	۹
۳۷۷	حضرت ابراہیم کے پاس فرشتوں کا مہمان ہونا	۳۳	۳۶۱	کفار اور مشرکین کے استہزاء کی سزا	۱۰
۳۷۸	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۳۴	۳۶۱	متقین کے آخرت میں احوال	۱۱
۳۷۹	قال فما خطبکم ایہا المرسلون (۳۱-۳۶)	۳۵	۳۶۲	رات کو کم سونے اور زیادہ عبادت کرنے کی فضیلت	۱۲
۳۸۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے مکالمہ	۳۶	۳۶۳	رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا سب سے عمدہ طریقہ	۱۳
۳۸۱	ایمان اور اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۷	۳۶۳	سحر کے وقت مغفرت طلب کرنے کی فضیلت	۱۴
۳۸۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں	۳۸	۳۶۴	صبح تک سونے والے کی مذمت میں احادیث	۱۵
۳۸۲	قوم عاد کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں	۳۹	۳۶۴	رات بھر سونے والے کے کان میں شیطان کے پیشاب کرنے کی توجیہات	۱۶
۳۸۳	قوم ثمود کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں	۴۰	۳۶۵	طلب مغفرت کے لیے وقت سحر کی خصوصیت	۱۷
۳۸۳	انبیاء علیہم السلام کے واقعات کی نشان دہی	۴۱	۳۶۶	سحر کے وقت استغفار کے متعلق احادیث اور آثار	۱۸
۳۸۴	والسمااء بنینہا باید (۶۰-۷۰)	۴۲	۳۶۷	استغفار کے کلمات اور استغفار کی فضیلت	۱۹
۳۸۵	”اید“ کا معنی	۴۳	۳۶۸	تہائی رات کے مستجاب وقت میں دعا قبول نہ ہونے کی وجوہ	۲۰
۳۸۵	آسمان کی بناء کو متعدد بار ذکر کرنے کی حکمت	۴۴	۳۶۸	اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت	۲۱
۳۸۶	اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا اور اس کا کوئی جوڑا نہیں	۴۵	۳۶۹	زکوٰۃ اور صدقات کی تعریفات	۲۲
۳۸۷	اللہ کی طرف بھاگنے کے محامل	۴۶	۳۶۹	سائل اور محروم کی تعبیرات	۲۳
۳۸۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا	۴۷	۳۷۱	اسلام میں سوال کرنے کی شرعی حیثیت	۲۴
۳۸۸	کفار کو تبلیغ کرنے سے منع کرنے کی توجیہ	۴۸	۳۷۱	سوال نہ کرنے کے متعلق احادیث	۲۵
۳۸۸	مؤمنین کے لیے آپ کی بار بار نصیحت کا مفید ہونا	۴۹	۳۷۲	سوال کرنے کے جواز اور عدم جواز کا معیار	۲۶
۳۸۹	”الا لیعبدون“ کے معانی اور محامل	۵۰	۳۷۳	موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	۲۷
۳۹۰	حدیث ”کنت کنزاً مخفیاً“ کی تحقیق	۵۱	۳۷۴	انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں	۲۸
۳۹۲	”الا لیعبدون“ کے بقیہ معانی اور محامل	۵۲	۳۷۵	عالم کبیر کی نشانیوں کے مقابلے میں عالم صغیر کی نشانیاں	۲۹
	جب جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ان میں سے اکثر کے عبادت نہ	۵۳			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۰۵	سورۃ الطور اور سورۃ الذریت میں مناسبت	۲	۳۹۳	کرنے کی توجیہ	
۴۰۵	سورۃ الطور کے متعلق احادیث	۳		۵۴ جنات اور انسانوں کی وجہ تخلیق بیان کی گئی ہے	
۴۰۶	سورۃ الطور کے مشمولات	۴	۳۹۳	باقی کائنات کی وجہ تخلیق کیوں نہیں بیان کی گئی	
۴۰۷	والطور و کتب مسطور (۱-۲۸)	۵		۵۵ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہونے میں	
۴۰۸	”الطور“ کا معنی اور مصداق	۶	۳۹۳	فقہاء اسلام کے مذاہب	
۴۰۹	”کتاب مسطور“ کے معانی اور مصداق	۷		۵۶ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہونے کے	
	”رق“ کے معانی اور مصداق میں ارباب لغت	۸	۳۹۴	ثبوت میں شیخ ابن تیمیہ کے دلائل	
۴۱۰	کی تصریحات			۵۷ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہونے کے	
	”رق“ کے معانی اور مصداق میں مفسرین کی	۹	۳۹۴	ثبوت میں معتزلہ کے دلائل	
۴۱۱	تصریحات		۳۹۵	۵۸ شیخ ابن تیمیہ اور معتزلہ کے دلائل پر مصنف کا تبصرہ	
	اس سوال کا جواب کہ قرآن مجید حضور کی زندگی میں جمع	۱۰		۵۹ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہ ہونے پر	
۴۱۲	اور مرتب نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا وجود مشکوک ہے		۳۹۵	امام رازی کے دلائل	
۴۱۳	عیسائیوں کی موجودہ ”انجیل“ کا وجود خود مشکوک ہے	۱۱		۶۰ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہ ہونے پر	
۴۱۳	انجیل اربعہ کی اصلیت	۱۲	۳۹۶	علامہ تفتازانی کے دلائل	
۴۱۳	انجیل متی، لوقا، مرقس	۱۳		۶۱ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہونے کے	
۴۱۴	انجیل یوحنا مستند نہیں اس کے دلائل	۱۴	۳۹۸	متعلق شارحین حدیث کا نظریہ	
۴۱۴	پہلی دلیل	۱۵		۶۲ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی ہے اور سب اس	
۴۱۴	دوسری دلیل	۱۶	۳۹۸	کے محتاج ہیں	
۴۱۵	تیسری دلیل	۱۷	۳۹۹	۶۳ ”رزق“ کے معانی	
۴۱۵	چوتھی دلیل	۱۸	۴۰۱	۶۴ قوت کے معانی	
۴۱۶	پانچویں دلیل	۱۹	۴۰۲	۶۵ ”متین“ کا معنی	
۴۱۶	چھٹی دلیل	۲۰	۴۰۲	۶۶ ”ذنوب“ کا معنی	
۴۱۶	ساتویں دلیل	۲۱	۴۰۲	۶۷ ”ذنب“ اور ”ذنب“ کا لفظی اور معنوی فرق	
۴۱۶	آٹھویں دلیل	۲۲		۶۸ معصیت کا سبب دنیا سے محبت اور آخرت سے	
۴۱۶	نویں دلیل	۲۳	۴۰۴	غفلت ہے	
۴۱۷	خطوط و مشاہدات	۲۴	۴۰۴	۶۹ سورۃ الذریت کا اختتام	
	کتب مقدسہ کی حیثیت قوانین و انتظامات کی سی	۲۵	۴۰۵	سورۃ الطور	
۴۲۰	ہے		۴۰۵	سورت کا نام	۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۳۳	حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب	۴۰	۴۲۱	قرآن مجید کی جمع و ترتیب پر عیسائیوں کے اعتراض کا جواب	۲۶
۴۳۴	حضرت عثمان کے دورِ خلافت میں صرف لغت قریش پر قرآن مجید کو باقی رکھنا اور باقی نسخوں کو جلادینا	۴۱	۴۲۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے مکمل اور مترتب قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا	۲۷
۴۳۴	بقیہ مصاحف کو جلانے کی توجیہ	۴۲	۴۲۳	صحابہ کرام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل اور مترتب قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا	۲۸
۴۳۵	جمع قرآن کے متعلق حرفِ آخر	۴۳	۴۲۴	حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عہد رسالت میں صرف چار صحابہ کے حافظ قرآن ہونے کا ذکر کیا ہے اس کا جواب	۲۹
۴۳۵	”البيت المعمور“ کا معنی اور اس کی تاریخ	۴۴	۴۲۵	حافظ عسقلانی کے تتبع سے ان صحابہ کی تعداد کا بیان جن کو عہد رسالت میں مکمل اور مترتب قرآن مجید حفظ تھا	۳۰
۴۳۶	”البيت المعمور“ کے مصداق اور اس کے مقام کے متعلق احادیث آثار اور مفسرین کے اقوال	۴۵	۴۲۶	حضرت انس کی حدیث کے مزید جوابات اور عہد رسالت میں مزید حافظ قرآن کا ذکر	۳۱
۴۳۷	”البحر المسجور“ کے معنی اور مصداق میں اقوال مفسرین	۴۶	۴۲۷	حضرت انس کی حدیث کے حافظ عینی کی طرف سے جوابات	۳۲
۴۳۸	عذاب کی وعید پورا کرنے پر دلائل	۴۷	۴۲۸	حافظ عینی کے تتبع سے عہد رسالت میں حافظ قرآن کی تعداد	۳۳
۴۳۹	قیامت کی کیفیات	۴۸	۴۲۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات سے پہلے حفظ قرآن پر مزید احادیث اور صحابہ کے لیے بھی	۳۴
۴۴۰	کفار کے عذاب کے احوال	۴۹	۴۲۹	وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل قرآن مجید کا لکھا ہوا ہونا	۳۵
۴۴۱	متقین کے درجات	۵۰	۴۳۰	مذکورہ صدر احادیث کی وضاحت	۳۶
۴۴۲	کافروں کی جزاء اور مؤمنوں کی جزاء میں امام رازی کی نکتہ آفرینی	۵۱	۴۳۱	حضرت ابو بکر کے دورِ خلافت میں قرآن مجید کو ایک مصحف اور ایک جلد میں جمع کرنا	۳۷
۴۴۳	امام رازی کی نکتہ آفرینی پر مصنف کا تبصرہ	۵۲	۴۳۲	اس حدیث کے راوی عبید بن السباق کی توثیق	۳۸
۴۴۴	مؤمنوں کے ایمان کی وجہ سے ان کی نابالغ اولاد کو جنت میں داخل کرنے کے متعلق احادیث آثار اور اقوال تابعین	۵۳	۴۳۲	التوبہ: ۱۲۸ کا صرف حضرت خزیمہ کے پاس ملنا	۳۹
۴۴۵	مؤمنوں کی بالغ اور کافر اولاد ان کے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگی	۵۴	۴۳۲	کیا تو اتر کی شرط کے خلاف نہیں ہے؟	
۴۴۶	اولاد پر شفقت کرنے کی ترغیب	۵۵			
۴۴۶	دنیا کا دارالاسباب اور آخرت کا دارالمسببات ہونا	۵۶			
۴۴۷	نابالغ اولاد کا بھی اپنے مسلمان ماں باپ کو جنت میں لے جانا اور کسی شخص کو اس کے غیر کے عمل سے فائدہ پہنچنا	۵۷			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	کفار مکہ کے مطلوبہ معجزات محض ضد بازی اور کٹ	۷۷	۴۴۸	جنت کے پھلوں اور گوشت کی صفات	۵۸
۴۶۱	حجّتی کے لیے تھے		۴۴۸	اہل جنت کے مخمور ہونے کی کیفیات	۵۹
۴۶۲	کفار کو ان کے حال پر چھوڑنے کے حکم کی توجیہ	۷۸	۴۴۹	غلمان کی صفات اور ان کے مصادیق	۶۰
	کس علم کا حصول فرض عین ہے اور کس علم کا حصول	۷۹	۴۵۰	اہل جنت کا باہمی مکالمہ	۶۱
۴۶۳	فرض کفایہ ہے؟			فذکر فما انت بنعمتك ربك بکاهن ولا	۶۲
	قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے عذاب قبر کا	۸۰	۴۵۱	مجنون (۲۹-۲۹)	
۴۶۳	ثبوت		۴۵۳	آپ کو کاہن اور مجنون کہنے کا رد	۶۳
۴۶۴	شیطان کا قبر میں آ کر مؤمنوں کو بہکانا	۸۱		”رب المنون“ کا معنی اور آپ کو شاعر کہنے کی	۶۴
۴۶۵	عذاب قبر کے اسباب	۸۲	۴۵۳	توجیہ	
۴۶۶	جن صورتوں میں عذاب قبر سے نجات ملتی ہے	۸۳		کافروں کو آپ کی موت کا انتظار کرنے کا حکم	۶۵
	کسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور	۸۴	۴۵۴	دینے کی توجیہ	
۴۶۷	تسبیح کرنا		۴۵۴	”احلام“ کا لغوی اور عرفی معنی	۶۶
۴۶۸	نماز فجر سے پہلے دو رکعت سنت کی تحقیق	۸۵		علامہ قرطبی کی یہ تحقیق کہ کفار کی عقلیں نہیں ہیں	۶۷
۴۶۹	سورۃ الطور کا اختتام	۸۶	۴۵۵	اور اس پر مصنف کا تبصرہ	
۴۷۰	سورۃ النجم			کفار کے ہذیان کا محرک ان کی عقل ہے یا ان کی	۶۸
۴۷۰	سورت کا نام	۱	۴۵۶	سرکشی	
۴۷۰	سورۃ النجم کے متعلق احادیث اور ان کی شرح	۲	۴۵۶	”نقول“ کا معنی	۶۹
۴۷۲	سورۃ النجم کے اہداف اور اغراض	۳		سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں	۷۰
۴۷۳	والنجم اذا هویٰ (۱-۲۵)	۴	۴۵۶	قرآن مجید میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ معجزات ہیں	
۴۷۴	”نجم“ کے معانی	۵	۴۵۸	اللہ کی اطاعت اور عبادت نہ کرنے پر مشرکین کو ملامت	۷۱
	”النجم“ کے معانی اور محامل میں مفسرین کے	۶	۴۵۸	اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے محامل	۷۲
۴۷۵	اقوال		۴۵۹	”المسيطر“ کا معنی	۷۳
	”النجم“ کی تفسیر میں مرغوب اور پسندیدہ اقوال	۷		اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرنا پر لے درجہ	۷۴
۴۷۶	اور ان کی توجیہات اور نکات		۴۵۹	کی حماقت ہے	
۴۷۷	ضلال کے متعدد معانی	۸		نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی اجر کے سوال کی نفی	۷۵
	انبیاء علیہم السلام کی طرف ضلال کی نسبت کرنے	۹	۴۶۰	کی ہے	
۴۷۸	کے معانی اور محامل			نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرنے کی وجہ	۷۶
۴۷۸	ایک اور اعتبار سے ضلال کے معانی	۱۰	۴۶۱	سے کفار کی مذمت	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۹۵	”فکان قاب قوسین او ادنیٰ“ کی ایک تمثیل سے وضاحت	۲۸	۴۷۹	اللہ کی طرف اضلال کی نسبت کرنے کے دو معنی	۱۱
۴۹۵	”فاوحی الی عبدہ ماوحی“ کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال	۲۹	۴۸۰	ضلال کی دو آیتوں میں تعارض کا جواب	۱۲
۴۹۵	شب معراج آپ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا یا قلب سے؟ اس مسئلہ میں متعدد اقوال	۳۰	۴۸۱	”صاحب“ کے معنی	۱۳
۴۹۶	قول مختار	۳۱	۴۸۲	”غوی“ کے معنی	۱۴
۴۹۹	سدرۃ المنتہیٰ کی تعریف اس کے متعلق احادیث اور وجہ تسمیہ میں اقوال	۳۱	۴۸۲	”ہوی“ کے معنی	۱۵
۵۰۰	”جنت الماویٰ“ کی تعریف میں متعدد اقوال	۳۲	۴۸۳	آیات سابقہ سے ارتباط	۱۶
۵۰۰	سدرہ کوڈھا پننے والی چیزوں میں متعدد اقوال	۳۳	۴۸۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی تحقیق	۱۷
۵۰۱	شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر ایک دلیل	۳۴	۴۸۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں مذاہب فقہاء	۱۸
۵۰۲	جن نشانیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیکھا	۳۵	۴۸۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں فقہاء	۱۹
۵۰۳	شب معراج کی نشانیاں دیکھنے سے امام رازی کا یہ استدلال کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا	۳۶	۴۸۵	احناف کا نظریہ	۲۰
۵۰۳	امام رازی کے استدلال پر علامہ اسماعیل حقی کا تبصرہ	۳۷	۴۸۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا اجتہادی میں مصنف کی تحقیق	۲۱
۵۰۳	امام رازی کے استدلال پر مصنف کا تبصرہ	۳۸	۴۸۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے ثبوت میں احادیث	۲۲
۵۰۴	دیدار الہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات	۳۹	۴۸۵	حضرت جبریل کی شدید قوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل کو دو بار دیکھنا	۲۳
۵۰۶	جن احادیث میں یہ تصریح ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا	۴۰	۴۸۷	”دنا فتدلی“ کی ضمیروں کے مرجع کے متعلق مفسرین کے اقوال	۲۴
۵۰۷	روایت باری کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۴۱	۴۸۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عزوجل کے قریب ہونے کے محمل کے متعلق محدثین اور مفسرین کی تصریحات	۲۵
۵۰۷	منکرین روایت کے دلائل اور ان کے جوابات	۴۲	۴۸۹	”فکان قاب قوسین“ کا معنی قریب ہونے والے کے مصداق میں مفسرین کا اختلاف اور قول مختار کا تعین	۲۶
۵۰۹	اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۴۳	۴۹۱	”قاب قوسین“ سے مقصود یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ واحد ہے	۲۷
			۴۹۲	اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ واحد ہونے پر قرآن مجید کی آیات	۲۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۲۳	انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی توجیہ	۶۳		آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق	۴۴
۵۲۵	انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کے متعلق احادیث	۶۴	۵۱۰	احادیث	
۵۲۶	خود ستائی کی ممانعت	۶۵		شب معراج اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق علماء	۴۵
۵۲۶	افربیت الذی تولی (۶۲-۳۲)	۶۶	۵۱۱	امت کے نظریات	
۵۲۸	انجم: ۳۵-۳۳ کے شان نزول کے متعلق اقوال	۶۷		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار روایت کے	۴۶
۵۲۹	مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی حجت کی تقریر	۶۸	۵۱۲	جوابات	
۵۳۰	”کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا“ اس پر ایک اور سوال	۶۹	۵۱۳	بتوں کی پرستش کا ابطال اور توحید کا استحقاق	۴۷
	کوئی شخص دوسرے کے جرم کی سزا نہیں پائے گا	۷۰	۵۱۳	لات، عزی اور منات کی تحقیق	۴۸
۵۳۱	اس قاعدہ کے بعض مستثنیات		۵۱۳	بت پرستوں کی ظالمانہ تقسیم	۴۹
	ایصالِ ثواب کے عدم جواز پر معتزلہ کا استدلال	۷۱		مشرکین کے ظن کا باطل ہونا اور مجتہدین کے ظن کا	۵۰
۵۳۲	اور اہل سنت کے جوابات		۵۱۳	صحیح ہونا	
۵۳۲	حنبلی مفسرین کے جوابات	۷۲	۵۱۵	مشرکین کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی وضاحت	۵۱
۵۳۳	شافعی مفسرین کے جوابات	۷۳		کفار کی تمناؤں کا پورا نہ ہونا اور دنیا اور آخرت	۵۲
۵۳۴	مالکی مفسرین کے جوابات	۷۴	۵۱۵	میں ان کا خائب و خاسر ہونا	
۵۳۵	حنفی مفسرین کے جوابات	۷۵	۵۱۵	و کم من ملک فی السموات (۲۶-۳۲)	۵۳
۵۳۵	ایصالِ ثواب کے متعلق احادیث	۷۶	۵۱۷	کفار کے لیے فرشتوں کی شفاعت نہ کرنے کی توجیہ	۵۴
	حضرت علی کی حضور کی طرف سے قربانی کی	۷۷	۵۱۷	فرشتوں اور بتوں کے مؤنث ہونے پر دلائل	۵۵
۵۳۷	حدیث کی سند کی تحقیق			تصدیق کی اقسام اور کفار کے باطل عقائد پر ظن	۵۶
۵۳۸	حضرت سعد بن عبادہ کی سند کی تحقیق	۷۸	۵۱۸	کے اطلاق کی توجیہ	
۵۳۹	ایصالِ ثواب کے متعلق بعض دیگر احادیث	۷۹		جو لوگ کسی بھی طریقے سے اصلاح کو قبول نہ	۵۷
	ایصالِ ثواب کے متعلق فقہاء احناف میں سے	۸۰	۵۱۹	کریں ان کا آخری حل ان کے خلاف جہاد ہے	
۵۴۰	صاحب ہدایہ کی تصریحات		۵۲۰	کفار کی بد عقیدگی کو ان کا مبلغ علم قرار دینے کی توجیہ	۵۸
	فقہاء احناف میں سے علامہ شامی کی ایصالِ	۸۱	۵۲۱	”اللهم“ کا معنی	۵۹
۵۴۱	ثواب کے متعلق تصریحات		۵۲۱	”اللهم“ کے متعلق احادیث	۶۰
	ایصالِ ثواب کے متعلق فقہاء حنبلیہ میں سے	۸۲		”اللهم“ کی تعریف میں صحابہ اور تابعین کے	۶۱
۵۴۲	علامہ ابن قدامہ کی تصریحات		۵۲۳	اقوال	
	شیخ ابن تیمیہ کے قرآن مجید سے ایصالِ ثواب	۸۳		گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تعریفات اور اس سلسلے	۶۲
۵۴۳	کے ثبوت پر دلائل		۵۲۳	میں احادیث	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۵۷	ایصالِ ثواب کے ثبوت پر برطانیہ سے موصول ہونے والے اعتراضات کے جوابات	۱۰۰	۵۴۴	شیخ ابن تیمیہ کے سنن متواترہ سے مالی صدقات اور عباداتِ بدنیہ کے ایصالِ ثواب پر دلائل	۸۴
۵۵۷	اس کا جواب کہ دوسرے کے عمل کے کام آنے کا ثبوت کہاں ہے؟	۱۰۱	۵۴۷	شیخ ابن تیمیہ کے تلاوتِ قرآن سے ایصالِ ثواب پر دلائل	۸۵
۵۵۷	اس کا جواب کہ زندہ کے لیے ایصالِ ثواب کیوں نہیں کیا جاتا؟	۱۰۲	۵۴۹	علماء غیر مقلدین میں سے شیخ ابن قیم جوزیہ کی ایصالِ ثواب پر تصریحات	۸۶
۵۵۸	اس کا جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایصالِ ثواب کا کہاں ثبوت ہے؟	۱۰۳	۵۴۹	حیلہ اسقاط کا بیان	۸۷
۵۵۹	اس اعتراض کا جواب کہ قرآن مجید میں دوسرے کے لیے دعا کے ثبوت سے ایصالِ ثواب کا ثبوت لازم نہیں آیا	۱۰۴	۵۵۰	ایصالِ ثواب کے متعلق علماء غیر مقلدین میں سے نواب صدیق حسن بھوپالی کی تصریحات	۸۸
۵۶۰	اس کا جواب کہ ایصالِ ثواب کے کھانے سے اغنیاء کیوں کھاتے ہیں؟	۱۰۵	۵۵۱	ایصالِ ثواب کے متعلق علماء غیر مقلدین میں سے نواب وحید الزمان حیدرآبادی کی تصریحات	۸۹
۵۶۰	اس کا جواب کہ قرآن اور حدیث میں بندوں کے اعمال میں دوسروں کے ہدیہ کئے ہوئے اعمال کا کیوں ذکر نہیں ہے؟	۱۰۶	۵۵۱	ایصالِ ثواب کے لیے انعقادِ محفل اور عرفی تعیینِ یوم پر دلائل	۹۰
۵۶۱	اس کا جواب کہ حضرت سعد نے اپنی ماں کے مال سے صدقہ کیا تھا اس لیے یہ ایصالِ ثواب کی دلیل نہیں ہے	۱۰۷	۵۵۳	ایصالِ ثواب کے متعلق علماء دیوبند کا نظریہ	۹۱
۵۶۲	اس کا جواب کہ میت کی نذر پوری کرنا وارثوں پر لازم ہے اس لیے یہ ایصالِ ثواب کی دلیل نہیں ہے	۱۰۸	۵۵۳	ملتان: اعظم طارق کی برسی کے اجتماع میں دھماکا	۹۲
۵۶۲	اس اعتراض کا جواب کہ اس حدیث کی سند کمزور ہے جس میں حضور کی طرف سے حضرت علی کی قربانی کرنے کا ذکر ہے	۱۰۹	۵۵۳	۳۱ جاں بحق	۹۳
۵۶۲	اس اعتراض کا جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی طرف سے قربانی دینا گھر کے سربراہ کی مثل ہے یہ ایصالِ ثواب کی دلیل نہیں ہے	۱۱۰	۵۵۳	مولانا اعظم طارق کی برسی پر کالعدم ملت اسلامیہ کا اجتماع ختم ہوتے ہی زوردار دھماکے سے افراتفری پھیل گئی	۹۴
۵۶۲			۵۵۳	مفتی جمیل اور مولانا نذیر کے لیے ایصالِ ثواب کا اعلان	۹۵
			۵۵۳	مفتی جمیل اور مولانا نذیر کے لیے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی آج ہوگی	۹۵
			۵۵۳	بنوری ٹاؤن میں مفتی جمیل اور نذیر تونسوی کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی	۹۶
			۵۵۳	مفتی جمیل اور نذیر تونسوی کے ایصالِ ثواب کے لیے بنوری ٹاؤن میں قرآن خوانی	۹۷
			۵۵۳	ایصالِ ثواب کے متعلق اعلیٰ حضرت کا نظریہ	۹۸
			۵۵۶	قرآن خوانی کی اجرت لینے کی توجیہات	۹۹

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
۵۸۳	حضرت نوح کو ہمارا بندہ کہنے اور تکذیب کا ذکر مکرر کرنے کی وجہ	۵۶۳	۱۳	اس کا جواب کہ حضرت سعد بن عبادہ کی حدیث مرسل ہے اس لیے حجت نہیں	۱۱۱
۵۸۳	حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے آپ کو مغلوب فرمانے کی توجیہ	۵۶۵	۱۴	کیا حضرت حسن بصری فی الواقع مدلس تھے؟	۱۱۲
۵۸۳	طوفان اور کشتی کی بناوٹ کی کیفیت	۵۶۶	۱۵	مدلس کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۱۳
۵۸۳	اللہ تعالیٰ کی صفات میں متقدمین اور متاخرین کا اختلاف	۵۶۷	۱۶	حضرت حسن بصری کے مدلس نہ ہونے پر دلائل	۱۱۴
۵۸۵	قرآن مجید کے آسان ہونے کے محال	۵۶۸	۱۷	قیامت کے دن انسان کے گزشتہ اعمال دکھانے کی توجیہ	۱۱۵
۵۸۶	ہود کی قوم کے بجائے عاد کا ذکر کرنے کی وجہ	۵۶۹	۱۸	اللہ تعالیٰ کے ہنسانے اور زلزلانے کی توجیہات	۱۱۷
۵۸۶	عاد پر آندھی کا عذاب بھیجنا	۵۶۹	۱۹	موت اور حیات کی مختلف تعبیریں	۱۱۸
۵۸۶	معین دنوں کے منحوس یا مبارک ہونے کی تحقیق	۵۷۰	۲۰	”اقنی“ کا معنی	۱۱۹
۵۸۷	رحمت کا غضب پر غالب ہونا	۵۷۰	۲۱	”شعری“ کا معنی اور مصداق	۱۲۰
۵۸۸	کذبت ثمود بالنذر (۲۳-۲۰)	۵۷۱	۲۲	سابقہ امتوں میں سے کمذبین پر عذاب نازل فرمانا	۱۲۱
۵۸۹	دنیا میں فقر اور تو نگری حق اور باطل کا معیار نہیں	۵۷۱	۲۳	سورۃ النجم کا اختتام	۱۲۲
۵۹۰	ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت	۵۷۳	۲۴	سورۃ القمر	
۵۹۱	ثمود اور اونٹنی کے درمیان پانی کی تقسیم	۵۷۴	۲۵	سورت کا نام	۱
۵۹۱	ثمود کا اونٹنی کو ذبح کرنا	۵۷۴	۲۶	سورۃ القمر کا زمانہ نزول	۲
۵۹۲	ثمود پر عذاب کی کیفیت	۵۷۴	۲۷	شق القمر کے متعلق احادیث	۳
۵۹۲	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ	۵۷۶	۲۸	واقعہ شق القمر پر اعتراضات کے جوابات	۴
۵۹۳	قوم لوط پر عذاب کی کیفیت	۵۷۸	۲۹	اقتربت الساعة وانشق القمر (۱-۲۲)	۵
۵۹۳	ولقد جاء ال فرعون النذر (۵۵-۴۱)	۵۷۹	۳۰	قیامت کے قریب آنے کے متعلق احادیث	۶
۵۹۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر قصہ	۵۸۰	۳۱	مشرکین مکہ کا چاند کے دو ٹکروں کا دیکھ لینا	۷
۵۹۵	جنگ بدر میں کفار کی شکست کی خبر	۵۸۰	۳۲	ہر شخص کا انجام اس کے اعمال کے اعتبار سے ہے	۸
۵۹۶	جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی دعا	۵۸۰	۳۳	حکمت بالغہ کے محال	۹
۵۹۷	مسئلہ تقدیر	۵۸۱	۳۴	بلانے والے کے مصداق اور ناگوار چیز کے محال	۱۰
۵۹۷	تقدیر کے متعلق علماء اہل سنت کے اقوال	۵۸۱	۳۵	قبر سے نکلنے والوں کی دو حالتیں	۱۱
۵۹۸	تقدیر کے متعلق احادیث	۵۸۲	۳۶	”مہطعین“ کا معنی	۱۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	”فبای الاء ربکما تکذبن“ کو اکتیس بار مکرر	۱۹	۵۹۹	”مقعد صدق“ کی تفسیر	۳۷
۶۱۲	ذکر کرنے میں کوئی حکمت ہے یا نہیں؟		۶۰۰	سورۃ القمر کا اختتام	۳۸
۶۱۳	انسان اور جنت کی تخلیق کے اعتبار سے ان پر نعمت	۲۰	۶۰۱	سورۃ الرحمن	
	دو مشرق اور دو مغرب بنانے میں انسانوں پر اللہ	۲۱	۶۰۱	سورت کا نام	۱
۶۱۵	تعالیٰ کی نعمت		۶۰۱	سورۃ الرحمن کے متعلق احادیث	۲
۶۱۵	دو سمندروں کو ملانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	۲۲	۶۰۲	سورۃ الرحمن کے مشمولات	۳
۶۱۶	موتی اور مونگے نکالنے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	۲۳	۶۰۳	الرحمن O علم القرآن (۱-۲۵)	۴
۶۱۶	سطح سمندر پر جہاز چلانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	۲۴		رحمن کا معنی اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ	۵
۶۱۷	کل من علیہا فان (۲۶-۲۵)	۲۵	۶۰۳	مخصوص ہونا	
	تمام روئے زمین والوں کے ہلاک ہونے میں	۲۶	۶۰۵	رحمن نے جس کو قرآن کی تعلیم دی اس کے محال	۶
۶۱۸	انسانوں کے لیے نعمت		۶۰۵	”انسان“ اور ”بیان“ کے محال	۷
	ہر روز نئی شان میں ہونے کے ضمن میں اللہ کی	۲۷		سورج اور چاند کے حساب سے چلنے میں مفسرین	۸
۶۱۹	نعمتیں		۶۰۶	کے اقوال	
	”کل یوم ہو فی شان“ کے مسئلہ تقدیر سے	۲۸		”النجم“ سے مراد بلیں ہیں یا ستارے اور ان	۹
۶۱۹	تعارض کا جواب		۶۰۶	کے سجدہ کرنے کی توجیہ	
	جن وانس کا حساب لینے اور ان کو جزاء دینے میں	۲۹	۶۰۷	میزان کے متعلق مفسرین کے اقوال	۱۰
۶۲۰	اللہ کی نعمتیں		۶۰۷	طغیان کا معنی	۱۱
	پیشگی احوال قیامت بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی	۳۰	۶۰۷	وزن صحیح کرنے کے حکم کی تکرار کی توجیہ	۱۲
۶۲۱	نعمتیں			اعمال اور ان کی کیفیات کے وزن پر ایک اشکال	۱۳
۶۲۲	”شواظ“ اور ”نحاس“ کے معنی	۳۱	۶۰۸	کا جواب	
	آسمان کے پھٹنے اور اس کے سرخ ہو جانے میں اللہ	۳۲		”الانام“ الاکمام‘ الحب‘ العصف“ اور	۱۴
۶۲۳	تعالیٰ کی نعمتیں اور ”وردۃ“ اور ”دھان“ کے معنی		۶۰۹	”الریحان“ کے معانی	
	گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال	۳۳	۶۰۹	”فبای الاء ربکما تکذبن“ کے مخاطبین	۱۵
	نہ کرنے کا ایک آیت سے تعارض اور اس کے			”الاء“ کا معنی اور ”الاء“ اور ”النعماء“ کا	۱۶
۶۲۳	جوابات		۶۰۹	فرق	
۶۲۴	روز قیامت کی ہولناکیاں	۳۴	۶۱۰	ظاہری اور باطنی نعمتوں کا فرق اور ان کی تفصیل	۱۷
۶۲۵	جہنم میں کفار کے گھومنے کی کیفیت	۳۵		”الاء“ اور ”النعماء“ دونوں مترادف ہیں اور	۱۸
۶۲۶	ولمن خاف مقام ربہ جنتن (۲۶-۷۸)	۳۶	۶۱۱	ان میں ظاہری اور باطنی نعمتوں کا فرق کرنا صحیح نہیں	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۳۵	سورۃ الرحمن کا اختتام	۵۷		”ولمن خاف مقام ربہ“ کا شان نزول اور	۳۷
۶۳۶	سورۃ الواقعة		۶۲۸	اس بشارت کا ہر مومن کے لیے عام ہونا	
۶۳۶	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول	۱	۶۲۸	دو جنتوں کے مصداق میں احادیث و آثار	۳۸
۶۳۶	سورۃ الواقعة کے متعلق احادیث	۲	۶۲۹	زیر تفسیر آیت کے شان نزول میں ایک ضعیف روایت	۳۹
۶۳۷	سورۃ الواقعة کے مشمولات	۳	۶۳۰	اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ	۴۰
۶۳۹	اذا وقعت الواقعة (۱-۳۸)	۴		خوف خدا سے مرنے والے نوجوان کو دو جنتیں عطا فرمانا	۴۱
۶۵۰	سورۃ الواقعة اور سورۃ الرحمن کی باہمی مناسبت	۵	۶۳۰		
۶۵۱	قیامت کا وقوع اور اس کا جھوٹ نہ ہونا	۶	۶۳۲	”ذواتا افنان“ کا معنی	۴۲
۶۵۱	پست اور بلند کرنے کے محامل	۷	۶۳۲	جنت کے چشموں کی کیفیت	۴۳
۶۵۲	”رجت، بست“ اور ”ہباء منبأ“ کے معانی	۸	۶۳۳	جنت کے بستروں اور پھلوں کی کیفیت	۴۴
	”اصحاب المیمنہ، اصحاب المشئمہ“	۹		انسان عورتوں کے ساتھ جنات کے جماع کرنے کے جواز میں مذاہب	۴۵
۶۵۲	اور ”السابقون“ کے معانی اور ان کی وجہ تسمیہ		۶۳۳		
۶۵۳	”اصحاب المیمنہ“ کے مصداق	۱۰		جنات کے جنت میں داخل ہونے کے متعلق	۴۶
۶۵۳	”السابقون“ کے مصداق	۱۱	۶۳۴	مذاہب فقہاء	
۶۵۵	سبقت کا معنی	۱۲	۶۳۶	جنت کی حوروں کا حسن و جمال	۴۷
۶۵۵	”ثلثہ“ کا معنی اور مصداق	۱۳	۶۳۶	نیکی اور اس کی جزاء کی تفسیر میں احادیث اور آثار	۴۸
	”قلیل من الاخرین“ اور ”ثلثہ من الاخرین“	۱۴	۶۳۷	دو مزید جنتوں کی نعمت	۴۹
۶۵۶	میں تعارض کا جواب		۶۳۷	جنت کے درختوں، چشموں اور پھلوں کی نعمت	۵۰
۶۵۶	”موضونہ“ کا معنی	۱۵		آیا جنت میں مؤمنوں کی بیویاں زیادہ حسین ہوں گی یا جنت کی حوریں؟	۵۱
۶۵۷	”ولدان“ اور ”غلمان“ کے معانی اور مصداق	۱۶	۶۳۸		
	”اکواب، اباریق، کاس“ اور ”معین“ کے معانی اور مصداق	۱۷	۶۳۹	جس عورت کے متعدد شوہر ہوں وہ جنت میں کس شوہر کے پاس رہے گی؟	۵۲
۶۵۸	جنت کے پرندوں کی کیفیت	۱۸		حوروں کے متعلق سید مودودی کے انوکھے نظریہ پر بحث و نظر	۵۳
۶۵۹	حوروں کا حسن اور جمال	۱۹	۶۴۰		
	آخرت کی تمام نعمتوں کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے	۲۰	۶۴۲	”مقصورات“ اور خیموں کے معانی	۵۴
۶۶۰	لغواور گناہ کی باتوں کا مصداق	۲۱	۶۴۲	”رفرف“ اور ”عبقری“ کے معانی	۵۵
۶۶۱	جنت کی بیویوں، کیلوں اور درختوں کی صفات	۲۲	۶۴۴	اللہ کے نام کی برکت کا معنی اور اس کی رحمت کے تقاضے	۵۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۸۰	ایندھن فراہم کرنے کی نعمت	۴۱	۲۶۲	اہل جنت کی بیویوں کی کیفیات	۲۳
۲۸۰	آخرت کی آگ کی شدت	۴۲	۲۶۳	ثلة من الاولین (۳۹-۷۳)	۲۴
۲۸۰	”مقویں“ کا معنی	۴۳	۲۶۵	دائیں طرف والوں کے لیے بشارتیں	۲۵
۲۸۱	فلا اقسام بمواقع النجوم (۷۵-۹۶)	۴۴	۲۶۵	بائیں طرف والوں کے لیے وعیدیں	۲۶
۲۸۲	”مواقع النجوم“ کی قسم کی توجیہ	۴۵		تخلیق انسان سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حشر و نشر پر	۲۷
۲۸۲	”مواقع النجوم“ کے مصداق	۴۶	۲۶۷	استدلال	
۲۸۳	کفار مکہ کے علم کی نفی کی توجیہ	۴۷		تخلیق کے مراحل سے مرنے کے بعد اٹھنے پر	۲۸
۲۸۳	قرآن کریم کو کریم فرمانے کی دس وجوہ	۴۸	۲۶۸	استدلال	
	قرآن مجید کو ”کتاب“ اور ”مکنون“ فرمانے	۴۹	۲۶۹	حیات بعد الموت پر ایک اور دلیل	۲۹
۲۸۷	کی توجیہ			حشر (کھیتی باڑی کرنا) مخلوق کی صفت ہے اور	۳۰
	بے وضو قرآن مجید کو چھونے کی ممانعت میں	۵۰		زرع (اگانا) اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا خاصہ	
۲۸۷	مفسرین کی تصریحات		۲۶۹	ہے	
	بے وضو قرآن مجید کو چھونے کی ممانعت میں	۵۱		اللہ تعالیٰ کے خاص افعال کا مخلوق کی طرف نسبت	۳۱
۲۸۸	احادیث		۲۷۰	کرنے کا جواز	
	بے وضو قرآن مجید کو چھونے کی ممانعت میں	۵۲	۲۷۰	سید مودودی کے نزدیک مشرک کی تعریف	۳۲
۲۸۹	آثار صحابہ و تابعین			مخلوق کو سمیع و بصیر فاعل مختار اور قادر کہنے کا جواز	۳۳
	بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی ممانعت میں	۵۳	۲۷۰	اور ان کا شرک نہ ہونا	
۲۸۹	فقہاء مالکیہ کا مذہب			سید مودودی کی مشرک کی تعریف سے معاذ اللہ	۳۴
	بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی ممانعت میں	۵۴	۲۷۱	اللہ تعالیٰ کا بھی مشرک ہونا	
۲۹۰	فقہاء شافعیہ کا مذہب		۲۷۲	مشرک کی صحیح تعریف	۳۵
	بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے میں فقہاء	۵۵	۲۷۲	شرک کرنے والوں کے متعدد گروہ	۳۶
۲۹۰	حنبلیہ کا مذہب		۲۷۵	اسناد مجازی	۳۷
	بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے میں فقہاء	۵۶		اسناد مجاز عقلی کی تعریف اور اس کے ثبوت میں	۳۸
۲۹۱	احناف کا مذہب			قرآن مجید کی آیات اور اس بناء پر سید مودودی	
	کتب تفسیر اور کتب فقہ کو بے وضو چھونے میں	۵۷	۲۷۶	اور ان کے ہم مشربوں کا رد	
۲۹۱	احناف کا مذہب اور مصنف کا مختار			”حطام“ تفکھون، مغرمون“ اور ”محرومون“	۳۹
	غیر مقلدین کے نزدیک جنبی اور حائض کے	۵۸	۲۷۹	کے معانی	
۲۹۲	تلاوت قرآن کا جواز اور مصنف کا رد		۲۸۰	بیٹھاپانی فراہم کرنے کی نعمت	۴۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۱۳	اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں	۷	۶۹۴	غیر مقلدین کے نزدیک جنبی حائض اور بے وضو کے سجدہ تلاوت کرنے کا جواز اور مصنف کا رد	۵۹
۷۱۳	اللہ تعالیٰ کے اول و آخر ظاہر و باطن کے معانی اور محامل	۸	۶۹۶	جنبی حائض اور بے وضو کے قرآن مجید کو چھونے پر شیخ شوکانی کا استدلال اور مصنف کا رد	۶۰
۷۱۶	اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت پر دلائل اور نظائر	۹		حائضہ اور جنبی کے مسجد میں داخل ہونے کے جواز	۶۱
۷۱۷	اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے	۱۰	۶۹۷	پر علماء غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات	۶۲
۷۱۷	میتاق کے محامل	۱۱	۷۰۰	قرآن مجید کو بہ تدریج نازل کرنے کی وجوہ	۶۳
۷۱۸	جس عمل میں زیادہ مشقت ہو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے	۱۲	۷۰۱	مد اہنت کا معنی	۶۳
۷۱۹	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فضل الامت ہونا	۱۳		تکذیب کو رزق بنانے کی توجیہ اور آیت کا شان نزول	۶۴
۷۲۰	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں احادیث	۱۴	۷۰۲	اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا اثبات اور مخلوق کی سلطنت کا ابطال	۶۵
۷۲۱	فضائل صحابہ میں احادیث	۱۵	۷۰۳	”روح“ اور ”ریحان“ کے معانی	۶۶
۷۲۱	من ذا الذی یقرض اللہ (۱۹-۱۱)	۱۶	۷۰۳	مؤمنوں پر فرشتوں کے سلام کے مواضع اور مقامات	۶۷
۷۲۲	قرض حسن کی شرائط	۱۷	۷۰۴	کافروں کے لیے آخرت میں عذاب کی مہمانی	۶۸
۷۲۵	اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض فرمانے کی توجیہ	۱۸	۷۰۴	اللہ تعالیٰ کے اسم کی تسبیح کی توجیہات	۶۹
۷۲۵	قیامت کے دن مؤمنوں کے نور کی مختلف مقدار	۱۹		رکوع میں ”سبحان ربی العظیم“ اور سجدہ	۷۰
۷۲۶	قیامت کے دن منافقین کا جنت کے راستے سے محروم ہونا	۲۰	۷۰۵	”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھنے کی توجیہ	۷۱
۷۲۶	قیامت کے دن مؤمنوں اور منافقوں کا معاملہ	۲۱	۷۰۶	سورۃ الواقعة کا اختتام	
۷۲۷	خضوع اور خشوع کی تعریف	۲۲	۷۰۷	سورۃ الحديد	
۷۲۸	ہر مؤمن کا صدیق اور شہید ہونا	۲۳		سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۷۲۸	ہر مؤمن کے شہید ہونے کی وجوہ	۲۴	۷۰۷	سورت الحديد کے کئی یا مدنی ہونے کا اختلاف اور دونوں طرف کی احادیث	۲
۷۲۹	حکمی شہداء کی تعداد	۲۵	۷۱۰	سورت الحديد کی فضیلت	۳
۷۳۰	صدقہ کا شوق اور شہادت کی تمنا کا اجر	۲۶	۷۱۰	سورت الحديد کے مشمولات	۴
۷۳۱	اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولہو	۲۷	۷۱۱	سبح لله ما فی السموات والارض	۵
۷۳۱ (۲۰-۲۵)	اس سوال کا جواب کہ دنیا میں اچھی اور مقدس	۲۸	۷۱۳	(۱-۱۰)	۶
				اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی اقسام	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۲۵	علامہ اسماعیل حقی حنفی کی تفسیر	۵۰		چیزیں بھی ہیں پھر دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان کیوں ہے؟	
	”ورہبانیۃ ابتدعوھا“ (الحمدید: ۲۷) کی تفسیر	۵۱	۷۳۲		
	میں سید نمودودی کی جمہور مفسرین اور احادیث		۷۳۳	۲۹	ٹھوولعب اور زینت کا معنی
۷۲۶	کثیرہ کی مخالفت		۷۳۴	۳۰	تفاخر کی مذمت میں حدیث
۷۲۶	سید نمودودی کے رد میں مفتی شفیع کی تفسیر سے تائید	۵۲		۳۱	مال اور اولاد میں کثرت کی طلب مطلقاً مذموم نہیں ہے
	حضرت ابن مسعود کی روایت کے کتب تفسیر اور	۵۳	۷۳۴		
۷۲۷	کتب احادیث سے حوالہ جات		۷۳۵	۳۲	الحمدید: ۲۱ اور آل عمران: ۱۳۳ میں تعارض کا جواب
۷۲۸	بدعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۵۴			
	وہ فقہائے اسلام جن کے نزدیک بدعت کی دو	۵۵	۷۳۵	۳۳	مرجہ کی دلیل اور اس کا رد
۷۲۹	قسمیں ہیں بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سیئہ		۷۳۵	۳۴	حصولِ جنت کا حقیقی اور ظاہری سبب
	وہ فقہاء اسلام جن کے نزدیک بدعت کی پانچ	۵۶	۷۳۶	۳۵	لوح محفوظ میں لکھنے کی حکمتیں
۷۵۰	قسمیں ہیں		۷۳۷	۳۶	مصیبت اور راحت کے وقت مسلمانوں کا طریقہ
۷۵۲	بدعت کی تقسیم کے متعلق علمائے دیوبند کی تصریحات	۵۷		۳۷	بخل کا حکم دینے کے مصادیق اور بخل اور سخاوت کا معنی
۷۵۳	بدعت کی تقسیم کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کی تصریحات	۵۸	۷۳۷		
۷۵۴	علامہ اسماعیل حقی اور شیخ ابن تیمیہ کے موقف کا تجزیہ	۵۹	۷۳۸	۳۸	”البینات“ کا معنی اور نزول کتاب کی حکمت
	بدعت کی تقسیم کے متعلق علمائے غیر مقلدین کی	۶۰	۷۳۸	۳۹	لوہے کے فوائد
۷۵۴	تصریحات			۴۰	بعض مترجمین کے ترجمہ سے معاذ اللہ تعالیٰ کی بے علمی ظاہر ہونا
۷۵۵	رہبانیت کے رعایت نہ کرنے والوں کے مصادیق	۶۱	۷۳۹	۴۱	ولقد ارسلنا نوحاً (۲۹-۲۶)
	اہل کتاب میں سے جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ	۶۲	۷۴۰	۴۲	نبی کتاب اور فاسق کے معنی
۷۵۷	علیہ وسلم پر ایمان لایا اس کو دو اجرتوں کی تحقیق		۷۴۱	۴۳	”رہبانیت“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی
	آیا دو اجرت صحیح مؤمن اہل کتاب کو ملیں گے یا ہر اہل	۶۳	۷۴۱	۴۴	مذہب اربعہ کے مفسرین کا اختراع رہبانیت سے بدعتِ حسنہ کے جواز پر استدلال
۷۵۸	کتاب کو جو اسلام قبول کرے گا؟		۷۴۲	۴۵	امام رازی شافعی کی تفسیر
	اہل کتاب میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر	۶۴	۷۴۲	۴۶	علامہ قرطبی کی تفسیر
	ایمان لانے والوں کو دو گنا اجر عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا		۷۴۳	۴۷	علامہ ابن جوزی حنبلی کی تفسیر
۷۵۹	خصوصی فضل ہے		۷۴۳	۴۸	علامہ سمرقندی حنفی کی تفسیر
	آیا مؤمنین اہل کتاب کو ہر نیک عمل کا دو گنا اجر دیا	۶۵	۷۴۴	۴۹	علامہ روی حنفی کی تفسیر
۷۶۰	جائے گا یا نہیں؟		۷۴۴		
۷۶۱	سورۃ الحمد کا اختتام	۶۶	۷۴۴		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
				سورۃ المجادلہ	
۷۸۰	یہودیوں اور منافقوں کو مسلمانوں کے خلاف سرگوشیوں سے منع فرمانا	۲۲	۷۶۲	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۷۸۰	یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی صورت میں بددعا دینا اور آپ کا جواب	۲۳	۷۶۲	سورۃ المجادلہ کے متعلق احادیث	۲
۷۸۱	اہل ذمہ کو سلام کا جواب دینے میں فقہاء کے مذاہب	۲۴	۷۶۳	سورۃ المجادلہ کا زمانہ نزول	۳
۷۸۲	یہودیوں کی گستاخیوں کے باوجود ان پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ	۲۵	۷۶۳	سورۃ المجادلہ کے مشمولات	۴
۷۸۲	مسلمانوں کو سرگوشی سے منع کرنے کا محمل	۲۶	۷۶۵	قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها (۶-۱)	۵
۷۸۲	مجلس میں ایک آدمی کو چھوڑ کر باقیوں کا سرگوشیاں کرنا منع ہے	۲۷	۷۶۸	ظہار کی تعریف اور اس کا حکم	۶
۷۸۳	حاضرین بدر کو ان کی فضیلت کی وجہ سے صفِ اول میں بٹھانا	۲۸	۷۶۸	ظہار کے الفاظ اور اس کی دیگر تفصیل	۷
۷۸۳	امیر اور منتظم مجلس کو چاہیے کہ عام لوگوں کو صفِ اول سے اٹھا کر اصحابِ فضل کو بٹھائے	۲۹	۷۶۸	بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں بہن کہنا آیا یہ ظہار یا طلاق ہے یا نہیں؟	۸
۷۸۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں حسن ہے	۳۰	۷۶۹	بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں بہن کہنے سے طلاق واقع نہ ہونے کے دلائل	۹
۷۸۵	اصحابِ فضل کو کسی کو اٹھا کر اُس کی جگہ بیٹھنے کی ممانعت	۳۱	۷۷۲	کفارہ ظہار کے متعلق احادیث	۱۰
۷۸۶	اللہ کی کشادگی کرنے کا معنی	۳۲	۷۷۲	ظہار میں فقہاء احناف کا موقف	۱۱
۷۸۶	علماء کی فضیلت میں آیات اور احادیث	۳۳	۷۷۳	ظہار میں فقہاء حنبلیہ کا موقف	۱۲
۷۸۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کی حکمتیں	۳۴	۷۷۳	ظہار میں فقہاء مالکیہ کا موقف	۱۳
۷۸۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے آیا واجب تھا یا مستحب؟	۳۵	۷۷۳	ظہار میں فقہاء شافعیہ کا موقف	۱۴
۷۸۸	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے امت کو تخفیف حاصل کرنا	۳۶	۷۷۳	ظہار میں فقہاء حنفیہ کی دلیل کا جواب	۱۵
۷۸۸	اکابر صحابہ کا آپ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہ کرنا آیا ان کے حق میں کسی طعن یا نقص کا موجب ہے؟	۳۷	۷۷۵	مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا ضابطہ	۱۶
۷۸۹		۳۸	۷۷۵	ظہار میں غیر مقلدین کا موقف	۱۷
			۷۷۶	”یحادون“ کا معنی اور کفار کی دنیا اور آخرت میں رسوائی	۱۸
			۷۷۶	الم تر ان اللہ يعلم ما فی السموات وما فی الارض (۱۳-۷)	۱۹
			۷۷۹	اللہ تعالیٰ کا سرگوشیوں پر مطلع ہونا	۲۰
			۷۸۰	تین اور پانچ سرگوشیاں کرنے والوں کی تخصیص کی وجہ	۲۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	بنو نضیر کے درختوں کا کاٹنا اور چھوڑ دینا آیا صحابہ کے اجتہاد سے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے تھا؟	۱۱	۷۸۹	الم تر الی الذین تولوا قوماً (۲۲-۱۳)	۳۹
۸۰۸	فئے کا لغوی اور شرعی معنی	۱۲	۷۹۱	المجادلہ: ۱۳ کا شان نزول	۴۰
۸۰۹	مال غنیمت اور مال فئے کو کفار کی ملکیت سے نکال کر مسلمانوں کو دینے کی وجہ	۱۳	۷۹۲	منافقین کے کروت اور ان کی سزا	۴۱
۸۱۰	مال غنیمت اور مال فئے کا فرق	۱۴	۷۹۲	منافقین کی مذمت	۴۲
۸۱۰	قرآن مجید سے اموال فئے کے وقف ہونے پر دلائل	۱۵	۷۹۳	دنیا اور آخرت میں منافقین کی جھوٹی قسمیں	۴۳
۸۱۰	احادیث سے مال فئے کے وقف ہونے پر دلائل اور بابغ فدک کا وقف ہونا	۱۶	۷۹۳	”استحوذ“ کا معنی	۴۴
۸۱۱	کیا حضرت علی نے نبی کا وارث نہ بنانے کی روایت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جھوٹا اور عہد شکن خائن اور گناہ گار گمان کیا تھا؟	۱۷	۷۹۳	کفار پر مسلمانوں کے غلبہ سے مراد دلائل کا غلبہ ہے یا مادی غلبہ؟	۴۵
۸۱۲	نبی کا وارث نہ بنانے کی حدیث پر اشکالات کے جوابات	۱۸	۷۹۳	کافروں سے ان کے دین کی وجہ سے محبت کرنا ہے اور دیگر اغراض کی وجہ سے گناہ رکھنا گناہ ہے	۴۶
۸۱۳	نبی کا وارث نہ بنانے کی تائید میں دیگر احادیث	۱۹	۷۹۴	اپنے کافر باپ بیٹے اور دیگر رشتہ داروں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ترجیح دینے والے صحابہ	۴۷
۸۱۳	”دولت“ کا معنی	۲۰	۷۹۴	اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت نہ کرنے والوں پر انعامات	۴۸
۸۱۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب الطاعت ہے	۲۱	۷۹۵	المجادلہ: ۲۲ کا مشہور شان نزول	۴۹
۸۱۴	فقراء مہاجرین کا صادق ہونا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے صادق ہونے کو مستلزم ہے	۲۲	۷۹۶	سورۃ المجادلہ کا اختتام	۵۰
۸۱۵	اس کی توجیہ کہ انصار نے مہاجرین سے پہلے ایمان کی جگہ بنالی	۲۳	۷۹۸	سورۃ الحشر	
۸۱۵	اموال بنو نضیر صرف مہاجرین کو عطا فرمانا نہ انصار کو	۲۴	۷۹۸	سورت کا نام	۱
۸۱۶	ایشیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۵	۷۹۸	سورۃ الحشر کے مشمولات	۲
۸۱۶	ایشیہ کے متعلق احادیث اور آثار	۲۶	۸۰۰	سبح لله ما فی السموات وما فی الارض وهو العزيز الحكيم (۱-۱۰)	۳
۸۱۸	صرف اصحاب صبر کے لیے تنگی میں اپنے اوپر ایشیہ کی اجازت ہے ہر شخص کے لیے نہیں	۲۷	۸۰۲	غزوة بنو نضیر	۴
۸۲۱		۲۸	۸۰۳	غزوة بنو نضیر کی مزید تفصیل	۵
		۲۹	۸۰۵	”اول حشر“ کا معنی	۶
		۳۰	۸۰۵	بنو نضیر کے عذاب سے عبرت حاصل کرنے کی تفصیل	۷
		۳۱	۸۰۶	اعتبار کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۸
		۳۲	۸۰۷	”الجللاء“ کا معنی	۹
		۳۳	۸۰۷	صحابہ کے اجتہاد کی تصدیق	۱۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۳۹	یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا عدوی (۱-۶)	۴	۸۲۲	تنگی میں دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا ضابطہ	۲۹
۸۴۱	الممتحنہ: ۱-۳ کا شان نزول	۵		اپنے اوپر اپنے عیال پر اور دوسروں پر خرچ کرنے کی ترتیب	۳۰
	وہ عورت کون تھی جس کے ہاتھ حضرت حاطب نے خطر روانہ کیا تھا؟	۶	۸۲۳	ترتیب مذکور کے متعلق مزید احادیث	۳۱
۸۴۱	حضرت حاطب سے مواخذہ کیوں نہیں کیا گیا اور اہل بدر کی عام مغفرت کی توجیہ	۷	۸۲۳	صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان کا ایثار کرنا جائز ہے	۳۲
۸۴۲	جاسوس کا شرعی حکم اور حدیث مذکور کے دیگر مسائل	۸	۸۲۶	”الشح“ کا معنی اور اس کے متعلق احادیث اور آثار	۳۳
۸۴۲	کفار سے موالات (دوستی) کی ممانعت میں قرآن مجید کی آیات	۹	۸۲۷	صحابہ اور اخیار تابعین سے محبت کا وجوب	۳۴
۸۴۳	کفار سے موالات صوری اور مجرد معاملہ کرنے کا شرعی حکم	۱۰	۸۲۸	اصحاب کو سب و شتم کی ممانعت اور مذمت میں احادیث	۳۵
۸۴۳	موالات ہر کافر سے حرام ہے	۱۱	۸۳۱	الم تر الی الذین نافقوا (۱۱-۲۴)	۳۶
۸۴۳	موالات صوریہ کے احکام	۱۲	۸۳۱	بنو نضیر کو منافقین کا ورغلا نا اور دونوں کی ناکامی اور عذاب	۳۷
۸۴۳	مجرد معاملت کا حکم	۱۳		منافقین کا بنو نضیر کو شیطان کی طرح ورغلا نا اور اس کا انجام	۳۸
۸۴۵	کفار کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ	۱۴	۸۳۳	منافقین کی مذمت کے بعد مؤمنوں کو ہدایت اور تقویٰ کی ترغیب	۳۹
۸۴۶	کافروں کے لیے آزمائش کا معنی	۱۵	۸۳۳	قرآن مجید کی عظمت	۴۰
	عسی اللہ ان يجعل بینکم و بین الذین	۱۶		غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور لفظ علم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا	۴۱
۸۴۶	(۷-۱۳)		۸۳۴	”الملک“ ”القدوس“ ”السلام“ ”المؤمن“ ”العزيز“ ”الجبار“ اور ”المتکبر“ کا معنی	۴۲
	غیر متحارب کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تحقیق	۱۷	۸۳۵	اللہ تعالیٰ کے لیے ”المتکبر“ کا لفظ باعث مدح ہے اور مخلوق کے لیے باعث مذمت ہے	۴۳
۸۴۸	غیر متحارب کافروں کے ساتھ حسن سلوک میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق	۱۸	۸۳۵	”الخالق“ ”الباری“ اور ”المصور“ کا معنی	۴۴
۸۴۹	سلوک مالی کی اقسام	۱۹	۸۳۶	سورۃ الحشر کا اختتام	۴۵
۸۴۹	موالات کی تقسیم اور اس کے احکام	۲۰			
۸۴۹	میل طبعی کا حکم	۲۱	۸۳۷	سورۃ الممتحنہ	
۸۵۰	موالات صوریہ کے احکام	۲۲	۸۳۷	سورت کا نام	۱
۸۵۰	مدارات کا بیان	۲۳	۸۳۷	سورۃ الممتحنہ کا زمانہ نزول	۲
	حربی غیر معاہد سے موالات کی حالی صورت بھی	۲۴	۸۳۸	سورۃ الممتحنہ کے مشمولات	۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۵۸	ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات	۳۸	۸۵۱	حرام ہے	
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام لانے والی خواتین	۳۹	۸۵۱	آیات مجتہدہ میں بر و معاملات سے کیا مراد ہے؟	۲۵
۸۵۹	سے احکام شرعیہ کی اطاعت پر بیعت لینا		۸۵۱	معنی اقسام کی تحقیق	۲۶
۸۵۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے کی کیفیت	۴۰		صلح حدیبیہ کے تقاضے سے صرف مہاجر مسلمانوں	۲۷
۸۶۰	یہود کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت	۴۱		کا کفار کی طرف واپس کرنا واجب تھا نہ کہ مہاجر	
۸۶۰	سورۃ الممتحنہ کا اختتام	۴۲	۸۵۳	خواتین کا بھی	
۸۶۲	سورۃ الصف		۸۵۳	مہاجر خواتین سے امتحان لینے کی کیفیت	۲۸
۸۶۲	سورت کا نام	۱		مسلم خواتین ہجرت کر کے مدینے آئیں یا مدینہ سے	۲۹
۸۶۲	سورت الصف کے مشمولات	۲		مسلم عورتیں عورتیں مرتد ہو کر کفار کی طرف جائیں	
	سبح لله ما فی السموات وما فی الارض	۳	۸۵۴	اختلاف دارین سے نکاح سابق منقطع ہو جائے گا	
۸۶۳	(۱-۹)		۸۵۴	مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والی مسلم خواتین	۳۰
۸۶۳	اللہ تعالیٰ کی تسبیح کبھی منقطع نہیں ہوتی	۴		مدینہ سے اسلام کو ترک کر کے کفار کی طرف	۳۱
	نذر اور وعدہ پورا نہ کرنے والوں اور بے عمل	۵	۸۵۵	جانے والی عورتیں	
۸۶۵	واعظوں پر وعید			فریقین کے سابق شوہروں کو ان کے دیئے ہوئے	۳۲
۸۶۶	بلا ضرورت جنگ کی صفوں کو توڑنا جائز نہیں	۶	۸۵۵	مہر کی رقم دینا آیا اب بھی واجب ہے یا نہیں؟	
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی اذیتوں کی	۷		ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی مسلمان	۳۳
۸۶۶	تفصیل		۸۵۵	خاتون کے نکاح سابق کا انقطاع میں مذہب ائمہ	
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ	۸		جو عورت مسلمان ہو کر دارالحدیب سے ہجرت کر	۳۴
۸۶۷	وسلم کی آمد کی بشارت دینا			کے دارالاسلام میں آئے اُس کے نکاح سابق	
	موجودہ انجیل کے متن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۹	۸۵۶	کے متعلق فقہاء احناف کا مسلک	
۸۶۷	کے متعلق بشارتیں			ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی خاتون کے	۳۵
۸۶۹	اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کے معانی اور مصادیق	۱۰	۸۵۶	نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء شافعیہ کا مذہب	
	یا ایہا الذین امنوا هل ادلکم علی تجارة	۱۱		ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی مسلمان	۳۶
۸۷۰	(۱۰-۱۴)			خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء	
	دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کرنا بھی اللہ کا	۱۲	۸۵۶	حنبلیہ کا مذہب	
۸۷۱	مطلوب ہے			ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی مسلمان	۳۷
	جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنا بھی اللہ کا	۱۳		خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء	
۸۷۲	مطلوب ہے		۸۵۷	مالکیہ کا مذہب	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۸۸	آیا اذان اول پر جمعہ کی سعی واجب ہے یا اذان ثانی پر؟	۱۹	۸۷۲	ایمان والوں کو دین کی مدد کرنے کا حکم دینے کی توجیہ اور مدد کرنے والوں کے مصادیق	۱۴
۸۸۹	عمید اور جمعہ دونوں ایک دن میں جمع ہو جائیں تو دونوں کو پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟	۲۰	۸۷۳	نصاری کے تین فرقے	۱۵
۸۹۰	نماز جمعہ پڑھنے کے بعد کاروبار کرنا واجب نہیں مباح ہے	۲۱	۸۷۳	سورۃ القف کا اختتام	۱۶
۸۹۰	اللہ تعالیٰ کے فضل طلب کرنے کے محامل	۲۲	۸۷۳	سورۃ الجمعہ	
۸۹۱	اتوار کی چھٹی کے حامیوں کے دلائل اور ان کے جوابات	۲۳	۸۷۵	سورت کا نام	۱
۸۹۱	جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل	۲۴	۸۷۵	جمعہ کے متعلق احادیث	۲
۸۹۲	خطبہ جمعہ کے دوران صحابہ کے اٹھ کر چلے جانے کی توجیہ	۲۵	۸۷۶ (۱-۱۱)	سورۃ جمعہ کا زمانہ نزول	۳
۸۹۳	سورۃ الجمعہ کا اختتام	۲۶	۸۷۸	سورۃ جمعہ کے مشمولات	۴
۸۹۳	سورۃ المنافقون		۸۷۸	یسبح لله ما فی السموات وما فی الارض	۵
۸۹۳	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۸۷۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات	۶
۸۹۳	سورۃ المنافقون کا زمانہ نزول	۲	۸۷۹	آپ کی رسالت کا عموم	۷
۸۹۵	سورۃ المنافقون کے مشمولات	۳	۸۷۹	فرزندان فارس کا علم دین کی بلندیوں پر پہنچنا	۸
۸۹۷	اذا جاءك المنافقون (۱-۱۱)	۴	۸۸۰	قیامت تک کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور ان کے باطن کو صاف کرنا	۹
۸۹۹	نفاق کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۵	۸۸۱	اللہ تعالیٰ کے فضل کی مختلف تعبیریں	۱۰
۸۹۹	عبداللہ بن ابی کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزبانی کرنا	۶	۸۸۲	احکام تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہود کی مذمت	۱۱
۸۹۹	غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی کا اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ لشکر اسلام سے نکل جانا	۷	۸۸۲	موجودہ "تورات" کے متن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں	۱۲
۹۰۰	غزوہ بنو قینقاع میں منافقوں کا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا	۸	۸۸۳	یہود کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ	۱۳
۹۰۱	غزوہ بنو المصطلق میں منافقین کا مسلمانوں سے جھگڑا کرنا	۹	۸۸۳	قرآن مجید کی پیشین گوئی کی صداقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پر استدلال	۱۴
۹۰۱	عبداللہ بن ابی کانہی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم پر بڑی تہمت لگانا	۱۰	۸۸۵	سابقہ آیات سے ارتباط	۱۵
۹۰۱			۸۸۵	جمعہ کی وجہ تسمیہ	۱۶
			۸۸۶	نماز جمعہ کے متعلق احادیث	۱۷
			۸۸۷	نماز جمعہ کے ضروری مسائل	۱۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۱۶	قیامت کے دن کو یوم التغابن فرمانے کی وجہ	۱۲	۹۰۲	منافقین کا شعار جھوٹ بولنا ہے	۱۱
۹۱۷	غبن فاحش کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	۱۳	۹۰۲	منافقوں کا اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنانا	۱۲
۹۱۷	ما اصاب من مصیبة الا باذن اللہ (۱۱-۱۸)	۱۴		منافقوں کے ایمان اور ان کے دلوں پر مہر لگانے	۱۳
۹۱۸	مصائب پر صبر کرنے کی تلقین اور ترغیب	۱۵	۹۰۳	کی توجیہ	
	اہل و عیال اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکیں یا	۱۶		منافقوں کو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے شہتیر کے	۱۴
	اس کی نافرمانی کے لیے کہیں تو ان کی بات پر عمل نہ		۹۰۳	ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ	
۹۱۹	کیا جائے		۹۰۴	منافقین کا طلب مغفرت سے انکار کرنا	۱۵
۹۱۹	اہل و عیال کا آزمائش ہونا اور اجر عظیم کی تفسیر	۱۷		غزوہ بنو المصطلق چھ ہجری میں عبد اللہ بن ابی کا	۱۶
۹۲۰	بہ قدر طاقت اللہ سے ڈرنے کا حکم	۱۸	۹۰۵	آپ کی اور آپ کے اصحاب کی شان میں گستاخی کرنا	
۹۲۰	اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا معنی	۱۹	۹۰۶	آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا بیان	۱۷
۹۲۱	سورۃ التغابن کا اختتام	۲۰	۹۰۶	مؤمنوں کی عزت کا معنی	۱۸
۹۲۳	ماخذ و مراجع	۲۵	۹۰۷	اللہ کے ذکر کی مختلف تفسیریں	۱۹
				حج میں تاخیر کے جواز سے حضرت ابن عباس کی	۲۰
			۹۰۷	تفسیر پر اعتراض اور اس کا جواب	
			۹۰۸	سورۃ المنافقون کا اختتام	۲۱
			۹۰۹	سورۃ التغابن	
			۹۰۹	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
			۹۰۹	سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن میں مناسبت	۲
			۹۱۰	مسجات اور آخری چھ صورتوں میں ارتباط	۳
			۹۱۰	سورۃ التغابن کے مشمولات	۴
				یسبح لله ما فی السموات وما فی الارض	۵
			۹۱۱	(۱-۱۰)	
			۹۱۲	آسمانوں اور زمینوں کا زبان قال سے تسبیح کرنا	۶
			۹۱۳	تقدیر پر ایک مشہور اشکال کا جواب	۷
			۹۱۳	انسان کی صورت سب سے حسین ہے	۸
			۹۱۴	کافروں کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟	۹
			۹۱۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے کی تحقیق	۱۰
			۹۱۶	قرآن مجید کو نور فرمانے کی وجہ	۱۱



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین (تبیان القرآن جلد دوازدہم)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
				سورة الطلاق	
۵۸	طلاق کا اصطلاحی معنی	۱۶	۴۱		
۵۸	طلاق کی اقسام	۱۷	۴۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
	اس اعتراض کا جواب کہ جب حاملہ کو جماع کے بعد طلاق دینا جائز ہے تو غیر حاملہ کو کیوں جائز نہیں؟	۱۸	۴۲	سورة الطلاق کا سبب نزول	۲
۵۹			۴۳	سورة الطلاق کی سورة التغابن سے مناسبت	۳
۵۹	عدت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور عدت کی اقسام	۱۹	۴۳	سورة الطلاق کے مشمولات	۴
	دوران عدت عورتوں کو گھروں سے نکلنے یا ان کے از خود نکلنے کی ممانعت	۲۰		یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتھن واحصوا العدة (۱-۷)	۵
۶۰	کھلی بے حیائی کی متعدد تفاسیر	۲۱	۴۷	مسئلہ طلاق کی تحقیق	۶
۶۰	ایک طہر میں تین طلاق دینے کی تحریم	۲۲	۴۸	ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقوں کے متعلق فقہاء حنبلیہ کی تحقیق	۷
۶۰	ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے کی اباحت پر امام شافعی کے دلائل	۲۳		ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین طلاقیں قرار دینے کی احادیث	۸
۶۱	کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاق دینے کی تحریم کے متعلق احادیث اور ان کی وجہ ترجیح	۲۴	۵۱	ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پر شیخ ابن تیمیہ کے دلائل	۹
۶۱	فی نفسہ طلاق کے ناپسندیدہ ہونے کے متعلق احادیث	۲۵	۵۲	شیخ ابن تیمیہ کے دلائل کے جوابات	۱۰
	عدت طلاق کے دوران عورت کے گھر سے باہر نکلنے پر ایک حدیث سے جواز کا استدلال	۲۶	۵۶	ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پر شیخ ابن حزم ظاہری کا رد کرنا	۱۱
۶۲	اس حدیث کی بناء پر علامہ قرطبی مالکی کا مذہب احناف کو رد کرنا	۲۷	۵۷	مسئلہ طلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نداء کرنے کی توجیہ	۱۲
۶۳	مصنف کی طرف سے علامہ قرطبی کے اعتراض کا جواب	۲۸	۵۷	حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت	۱۳
۶۳			۵۸	طلاق بر طریقہ سنت کی دو صورتیں	۱۴
				طلاق کا لغوی معنی	۱۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	حضرت فاطمہ بنت قیس کی وہ روایت جس سے	۵۰	۶۴	ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب	۲۹
	ائمہ ثلاثہ نے مطلقہ کے خرچ کے عدم وجوب پر			علامہ قرطبی کا حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث	۳۰
۸۱	استدلال کیا ہے		۶۵	سے امام ابوحنیفہ پر رد اور اس کے جوابات	
	طلاق ثلاثہ کے بعد نفقہ اور سکنتی کے استحقاق میں	۵۱	۶۶	تین طلاقوں کی ممانعت پر دلیل	۳۱
۸۲	مذہب			مطلقہ سے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے	۳۲
	مطلقہ ثلاثہ کے نفقہ کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کے	۵۲	۶۷	مطابق رخصت کرنے کا معنی	
۸۲	دلائل			طلاق اور اس سے رجوع پر گواہ بنانے کے حکم میں	۳۳
	مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنتی کے وجوب پر	۵۳	۶۸	مذہب اور اس کی حکمتیں	
۸۲	فقہاء احناف کے قرآن مجید سے دلائل			متقین کے لیے راہ نجات کے حصول کے سلسلہ	۳۴
	مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنتی کے وجوب پر	۵۴	۶۸	میں احادیث اور آثار	
۸۳	احادیث سے دلائل		۷۰	توکل کا معنی اور توکل کے متعلق احادیث	۳۵
۸۵	نفقہ کے عدم وجوب پر ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب	۵۵	۷۱	اللہ کے کام پورا کرنے کے محامل	۳۶
۸۶	دودھ پلانے کی اجرت لینے کا جواز	۵۶	۷۱	تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۷
	شوہر پر اس کی بیوی اور بچوں کے خرچ دینے کا	۵۷	۷۲	تقدیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۸
۸۶	وجوب		۷۲	تقدیر کی وضاحت اور اس کا کھوج لگانے کی ممانعت	۳۹
	وکاین من قریبۃ عتت عن امر ربھا	۵۸	۷۳	خلق اور تقدیر کا فرق	۴۰
۸۸	ورسلہ (۸-۱۲)		۷۴	قضاء معلق اور قضاء مبرم	۴۱
	احکام شرعیہ پر عمل کرنے پر ثواب کی بشارت اور	۵۹		رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق	۴۲
۸۹	نا فرمانی پر عذاب کی وعید		۷۴	احادیث	
۹۰	سات زمینوں کے متعلق امام رازی کی تحقیق	۶۰	۷۵	ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض	۴۳
۹۰	سات زمینوں کے متعلق دیگر مفسرین کی آراء	۶۱	۷۵	ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کا جواب	۴۴
۹۱	سات زمینوں کے متعلق صریح احادیث	۶۲	۷۵	تقدیر کے متعلق احادیث اور ان کی تشریحات	۴۵
۹۲	سات زمینوں کے متعلق اثر ابن عباس	۶۳		جن بوڑھی عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت	۴۶
	اثر ابن عباس کے متعلق محدثین اور مشاہیر علماء کی	۶۴	۷۹	میں شک ہونے کے محامل	
۹۳	آراء		۸۰	بیوہ حاملہ کی عدت میں اختلاف صحابہ	۴۷
۹۴	اثر ابن عباس پر اشکال	۶۵		نابالغہ بوڑھی اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق	۴۸
۹۴	اشکال مذکور کا جواب مولانا قصوری سے	۶۶	۸۰	فقہاء احناف کی تصریحات	
۹۵	اشکال مذکور کا جواب شیخ نانوتوی سے	۶۷	۸۱	اللہ سے ڈرنے کے فوائد	۴۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کے لیے ان کو راز کی بات بتانا اور ان کا راز افشاء کرنا	۱۸	۹۶	اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دلیل	۶۸
۱۱۲	راز افشاء کرنا		۹۶	سورۃ الطلاق کا اختتام	۶۹
۱۱۳	وحی خفی کا ثبوت	۱۹	۹۷	سورۃ التحريم	
۱۱۴	حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو توبہ کا حکم دینے کی توجیہ	۲۰	۹۷	سورت کا نام	۱
۱۱۴	نیک مسلمانوں کے مصادیق	۲۱	۹۸	سورۃ الطلاق اور سورۃ التحريم میں باہمی مناسبت	۲
۱۱۴	اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد حضرت جبریل نیک مسلمانوں اور فرشتوں کی مدد کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟	۲۲	۹۹	سورۃ التحريم کے مشمولات	۳
۱۱۵	مقبولانِ بارگاہِ عزت سے مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا ہے	۲۳	۱۰۱	بیابھا النبی لم تحرم ما احل اللہ (۱-۷)	۴
۱۱۵	مولیٰ اور ولی کا معنی	۲۴	۱۰۳	صحیحین کی دو روایتوں کے تعارض کا جواب	۵
۱۱۶	لفظ مولوی کا معنی	۲۵	۱۰۳	حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی سوانح	۶
۱۱۶	لفظ مولوی کے مواضع استعمال	۲۶	۱۰۳	مابور پر حضرت ماریہ کی تہمت اور اس کا اس تہمت سے بری ہونا	۷
۱۱۷	لفظ شیخ کا معنی اور اس کے مواضع استعمال	۲۷	۱۰۴	اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا کفارہ ادا کرنا	۸
۱۱۸	”مسلمات مؤمنات“ اور ”قانتات“ وغیرہا کے معانی	۲۸	۱۰۶	التحريم: ۱ کے سبب نزول کی تین روایتوں میں سے کون سی روایت زیادہ صحیح اور معتبر ہے؟	۹
۱۱۸	کیا کوئی خاتون ازواجِ مطہرات سے افضل ہو سکتی ہے؟	۲۹	۱۰۶	مغایر کے معنی کی تحقیق	۱۰
۱۱۹	حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے ناراضگی کے سلسلہ میں احادیث	۳۰	۱۰۶	حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا حضور کو اپنے پاس زیادہ ٹھہرانے کے لیے مغایر کا حیلہ کرنا آیا گناہ تھا یا نہیں؟	۱۱
۱۱۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماہ ازواج سے الگ رہنا حضرت حفصہ کے افشاءِ راز کی وجہ سے تھا یا ازواج کے زیادہ خرچ مانگنے کی وجہ سے؟	۳۱	۱۰۷	غیرت کا معنی	۱۲
۱۲۲	ازواجِ مطہرات کو دنیا اور آخرت میں اختیار دینے کا سبب	۳۲	۱۰۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد سے امتناع کو حرام سے تعبیر کرنے کی تحقیق	۱۳
۱۲۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کا محمل	۳۳	۱۰۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد نہ پینے کے عزم کو سید مودودی کا ناپسندیدہ عمل کہنا	۱۴
			۱۰۹	بیوی کو حرام کہنے میں مذاہب فقہاء	۱۵
			۱۱۰	قسم کی گرہ کھولنے کا طریقہ	۱۶
			۱۱۰	اس کی تحقیق کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا یا نہیں	۱۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۳۸	"تبارک" کا صیغہ اور معنی اور اس لفظ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا	۵	۱۲۴	اپنے ماتحت لوگوں اور اولاد کو ادب سکھانے کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات	۳۴
۱۳۹	موت اور حیات کے معانی	۶	۱۲۵	دوزخ کے محافظ فرشتوں کی صفات	۳۵
۱۴۱	اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے اور آزمانے کی توجیہ	۷	۱۲۵	یا ایہا الذین امنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحاً. (۱۲-۸)	۳۶
۱۴۱	رحمن کے لفظ تخلیق میں کسی قسم کی کجی کا نہ ہونا	۸	۱۲۷	"توبۃ النصوح" کی تعریف میں مفسرین کے اقوال	۳۷
۱۴۲	بار بار دیکھنے کے حکم کی توجیہ	۹	۱۲۸	توبہ کرنے سے گناہوں کا معاف ہونا	۳۸
۱۴۲	ستاروں سے شیاطین کو رجم کرنے کی تحقیق	۱۰	۱۲۹	مرجہ کا اس پر استدلال کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی ضرورت نہیں اور اس کا رد	۳۹
۱۴۳	شہاب ثاقب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۱	۱۳۰	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے خلاف سید مودودی کی نقل کردہ ضعیف روایت اور اس کا رد	۴۰
۱۴۳	شہاب ثاقب کے متعلق احادیث	۱۲	۱۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی ایک دلیل	۴۱
۱۴۵	ستاروں سے شیاطین کو رجم کرنے پر اعتراضات کے جوابات	۱۳	۱۳۲	نجات کا مدار قربت داری پر نہیں ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے	۴۲
۱۴۷	کفار کو دوزخ کا عذاب دینے کی توجیہ	۱۴	۱۳۳	حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے متعلق سوال اور ان کی بیوی کی خیانت پر ملحدین کے ایک اعتراض کا جواب	۴۳
۱۴۷	دوزخ میں چنگھاڑ کی تفسیر میں تین اقوال	۱۵	۱۳۴	حضرت آسیہ کا راہ حق میں مظالم برداشت کرنا	۴۴
۱۴۸	دوزخ کے غیظ و غضب میں آنے کی توجیہ اور مرجہ کا رد	۱۶	۱۳۵	حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت حلیمہ (حضرت موسیٰ کی بہن) کا جنت میں حضور کے نکاح میں ہونا	۴۵
۱۴۹	رسولوں کی ہدایت کا عقل پر مقدم ہونا	۱۷	۱۳۳	سورۃ التحریم کی تفسیر کا اختتام	۴۶
۱۴۹	"مسحق" کا معنی اور تقویٰ کا بیان	۱۸	۱۳۳	سورۃ الملک	
۱۵۰	اللہ تعالیٰ کے علم محیط پر دلائل	۱۹	۱۳۴	سورۃ کا نام	۱
۱۵۱	هو الذی جعل لکم الارض. (۳۰-۱۵)	۲۰	۱۳۵	سورۃ الملک کی فضیلت میں احادیث اور آثار	۲
۱۵۳	زمین کو نرم اور مسخر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۲۱	۱۳۵	سورۃ الملک کے مشمولات	۳
۱۵۳	اللہ تعالیٰ پر آسمان والے کے اطلاق کی توجیہ	۲۲	۲۶	تبرک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدید. (۱۳-۱)	۴
۱۵۵	کفار مکہ کو دنیاوی عذاب سے ڈرانا	۲۳	۱۳۷	اللہ تعالیٰ کا انسانوں کی صفات سے اپنی قدرت پر استدلال	
۱۵۵	اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دلائل اور کفار کے نظریات کا رد اور ابطال	۲۴			
۱۵۷	اللہ تعالیٰ کا حیوانات کے احوال سے اپنی قدرت پر استدلال	۲۵			
۱۵۷	اللہ تعالیٰ کا انسانوں کی صفات سے اپنی قدرت پر استدلال	۲۶			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	آپ کے اور کفار کے عنقریب دیکھنے سے مراد آیا	۱۸	۱۵۷	کفار کے انکار عذاب کا بطلان	۲۷
۱۸۲	دنیا میں دیکھنا ہے یا آخرت میں؟			کفار کی بددعا سے حراساں نہ ہونے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تلقین	۲۸
۱۸۲	کفار کی اپنی مہم میں ناکامی اور آپ کی اپنے مشن میں کامیابی	۱۹	۱۵۸	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا	۲۹
۱۸۳	مداہنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۰	۱۵۹	سورت تبارک الذی کا اختتام	۳۰
۱۸۳	زیادہ قسم کھانے کی مذمت اور چغلی کھانے پر وعید	۲۱	۱۶۰	سورۃ القلم	
۱۸۳	نیکی سے روکنے اور "عتل" اور "زنیم" کا معنی	۲۲	۱۶۰	سورت کا نام	۱
۱۸۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے کا مصداق	۲۳	۱۶۰	سورت القلم کے مشمولات	۲
۱۸۵	قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کے دس عیوب مذکور ہیں یا نو؟	۲۴	۱۶۲	ن والقلم وما یسطرون. (۱-۳۳)	۳
۱۸۵	رابط آیات اور ولید بن مغیرہ کی ناک کو سوڈ فرمانے کی توجیہ	۲۵	۱۶۳	نون اور قلم کے معانی اور ان کے متعلق احادیث	۴
۱۸۶	باغ والوں کی ناشکری کا انجام	۲۶	۱۶۳	کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا اور اللہ تعالیٰ کا رد فرمانا	۵
۱۸۷	ان للمتقین عند ربہم جنت النعیم	۲۷	۱۶۵	"خلق" اور "خلق" کا معنی	۶
۱۸۸	(۳۳-۵۲)			حسن اخلاق کی تعلیم، تلقین اور تاکید کے متعلق احادیث	۷
۱۸۸	کفار کے اس دعویٰ کا رد کہ آخرت میں مسلمین اور مجرمین کی جزاء ایک جیسی ہوگی	۲۸	۱۶۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق کے متعلق احادیث اور آثار	۸
۱۹۰	اس آیت سے معتزلہ کے اس استدلال کا رد کہ مؤمن مرتکب کبیرہ کو دائمی عذاب ہوگا	۲۹	۱۶۶	عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانا	۹
۱۹۰	مؤمنین اور مجرمین کی آخرت میں ایک جیسی جزاء ہونے کا عقلی اور نقلی دلائل سے بطلان	۳۰	۱۶۶	فتح مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کو معاف کر دینا	۱۰
۱۹۱	"یوم یکشف عن ساق" میں "ساق" کا لغوی معنی	۳۱	۱۶۶	فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کو معاف کر دینا	۱۱
۱۹۱	"یوم یکشف عن ساق" کی تفسیر میں احادیث	۳۲	۱۶۶	فتح مکہ کے بعد عکرمہ بن ابی جہل کو معاف کر دینا	۱۲
۱۹۲	آثار اور اقوال تابعین		۱۶۷	فتح مکہ کے بعد (طائف میں) وحشی کو معاف کر دینا	۱۳
۱۹۳	اللہ تعالیٰ کا کسی صورت میں تجلی فرمانے کا بیان	۳۳	۱۶۸	ہبار بن الاسود کو معاف کر دینا	۱۴
۱۹۳	جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید	۳۴	۱۶۸	منافقوں اور دیہاتیوں سے درگزر کرنا	۱۵
۱۹۵	استدراج کا معنی	۳۵	۱۸۰	"وانک لعلی خلق عظیم" میں امام رازی کی نکتہ آفرینیاں	۱۶
				"وانک لعلی خلق عظیم" میں مصنف کی نکتہ آفرینی	۱۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۱۲	حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقصیر کا عذاب	۱۵	۱۹۵	اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر	۳۶
۲۱۳	کفار کا شفاعت سے محروم ہونا	۱۶		حضرت یونس علیہ السلام پر نعمت کے تدارک کی تفصیل اور ان کے مذموم نہ ہونے پر دلائل	۳۷
۲۱۳ (۳۸-۵۲)	فلا أقسم بما تبصرون ○ وما لا تبصرون ○	۱۷	۱۹۶	کفار مکہ کا آپ پر نظر لگانے کی ناکام کوشش کرنا	۳۸
۲۱۴	قرآن مجید کا سحر، شعر اور کہانت نہ ہونا	۱۸	۱۹۷	قرآن مجید کے مضامین سے اس کے اثر جنون ہونے کا ابطال	۳۹
۲۱۵	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق رسول ہونے کی دلیل	۱۹	۱۹۸	سورۃ القلم کا اختتام	۴۰
۲۱۶	قرآن مجید کی ایجابی صفات	۲۰	۱۹۸		
۲۱۶	رکوع اور سجود کی تسبیحات کے متعلق احادیث اور ان میں مذاہب	۲۱	۱۹۹	سورۃ الحاقہ	
۲۱۷	سورۃ الحاقہ کا اختتام	۲۲	۱۹۹	سورت کا نام وغیرہ	۱
۲۱۸	سورۃ المعارج		۲۰۰	سورت الحاقہ کے مشمولات	۲
۲۱۸	سورت کا نام	۱	۲۰۱	الحاقہ ○ ما الحاقہ ○ وما ادرك ما الحاقہ ○ (۱-۳۷)	۳
۲۱۸	سورۃ المعارج کے مشمولات	۲	۲۰۱	”الحاقہ“ کا معنی اور قیامت کو ”الحاقہ“ فرمانے کی وجوہ	۴
۲۲۰	سال سائل بعد اب واقع ○ للکفرین لیس	۳	۲۰۲	قوم ثمود کی عذاب سے ہلاکت	۵
۲۲۲	لہ دافع ○ (۱-۳۵)	۴	۲۰۳	قوم عاد کی عذاب سے ہلاکت	۶
۲۲۲	کفار کا عذاب قیامت کو طلب کرنا	۴	۲۰۴	دیگر امتوں کی ہلاکت	۷
۲۲۳	”معارج“ کا لغوی اور عرفی معنی	۵	۲۰۵	قیامت کے وقوع کی علامات	۸
۲۲۳	”الروح“ کا مصداق	۶	۲۰۶	عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتوں کی تفصیل	۹
۲۲۴	اس کی تحقیق کہ قیامت کا دن آیا یا چاس ہزار سال کا ہے یا ایک ہزار سال کا؟	۷	۲۰۷	لوگوں کا محشر میں تین بار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جانا	۱۰
۲۲۵	مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن کی مقدار	۸	۲۰۸	”عیشۃ راضیۃ“ میں مجاز عقلی کی نسبت	۱۱
۲۲۶	”صبر جمیل“ کا معنی	۹	۲۰۹	جنت کی بلندی کی دو تفسیریں اور جنت کی نعمتوں کی تفصیل	۱۲
۲۲۶	قیامت کے احوال اور احوال	۱۰	۲۱۰	رسوائی کے عذاب کا دوزخ کے عذاب سے زیادہ سخت ہونا اور کفار کا کف افسوس ملنا	۱۳
۲۲۷	مسلمانوں کا گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کرنا	۱۱	۲۱۱	کفار کو دوزخ میں ستر ہاتھ لمبی زنجیر سے جکڑ کر عذاب دینا	۱۴
۲۲۷	مرجہ، معتزلہ اور خوارج کا رد	۱۲			
۲۲۸	دوزخ کے بلانے کی توجیہات	۱۳			
۲۲۸	حب دنیا کی آفات	۱۴	۲۱۲		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۴۱	سورہ نوح		۲۴۹	”ہلوغا“ اور ”جزوغا“ کا معنی	۱۵
۲۴۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱		حرص اور بخل کے پیدائشی وصف ہونے پر قاضی کا	۱۶
۲۴۱	سورت نوح کے مشمولات	۲	۲۴۹	اعتراض اور امام رازی کا جواب	
	انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر	۳		حرص اور بخل کے پیدائشی وصف ہونے پر قاضی	۱۷
۲۴۳	قوم مکہ (۱-۲۰)		۲۴۹	کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے	
۲۴۵	حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم عنوانات	۴	۲۴۱	فقر اور مرض میں شکوہ اور شکایت نہ کی جائے	۱۸
	آیا حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول تھے یا	۵	۲۴۲	”حق معلوم“ کی تفسیر میں جمہور کا موقف	۱۹
۲۴۶	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟			”حق معلوم“ کی تفسیر میں سید مودودی کی	۲۰
۲۴۷	حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ	۶	۲۴۳	رائے	
	اللہ کی عبادت اور اس سے ڈرنے کے حکم کے بعد	۷	۲۴۳	سوال کرنے کے جواز کا ضابطہ	۲۱
۲۴۷	حضرت نوح کی اطاعت کے حکم کی توجیہ			نیک اعمال نہ کرنے اور بُرے اعمال سے نہ بچنے	۲۲
۲۴۷	بعض گناہوں کی معافی کی بشارت کی توجیہ	۸	۲۴۴	پر عذاب کا خوف	
۲۴۸	تقدیر مبرم اور تقدیر معلق	۹		تمام نیک اعمال کرنے اور تمام بُرے اعمال سے	۲۳
۲۴۹	ہدایت اور گم راہی کا اللہ کی تقدیر سے ہونا	۱۰	۲۴۵	بچنے کے باوجود اللہ کے عذاب کا خوف	
	خوش حالی کے حصول کے لیے اور استغفار کی فضیلت	۱۱	۲۴۶	بیویوں کے سوا جنسی لذت کے حصول کی ممانعت	۲۴
۲۵۰	میں آیات احادیث اور آثار		۲۴۶	امانت کی رعایت	۲۵
	اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے	۱۲	۲۴۶	گواہیوں کی تفصیل	۲۶
۲۵۲	پاس سفارشی بنانے کا عدم جواز		۲۴۶	نماز کی حفاظت سے متعلق امور	۲۷
	مفتی احمد یار خاں کا یہ لکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو سفارشی	۱۳		فما ل الذین کفروا قبلک مهطعین	۲۸
۲۵۳	بنانا جائز ہے اور اس پر مصنف کا تبصرہ		۲۴۷ (۲۴۳-۲۴۶)		
۲۵۴	اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس کو وسیلہ بنانے کے منافی ہے	۱۴		مشرکین کے اس زعم کا رد کہ ان کو جنت میں داخل	۲۹
	اللہ اور رسول چاہے کہنا موہم بے ادبی ہے اللہ	۱۵	۲۴۸	کیا جائے گا	
۲۵۵	پھر رسول چاہے کہنا چاہیے		۲۴۹	مشارق اور مغارب کی توجیہ	۳۰
۲۵۶	اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو بہ تدريج پیدا فرمانا	۱۶		آیا مشرکین کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم	۳۱
	اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور توحید پر دلائل اور آسمانوں	۱۷	۲۴۹	لایا یا نہیں؟	
	کے انطباق اور چاند کے آسمانوں میں ہونے کی			”اجداث“ نصب“ اور دیگر مشکل الفاظ کے	۳۲
۲۵۶	توجیہ		۲۴۰	معانی	
۲۵۷	انسان کو زمین سے پیدا کرنے کی توجیہات	۱۸	۲۴۰	سورۃ المعارج کا اختتام	۳۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کی روایات میں امام رازی کی توجیہات اور ان پر مصنف کا تبصرہ	۱۰	۲۵۹	قال نوح رب انهم عصونی واتبعوا من لم یزدہ (۲۸-۲۱)	۱۹
۲۷۸	مذکورہ احادیث کے متعلق دیگر مفسرین اور محدثین کی توجیہات	۱۱	۲۶۰	کفار نوح کی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں	۲۰
۲۷۹	انسان کے جسم میں جنات کے تصرف کی بحث	۱۲	۲۶۰	وہ سواع، یغوث، یعوق اور نسر وغیرہا کی تاریخی حیثیت	۲۱
۲۸۰	صحابہ کرام کے جنات کے قول کی خبر دینے کے فوائد	۱۳	۲۶۲	اس روایت کی تحقیق کہ کفار مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے یہ وہی بت تھے جن کی کفار نوح عبادت کرتے تھے	۲۲
۲۸۱	”وحی“ اور ”نفر“ کا معنی	۱۴	۲۶۳	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی توجیہ اور اس دعا کو بددعا کہنے کی مذمت	۲۳
۲۸۱	”جد“ کا معنی	۱۵	۲۶۴	عذاب قبر کا ثبوت اور اس پر شبہات کے جوابات	۲۴
	جنات کا اپنے جرائم کا اعتراف کر کے ان سے براءت کا اظہار کرنا	۱۶	۲۶۶	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر اعتراضات کے جوابات	۲۵
۲۸۱	جنات سے فرشتوں کی باتوں کو محفوظ رکھنا	۱۷	۲۶۶	سورت نوح کی تفسیر کا اختتام	۲۶
۲۸۳	جنات کے فرقتے	۱۸	۲۶۷	سورة الجن	
۲۸۳	مشکل الفاظ کے معانی	۱۹	۲۶۷	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۲۸۵	استغفار کرنے سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا ملنا	۲۰	۲۶۸	سورت الجن کے مشمولات	۲
۲۸۶	کفار اور فجار کو ڈھیل دینا اور مال دنیا کی خرابیاں	۲۱	۲۶۸	قل او حی الی انہ استمع نفر من الجن	۳
۲۸۸	اللہ کے ذکر سے اعراض کا معنی	۲۲	۲۶۹	الجن کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴
۲۸۸	”صعداً“ کا معنی	۲۳	۲۷۱	جنات کے متعلق فلاسفہ اور مفکرین کی آراء	۵
	اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کا دنیا میں تنگی کا سبب ہونا	۲۴	۲۷۲	جنات کے متعلق مفسرین کی آراء	۶
۲۸۹	مسجد میں ادا کی جانے والی عبادات اور اطاعت	۲۵	۲۷۳	اس امر کی تحقیق کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تھا یا نہیں؟	۷
۲۹۲	مسجد میں برے کام کرنے کی مذمت میں احادیث	۲۶	۲۷۵	جنات کو دیکھنے اور نہ دیکھنے میں احادیث کی تطبیق	۸
۲۹۳	مسجد میں نیک اعمال کرنے کی فضیلت میں احادیث	۲۷	۲۷۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات کو دیکھنے پر دلائل	۹
	آپ کی عبادت کو دیکھنے کے لیے ہجوم کی متعدد تفاسیر	۲۸	۲۷۷	احد او (۲۸-۲۰)	
۲۹۴	قل انما ادعوا ربی ولا اشرك به	۲۹	۲۷۷		
۲۹۵					

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۱۰	علم نجوم کا اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حکم	۴۹		اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلہ میں آپ کو اپنے	۳۰
۳۱۲	البحر: ۲۶ کی تفسیر علامہ قرطبی مالکی سے	۵۰	۲۹۶	عجز کے اظہار کا حکم	
۳۱۲	البحر: ۲۶ کی تفسیر علامہ بیضاوی شافعی سے	۵۱		گنہ گار مسلمانوں کی عدم مغفرت پر معتزلہ کا	۳۱
۳۱۲	البحر: ۲۶ کی تفسیر علامہ رومی حنفی سے	۵۲	۲۹۷	استدلال اور اس کے جوابات	
۳۱۳	البحر: ۲۶ کی تفسیر علامہ قونوی حنفی سے	۵۳		اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفار کی ذلت اور مومنوں کی	۳۲
۳۱۳	البحر: ۲۶ کی تفسیر علامہ ابوالحیاء اندلسی سے	۵۴	۲۹۷	عزت اور وجاہت	
۳۱۳	البحر: ۲۶ کی تفسیر حافظ ابن کثیر سے	۵۵		آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت وقوع قیامت کا علم	۳۳
۳۱۳	البحر: ۲۶ کی تفسیر علامہ اسماعیل حنفی سے	۵۶	۲۹۸	تھایا نہیں؟	
۳۱۴	البحر: ۲۶ کی تفسیر غیر مقلد عالم شیخ شوکانی سے	۵۷	۲۹۹	غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۴
۳۱۵	البحر: ۲۶ کی تفسیر علامہ آلوسی حنفی سے	۵۸	۳۰۰	غیب کی دو قسمیں ذاتی اور عطائی	۳۵
۳۱۵	البحر: ۲۶ کی تفسیر سید مودودی سے	۵۹	۳۰۰	اللہ تعالیٰ کے غیر پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نہیں	۳۶
۳۱۶	البحر: ۲۶ کی تفسیر مفتی محمد شفیع دیوبندی سے	۶۰	۳۰۰	البحر: ۲۶ میں اظہار بہ معنی اطلاع کتب لغت سے	۳۷
۳۱۶	علم غیب اور غیبی خبروں میں فرق	۶۱	۳۰۱	البحر: ۲۶ میں اظہار بہ معنی اطلاع کتب تفاسیر سے	۳۸
۳۱۷	البحر: ۲۶ کی تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی سے	۶۲	۳۰۲	البحر: ۲۶ میں اظہار بہ معنی اطلاع کے تراجم	۳۹
۳۱۷	امام احمد رضا کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے	۶۳	۳۰۳	البحر: ۲۶ میں اظہار بہ معنی تسلط پر بحث و نظر	۴۰
۳۱۷	رسول کے علم کا فرق		۳۰۵	علامہ زینب خیری کا کرامات اولیاء کا انکار کرنا	۴۱
	امام احمد رضا کے نزدیک عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی	۶۴	۳۰۵	البحر: ۲۶ کی تفسیر میں امام رازی کی تحقیق	۴۲
۳۱۸	صفت مخصوصہ ہے		۳۰۶	امام رازی کی تفسیر پر مصنف کا تبصرہ	۴۳
۳۱۸	علم کلی کی تحقیق	۶۵		البحر: ۲۶ میں ”عالم الغیب“ اور ”علی غیبہ“	۴۴
	قرآن مجید سے علم کلی دفعۃ عطا کیے جانے کے	۶۶	۳۰۶	سے مراد ہر غیب ہے نہ کہ وقت وقوع قیامت	
۳۱۹	دلائل			اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا ہونے کو بھی	۴۵
۳۲۰	علم کلی دفعۃ عطا کیے جانے کے متعلق احادیث	۶۷	۳۰۷	غیب کی خبر دیتا ہے	
۳۲۳	”ما کان وما یکون“ کے علم کے ثبوت میں احادیث	۶۸		اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر	۴۶
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم اور علم ماکان	۶۹	۳۰۸	بتانے والوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے	
۳۲۳	وما یکون کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات			اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ جادو گروں کو بھی	۴۷
۳۲۵	علم کلی تدریجاً عطا کیے جانے کے دلائل	۷۰	۳۰۹	غیب کی خبر دیتا ہے	
	النساء: ۱۱۳ سے علم کلی کے استدلال پر شبہات کے	۷۱		اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ نجومیوں کو بھی	۴۸
۳۲۶	جوابات		۳۱۰	غیب کی خبر دیتا ہے	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۷	”تبتل“ کے متعلق مصنف کی تحقیق	۱۹	۳۳۰	خلاصہ کلام	۷۲
۳۲۷	تہجد پڑھنے کی فضیلت میں احادیث	۲۰		اللہ سبحانہ کے علم پر حادث ہونے کا اعتراض اور	۷۳
	کفار کی ایذا رسانیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو	۲۱	۳۳۱	اس کے جوابات	
۳۲۸	تسلی دینا		۳۳۲	سورۃ الجن کا اختتام	۷۴
۳۲۹	کفار کے جسمانی اور روحانی عذاب کی تفصیل	۲۲	۳۳۳	سورۃ المزمل	
۳۵۰	مشکل الفاظ کے معانی	۲۳	۳۳۳	سورت کا نام	۱
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو حضرت موسیٰ	۲۴	۳۳۳	سورۃ المزمل کے مشمولات	۲
۳۵۰	علیہ السلام کی بعثت سے تشبیہ دینے کی توجیہ		۳۳۵	یا ایہا المزمل قم الیل الا قلیلاً (۱-۱۹)	۳
۳۵۱	قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی توجیہ	۲۵	۳۳۶	”المزمل“ کا معنی اور مصداق	۴
۳۵۱	اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا پورا ہونا کیوں لازم ہے؟	۲۶	۳۳۷	نماز تہجد پڑھنے کے حکم میں مذاہب فقہاء	۵
	سورۃ المزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی	۲۷		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تہجد کی	۶
۳۵۱	سیرت کا اجمالی تذکرہ		۳۳۸	فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل	
	ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من	۲۸	۳۳۸	نماز تہجد پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعات	۷
۳۵۳	ثلثی (۲۰)		۳۳۹	”تربیل“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۸
۳۵۳	نماز تہجد کی فرضیت کا منسوخ ہونا	۲۹	۳۴۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا طریقہ	۹
۳۵۳	نماز تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟	۳۰		قرآن مجید کی تلاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش	۱۰
۳۵۳	نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرأت کا فرض نہ ہونا	۳۱	۳۴۰	الحانی سے پڑھنے کے متعلق احادیث	
۳۵۳	تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی توجیہ	۳۲	۳۴۱	قرآن مجید کو غنا کے ساتھ پڑھنے کے محال	۱۱
	سورۃ المزمل کے آخر میں زکوٰۃ کا حکم اس سورت	۳۳		خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق	۱۲
۳۵۵	کے کئی ہونے کے خلاف نہیں ہے		۳۴۲	مذاہب فقہاء	
۳۵۶	اللہ کو قرض دینے کا معنی	۳۴		”قول ثقیل“ (بھاری کلام) کا معنی اور اس کا	۱۳
۳۵۶	اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا	۳۵	۳۴۲	مصداق	
۳۵۶	سورۃ المزمل کا اختتام	۳۶	۳۴۳	”قول ثقیل“ کی تعریف میں متعدد اقوال	۱۴
۳۵۸	سورۃ المدثر		۳۴۴	رات کو نماز کے لیے اٹھنے میں مشقت کی وجوہ	۱۵
۳۵۸	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۳۴۵	دن کے وقت میں مصروفیات کی وجوہ	۱۶
۳۵۸	سورت المدثر کے متعلق احادیث	۲	۳۴۵	رب کے نام کو یاد کرنے اور رب کو یاد کرنے کا فرق	۱۷
۳۵۹	سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر میں باہمی مناسبت	۳		سب سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول	۱۸
۳۶۰	سورۃ المدثر کے مشمولات	۴	۳۴۶	ہونے اور اللہ میں مشغول ہونے کا فرق	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۸۲	دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے بیان سے مؤمنین کے ایمان کے زیادہ ہونے کی وضاحت	۲۵	۳۶۱ (۱-۳۱)	یابہا المدثر قم فانذر وربک فکب	۵
۳۸۳	اس اعتراض کا جواب کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اس کے بعد کفار کا ذکر کرنا تکرار ہے	۲۶	۳۶۳	”المدثر“ کے ساتھ خطاب اور لوگوں کو عذاب سے ڈرانے کے محامل	۶
۳۸۳	اس اعتراض کا جواب کہ کفار تو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں تو پھر انہوں نے کیوں کہا: اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟	۲۷	۳۶۴	اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے محامل	۷
۳۸۳	اس سوال کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی گم راہ کرتا ہے تو پھر گم راہوں کی مذمت کیوں فرماتا ہے؟	۲۸	۳۶۵	لباس پاک رکھنے کے محامل	۸
۳۸۳	اس شبہ کا ازالہ کہ صرف انیس فرشتے تمام دوزخیوں کو کس طرح عذاب پہنچا سکتے ہیں؟	۲۹	۳۶۶	عصمت انبیاء پر ایک اعتراض کا جواب	۹
۳۸۳	اللہ کے لشکر کا بیان	۳۰	۳۶۷	احسان رکھنے کی ممانعت کو امام رازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دینا	۱۰
۳۸۳	”اور یہ صرف بشر کے لیے نصیحت ہے“ کے مرجع کی تعیین	۳۱	۳۶۸	امام رازی کی تفسیر پر مصنف کا تبصرہ	۱۱
۳۸۵	کلا والقمر والیل اذا دبر (۳۲-۵۶)	۳۲	۳۶۹	عبادت سے اللہ تعالیٰ پر احسان نہ رکھنے اور امت سے زیادہ لینے کے لیے ان پر احسان نہ رکھنے کے حضور کی سیرت سے دلائل	۱۲
۳۸۶	دوزخ کی مزید صفات کا تذکرہ	۳۳	۳۷۰	دیگر متقدمین اور متاخرین کی المدثر: ۶ کی تفسیر	۱۳
۳۸۷	امام رازی کا جبریہ کی تائید کرنا	۳۴	۳۷۰	المدثر: ۶ کی بعض اُردو تفاسیر	۱۴
۳۸۷	امام رازی کی جبریہ کی تائید پر مصنف کا تبصرہ	۳۵	۳۷۱	سابقہ تفاسیر کا جائزہ	۱۵
۳۸۸	وہ کون سے نفوس ہیں جو قیامت کے دن اپنے اعمال کے عوض گروئی ہوں گے اور وہ کون سے نفوس ہیں جو گروئی نہیں ہوں گے؟	۳۶	۳۷۱	مصنف کے موقف کی مزید وضاحت	۱۶
۳۸۸	اس کی تحقیق کہ کفار احکام شرعیہ فرعیہ کے مخاطب ہیں یا نہیں	۳۷	۳۷۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دینے کی وجوہ	۱۷
۳۸۹	”المحصل“ میں امام رازی کے دلائل	۳۸	۳۷۳	”نقر“ اور ”نافور“ کا معنی اور صور کے متعلق احادیث	۱۸
۳۹۱	کفار فروع کے مخاطب ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ میں فقہاء احناف کا موقف اور ان کے دلائل	۳۹	۳۷۴	الولید بن المغیرہ کی مذمت میں قرآن مجید کی آیات	۱۹
۳۹۵	زیر بحث مسئلہ میں مصنف کا موقف	۴۰	۳۷۸	دوزخ کی صفات کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۲۰
			۳۷۸	فرشتوں کو دوزخ کا محافظ بنانے کی حکمتیں	۲۱
			۳۷۸	دوزخ کے فرشتوں کی تعداد پر کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات	۲۲
			۳۷۹	کفار کی آزمائش کی وضاحت	۲۳
			۳۷۹	سابقہ آسمانی کتابوں میں دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے ذکر پر سید مودودی کے اعتراضات اور ان کے جوابات	۲۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۱۰	انسان کی اپنے اوپر بصیرت کے دو محمل	۱۸	۴۹۵	لغو کاموں کی وضاحت	۴۱
	دورانِ وحی قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے عجلت	۱۹	۴۹۶	یقینی چیز کی وضاحت	۴۲
۴۱۱	سے قرآن مجید کو دہرانے کی ممانعت		۴۹۶	فساق مؤمنین کے لیے شفاعت کا ثبوت	۴۳
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں قرآن مجید	۲۰		مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہونا اور	۴۴
۴۱۱	کو محفوظ کرنا اللہ سبحانہ کے ذمہ ہے		۴۹۶	اعراض کرنا	
	حضرت جبریل کے فعل کو اللہ سبحانہ کا فعل قرار	۲۱	۴۹۷	معزلہ اور جبریہ کارڈ	۴۵
	دینے کی ایک مثال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم		۴۹۸	سورۃ المدثر کا اختتام	۴۶
۴۱۲	کی ایسی کئی مثالیں		۴۹۹	سورۃ القیامۃ	
۴۱۲	حضرت جبریل کے پڑھنے کی اتباع کا معنی	۲۲	۴۹۹	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
	حضرت جبریل سے قرآن مجید کے معانی پوچھنے	۲۳	۴۹۹	سورت القیامۃ کے مشمولات	۲
۴۱۳	کی ممانعت		۴۰۱	لا اقسام بیوم القیامۃ (۱-۳۰)	۳
	بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام	۲۴	۴۰۲	قسم سے پہلے حرف ”لا“ کے دو محمل	۴
۴۱۳	ماتریدی کی تحقیق		۴۰۳	نفس لوامہ کے مصداق میں متعدد اقوال	۵
	بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام	۲۵	۴۰۴	قیامت اور نفس لوامہ کی مناسبت	۶
۴۱۳	رازی کی تحقیق		۴۰۴	نفس انسان کی تین قسمیں	۷
۴۱۵	”ناضرة“ کا معنی	۲۶	۴۰۵	نفس کی تعریف اور اس کا مصداق	۸
	اللہ تعالیٰ کی جنت میں رویت کی نفی پر معزلہ کا	۲۷	۴۰۵	صوفیاء اور علامہ قشیری کی تعریفوں میں تطبیق	۹
۴۱۵	استدلال اور اس کے جوابات		۴۰۵	القیامۃ: ۲-۱ کی قسموں کا جواب	۱۰
	قیامت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رویت اور	۲۸	۴۰۶	القیامۃ: ۳۰ کا شان نزول	۱۱
۴۱۶	دیدار کے معانی			مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا	۱۲
۴۱۷	”باسرة“ اور ”فاقرة“ کے معانی	۲۹	۴۰۶	شبہ اور اس کا جواب	
۴۱۸	”کلا“ اور ”ترافی“ کا معنی	۳۰	۴۰۶	توبہ نہ کرنا اور روز قیامت کی تکذیب کرنا	۱۳
۴۱۸	”راق“ کا معنی	۳۱		قیامت کی تین علامتیں اور ان پر اعتراضات کے	۱۴
۴۱۹	پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے کے دو محمل	۳۲	۴۰۷	جوابات	
	فلا صدق لاصلی ○ ولکن کذب وتولی ○	۳۳	۴۰۸	اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی	۱۵
۴۲۰ (۳۱-۳۰)			۴۰۸	بندوں کو ان کے اعمال کی خبر دینا	۱۶
	”اولی لک فاولی“ کا شان نزول اور اس کے	۳۴		قیامت کے دن بندہ کے نیک اعمال ملنے کے	۱۷
۴۲۰	معانی		۴۰۹	متعلق احادیث	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۳۵	قیامت کے احوال کو شر کہنے کی توجیہ اور اولیاء اللہ کا اس دن کے شر سے محفوظ رہنا	۱۷	۴۲۲	انسان کو عبث پیدا نہ فرمانا اور اس کے ضمن میں وقوع قیامت کی دلیل	۳۵
۴۳۶	ایثار کی فضیلت میں احادیث	۱۸		نطفہ کا معنی اور اس کے ضمن میں وقوع قیامت کی دلیل	۳۶
۴۳۶	الدھر: ۸ حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے یا ایک انصاری کے متعلق؟	۱۹	۴۲۳	انسان کی صرف دو صنفوں پر ایک اعتراض کا جواب	۳۷
	حضرت علی کا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو تین دن بھوکا رکھ کر مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا	۲۰	۴۲۳	سورۃ القیامہ کا اختتام	۳۸
			۴۲۵	سورۃ الدھر	
۴۳۷			۴۲۵	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
	حضرت علی کے مذکور ایثار کی روایت کو نقل کرنے والے مفسرین	۲۱	۴۲۵	سورت الدھر اور سورۃ القیامہ کی مناسبت	۲
۴۳۸	محققین مفسرین کا حضرت علی کے اس ایثار کی روایت کو مسترد کرنا	۲۲	۴۲۵	سورت الدھر کے کئی یا مدنی ہونے کا اختلاف	۳
۴۳۹	الدھر: ۸ صرف حضرت علی کے متعلق نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا تعلق تمام ابرار کے ساتھ ہے	۲۳	۴۲۶	سورت الدھر کے مشمولات	۴
۴۴۱	الدھر: ۸ میں "علیٰ حبہ" کی ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں: یعنی اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا یا اپنے نفس کی خواہش کے باوجود کھانا کھلانا	۲۴		هل اتی علی الانسان حین من الدھر لم یکن شیئا مذکور (۱-۲۲)	۵
۴۴۲	اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینے کی آیات اور احادیث کا محمل اور ایثار کا معیار	۲۵	۴۲۹	"هل" کا معنی	۶
۴۴۲	"مسکین" اور "یتیم" کا معنی	۲۶		اس آیت میں "انسان" کے مصداق میں متعدد اقوال	۷
۴۴۳	اسیر کے معنی اور مصداق میں مفسرین کے متعدد اقوال اور مسلمان قیدیوں اور مشرک قیدیوں کو کھانا کھلانے اور ان پر صدقہ کرنے کے احکام	۲۷	۴۲۹	جس مدت میں انسان قابل ذکر نہ تھا اس مدت کے متعلق متعدد اقوال	۸
۴۴۶	ابرار کا محتاجوں کے ساتھ نیکی کر کے صلہ اور ستائش سے منع کرنا اور اس کی وجوہ	۲۸	۴۳۱	"نطفہ" اور "امشاج" کا معنی	۹
۴۴۶	"عبوس" اور "قمطیر" کا معنی	۲۹	۴۳۱	نطفہ کے اختلاط میں متعدد اقوال	۱۰
۴۴۷	جنت میں ابرار کو ملنے والی نعمتیں	۳۰	۴۳۲	"سبیل" سے مراد عام راستہ ہے یا ہدایت کا مخصوص راستہ	۱۱
۴۴۷	صبر کی اقسام	۳۱	۴۳۲	انسان کو اختیار دیا ہے خواہ وہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر	۱۲
			۴۳۳	ربط آیات اور مشکل الفاظ کے معانی	۱۳
			۴۳۳	دنیا کے کافر اور جنت کے کافر کا فرق	۱۴
			۴۳۳	"عباد اللہ" کا لفظ کفار کو شامل نہیں ہے	۱۵
				"نذر" کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور نذر کے شرعی احکام	۱۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲	ابرار کو دو قسم کی جنتیں ملنا اور سورج اور چاند کے بغیر درختوں کے سائے کی توجیہات	۳۲۸	۵۰	قرآن مجید اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے کی ترغیب	۳۵۷
۳۳	جنت میں چاندی اور سونے کے برتنوں کے استعمال میں تعارض کے جوابات	۳۲۸	۵۱	قیامت کے دن کو پس پشت ڈالنے اور اس دن کے بھاری ہونے کی توجیہ	۳۵۸
۳۴	سونٹھ کے پانی کی توجیہ	۳۲۹	۵۲	دنیا کی جلد ملنے والی چیزوں کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے	۳۵۸
۳۵	سلسبیل کا معنی	۳۲۹	۵۳	”اسر“ کا معنی اور کافروں کو فنا کر کے دوسری قوم کو پیدا کرنے کی قدرت	۳۵۹
۳۶	جنتی لڑکوں کے دائمی ہونے کی توجیہ	۳۵۰	۵۴	جبر و قدر کے مسئلہ میں مفسرین اور محدثین کی تقاریر امام رازی کی جبریہ کی تائید میں تقریر	۳۵۹
۳۷	جنتیوں کی سلطنت	۳۵۰	۵۵	علامہ آلوسی کی اہل سنت کی تائید میں تقریر اور امام رازی کا رد	۳۶۰
۳۸	”سندس“ اور ”استبرق“ کا معنی	۳۵۱	۵۶	حافظ سیوطی کی قدریہ کے رد میں اس آیت کی تقریر قدریہ کے رد میں احادیث اور آثار	۳۶۰
۳۹	سونے اور چاندی کے کنگن میں تعارض اور اس کے جواب	۳۵۱	۵۷	جبر و قدر کے مسئلہ میں علامہ خطابی کی تقریر جبر و قدر کے مسئلہ میں علامہ ابن بطال کی تقریر	۳۶۱
۴۰	”شراب طہور“ کا معنی	۳۵۱	۵۸	جبر و قدر کے مسئلہ میں علامہ عینی کی تقریر جبر و قدر کے مسئلہ میں علامہ ابی مالکی کی تقریر	۳۶۲
۴۱	ابرار کا جنت میں کلمات تحسین سے استقبال	۳۵۱	۵۹	جبر و قدر کے مسئلہ میں علامہ نوادی کی تقریر جبر و قدر کے مسئلہ میں علامہ قاضی عیاض کی تقریر	۳۶۳
۴۲	بندوں کی نیکیوں کے مشکور ہونے اور اللہ تعالیٰ کے شاکر ہونے کی توجیہ	۳۵۲	۶۰	جبر و قدر کے مسئلہ میں مصنف کی تقریر جنت میں دخول کا ظاہری اور حقیقی سبب	۳۶۴
۴۳	انا نحن نزلنا علیک القرآن (۳۱-۲۳)	۳۵۳	۶۱	سورۃ الدھر کی تفسیر کا اختتام	۳۶۴
۴۴	ربط آیات اور تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کرنے کی حکمت	۳۵۳	۶۲	سورۃ المرسلات	۳۶۵
۴۵	کفار کا آپ کو لالچ دے کر اور دھمکا کر تبلیغ اسلام سے روکنا اور آپ کی استقامت	۳۵۳	۶۳	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۳۶۶
۴۶	آپ کو کفار کی اطاعت سے منع کرنے کے متعلق امام رازی کی توجیہ	۳۵۳	۶۴	سورت المرسلات کے متعلق احادیث	۳۶۶
۴۷	آپ کو کفار کی اطاعت سے منع کرنے کے متعلق مصنف کی توجیہ	۳۵۵	۶۵	سورۃ المرسلات کے مشمولات	۳۶۸
۴۸	آپ کو کفار کی اطاعت سے منع کرنے کے متعلق سید مودودی کی تقریر	۳۵۶	۶۶	والمرسلت عرفا فالعصفت (۱-۴۰)	۳۶۹
۴۹	صبح اور پچھلے پہر اللہ کے ذکر کرنے سے مراد پانچ نمازیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا	۳۵۶	۶۷		۳۶۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	مصنف کی طرف سے اس اعتراض کا جواب کہ	۲۲	۲۷۵	جن پانچ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی	۵
	کفار کو اپنا عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں نہیں		۲۷۵	الرسلات: ۵۔ اے الگ الگ محامل	۶
۲۸۶	دی؟		۲۷۶	رسولوں کو مبعوث فرمانے کی حکمت	۷
	کفار کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے عذاب سے	۲۳	۲۷۷	اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدہ کا پورا ہونا	۸
۲۸۷	ڈرانا		۲۷۷	قیامت کے وقوع کی علامات	۹
۲۸۷	کفار کا اللہ کے سامنے مکر کرنے سے عاجز ہونا	۲۴		کفار قریش کو قیامت کے دن کے عذاب سے	۱۰
	ان المتقين في ظلل و عيون و فواکہ مما	۲۵	۲۷۸	ڈرانا	
۲۸۸	یشتھون (۵۰۔۴۱)		۲۷۹	”ویل“ کا معنی	۱۱
	متقین کو اجر و ثواب عطا کرنے سے جو مشرکین کو	۲۶		کفار قریش کو گزشتہ کافروں کی ہلاکت اور عذاب	۱۲
۲۸۸	عذاب ہوگا اس سے ان کو ڈرانا		۲۷۹	سے ڈرانا	
	متقین کے مصداق میں اللہ کی اطاعت اور عبادت	۲۷		کفار قریش کو حیات بعد الموت پر قدرت سے	۱۳
۲۸۹	کو نہ داخل کرنے پر امام رازی کے دلائل		۲۷۹	ڈرانا	
	متقین کے مصداق میں اللہ کی اطاعت اور گناہوں	۲۸		کفار قریش کو ان کے اندر رکھی ہوئی نعمتوں اور ان	۱۴
۲۸۹	سے اجتناب کو داخل کرنے پر مصنف کے دلائل			کے باہر رکھی ہوئی نعمتوں کے شکر ادا نہ کرنے کے	
	متقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کو	۲۹	۲۸۰	عذاب سے ڈرانا	
۲۹۰	داخل نہ کرنے پر امام رازی کے دلائل کے جوابات		۲۸۱	کفار کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا	۱۵
	الرسلات: ۳۳ اور ۳۴ سے متقین کے مصداق میں	۳۰	۲۸۱	دوزخ کے دھوئیں کی تین شاخوں کے محامل	۱۶
۲۹۲	اطاعت اور عبادت کے دخول کا ثبوت		۲۸۲	دھوئیں کے سائے کی صفات	۱۷
	متقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کے	۳۱		”شرد قصر جمالة“ اور ”صفر“ کے معانی	۱۸
۲۹۳	دخول پر دیگر مفسرین کی تصریحات		۲۸۲	اور محل کی مثل انگاروں کی توجیہ	
	جن مفسرین نے بغیر غور و فکر کے امام رازی کی	۳۲		متعدد وجوہ سے کفار کو قیامت کے دن کے عذاب	۱۹
	تقلید میں متقین کے مصداق سے اطاعت اور		۲۸۳	سے ڈرانا	
۲۹۴	عبادت کو خارج کیا			اس اعتراض کا جواب کہ متعدد آیات سے ثابت	۲۰
	متقین کے مصداق کے بارے میں مصنف کے	۳۳		ہے کہ کفار قیامت کے دن باتیں کریں گے پھر	
۲۹۵	موقف پر ایک اعتراض کا جواب		۲۸۴	یہاں کیوں فرمایا: وہ اس دن بات نہ کر سکیں گے؟	
	کفار کو نعمتوں کے شکر نہ ادا کرنے پر عذاب سے	۳۴		امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب	۲۱
۲۹۶	ڈرانا			کہ کفار کو اپنا عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں	
۲۹۶	کفار کو نماز نہ پڑھنے پر عذاب سے ڈرانا	۳۵	۲۸۵	نہیں دی؟	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۱۱	لفظ ”بنینا“ لانے کی حکمت	۲۰	۴۹۷	کفار کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی متعدد تفاسیر	۳۶
۵۱۱	”وہاج“ اور ”نجاج“ کے معانی	۲۱	۴۹۷	سورۃ المرسلات کی تفسیر کا اختتام	۳۷
۵۱۲	غلہ اور سبزہ اگانے کی ظاہری اور صوفیانہ تفسیر	۲۲	۴۹۹	سورۃ النبا	
۵۱۳	حیات بعد الموت پر دلائل اور شواہد کا خلاصہ	۲۳	۴۹۹	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۵۱۳	حشر کے دن لوگوں کے فوج در فوج آنے کے متعلق ایک روایت کی تحقیق	۲۴	۴۹۹	المرسلات اور النبا میں مناسبت	۲
۵۱۳	آسمان کے دروازوں کا ثبوت	۲۵	۵۰۰	سورت النبا کے مشمولات	۳
۵۱۵	قیامت کے دن پہاڑوں کے چھ احوال	۲۶	۵۰۱ (۱-۳۰)	عم یتساء لون عن النبا العظیم	۴
۵۱۶	”مرصاد“ کا معنی اور مصداق	۲۷	۵۰۲	”عم یتساء لون“ کی لفظی تحقیق	۵
۵۱۷	”احقاب“ کا معنی دوزخ میں کفار کے خلود اور دوام کے منافی نہیں ہے	۲۸	۵۰۳	سوال کرنے والوں کا مصداق	۶
۵۱۸	بعض علماء کے نزدیک کفار کا عذاب دائمی نہیں ہے	۲۹	۵۰۳	پہلی تفسیر کہ عظیم خبر سے مراد قرآن مجید کی خبر ہے	۷
۵۱۹	استدلال	۳۰	۵۰۴	دوسری تفسیر کہ عظیم خبر سے مراد آپ کی بعثت کی خبر ہے	۸
۵۱۹	استدلال مذکور کے جوابات	۳۱	۵۰۴	تیسری تفسیر عظیم خبر سے مراد حیات بعد الموت کی خبر ہے	۹
۵۲۰	الانعام: ۱۲۸ سے کفار کے دائمی عذاب نہ ہونے پر استدلال اور اس کے جوابات	۳۲	۵۰۵	معاد جسمانی کے متعلق کفار اور مشرکین کی آراء	۱۰
۵۲۱	کفار کے لیے دوزخ کے دائمی عذاب کی تصریح کی آیات	۳۳	۵۰۶	”کلا“ کا لفظی اور مرادی معنی	۱۱
۵۲۲	کفار کے دائمی عذاب سے استثناء کی توجیہات	۳۴	۵۰۶	”کلا سیعلمون“ کو دوبار ذکر کرنے کے فوائد	۱۲
۵۲۳	اہل جنت کے جنت میں اور اہل نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث	۳۵	۵۰۷	حیات بعد الموت پر اجمالی شواہد اور دلائل	۱۳
۵۲۳	خلود عذاب کے منکرین کا بعض احادیث سے استدلال اور اس کا جواب	۳۶	۵۰۷	صوفیاء کی اصطلاح میں ”اوتاد“ کا معنی	۱۴
۵۲۳	اس اعتراض کا جواب کہ جب دوزخی دوزخ کے عادی ہو جائیں گے تو پھر ان کو تکلیف نہیں ہوگی	۳۷	۵۰۸	”زوج“ کے معنی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال	۱۵
۵۲۳	دائمی عذاب پر امام رازی کے دو اعتراضوں کا جواب	۳۸	۵۰۸	”نوم“ اور ”سبات“ کے معانی اور نیند کو ”سبات“ فرمانے کی وجوہ	۱۶
۵۲۶	جواب	۳۹	۵۱۰	لباس کا معنی اور رات کو لباس فرمانے اور اس کے نعمت ہونے کی وجوہ	۱۷
			۵۱۰	”معاش“ کا معنی اور اس کے نعمت ہونے کی توجیہ	۱۸
			۵۱۱	التاویلات النجمیہ کا تعارف	۱۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۲۲ (۱-۲۶)	والنزع غرقا والنشاط نشاط	۴	۵۲۶	”برد“ کی دو تفسیریں	۳۹
۵۲۳	کافر کی روح کھینچنے کی کیفیت اور کافر کی روح کا سختی کے ساتھ جسم سے نکالنا	۵	۵۲۷	عساق کا معنی	۴۰
۵۲۴	”ناشاطات“ کا معنی اور مؤمن کی روح کا آسانی کے ساتھ جسم سے نکلنا	۶	۵۲۷	اس اعتراض کا جواب کہ ان کی سزا جرم کے کیسے موافق ہوگی جب کہ متناہی زمانہ کے جرم کی سزا غیر متناہی زمانہ تک دی جائے گی	۴۱
۵۲۵	مؤمن کی روح کھینچنے کی کیفیت	۷	۵۲۸	حساب کی امید نہ رکھنے کی توجیہات	۴۲
۵۲۸	”السباحات“ کے مصداق میں اقوال مفسرین	۸	۵۲۸	قوت عملیہ کے تین شعبے	۴۳
۵۲۸	”السباغات“ کے مصداق میں اقوال مفسرین	۹	۵۲۹	اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیات کے علم کا ثبوت اور فلاسفہ کے اعتراض کا جواب	۴۴
۵۲۹	”المدبرات“ کے مصداق میں اقوال مفسرین	۱۰	۵۳۰	کفار سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توجیہ	۴۵
۵۲۹	اولیاء اللہ کی ارواح کا ”المدبرات“ کا مصداق ہونا اور لوگوں کے کام آنا	۱۱	۵۳۰ (۳۱-۴۰)	ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا	۴۶
۵۵۰	قیامت کے احوال اور ”راجفة“ کا معنی	۱۲	۵۳۱	اہل جنت پر نوازشیں	۴۷
۵۵۱	”حافرة“ کا معنی	۱۳	۵۳۲	جزا اور عطا میں بہ ظاہر تعارض کے جوابات	۴۸
۵۵۱	”نخرة“ کا معنی اور خسارہ کی تفسیر میں دو قول	۱۴	۵۳۳	بلا اذن شفاعت نہ کرنے کی تحقیق	۴۹
۵۵۲	”زجرة“ کا معنی	۱۵	۵۳۴	النبا: ۳۸ میں ”روح“ کے مصداق میں اقوال مفسرین	۵۰
۵۵۲	”ساهرة“ کا معنی	۱۶	۵۳۵	روح اور فرشتوں کے صحیح بات کہنے کی توجیہات	۵۱
۵۵۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کافر عون کے ساتھ معرکہ کا قصہ اور اس سے کفار مکہ کو ڈرانا	۱۷	۵۳۶	حصول شفاعت کی دعا پر معتزلہ کا اعتراض اور اس کے جوابات	۵۲
۵۵۴	بہت بڑی نشانی کے متعلق متعدد اقوال	۱۸	۵۳۷	روز قیامت کے حق ہونے کی توجیہ	۵۳
۵۵۵	سب سے بڑا رب ہوں کا معنی	۱۹	۵۳۷	النبا: ۴۰ میں آدمی کے متعلق مفسرین کے اقوال	۵۴
۵۵۵	”اخرة“ اور ”اولی“ کی متعدد تفسیریں	۲۰	۵۳۸	کافر کے قول ”کاش! میں مٹی ہو جاتا“ کے متعلق روایات	۵۵
۵۵۶ (۲۷-۳۶)	انتم اشد خلقا ام السماء بنھا	۲۱	۵۳۹	سورة النبا کا اختتام	۵۶
۵۵۷	آسمانوں کی تخلیق سے حیات بعد الموت پر استدلال	۲۲	۵۴۰	سورة الترحمت	
۵۵۸	”اغطش“ کا معنی	۲۳	۵۴۰	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۵۵۹	”دخھا“ کا معنی اور زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کرنے کی تحقیق	۲۴	۵۴۰	الترحمت اور النبا میں مناسبت	۲
			۵۴۰	الترحمت کے مشمولات	۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۷۵	علامہ اسماعیل حقی کی طرف سے آپ کے تیوری	۱۱	۵۵۹	”موعاھا“ کا معنی اور زمین کے منافع اور فوائد	۲۵
۵۷۵	چڑھانے کی توجیہ	۱۲	۵۶۰	”ارساھا“ کا معنی	۲۶
۵۷۵	”عتاب“ کے معنی کی تحقیق	۱۳	۵۶۱	”طامة“ کا معنی	۲۷
۵۷۶	حضرت ابن ام مکتوم سے اعراض کرنے کی وجہ سے آپ پر عتاب کرنے کی آیات	۱۴	۵۶۱	دوزخ کو ظاہر کرنا	۲۸
۵۷۷	قرآن مجید کا پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہونا	۱۵	۵۶۲	قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال اور فساد	۲۹
۵۷۷	”سفرة“ اور ”کرام“ کا معنی اور فرشتوں کا انسان سے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت اور قضاء حاجت کے وقت دور رہنا	۱۶	۵۶۳	دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کی مذمت میں احادیث	۳۰
۵۷۸	اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر دلائل نفسیہ	۱۷	۵۶۳	دوزخ کی صفات کے متعلق احادیث	۳۱
۵۸۰	اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر دلائل خارجیہ	۱۸	۵۶۳	خوف خدا سے گناہ ترک کرنے والوں کی دو قسمیں	۳۲
۵۸۱	قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم	۱۹	۵۶۳	جنت کی صفات کے متعلق احادیث	۳۳
۵۸۳	مؤمنوں اور کافروں کے چہروں کی آخرت میں کیفیات	۲۰	۵۶۴	کفار و قوع قیامت کا کیوں سوال کرتے تھے؟	۳۴
۵۸۳	سورۃ عبس کا اختتام	۲۱	۵۶۵	کفار کا قوع قیامت کا سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب	۳۵
۵۸۳	سورۃ النکویر	۲۲	۵۶۵	سورۃ النکویر کا اختتام	۳۶
۵۸۳	سورۃ النکویر کے متعلق احادیث اور اس کے مشمولات	۲۳	۵۶۶	سورۃ عبس	
۵۸۵	انکدرت (۱-۲۹)	۲۴	۵۶۶	سورۃ عبس کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۵۸۶	”کورت“ کا معنی	۲۵	۵۶۶	حضرت عمرو بن ام مکتوم کا تذکرہ	۲
۵۸۷	اس اعتراض کا جواب کہ سورج اور چاند کو کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟	۲۶	۵۶۷	سورۃ عبس کے مشمولات	۳
۵۸۷	”انکدرت“ کا معنی	۲۷	۵۶۸	عبس و تولى ان جاءہ الاعمی	۴
۵۸۷	”العشار“ کا معنی اور ان کے معطل کیے جانے کی توجیہ	۲۸	۵۶۸ (۱-۲۲)		
۵۸۸		۲۹	۵۶۹	”عبس“ کا معنی اور اس آیت کا شان نزول	۵
		۳۰	۵۷۰	امام ابو منصور ماتریدی کی طرف سے آپ کے تیوری چڑھانے پر عتاب کی توجیہ	۶
		۳۱	۵۷۲	امام رازی کی طرف سے آپ کے تیوری چڑھانے پر عتاب کی توجیہ	۷
		۳۲	۵۷۳	امام رازی کا دوسرا جواب	۸
		۳۳	۵۷۳	امام رازی کے دوسرے جواب پر مصنف کا تبصرہ	۹
		۳۴	۵۷۴	علامہ قرطبی کی طرف سے آپ کے تیوری چڑھانے پر عتاب کی توجیہ	۱۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۰۰	صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہونا			”وحوش“ کا معنی اور ”وحوش“ سے قصاص لینے کے فوائد	۷
۶۰۰	الکویر: ۲۱ میں ”امین“ کی صفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہونا	۲۳	۵۸۸	”تسجیر“ کا معنی	۸
۶۰۰	جن مفسرین نے الکویر: ۱۹ میں ”رسول کریم“ سے حضرت جبریل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مراد لیا ہے	۲۴	۵۸۹	دوزخ کا مصداق کس جگہ پر ہے؟	۹
۶۰۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا اور ”ضنین“ کا معنی	۲۵	۵۹۰	روحوں کو جسموں کے ساتھ ملانے کے محال	۱۰
۶۰۲	سورۃ الکویر کا اختتام	۲۶	۵۹۱	زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا	۱۱
۶۰۳	سورۃ الانفطار		۵۹۱	زندہ درگور کرنے کا سبب اور اس لڑکی سے سوال کرنے کی توجیہ	۱۲
۶۰۳	سورۃ الانفطار		۵۹۱	زندہ درگور کرنے کی ممانعت میں احادیث	۱۳
۶۰۳	سورۃ الانفطار		۵۹۳	”الخنس“ اور ”الکتس“ کے معانی	۱۴
۶۰۳	سورۃ الانفطار		۱	حضرت جبریل علیہ السلام کی چھ صفات کا تذکرہ	۱۵
۶۰۳	سورۃ الانفطار		۲	اور امام رازی کا تمام رسولوں کو حضرت جبریل کی امت قرار دینا	۱۶
۶۰۵	سورۃ الانفطار		۳	ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ شمول جبریل امین تمام فرشتوں سے افضل ہونا اور امام رازی کا رد	۱۷
۶۰۶	سورۃ الانفطار		۴	الکویر: ۱۹ میں ”رسول کریم“ کی صفت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہونا	۱۸
۶۰۷	سورۃ الانفطار		۵	الکویر: ۲۰ میں ”ذی قوۃ“ کی صفت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہونا	۱۹
۶۰۷	سورۃ الانفطار		۶	الکویر: ۲۰ میں چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور وجیہ ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہونا	۲۰
۶۰۸	سورۃ الانفطار		۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور جاہت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۲۱
۶۰۸	سورۃ الانفطار		۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و وجاہت کے متعلق احادیث	۲۲
۶۰۹	سورۃ الانفطار		۹	الکویر: ۲۱ میں ”مطاع“ کی صفت کا رسول اللہ	۲۳
۶۱۰	سورۃ الانفطار		۱۰		
۶۱۰	سورۃ الانفطار		۱۱		
۶۱۰	سورۃ الانفطار		۱۲		
۶۱۰	سورۃ الانفطار		۱۳		
۶۱۱	سورۃ الانفطار				
۶۱۱	سورۃ الانفطار				
۶۱۲	سورۃ الانفطار				

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۲۷	روز جزاء کی تکذیب کرنے والے	۱۵	۶۱۳	جنت کا ثواب اور دوزخ کا عذاب غیر منقطع ہے	۱۳
۶۲۷	”اساطیر“ کا معنی	۱۶	۶۱۳	روز جزاء کے ادراک کی نفی کا محمل	۱۵
۶۲۷	دل پر زنگ لگنا	۱۷	۶۱۳	اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت کی ممانعت	۱۶
	قیامت کے دن کافروں کا اپنے رب کے دیدار سے محروم ہونا اور مومنوں کا اپنے رب کے دیدار سے شاد کام ہونا	۱۸	۶۱۴	سورۃ الانفطار کا اختتام	۱۷
			۶۱۵	سورۃ المطففین	
۶۲۸	علیین اور مومنوں کے صحائف کے متعلق احادیث اور آثار	۱۹	۶۱۵	سورت کا نام وجہ تسمیہ اور اس سورت کے کمی یا مدنی ہونے میں اختلاف	۱
۶۲۹	جنت میں ابرار کی نعمتیں ”رحیق مختوم“ اور ”تسنیم“ کے معانی	۲۰	۶۱۶	سورۃ المطففین کی سورۃ الانفطار کے ساتھ مناسبت	۲
۶۳۰	دنیا میں کفار کا مومنوں پر ہنسنا اور ان کا مذاق اڑانا اور آخرت میں مومنوں کا کفار سے بدلہ لینا	۲۱	۶۱۷	سورۃ المطففین کے مشمولات	۳
۶۳۱	سورۃ المطففین کی تفسیر کا اختتام	۲۲	۶۱۹	ویل للمطففین ○ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون ○ (۱-۳۶)	۴
۶۳۲	سورۃ الانشقاق		۶۲۰	”مطففین“ کا معنی اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے متعلق احادیث	۵
۶۳۳	سورت کا نام وجہ تسمیہ اور دیگر امور	۱	۶۲۰	ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ملامت	۶
۶۳۳	سورۃ الانشقاق کے مشمولات	۲	۶۲۰	قیامت کے دن گرمی کی شدت سے پسینہ آنے کے مختلف احوال	۷
۶۳۵	اذا السماء انشقت ○ واذنت لربها	۳	۶۲۱	مخلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی ممانعت میں احادیث اور آثار	۸
۶۳۶	”اذنت“ کا معنی	۴	۶۲۱	قیام تعظیم کی ممانعت کے محامل	۹
۶۳۷	زمین کو پھیلانے کے متعلق احادیث	۵	۶۲۲	اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام کے استحسان میں احادیث اور آثار	۱۰
۶۳۸	”کادح“ کا معنی اور آسان حساب کا معنی	۶	۶۲۲	اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء مالکیہ کا موقف	۱۱
۶۳۸	آسان حساب کے متعلق احادیث	۷	۶۲۳	اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء شافعیہ کا موقف	۱۲
۶۳۹	کافر کا دنیا کی خوش حالی کے بعد آخرت کی تنگی کی طرف لوٹنا اور ”یحور“ کا معنی	۸	۶۲۳	اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء حنفیہ کا موقف	۱۳
۶۴۰	”شفق“ کا معنی	۹	۶۲۵	”سجین“ کا معنی	۱۴
۶۴۰	”وسق“ اور ”اتساق“ کا معنی	۱۰	۶۲۶		
۶۴۱	انسانوں کا مختلف احوال اور منازل میں منتقل ہونا	۱۱			
۶۴۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہ درجہ ترقی کرنا	۱۲			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۵۹	اللہ تعالیٰ کی عظیم اور منفرد صفات	۱۸		ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں سوار ہونے کے متعلق احادیث اور اقوال مفسرین	۱۳
۶۶۰	عہد رسالت اور اس سے پہلے کے مکذبین کی سرشت	۱۹	۶۴۲		
۶۶۱	قرآن مجید کی فضیلت	۲۰	۶۴۳	سورۃ الانشقاق کا اختتام	۱۴
۶۶۱	لوح محفوظ کی تعریف میں اقوال مفسرین	۲۱	۶۴۵	سورۃ البروج	
۶۶۲	سورۃ البروج کا اختتام	۲۲	۶۴۵	سورت کا نام و وجہ تسمیہ اور دیگر امور	۱
۶۶۳	سورۃ الطارق		۶۴۵	سورت البروج کے مشمولات	۲
۶۶۳	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۶۴۵	سورت البروج کے متعلق احادیث	۳
۶۶۳	سورۃ الطارق کے متعلق احادیث	۲	۶۴۶	سورۃ البروج سے مقصود	۴
۶۶۳	سورۃ الطارق کی سورۃ البروج کے ساتھ مناسبت	۳		والسماوات البروج والیوم	۵
۶۶۳	سورۃ الطارق کے مشمولات	۴	۶۴۷	الموعودہ (۱-۲۲)	
	والسماوات والطارق وما ادرك ما	۵	۶۴۸	”بروج“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶
۶۶۵	الطارق (۱-۱۷)		۶۴۹	”بروج“ کے مصادیق میں اقوال مفسرین	۷
۶۶۶	”طارق“ کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	۶	۶۵۰	بارہ برجوں کے معانی	۸
	”النجم الثاقب“ کا معنی اور مصداق اور سورۃ	۷		ستاروں کی بروج میں انگریزی مہینوں کے اعتبار سے گردش	۹
۶۶۷	الطارق کا شان نزول		۶۵۰		
۶۶۸	انسان کے محافظ اور نگہبان کی تحقیق	۸		”شاہد“ اور ”مشہود“ کے مصادیق کا	۱۰
	فرشتوں کے اعمال بنی آدم لکھنے کے متعلق قرآن	۹	۶۵۱	قرآن مجید احادیث اور آثار سے تعین	
۶۶۸	مجید کی آیات		۶۵۲	”اخذود“ کا معنی	۱۱
	فرشتوں کے اعمال بنی آدم لکھنے کے متعلق احادیث	۱۰	۶۵۲	اصحاب اخذود کے واقعہ کی تفصیل میں صحیح حدیث	۱۲
۶۶۸	اور آثار		۶۵۳	اصحاب الاخذود کے واقعہ کی تشریح	۱۳
۶۷۱	فرشتے انسان کی کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟	۱۱		جان جانے کے خوف کے باوجود کلمہ کفر نہ کہنے کی	۱۴
۶۷۲	”دافق صلب“ اور ”ترائب“ کا معنی	۱۲	۶۵۵	عزیمت	
	انسان کو لوٹانے کے دو حمل آخرت کی طرف یا	۱۳		جان جانے کے خطرہ سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت	۱۵
۶۷۳	باپ کی صلب کی طرف		۶۵۶	جب کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو	
	آیا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ایک انڈے میں رکھ سکتا	۱۴	۶۵۷	خندق کھودنے والوں کا انجام	۱۶
۶۷۵	ہے یا نہیں؟			خندق میں ڈالنے والے کافروں کے لیے دوزخ	۱۷
۶۷۵	”سرائر“ اور ”ابتلاء“ کا معنی	۱۵		کے عذاب اور جلنے کی وعید اور مؤمنوں کے لیے	
۶۷۶	آسمان کو ”ذات الرجوع“ فرمانے کی توجیہات	۱۶	۶۵۸	جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۹۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھولنے کے استثناء پر امام ماتریدی کی تقریر	۱۵	۶۷۶	زمین کو "ذات الصدع" فرمانے کی توجیہات	۱۷
۶۹۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھولنے کے استثناء پر امام ابن جوزی کی تقریر	۱۶	۶۷۷	"قول فصل" کی دو تفسیریں فیصلہ کرنے والی کتاب یا مفصل کتاب	۱۸
۶۹۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھولنے کے استثناء پر امام رازی کی تقریر	۱۷	۶۷۸	کفار کے "کمد" اور اللہ تعالیٰ کے "کمد" کا فرق	۱۹
۶۹۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت کے لیے دین کا آسان ہونا	۱۸	۶۷۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دینے کے حکم کی توجیہ	۲۰
۶۹۵	اس اعتراض کا جواب کہ آپ کا منصب تو ہر شخص کو نصیحت کرنا ہے نہ کہ صرف ان کو جن کو نصیحت نفع دے	۱۹	۶۸۰	سورۃ الطارق کا اختتام	۲۱
۶۹۶	نصیحت کے نفع آور ہونے کی شرط عائد کرنے کے فوائد	۲۰	سورۃ الاعلیٰ		
۶۹۷	اللہ سے ڈرنے والے کا مصداق	۲۱	۶۸۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۶۹۸	بڑی آگ کا مصداق	۲۲	۶۸۱	سورۃ الاعلیٰ کے مشمولات	۲
۶۹۹	تزکیہ نفس کا معنی	۲۳	۶۸۲	سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی (۱۹-۱)	۳
۷۰۰	تزکیہ کی تفسیر صدقہ فطر قرار دینے کے متعلق احادیث اور آثار	۲۴	۶۸۳	تسبیح کا معنی اور اللہ کے نام کی نقص اور عیب سے بری ہونے کی وجوہ	۴
۷۰۱	مذمت میں احادیث اور آثار	۲۵	۶۸۳	"سبحان ربی الاعلیٰ" کے متعلق احادیث	۵
۷۰۲	آخری نعمتوں کے افضل ہونے کی وجوہ	۲۶	۶۸۴	اللہ تعالیٰ کی صفت "الاعلیٰ" ذکر کرنے کی وجوہ	۶
۷۰۳	کون سی نصیحت سابقہ صحائف میں مذکور ہے؟	۲۷	۶۸۴	اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ہدایت سے اس کی الوہیت اور اس کی توحید پر استدلال	۷
۷۰۴	نبیوں رسولوں کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق	۲۸	۶۸۵	عام مخلوق اور خصوصاً انسان کی درست تخلیق کا معنی	۸
۷۰۵	سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر کا اختتام	۲۹	۶۸۶	تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث	۹
سورۃ الغاشیہ			۶۸۷	اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کے متعدد معانی اور محال	۱۰
۷۰۴	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ اور اس کے متعلق احادیث	۱	۶۸۸	"المرعی" کا معنی	۱۱
۷۰۴	سورۃ الغاشیہ کی سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ مناسبت	۲	۶۸۹	"غشاء" اور "احوی" کا معنی	۱۲
۷۰۵	سورۃ الغاشیہ کے مشمولات	۳	۶۹۰	اللہ تعالیٰ کے یاد کرانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید نہ بھولنا اور اس کے ضمن میں آپ کی نبوت کی دلیلیں	۱۳
				بعض آیات کے بھولنے کے متعلق احادیث اور ان کی توجیہ	۱۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	”ولیال عشر“ سے مراد ذوالحج کے دس دن اور	۹	۷۰۶	هل اتك حديث الغاشية (۱-۲۶)	۴
۷۲۲	ان کی فضیلت میں احادیث		۷۰۷	قیامت کے دن کو ”الغاشية“ فرمانے کی وجوہ	۵
	”ولیسال عشر“ سے مراد محرم کے دس دن اور	۱۰	۷۰۸	کفار پر شدت عذاب	۶
۷۲۳	ان کی فضیلت میں احادیث			مؤمنین کا آخرت میں اجر و ثواب اور مشکل الفاظ	۷
۷۲۳	عاشوراء کی فضیلت میں احادیث	۱۱	۷۰۹	کے معانی	
	”ولیسال عشر“ سے مراد رمضان کا آخری عشرہ	۱۲	۷۱۰	جنت میں لغوبات نہ سننے کی وجوہ	۸
۷۲۵	اور اس کی فضیلت میں احادیث		۷۱۰	جنت کے چشمے، گلاس، فرش اور تکیے	۹
	”الشفع“ سے مراد یوم نحر اور ”الوتر“ سے مراد	۱۳	۷۱۱	اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں	۱۰
۷۲۵	یوم عرفہ اور ان کی فضیلت میں احادیث		۷۱۲	آسمان پہاڑ اور زمین میں نشانیاں	۱۱
	”الشفع“ (جفت جوڑا) اور ”الوتر“ (طاق)	۱۳	۷۱۲	ان مذکور نشانیوں میں باہمی مناسبت	۱۲
۷۲۷	میں مزید عقلی احتمالات			اللہ تعالیٰ نے خوب صورت چیزوں سے اپنی تخلیق	۱۳
	”والشفع والوتر“ کی تفسیر میں مصنف کا صحیح	۱۵	۷۱۳	اور توحید پر کیوں استدلال نہیں فرمایا؟	
۷۲۸	اور صریح حدیث سے استدلال		۷۱۳	جبریہ کے نظریہ کا باطل ہونا	۱۴
۷۲۹	رات کی قسم کھانے کی وجوہ	۱۶	۷۱۴	بہت بڑے عذاب کا تحمل	۱۵
۷۲۹	”ذی حجر“ کا معنی	۱۷	۷۱۴	کفار اور مشرکین کو عذاب دینا کیوں ضروری ہے؟	۱۶
۷۳۰	عاز شمود اور قوم فرعون کا عذاب	۱۸	۷۱۵	سورة الغاشية کی تفسیر کی تکمیل	۱۷
۷۳۱	قوم عاد کا تعارف	۱۹	۷۱۶	سورة الفجر	
۷۳۲	شمود کا پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانا	۲۰	۷۱۶	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۷۳۲	میخوں والے کا معنی	۲۱	۷۱۶	سورة الغاشية کے ساتھ الفجر کی مناسبت	۲
۷۳۲	عذاب کے کوڑے کا معنی	۲۲	۷۱۶	سورة الفجر کے مشمولات	۳
۷۳۲	”مرصاد“ کا معنی	۲۳	۷۱۸	والفجر و لیال عشر (۱-۳۰)	۴
	دنیا کی نعمتیں ملنے کو عزت اور کرامت اور ان سے	۲۴	۷۲۰	الفجر سے مراد معروف صبح ہے اور اس کی فضیلت	۵
۷۳۳	محرومی کو بے عزتی نہیں سمجھنا چاہیے			”والفجر“ سے مراد یوم نحر کی صبح اور اس کی	۶
۷۳۳	دنیاوی عیش و عشرت کی مذمت کی وجوہ	۲۵	۷۲۰	فضیلت میں احادیث	
	آیا دنیاوی مال کے حصول پر اترانے والا عام	۲۶		”الفجر“ سے مراد ذوالحجہ کی صبح اور اس کی	۷
۷۳۵	انسان ہے یا مخصوص انسان ہے؟		۷۲۱	فضیلت میں احادیث	
۷۳۵	”کلا“ کا معنی	۲۷		”الفجر“ سے مراد ماہ محرم کی صبح اور اس کی فضیلت	۸
۷۳۶	یتیم کی تکریم کی وجوہ	۲۸	۷۲۱	میں احادیث	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۳۹	”وانت حل بهذا البلد“ کی تفسیر امام رازی سے	۸	۴۳۶	یتیم کی دل داری نہ کرنے کی مذمت	۲۹
۴۵۰	”وانت حل بهذا البلد“ کی تفسیر مصنف سے	۹	۴۳۷	قیامت کے دن کفار اور فساق فجار کا کف افسوس ملنا	۳۰
۴۵۲	والد اور اولاد کے مصداق میں اقوال مفسرین	۱۰	۴۳۷	”دنگا دنگا“ کا معنی	۳۱
۴۵۳	”کبد“ کا معنی اور انسان کی دشواری کے محال	۱۱	۴۳۷	قیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی توجیہات	۳۲
۴۵۳	”لبدا“ کا معنی	۱۲	۴۳۸	دوزخ کو لانے والے	۳۳
۴۵۳	اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور خیر اور شر کے دو راستے	۱۳	۴۳۹	آخرت میں ندامت اور توبہ کام نہیں دے گی	۳۴
۴۵۳	”اقتحم“ اور ”العقبہ“ کا معنی اور دشوار گھائی کا مصداق	۱۴	۴۴۰	نفس مطمئنہ کو نڈا کرنے والوں کے مصداق میں مفسرین کے اقوال	۳۵
۴۵۵	غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت میں احادیث	۱۵	۴۴۱	نفس انسان کی اقسام	۳۶
۴۵۶	بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت میں آیات اور احادیث	۱۶	۴۴۱	نفس مطمئنہ کے مصداق میں مفسرین کے اقوال	۳۷
۴۵۶	یتیم کا معنی	۱۷	۴۴۱	نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کی تفسیر امام ابو منصور	۳۸
۴۵۸	یتیموں کو صدقہ دینے کی فضیلت میں احادیث	۱۸	۴۴۱	ماتریدی سے	۳۹
۴۵۸	رشتہ داروں کو صدقہ دینے کی فضیلت میں احادیث	۱۹	۴۴۲	نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کی تفسیر امام رازی سے	۴۰
۴۵۸	خاک نشین کے مصداق	۲۰	۴۴۲	نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کی تفسیر علامہ آلوسی سے	۴۰
۴۵۸	مؤمنین صالحین کے لیے بشارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعید	۲۱	۴۴۲	سورۃ الفجر کی تفسیر کی تکمیل	۴۱
۴۵۰	سورۃ البلد کی تفسیر کی تکمیل	۲۲	۴۴۲	سورۃ البلد	
۴۶۱	سورۃ الشمس		۴۴۳	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۴۶۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ اور اس کی فضیلت میں احادیث	۱	۴۴۳	سورت البلد کی سورت الفجر کے ساتھ مناسبت	۲
۴۶۱	سورت الشمس اور سورۃ البلد کی مناسبت	۲	۴۴۳	سورت البلد کے مشمولات	۳
۴۶۲	سورت الشمس کے مشمولات	۳	۴۴۶	لا اقسام بهذا البلد و انت حل بهذا البلد (۱-۲۰)	۴
۴۶۳ (۱-۱۵)	والشمس وضحاہ والقمر اذا تلهاه	۴	۴۴۷	”لا اقسام“ میں لفظ ”لا“ کے دو محمل	۵
۴۶۳	قسم اور جواب قسم	۵	۴۴۷	مکہ مکرمہ کی فضیلت میں آیات اور احادیث	۶
۴۶۳			۴۴۷	”وانت حل بهذا البلد“ کی تفسیر علامہ قرطبی سے	۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۷۶	سورۃ اللیل			سورج کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں برکتیں اور نشانیاں	۶
۷۷۶	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۷۶۳		
۷۷۷	سورۃ اللیل کے مشمولات	۲	۷۶۳	چاند کن چیزوں میں سورج کے تابع ہے؟	۷
	والیل اذا یغشی ○ والنہار اذا تجلی ○	۳	۷۶۵	دن کن چیزوں کو ظاہر کرتا ہے؟	۸
۷۷۸ (۱-۲۱)	رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید پر دلائل	۴	۷۶۵	رات اور دن کی سلطنت کا سورج اور چاند سے زیادہ ہونا	۹
۷۷۹	ترا اور مادہ کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید کی نشانی	۵	۷۶۶	”وما بناھا“ میں ”ما“ سے مراد ”من“ ہونے کی توجیہ	۱۰
۷۸۰	اس کی تحقیق کہ حضرت ابن مسعود ”وما خلق الذکر والانثی“ کے بجائے ”والذکر والانثی“ پڑھا کرتے تھے	۶	۷۶۶	نفس انسان کی قسم سے مراد انسان کامل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے	۱۱
۷۸۰	حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کا موجودہ قرآن مجید کے خلاف پڑھنا اور ان کی توجیہات	۷	۷۶۷	”الہام“ کا معنی اور انسان کے اچھے اور بُرے کاموں کے متعلق اہل سنت کا موقف	۱۲
۷۸۱	تمام لوگوں کے اعمال کا برابر نہ ہونا	۸	۷۶۷	اچھے اور بُرے کاموں کا علم غور و فکر کرنے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے حاصل ہوتا ہے	۱۳
۷۸۲	اللیل: ۱۰-۵ کا خلاصہ	۹		نیک کاموں کا الہام ان ہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جو نیکی کی جدوجہد کرتے ہیں	۱۴
۷۸۳	اللہ کی راہ میں دینے کے محال	۱۰	۷۶۸	الہام سے مراد اچھے اور بُرے کاموں کا لزوم ہے	۱۵
۷۸۳	”حسنی“ کے متعدد مصداق	۱۱	۷۶۹	نیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث	۱۶
۷۸۳	”یسری“ کے مصداق میں متعدد اقوال	۱۲	۷۶۹	”تذکیہ“ اور ”تدسیہ“ کا معنی اور ”تدسیہ“ کے محال	۱۷
۷۸۵	امام رازی کے جبر پر دلائل	۱۳		جبر کی تقویت میں امام رازی کے دلائل	۱۸
	مصنف کی طرف سے امام رازی کے دلائل کے جوابات	۱۴	۷۷۰	امام رازی کے دلائل کے عقلی دلائل سے	۱۹
۷۸۶	”نورڈی“ کا معنی اور اس کا مصداق	۱۵	۷۷۱	امام رازی کے دلائل کے جوابات قرآن مجید کی آیات سے	۲۰
۷۸۷	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سورۃ اللیل کا نزول	۱۶	۷۷۲	امام رازی کے دلائل کے جوابات احادیث سے	۲۱
	اس آیت کی توجیہات کہ اللہ پر ہدایت دینا واجب ہے	۱۷	۷۷۲	قوم شمود کی سرکشی اور اس کا عذاب	۲۲
۷۸۸	اللہ کی عبادت پر بتوں کی عبادت کو ترجیح دینے کی مذمت	۱۸	۷۷۳	سورۃ الشمس کی تفسیر کی تکمیل	۲۳
۷۸۸			۷۷۵		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۱۰	دن بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور کرامت کا زیادہ ہونا	۱۰	۷۷۹	اللیل: ۱۶ سے معتزلہ اور مرجہ کا اپنے اپنے مذہب پر استدلال اور ان کے جوابات	۱۹
۸۱۱	آپ کی آخرت کا آپ کی دنیا سے افضل ہونا	۱۱	۷۹۰	فساق مؤمنین کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف	۲۰
۸۱۱	قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت	۱۲	۷۹۰	کسی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے صدقہ کا جواز اور محض اخلاص سے صدقہ دینے کا افضل ہونا	۲۱
۸۱۳	اس حدیث کا بیان کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا	۱۳	۷۹۰	حضرت ابوبکر کے حضرت بلال اور دیگر چھ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کے متعلق روایات	۲۲
۸۱۴	حدیث مذکور کا قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث صحیحہ سے تعارض	۱۴	۷۹۱	اس آیت کا مصداق حضرت ابوبکر ہیں اس پر امام رازی کے دلائل	۲۳
۸۱۷	حدیث مذکور پر تعارض کے اشکال کا جواب	۱۵	۷۹۲	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور	۲۴
۸۱۸	دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت	۱۶	۷۹۳	افضلیت میں احادیث اور آثار	۲۵
۸۱۸	آخرت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و کرامت عطا کرنے کے متعلق احادیث	۱۷	۸۰۲	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور	۲۶
۸۲۱	یتیم کا معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی کیفیت	۱۸	۸۰۲	افضلیت میں کتب شیعہ کی تصریحات	
۸۲۱	لفظ "ضال" کے معنی کی تحقیق اور ائمہ نعت کی تصریحات	۱۹	۸۰۳	سورۃ اللیل کی تفسیر کا اختتام	
۸۲۲	امام ابو منصور ماتریدی کی لفظ "ضال" میں توجیہات	۲۰	۸۰۳	سورۃ الضحیٰ	
۸۲۵	علامہ الماوردی کی لفظ "ضال" میں توجیہات	۲۱	۸۰۳	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ اور سورۃ اللیل سے مناسبت	۱
۸۲۵	امام رازی کی لفظ "ضال" میں توجیہات	۲۲	۸۰۳	سورۃ الضحیٰ کے مشمولات	۲
۸۲۷	علامہ قرطبی کی لفظ "ضال" کے بارے میں توجیہات	۲۳	۸۰۵	والضحیٰ واللیل اذا سجی (۱-۱۱)	۳
۸۲۷	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور صدر الافاضل کی توجیہات	۲۴	۸۰۵	"ضحیٰ" اور "سجی" کا معنی	۴
۸۲۸	مصنف کی توجیہ	۲۵	۸۰۵	سورۃ اللیل کو سورۃ الضحیٰ پر مقدم کرنے کی وجہ	۵
۸۲۸	"عائل" کا معنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کرنے کے محامل	۲۶	۸۰۶	دن اور رات کی قسم کھانے کی توجیہات	۶
۸۲۸	آپ کو یتیم بنانے کی حکمتیں	۲۷	۸۰۶	"والضحیٰ واللیل" (دن اور رات) کی قسم کے محامل	۷
۸۲۹	یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث	۲۸	۸۰۹	الضحیٰ: ۳ کے شان نزول میں متعدد اقوال	۸
۸۳۰			۸۱۰	اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وجاہت	۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۲۸	حدیث مذکور کی تخریج مصنف کی طرف سے	۹	۸۳۰	ربط آیات	۲۹
	اس اعتراض کا جواب کہ عالم ارواح میں آپ کو	۱۰		صحیح سائل کا معیار اور غیر مستحق سائل کے لیے	۳۰
	نبی بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ		۸۳۰	عذاب کی وعید کے متعلق احادیث	
۸۲۸	کے علم میں نبی تھے		۸۳۱	سائل کو دینے کی ترغیب کے متعلق احادیث	۳۱
۸۲۹	مصنف کے جواب کی تائید دیگر اکابر علماء سے	۱۱		اگر سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو نرمی سے	۳۲
	عالم ارواح میں آپ کو نبوت عطا کرنے کے	۱۲	۸۳۳	جواب دینا چاہیے	
۸۵۰	متعلق اکابر علماء کی تصریحات			مخلوق سے گزرگذا کر سوال نہ کیا جائے، صرف اللہ	۳۳
	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں نبوت عطا	۱۳	۸۳۴	سے گزرگذا کر سوال کیا جائے	
۸۵۱	کرنے کی ایک اور دلیل			اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے اور یہی	۳۴
۸۵۱	معراج کے موقع پر شق صدر	۱۴	۸۳۴	اس کا شکر ہے	
۸۵۲	آپ کا شق صدر کتنی بار ہوا؟	۱۵		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا	۳۵
	آپ کے قلب کو سونے کے طشت میں رکھنے اس	۱۶	۸۳۶	کیا ہے؟	
	کو زرم سے دھونے اور اس میں ایمان اور حکمت			نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی چند نعمتوں کے	۳۶
۸۵۲	رکھنے کی تشریح		۸۳۶	متعلق احادیث	
۸۵۳	شق صدر پر اعتراضات اور ان کے جوابات	۱۷	۸۳۹	سورۃ النجم کی تفسیر کا اختتام	۳۷
۸۵۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ”وزر“ کے محامل	۱۸	۸۴۰	سورۃ الانشراح	
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو پہاڑ سے گرا دینے کے	۱۹	۸۴۰	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱
۸۵۴	ارادہ کی روایت صحیح نہیں		۸۴۱	الم نشرح لك صدر (۸-۱)	۲
۸۵۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ”وزر“ کے بعض دیگر محامل	۲۰	۸۴۱	شرح صدر کا معنی	۳
	”اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون“ یہ	۲۱		شرح صدر کے متعلق احادیث اور سیدنا محمد صلی	۴
۸۵۶	دعا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، کسی اور		۸۴۲	اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں نبوت عطا کیا جانا	
	نبی نے کی ہے			بعض انبیاء علیہم السلام کو بچپن میں نبوت کا عطا	۵
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق	۲۲	۸۴۴	فرمایا جانا	
۸۵۸	امام ماتریدی، امام رازی اور علامہ قرطبی کی تقاریر			ملا علی قاری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت	۶
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق	۲۳	۸۴۵	سے پہلے ولی قرار دینا	
۸۶۰	احادیث اور آثار		۸۴۶	ملا علی قاری کی عبارت پر مصنف کا تبصرہ	۷
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق	۲۴		عالم ارواح میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت	۸
۸۶۱	مصنف کی تقریر		۸۴۷	عطا کیا جانا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۷۸	خواب کی تعریف اور اقسام	۸	۸۶۵	ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں	۲۵
۸۷۸	ابتداء نبوت میں غارِ حرا جانے کی حکمتیں	۹	۸۶۵	تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرنا	۲۶
۸۷۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتہ کو پہچاننے کی تحقیق	۱۰		صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سوال کرنے میں رغبت	۲۷
۸۷۹	”ما انا بقاری“ کی تحقیق	۱۱	۸۶۶	کی جائے	
۸۸۰	لکھنے کی فضیلت اور لکھنے کے متعلق احادیث	۱۲	۸۶۷	سورۃ الانشراح کی تفسیر کی تکمیل	۲۸
۸۸۲	العلق: ۵ میں ”الانسان“ کے متعلق متعدد اقوال	۱۳	۸۶۸	سورۃ التین	
۸۸۳	”طغیان“ کا معنی	۱۴	۸۶۸	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
	ابو جہل کی مذمت اور ادب کی وجہ سے مکروہ وقت	۱۵	۸۶۸	سورۃ التین کے مشمولات	۲
۸۸۳	میں نماز سے منع نہ کرنا			والتین والزیتون و طور سینین	۳
۸۸۵	ابو جہل کے لیے عذاب کی وعید	۱۶	۸۶۹ (۱-۸)		
۸۸۵	سجدہ سے اللہ سبحانہ کے قرب کا حصول	۱۷	۸۶۹	”التین“ کا معنی اور اس کے طبی فوائد	۴
۸۸۶	سورۃ العلق کی تفسیر کی تکمیل	۱۸	۸۷۰	”زیتون“ کا معنی اور اس کے طبی فوائد	۵
۸۸۷	سورۃ القدر			”والتین والزیتون“ کی تفسیر میں مفسرین کے	۶
۸۸۷	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱	۸۷۰	اقوال	
۸۸۹	انا انزلہ فی لیلة القدر (۱-۵)	۲	۸۷۱	”طور سینین“ کا مصداق	۷
۸۸۹	”لیلة القدر“ میں قرآن مجید کا آسمان دنیا کی	۳	۸۷۲	شہر مکہ کی قسم کھانے کی توجیہ	۸
۸۸۹	طرف نازل ہونا			”انسان“ کے مصداق میں اقوال اور اس کے	۹
	بعض مقامات اور بعض اوقات میں عبادت کے	۴	۸۷۲	بہترین ساخت میں ہونے کی توجیہ	
۸۹۰	اجرمیں اضافہ		۸۷۲	مؤمنین کا ملین کا ارذل عمر سے محفوظ رہنا	۱۰
۸۹۰	لیلة القدر میں ”قدر“ کے معانی	۵	۸۷۳	سورۃ التین کی تفسیر کی تکمیل	۱۱
	ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلة القدر	۶	۸۷۳	سورۃ العلق	
۸۹۱	کی تعیین کا علم تھا یا نہیں؟		۸۷۳	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۸۹۲	لیلة القدر کے فضائل	۷	۸۷۳	العلق کے مشمولات	۲
	رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلة القدر ہونے	۸	۸۷۵	اقرا باسم ربک الذی خلق (۱-۱۹)	۳
۸۹۳	پر دلائل		۸۷۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتداء	۴
۸۹۳	لیلة القدر میں عبادت کا طریقہ	۹	۸۷۷	وحی کا لغوی معنی	۵
۸۹۳	ثواب میں اضافہ	۱۰	۸۷۷	وحی کا شرعی معنی	۶
۸۹۵	گناہ میں اضافہ	۱۱	۸۷۷	نزول وحی کی صورتیں اور اقسام	۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۱۳	امام رازی کے تفصیلی دلائل		۸۹۵	شب قدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں	۱۲
	نبیوں اور مومنین صالحین پر فرشتوں کی فضیلت کے	۱۷	۸۹۶	فرشتوں کے نزول کی تفصیل	۱۳
۹۱۴	مسئلہ میں امام رازی کے تفصیلی دلائل کے جوابات		۸۹۶	لیلۃ القدر میں فرشتوں کا زمین پر نازل ہونا	۱۴
	مفتی محمد شفیع کا پوری تفسیر کبیر کو امام رازی کی تفسیر	۱۸	۸۹۷	روح کے مصداق میں اقوال مفسرین	۱۵
۹۱۶	نہ قرار دینا		۸۹۸	فرشتوں کو زمین پر نازل کرنے کی حکمتیں	۱۶
۹۱۷	ابوالکلام آزاد کی تفسیر کبیر پر مبہم تنقید	۱۹	۸۹۹	فرشتوں کا سلام	۱۷
۹۱۸	امام رازی کی تفسیر کبیر کے محاسن	۲۰	۹۰۰	سورۃ القدر کی تفسیر کی تکمیل	۱۸
	مومنین صالحین کو جزا میں دائمی جنت عطا کرنے	۲۱	۹۰۱	سورۃ البینۃ	
۹۱۹	کی توجیہ		۹۰۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱
	مومنین صالحین اور مومنین تائبین کو ایک سے	۲۲		لم یکن الذین کفروا من اهل الكتب.	۲
۹۲۰	زائد جنتیں عطا فرمانے کی تحقیق		۹۰۲ (۱-۸)		
۹۲۱	عام مسلمانوں کی خدا خونی کی دلیل	۲۳	۹۰۲	امام ابو منصور ماتریدی کی تقریر	۳
۹۲۱	اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت	۲۴		البینۃ: ۱۱ اور البینۃ: ۴ میں تعارض کے امام رازی کی	۴
	اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جنت عطا کرنے سے بڑا	۲۵	۹۰۳	طرف سے جوابات	
۹۲۱	انعام ہے		۹۰۵	امام رازی کے جوابات پر مصنف کا تبصرہ اور تجزیہ	۵
۹۲۲	اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندوں کی رضا کے محامل	۲۶	۹۰۶	البینۃ: ۱۱ میں "من" تبعضیہ پر ایک اشکال کا جواب	۶
۹۲۲	اللہ تعالیٰ کے خوف کی دو تفسیریں	۲۷	۹۰۶	مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں یا نہیں	۷
	کوئی مسلمان اپنے نجات یافتہ اور جنتی ہونے کا	۲۸	۹۰۷	اخلاص کی اہمیت	۸
۹۲۳	دعویٰ نہ کرے		۹۰۷	"حنفاء" کا معنی	۹
۹۲۳	سورۃ البینۃ کی تفسیر کا اختتام	۲۹	۹۰۸	اخلاص اور عبادت کا معنی	۱۰
۹۲۵	سورۃ الزلزال		۹۰۹	وضو میں نیت کی فرضیت کی دلیل اور اس کا جواب	۱۱
۹۲۵	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱	۹۱۰	البینۃ: ۵ کے لطائف اور نکات	۱۲
	زلزلہ کی تعریف اس کے اسباب اور اثرات اور	۲		کفار اہل کتاب کے عذاب کو مشرکین کے عذاب	۱۳
۹۲۶	اس کی تاریخ		۹۱۱	پر مقدم کرنے کی توجیہ	
۹۲۶	زلزلہ کی تاریخ	۳	۹۱۱	مومنین صالحین کی فرشتوں پر فضیلت کے دلائل	۱۴
۹۲۷	زلزلہ کہاں آ سکتا ہے؟	۴		مومنین صالحین کی فرشتوں پر فضیلت کے مسئلہ میں	۱۵
۹۲۸	زلزلے کس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں؟	۵	۹۱۲	امام رازی کے اعتراضات اور مصنف کے جوابات	
۹۲۹	زلزلہ پھائی	۶		مومنین صالحین پر فرشتوں کی فضیلت کے متعلق	۱۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۳۷	ظاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افعال کا معیار ہونا	۱۳	۹۳۰	برصغیر پاک و ہند میں زلزلے تاریخ کے آئینے میں	۷
۹۳۷	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	۱۴		زلزلے سے متعلق ۲۰ اہم سوالات اور ان کے جوابات	۸
۹۳۸	سورۃ العنکبوت کی تکمیل	۱۵	۹۳۲		
۹۳۹	سورۃ القارعة		۹۳۵	زلزلہ سے متعلق اہم نکات	۹
۹۳۹	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱	۹۳۶	ریکٹر اسکیل کیا ہے؟	۱۰
۹۵۰	القارعة ما القارعة (۱-۱۱)	۲	۹۳۷	اذا زلزلت الارض زلزالہا (۱-۸)	۱۱
۹۵۱	قیامت کے دن لوگوں کے احوال	۳	۹۳۷	زلزلہ کا لغوی اور عرفی معنی	۱۲
۹۵۱	قیامت کے دن پہاڑوں کے احوال	۴	۹۳۷	زمین پر قیامت کے زلزلہ کی کیفیت	۱۳
	مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت	۵	۹۳۸	زمین کا اپنا بوجھ باہر نکالنا	۱۴
۹۵۲	میں امام ماتریدی کی تقریر		۹۳۸	زمین کے خبر دینے کی کیفیت	۱۵
	مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت	۶	۹۳۹	مؤمن اور کافر کے اعمال کے بدلہ کا ضابطہ	۱۶
۹۵۳	میں امام رازی کی تقریر		۹۴۱	سورۃ العنکبوت	
	مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت	۷	۹۴۲	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۹۵۳	کے متعلق مصنف کی تقریر			والعدیت ضبحا فالمریت قدحا	۲
۹۵۳	ھاویہ کے معانی	۸	۹۴۲ (۱-۱۱)		
۹۵۴	سورۃ القارعة کی تفسیر کی تکمیل	۹	۹۴۲	”العادیات ضبحا“ کا معنی	۳
۹۵۵	سورۃ الحاکم		۹۴۳	”الموریات قدحا“ کا معنی	۴
۹۵۵	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱	۹۴۴	”المغیرات صبحا“ کا معنی	۵
	الہکم التکاثر حتی زرتم المقابرو	۲		”فاثرون بہ نقعا“ اور ”فوسطن بہ جمعا“ کا معنی	۶
۹۵۷ (۱-۸)			۹۴۴		
	مال میں کثرت کی طلب اس وقت ممنوع ہے جب	۳		”الکنود“ کا معنی اور انسان کا اپنے ”الکنود“	۷
۹۵۷	وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غفلت کی موجب ہو		۹۴۴	ہونے پر گواہ ہونا	
	اطاعت عبادت اور حسن اخلاق میں کثرت کو	۴	۹۴۵	مال کی محبت کے متعلق احادیث	۸
۹۵۸	طلب کرنا محمود اور مستحسن ہے		۹۴۶	مال کی محبت کے اثرات	۹
۹۵۹	زیارت قبور کا بیان	۵	۹۴۶	بخیل کی مذمت میں احادیث	۱۰
	فقہاء احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے	۶	۹۴۶	”بعثر“ کا معنی	۱۱
۹۶۰	زیارت قبور کا حکم		۹۴۷	صحیفوں کے مندرجات کو ظاہر کرنے کے محامل	۱۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا .	۲	۹۶۲	الحکاثر: ۳ اور الحکاثر: ۴ کے محال	۷
۹۷۵ (۱-۹)				”علم اليقين‘ عين اليقين“ اور ”حق اليقين“ کی تعریفیں	۸
۹۷۵	سورة الهمزة كاشان نزول	۳	۹۶۳	دوزخ کو دیکھنا کفار کے ساتھ خاص ہے یا مؤمنین بھی دوزخ کو دیکھیں گے؟	۹
۹۷۶	”الهمزة“ اور ”اللمزة“ کے معانی	۴			
۹۷۷	”الحطمة“ کا معنی	۵	۹۶۳	نعمتوں کے متعلق سوال صرف کفار سے ہو گا یا مؤمنین سے بھی ہو گا	۱۰
۹۷۷	دوزخ کی آگ کی شدت	۶			
۹۷۷	کفار کے عذاب کی کیفیت	۷	۹۶۴	مؤمنین سے نعمتوں کے سوال پر دلائل	۱۱
۹۷۸	”الهمزة“ کی تفسیر کی تکمیل	۸	۹۶۴	جن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا ان کے متعلق آثار صحابہ اور اقوال تابعین	۱۲
۹۷۹	سورة الفيل				
۹۷۹	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱	۹۶۵	ان نعمتوں پر سوال کے متعلق احادیث سے استدلال	۱۳
	الم ترکیف فعل ربک باصحب الفیل .	۲	۹۶۵	سورة الحکاثر کی تفسیر کی تکمیل	۱۴
۹۸۱ (۱-۵)			۹۶۶		
۹۸۱	”اصحاب الفیل“ کو آپ کا دیکھنا متصور نہیں تھا پھر کیوں فرمایا: کیا آپ نے نہیں دیکھا؟	۳	۹۶۷	سورة العصر	
۹۸۱	پرنڈوں سے ابرہہ کے لشکر کو فنا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارہاس تھا	۴	۹۶۷	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱
۹۸۱	”اصحاب الفیل“ سے انتقام لینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے نکات	۵	۹۶۸ (۱-۳)	والعصر ان الانسان لفي خسر	۲
۹۸۲	ابرہہ کے لشکر کا ہاتھیوں سے بھی کم درجہ ہونا	۶	۹۶۸	زمانہ کی قسم کھانے کی وجوہ	۳
۹۸۳	کعبہ میں بت پرستی کرنے والوں کو فوراً عذاب نہیں دیا تو ابرہہ کے لشکر کو فوراً عذاب کیوں دیا؟	۷	۹۶۹	”العصر“ کی تفسیر میں اقوال	۴
۹۸۳	ابرہہ تو علانیہ فساد کرنے آیا تھا پھر اس کو ”کید“ کیوں فرمایا؟	۸	۹۶۹	”والعصر“ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہونا	۵
۹۸۳	”ابابیل“ کا معنی	۹	۹۷۰	تمام انسانوں کا خسارے میں مبتلا ہونا	۶
۹۸۳	”سجیل“ کا معنی	۱۰	۹۷۰	حق اور صبر کی نصیحت کے محال	۷
۹۸۳	”عصف“ کا معنی	۱۱	۹۷۲	افعال میں حسن اور قبح عقلی ہے یا شرعی؟	۸
۹۸۵	سورة الفیل کی تفسیر کی تکمیل	۱۲	۹۷۲	انسان کا خود نیک ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک بنائے	۹
۹۸۶	سورة القریش		۹۷۳	سورة العصر کی تفسیر کی تکمیل	۱۰
			۹۷۴	سورة الهمزة	
				سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۹۷	سورۃ الکوثر کا مکی یا مدنی ہونا	۲	۹۸۶	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۹۹۸	سورۃ الکوثر کی سورۃ الماعون سے مناسبت	۳		لا یلف قریش ○ الفہم رحلة الشتاء	۲
	سورۃ الکوثر کا اس سے پہلی سورتوں کے لیے تتر ہونا	۴	۹۸۷	والصیف ○ (۱-۴)	
۹۹۹	سورۃ الکوثر کا بعد کی سورتوں کے لیے مقدمہ ہونا	۵	۹۸۷	قریش کے فضائل	۳
۱۰۰۱	انا اعطینک الکوثر ○ فصل لربک	۶	۹۸۸	القریش کا انقیل کے ساتھ مربوط ہونا	۴
۱۰۰۳	وانحرو ○ (۱-۳)	۷	۹۸۸	القریش اور انقیل الگ الگ سورتیں ہیں یا نہیں؟	۵
	اس آیت میں "انا" اور "اعطاء" کے فوائد اور نکات	۷	۹۸۸	قریش کو تجارتی سفر پر راغب کرنے کی توجیہ	۶
۱۰۰۳	لفظ "کوثر" کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال	۸	۹۸۸	قریش کی وجہ تسمیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب	۷
۱۰۰۴	تکبیر تحریر کے بعد رفع یدین کے متعلق ضعیف روایات	۹	۹۸۸	قریش پر انعام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں	۸
۱۰۰۶	"شانی" اور "ابتر" کے معنی	۱۰	۹۸۹	قریش کو کھانا کھلانے اور امن میں رکھنے کے اسباب	۹
۱۰۰۷	الکوثر: ۳ کا شان نزول	۱۱	۹۸۹	سورت القریش کی تفسیر کی تکمیل	۱۰
۱۰۰۸	اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت فرمانا	۱۲	۹۹۱	سورۃ الماعون	
۱۰۰۹	انبیاء سابقین کا خود اپنی مدافعت کرنا	۱۳	۹۹۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱
۱۰۱۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت	۱۴	۹۹۲	اریت الذی یکذب بالذین ○ (۱-۷)	۲
۱۰۱۰	الکوثر کی تفسیر کی تکمیل	۱۵	۹۹۲	الماعون کے مکی یا مدنی ہونے کا اختلاف اور پہلی تین آیتوں کے مکی ہونے پر دلائل	۳
۱۰۱۱	سورۃ الکافرون		۹۹۳	یتیم کی پرورش پر بشارت اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے پر وعید اور الماعون: اکا شان نزول	۴
۱۰۱۱	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۹۹۳	جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے	۵
	قل یا ایہا الکفرون ○ لا اعبد ما تعبدون ○	۲	۹۹۳	سہو کی تحقیق	۶
۱۰۱۲ (۱-۶)	"قل یا ایہا الکافرون" کا شان نزول	۳	۹۹۵	ریا کاری کی تعریف	۷
۱۰۱۲	"یا ایہا الکافرون" سے پہلے "قل" لانے کے متعلق امام رازی کی توجیہات	۴	۹۹۵	فرائض کو دکھا کر ادا کیا جائے اور نوافل کو چھپا کر	۸
۱۰۱۳	امام رازی کی توجیہات پر مصنف کا تبصرہ	۵	۹۹۶	"الماعون" کی تعریف میں بارہ اقوال	۹
۱۰۱۵	سورۃ الکافرون کی آیات میں تکرار کا جواب	۶	۹۹۷	سورۃ الماعون کی تکمیل	۱۰
۱۰۱۶			۹۹۷	سورۃ الکوثر	
			۹۹۷	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۰۲۹	اس کی عداوت		۱۰۱۶	”لکم دینکم ولی دین“ کے محال	۷
۱۰۳۰	ابولہب کی عبرت ناک موت	۶	۱۰۱۶	سورۃ الکافرون کی تکمیل	۸
۱۰۳۰	ابولہب کے بیٹے عتیبہ کا انجام	۷	۱۰۱۸	سورۃ النصر	
۱۰۳۱	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر دلائل	۸	۱۰۱۸	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
۱۰۳۱	دلائل		۱۰۱۹	اذا جاء نصر اللہ والفتح (۱-۳)	۲
۱۰۳۲	ابولہب کی بیوی کی مذمت	۹	۱۰۱۹	فتح سے مراد فتح مکہ ہونا	۳
۱۰۳۲	ابولہب کی بیوی کے لیے دوزخ کی وعید	۱۰		”اذا جاء نصر اللہ“ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حیات پوری ہونے پر استدلال	۴
۱۰۳۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی شدید مذمت	۱۱	۱۰۱۹	حمد اور تسبیح کا معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے محال	۵
۱۰۳۳	سورت الہب کی تکمیل	۱۲	۱۰۲۰	سورۃ النصر کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ کثرت حمد اور تسبیح اور استغفار کرنا	۶
۱۰۳۴	سورۃ الاخلاص			نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہ کثرت استغفار کے متعلق احادیث	۷
۱۰۳۴	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۱۰۲۱	امام رازی کے بعض نکات پر مصنف کا تبصرہ	۸
۱۰۳۴	سورت الاخلاص کے فضائل	۲		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے متعلق	۹
۱۰۳۶	قل هو اللہ احد (۱-۴)	۳	۱۰۲۲	امام رازی کی توجیہات	۱۰
۱۰۳۶	مطالب کی تین قسمیں اور پوری تفسیر کبیر کا امام رازی کی تصنیف ہونا	۴	۱۰۲۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے متعلق	۱۱
۱۰۳۷	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	۵	۱۰۲۳	دیگر مفسرین کی توجیہات	۱۲
۱۰۳۸	”الصمد“ کے معانی اور محال	۶		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کی طرف متوجہ ہونا	
۱۰۳۸	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل	۷	۱۰۲۳	سورت النصر کی تفسیر کی تکمیل	
۱۰۳۹	الاخلاص کا خلاصہ	۸	۱۰۲۴	سورۃ الہب	
۱۰۳۹	شُرک کی تعریف اور مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا	۹		سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	۱
۱۰۴۱	سورۃ الاخلاص کی تفسیر کی تکمیل	۱۰	۱۰۲۶	تبت یدا ابی لہب وتب (۱-۵)	۲
۱۰۴۲	سورۃ الفلق		۱۰۲۷	سورت الہب کا شان نزول	۳
۱۰۴۲	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱	۱۰۲۷	”تبت“ کا معنی	۴
۱۰۴۲	المعوذتین (الفلق اور الناس) کی فضیلت میں احادیث	۲	۱۰۲۸	ابولہب کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے	۵
۱۰۴۲	آیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ المعوذتین کے قرآن ہونے کا انکار کرتے تھے یا نہیں؟	۳	۱۰۲۹		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
				حضرت ابن مسعود کے انکار معوذتین کے متعلق	۴
			۱۰۴۴	فقہاء اسلام کی عبارات	
				قل اعوذ برب الفلق ○ من شر ما خلق ○	۵
			۱۰۴۶ (۱-۵)		
				اللہ سے پناہ طلب کرنے میں صبح کے وقت کی	۶
			۱۰۴۶	تخصیص کی توجیہات	
			۱۰۴۸	”نفثت“ کا معنی	۷
				رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کے	۸
			۱۰۴۸	متعلق امام رازی کا موقف	
				رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کے	۹
			۱۰۴۹	متعلق مصنف کا موقف	
			۱۰۵۰	قرآن مجید کی سورتوں سے دم کرنے کا جواز	۱۰
				حسد کی تعریف اس کا شرعی حکم اور اس کے متعلق	۱۱
			۱۰۵۰	احادیث	
			۱۰۵۱	سورۃ الفلق کی تکمیل	۱۲
			۱۰۵۲	سورۃ الناس	
			۱۰۵۲	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	۱
				قل اعوذ برب الناس ○ ملک الناس ○	۲
			۱۰۵۳ (۱-۶)		
			۱۰۵۳	انسان کی باقی مخلوق پر فضیلت	۳
			۱۰۵۴	”خناس“ کا معنی	۴
			۱۰۵۴	وسوسہ کا معنی	۵
			۱۰۵۵	دین کی سلامتی جسم کی سلامتی سے زیادہ اہم ہے	۶
			۱۰۵۵	سورۃ الناس کی تفسیر کی تکمیل	۷
			۱۰۵۵	تفسیر تبیان القرآن کی تکمیل اور کلمات تشکر	۸
			۱۰۵۸	تبیان القرآن جلد ثانی عشر کی مفصل ڈائری	☆
			۱۰۵۹	تبیان القرآن کی تصنیف کی ڈائری	☆
			۱۰۶۱	ماخذ و مراجع	☆

تفسیر تبیان القرآن کی بارہ جلدوں میں تکمیل کے بعد فرید بک سٹال کی جانب سے باذوق قارئین کی سہولت کیلئے
مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی کی مبسوط و مفصل تفسیر اور ترجمہ و تشریح کی ایک جلد میں جامع تلخیص

بہ نام

اوار تبیان القرآن

ترجمہ قرآن بہ نام

نور الفتن

تلخیص و مرتب: مولانا حافظ محمد عبد اللہ قادری نورانی زید علمہ

چند خصوصیات

- ☆ متن قرآن مجید کا سلیس رواں زبان میں مکمل ترجمہ،
 - ☆ قرآنی آیات سے مستنبط فقہی مسائل کا مختصر اور جامع تذکرہ،
 - ☆ عقائد اہل سنت و جماعت کی تائید اور ترجیح پر جامع دلائل،
 - ☆ مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی (مدظلہ العالی) کے علمی تحقیقات کا بہترین نچوڑ،
 - ☆ آیات قرآنیہ کی تفسیر میں احادیث و آثار کا مستند تذکرہ،
 - ☆ کتب تفسیر و احادیث کے باضابطہ حوالہ جات،
 - ☆ قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے میں بہترین معاون اور مددگار،
 - ☆ مدرسین، مقررین، طلبہ اور عوام الناس کی ضرورت کے عین مطابق،
 - ☆ مسرت اور خوشی کے مواقع پر علمی تعاون اور محبت کے اظہار کے لیے خوب صورت تحفہ،
- یہ ایک ایسی تفسیر ہوگی جس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت صدیوں تک باقی رہے گی۔ انشاء اللہ العزیز

فون: 092-42-7312173

فیکس: 092-42-7224899

پیش کش: فرید بک سٹال (رجسٹرڈ) ۳۸۔ اردو بازار لاہور

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيَّا الْكِتَابَ تَبَيَّنًا وَاللَّهُ شَهِيدٌ
اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے

اشاریہ تبیان القرآن

مُرتب

مولانا حافظ آس محمد سعیدی

ناشر

فریدنگہ ٹال ۳۸۔ اردو بازار لاہور


Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



ترتیب و تصحیح : مولانا حافظ آس محمد سعیدی
مطبع : رومی پبلی کیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : مکتبہ 1430ھ / جنوری 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک سٹال ۳۸۔ اردو بازار لاہور

فون نمبر ۰۹۲۔۴۲۔۷۳۱۲۱۷۳۔۷۱۲۳۴۳۵

فیکس نمبر ۰۹۲۔۴۲۔۷۲۲۴۸۹۹

ای۔میل : info@faridbookstall.com

ویب سائٹ : www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

اشاریہ تبیان القرآن (مکمل)

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
48	آگ	1.11	27	انتساب	☆
48	آل	1.12	29	تعارف مؤلف	☆
48	آمین	1.13		تبیان القرآن، ارباب و علم فکر کی نظر	☆
48	آنکھ	1.14	32	میں	
48	آیت	1.15	40	تاثرات	☆
48	آیۃ الکرسی / کرسی	1.16	43	پیش لفظ	☆
48	آیت تطہیر	1.17		(۱) آ	

(۲) الف

			45	آثار صحابہ	1.1
48	حضرت ابراہیم علیہ السلام	2.1	45	آثار قیامت	1.2
50	ابرار	2.2	45	آخرت	1.3
50	امام اعظم حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ	2.3	45	آداب	1.4
51	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	2.4	45	حضرت آدم علیہ السلام	1.5
51	ابولہب	2.5	46	آزر	1.6
51	ابلیس	2.6	47	آزمائش	1.7
51	ابوجہل	2.7	47	حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا	1.8
51	ابرحہ	2.8	47	آسمان	1.9
52	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ	2.9	48	آغاز	1.10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
57	اذان	2.34	52	حضرت ابوطالب	2.10
57	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن	2.35	52	ابتداء	2.11
58	استغفار	2.36	52	ابدال	2.12
58	اسلام	2.37	52	سورۃ ابراہیم	2.13
59	استاذ	2.38	52	حضرت ابن مکتوم رضی اللہ	2.14
59	حضرت اسماعیل علیہ السلام	2.39	52	اجر/ اجرت	2.15
59	اسراف	2.40	53	اجتہاد	2.16
59	اسرائیلی روایات	2.41	53	اجماع	2.17
59	اسماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	2.42	54	اجازت	2.18
60	استمناء بالید	2.43	54	سورۃ الاحقاف	2.19
60	اسماء باری تعالیٰ	2.44	54	سورۃ الاحزاب	2.20
60	استقامت	2.45	54	غزوۃ احزاب	2.21
60	حضرت اسامہ رضی اللہ	2.46	54	احوال آخرت	2.22
60	استخارہ	2.47	54	احسان	2.23
60	اسم اعظم	2.48	54	احکام شریعت	2.24
60	اسباب	2.49	55	احصار	2.25
60	اسماء حسنیٰ	2.50	55	غزوۃ احد	2.26
60	استغانت/ استمداد	2.51	55	اختلاف	2.27
60	استنجاء	2.52	55	اختیارات	2.28
61	اصحاب الاءخود	2.53	55	اخلاص	2.29
61	اصول فقہ	2.54	56	سورۃ اخلاص	2.30
61	اصول حدیث	2.55	56	ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	2.31
61	اصحاب کہف	2.56	56	ادب	2.32
61	اصحاب الایکہ	2.57	56	حضرت ادريس علیہ السلام	2.33

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
70	امانت	2.82	61	اطاعت	2.58
70	امید	2.83	61	اطمینان	2.59
70	امیر	2.84	61	اعتکاف	2.60
70	انسان	2.85	61	اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم	2.61
72	سورة الانشقاق	2.86	62	سورة الاعلیٰ	2.62
72	سورة الانشراح	2.87	62	اعتبار	2.63
72	سورة الانفطار	2.88	62	سورة الاعراف	2.64
72	انجام	2.89	62	اغواء	2.65
72	انجیل	2.90	62	اقتدار	2.66
72	انعام	2.91	62	اقامت	2.67
72	انڈا	2.92	62	اقتار	2.68
73	انگور	2.93	62	اللہ تعالیٰ	2.69
73	انبیاء کرام علیہم السلام	2.94	68	الہام	2.70
74	ان شاء اللہ	2.95	68	الحاد	2.71
74	سورة الانبیاء	2.96	68	حضرت الیاس علیہ السلام	2.72
74	انصار	2.97	68	امام	2.73
74	سورة الانفال	2.98	68	امامت	2.74
75	انفاق فی سبیل اللہ	2.99	68	امتحان	2.75
75	سورة الانعام	2.100	68	امن وسلامتی	2.76
75	انار	2.101	68	امی	2.77
75	انعام یافتہ لوگ	2.102	69	امثلہ	2.78
75	انعامی بانڈز	2.103	69	امر بالمعروف ونہی عن المنکر	2.79
76	اولی الامر	2.104	69	امت محمدی ﷺ	2.80
76	اوس و خزرج (قبائل)	2.105	69	امتیاز	2.81

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
81	(معرکہ) بدر	3.10	76	اولاد	2.106
82	بددعا	3.11	76	اولوالعزم	2.107
82	بدکار	3.12	76	اہل سنت و جماعت	2.108
82	بدگمانی	3.13	76	احانت	2.109
82	بدلہ دینا	3.14	76	اہل کتاب	2.110
83	بدلہ لینا	3.15	77	اہل بیت	2.111
83	بدشگون	3.16	77	ایثار	2.112
83	برائی	3.17	77	ایمان	2.113
83	برکات مصطفیٰ ﷺ	3.18	78	ایندھن	2.114
83	بروج	3.19	78	ایلاء	2.115
83	سورۃ البروج	3.20	78	ایٹھی ہتھیار	2.116
83	برائی سے روکنا	3.21	79	ایذاء پہنچانا	2.117
83	بسم اللہ الرحمن الرحیم	3.22	79	حضرت ایوب علیہ السلام	2.118
84	بسیار خوری	3.23	79	ایصال ثواب	2.119
84	بشارت	3.24	(۳) ب		
84	بشر	3.25	79	بارش	3.1
84	بعث بعد الموت	3.26	80	باطل	3.2
84	بغاوت	3.27	80	بال	3.3
84	بغض	3.28	80	بانڈی	3.4
84	سورۃ البقرہ	3.29	80	بت/بت پرست	3.5
84	بلوغت	3.30	81	بچے	3.6
84	ملکہ سبا/ بلقیس	3.31	81	بچھڑا	3.7
85	سورۃ البلد	3.32	81	بخیل	3.8
85	سورۃ بنی اسرائیل	3.33	81	بدعت	3.9

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
88	پناہ طلب کرنا	4.8	85	بنو اسرائیل	3.34
88	پوشمارٹم	4.9	86	بنو قریظہ	3.35
88	پہاڑ	4.10	86	غزوة بنو المصطلق	3.36
88	پیش گوئی	4.11	86	غزوة بنو قینقاع	3.37
89	پیشہ	4.12	86	غزوة بنو نضیر	3.38
89	پیوند کاری	4.13	87	بھاگنا (میدان جنگ سے)	3.39
89	پیشوا	4.14	87	بہتان	3.40
89	پیدائش	4.15	87	بھولنا	3.41
(5) ت			87	بیچ	3.42
			87	بیٹھنا	3.43
89	تباہ	5.1	87	بیبی	3.44
89	تبلغ	5.2	87	بیٹا	3.45
89	تبيان القرآن	5.3	87	بیماری	3.46
89	غزوة تبوک	5.4	87	بیعت	3.47
89	عقیدہ تثلیث	5.5	87	سورة البینہ	3.48
90	تجوید	5.6	88	بیوی	3.49
90	تحفہ دینا	5.7	(4) پ		
90	تحويل قبلہ	5.8			
90	سورة التحريم	5.9	88	پاک	4.1
90	تخلیق	5.10	88	پانی	4.2
90	تدبر	5.11	88	پردہ	4.3
90	تدبیر	5.12	88	پرہیز	4.4
90	تربیت	5.13	88	پرندہ	4.5
90	ترغیب	5.14	88	پڑوسی	4.6
90	ترہیب	5.15	88	پل صراط	4.7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
94	تلاوت کلام پاک	5.40	90	تزکیہ	5.16
94	تمباکو نوشی	5.41	90	تسبیح باری تعالیٰ	5.17
94	تہجد	5.42	91	تصوف	5.18
95	توسل	5.43	91	تصویر	5.19
95	توبہ	5.44	91	تصدیق	5.20
96	تورات	5.45	91	تعظیم رسول ﷺ	5.21
96	توکل	5.46	91	تعلیم/تعلیم	5.22
97	تواضع	5.47	91	تعویذ	5.23
97	سورۃ التوبہ	5.48	91	تعظیم خداوندی	5.24
97	توہین رسالت	5.49	91	تعریف	5.25
97	توحید باری تعالیٰ	5.50	92	تعجب	5.26
99	توریہ	5.51	92	سورۃ التغابن	5.27
99	تیمم	5.52	92	تفسیر کبیر (للامام رازی)	5.28
99	سورۃ التین	5.53	92	تفسیر	5.29
99	تیراندازی	5.54	92	تقویٰ	5.30
(۶) ٹ			92	تقلید	5.31
99	ٹیکس	6.1	93	تقدیر	5.32
(۷) ٹ			93	تقسیم کرنا	5.33
99	حابت قدمی	7.1	94	تقویم	5.34
99	حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ	7.2	94	تقیہ	5.35
99	ثواب	7.3	94	تکبر	5.36
100	قوم شہود	7.4	94	تکلف	5.37
			94	سورۃ التکویر	5.38
			94	سورۃ النکاثر	5.39

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
106	سورة الجن	8.24	(۸) ج		
106	جنازہ نماز	8.25	100	جانور	8.1
107	جنون	8.26	100	جاہل/جہالت	8.2
107	جنگ جمل	8.27	100	جادو	8.3
107	جواء	8.28	101	جار (پڑوسی)	8.4
107	جوامع الکلم	8.29	101	جاسوس	8.5
107	جھوٹ	8.30	101	جان بچانا	8.6
107	جھگڑنا	8.31	101	سورة الجاثیہ	8.7
108	جہنم	8.32	101	جبریہ	8.8
108	جہاد/جنگ	8.33	101	جبر و قدر	8.9
109	جھوٹی نبوت کے دعویدار	8.34	101	جبلت	8.10
(۹) ج			102	حضرت جبریل علیہ السلام	8.11
109	چاند	9.1	102	جدال	8.12
109	چاندی	9.2	102	جزاء	8.13
109	چشمے	9.3	102	جزیہ	8.14
109	چغلی کھانا	9.4	102	جلد بازی	8.15
109	چلنا	9.5	102	جمعة المبارک	8.16
109	چوری کرنا	9.6	103	جماعت	8.17
109	چھٹی	9.7	103	جماع	8.18
109	چھکی	9.8	103	جمادات	8.19
109	چھینک	9.9	103	سورة الجمعة	8.20
110	چیوٹی	9.10	103	جمہوریت	8.21
110	چینا	9.11	103	جنت	8.22
			106	جن	8.23

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				(۱۰) ح	
115	حساب	10.24			
115	حسرت	10.25	110	سورۃ الحاقہ	10.1
115	حسن سلوک	10.26	110	حضرت حاطب رضی اللہ عنہ	10.2
115	حسن اخلاق	10.27	110	حاکم	10.3
115	سورۃ الحشر	10.28	110	حاجت روائی	10.4
115	حشرات الارض	10.29	110	حبیب التجار	10.5
115	حشر	10.30	110	حج و عمرہ	10.6
116	حقوق العباد	10.31	111	حجر (قولی تصرف سے روکنا)	10.7
116	حقیقت	10.32	111	حجت	10.8
117	حق	10.33	111	حج اکبر	10.9
117	حکمت	10.34	111	سورۃ الحجر	10.10
117	حکومت	10.35	111	سورۃ الحج	10.11
117	حلال	10.36	111	حجاب	10.12
117	حضرت حلیمہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن)	10.37	112	سورۃ الحجرات	10.13
117	حم	10.38	112	حدود و قصاص	10.14
117	حمل	10.39	113	حدیث	10.15
118	سورۃ حم السجدہ	10.40	113	سورۃ الحديد	10.16
118	غزوة حنین	10.41	113	حروف	10.17
118	حور	10.42	113	حراہ	10.18
118	حوارین	10.43	114	حرام	10.19
118	حضرت حواء علیہا السلام	10.44	114	حرمت والے مہینے	10.20
118	حیاء	10.45	114	حوص	10.21
118	حیلہ	10.46	114	حروف مقطعات	10.22
				حسد	10.23

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
122	غزوة خندق	11.21	118	حیات	10.47
122	خواہش	11.22	119	حیف	10.48
122	خودکشی	11.23	119	حیات النبی ﷺ	10.49
122	خون	11.24	(۱۱) خ		
122	خوف خدا	11.25	119	خارجی	11.1
123	خواب	11.26	119	خاموش	11.2
123	خیانت	11.27	119	خاک نشین	11.3
123	خیال	11.28	119	خاندانی منصوبہ بندی	11.4
123	غزوة خیبر	11.29	119	خبر واحد	11.5
(۱۲) د			119	ختم نبوت	11.6
124	دارالحرب	12.1	120	خدمت	11.7
124	دارالسلام	12.2	120	خراج	11.8
124	دارالکفر	12.3	120	خرج کرنا	11.9
124	داڑھی	12.4	120	حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ	11.10
124	حضرت داؤد علیہ السلام	12.5	120	خسارہ	11.11
125	سورة الدخان	12.6	120	خشوع و خضوع	11.12
125	درود شریف	12.7	121	خشیت الہی	11.13
125	درایت	12.8	121	خصائص مصطفیٰ ﷺ	11.14
125	درگور کرنا	12.9	121	حضرت خضر علیہ السلام	11.15
125	دشمن	12.10	121	خلیفہ/خلافت	11.16
125	دعوت دین	12.11	121	خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم	11.17
125	دعا	12.12	121	خبر و دیگر نشیات	11.18
127	دل	12.13	122	فمن	11.19
127	دماغ	12.14	122	خنزیر	11.20

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
132	ذوی القربی	14.5	127	دم درود	12.15
132	ذوی الارحام	14.6	127	دنیا	12.16
132	ذوالقرنین	14.7	128	دن	12.17
133	حضرت ذوالکفل علیہ السلام	14.8	128	دودھ	12.18
133	ذوالحجہ	14.9	129	دوزخ	12.19
(۱۵) ر			130	دوست	12.20
			130	دھمکی دینا	12.21
133	رات	15.1	130	دھواں	12.22
133	راحت	15.2	130	دھریہ	12.23
133	راہب / رہبانیت	15.3	130	دھال	12.24
133	راز	15.4	130	سورۃ الدھر	12.25
133	رب	15.5	130	دھوکہ دینا	12.26
133	ربا	15.6	130	دین	12.27
134	ربانین	15.7	131	دیت	12.28
134	رجم	15.8	131	دیدار الہی	12.29
134	سورۃ الرحمن	15.9	131	دیہاتی	12.30
134	رحمت باری تعالیٰ	15.10	131	(۱۳) ڈ	
134	رزق	15.11	131		
135	رسالت / رسول	15.12	131	ڈکار	13.2
135	رشوت	15.13	131	(۱۴) ذ	
136	رشتہ دار	15.14	131		
136	رضائے الہی / مصطفیٰ	15.15	132	ذبیحہ	14.2
136	سورۃ الرعد	15.16	132	ذخیرہ اندوزی کرنا	14.3
136	رقص و سرود	15.17	132	ذکر الہی	14.4
136	رکون (کفار سے میل جول)	15.18	132		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
140	زمین	16.9	136	رمضان المبارک	15.19
141	سورۃ الزمر	16.10	136	زل	15.20
142	زندیق	16.11	136	روزہ	15.21
142	زنا	16.12	137	روح المقدس	15.22
142	زندگی	16.13	137	روضہ رسول اللہ ﷺ	15.23
142	زوجہ	16.14	137	روح	15.24
142	زوج	16.15	138	رونا	15.25
143	زہد	16.16	138	روٹی	15.26
143	زیارت رسول کریم ﷺ	16.17	138	سورۃ الروم	15.27
143	زیورات	16.18	138	رہائش	15.28
143	زیتون	16.19	138	رہن (گروی رکھنا)	15.29
143	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ	16.20	138	رؤیت باری تعالیٰ	15.30
143	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	16.21	139	ریاکاری	15.31
143	زینت	16.22	139	ریشم	15.32
143	زیارت قبور	16.23	139	ریب	15.33

(۱۷) س

144	سامری	17.1
144	سائلک	17.2
144	سائل/سوال کرنا	17.3
144	سازش	17.4
144	سورۃ سبا	17.5
144	سجان	17.6
144	سبب نزول	17.7
144	سابقہ امتیں	17.8

(۱۶) ز

139	زبور	16.1
139	سورۃ الزخرف	16.2
139	زرہ	16.3
139	زکوٰۃ	16.4
140	حضرت زکریا علیہ السلام	16.5
140	زلزلہ	16.6
140	سورۃ الزلزال	16.7
140	زمزم	16.8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
149	سمندر	17.33	145	قوم سبا	17.9
149	سخت	17.34	145	السبع الثانی	17.10
149	سود	17.35	145	ستارہ	17.11
149	سورۃ	17.36	145	سہ باری	17.12
149	سورج	17.37	145	سجدہ	17.13
149	سونا	17.38	145	سجدۃ تلاوت	17.14
150	سہو	17.39	146	سورۃ السجدہ	17.15
150	سیارہ	17.40	146	سجدۃ تعظیمی	17.16
150	سیدھا راستہ	17.41	146	سج	17.17
(۱۸) ش			146	سحر	17.18
			146	سرقہ کرنا (چوری کرنا)	17.19
150	شام	18.1	146	سرجی	17.20
150	شب برات	18.2	146	سرگوشی کرنا	17.21
150	شجرۃ الزقوم	18.3	146	سزا	17.22
150	السخ	18.4	146	حضرت سعد رضی اللہ عنہ	17.23
150	شر	18.5	146	سفر	17.24
150	شرح صدر	18.6	146	سکوت	17.25
150	شرک	18.7	146	سگریٹ نوشی	17.26
151	شریعت	18.8	146	حضرت سلیمان علیہ السلام	17.27
151	شرم گاہ	18.9	147	سلام / معانقہ	17.28
151	شعور	18.10	148	سلطان	17.29
151	شعر	18.11	148	سلطنت	17.30
152	حضرت شعیب علیہ السلام	18.12	148	سامع موتی	17.31
152	شعائر اللہ	18.13	148	سامع	17.32
152	سورۃ الشعراء	18.14	148		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
159	حضرت صالح علیہ السلام	19.2	152	شفاء	18.15
160	صالح	19.3	152	شفقت	18.16
160	صائبین	19.4	152	شفاعت	18.17
160	صابن	19.5	154	شق صدر	18.18
160	صبر	19.6	154	شق قبر	18.19
161	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	19.7	154	شکر/شاکر	18.20
161	صحیفہ	19.8	154	شک	18.21
162	صدیق	19.9	155	شکوہ/شکایت	18.22
162	صدق	19.10	155	شکار	18.23
162	صدقہ	19.11	155	شگون	18.24
162	صراط مستقیم	19.12	155	شمس	18.25
162	صعقہ	19.13	155	سورۃ الشمس	18.26
162	سورۃ الصدف	19.14	156	شوہر	18.27
162	جنگ صفین	19.15	156	سورۃ الشوریٰ	18.28
162	صفات باری تعالیٰ	19.16	156	شہادت	18.29
162	سورۃ الصافات	19.17	156	شہید	18.30
162	صلح حدیبیہ	19.18	157	شہد	18.31
163	صلوٰۃ (درود و سلام)	19.19	157	شہاب ثاقب	18.32
164	صلوٰۃ (نماز)	19.20	157	شہاب زہری	18.33
166	صلح	19.21	157	شیطان	18.34
166	صلح رحمی	19.22	159	شیعہ	18.35
166	صوفی باصفا	19.23	159	شیخ	18.36
166	صور	19.24	(۱۹) ص		
167	صیغہ امر	19.25	159	سورۃ ص	19.1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
170	ظہار	22.3	(۲۰) ض		
(۲۳) ع			167	ضالین	20.1
171	عاجزی کرنا	23.1	167	سورۃ النضحی	20.2
171	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	23.2	167	ضد	20.3
171	عالمین	23.3	167	ضمانت	20.4
171	عالم	23.4	(۲۱) ط		
172	سورۃ العادیات	23.5	167	سورۃ الطارق	21.1
172	قوم عاد	23.6	167	طالوت	21.2
172	عابد/عبادت	23.7	167	طاعون	21.3
173	العاص بن وائل	23.8	167	طار	21.4
173	عاشورہ	23.9	168	طریقہ	21.5
173	سورۃ العنکبوت	23.10	168	طریقہ انتخاب	21.6
173	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ	23.11	168	طعام	21.7
173	عبرت	23.12	168	طعنہ	21.8
173	عبداللہ بن ابی	23.13	168	سورۃ الطلاق	21.9
174	عتاب	23.14	168	طلاق	21.10
174	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ	23.15	169	سورۃ الطور	21.11
174	عجلت	23.16	169	طواف	21.12
174	عدت	23.17	169	سورۃ طہ	21.13
174	عدل	23.18	170	طہارت	21.14
175	عذاب	23.19	170	طیب	21.15
177	عذر	23.20	(۲۲) ظ		
177	عرش	23.21	170	ظالم/ظلم	22.1
177	عرس	23.22	170	ظن	22.2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
183	علم نبوی ﷺ	23.47	178	عربی زبان	23.23
183	علاج	23.48	178	عراف	23.24
184	علامات قیامت	23.49	178	عزت	23.25
184	علوم خمسہ	23.50	178	عزیمت	23.26
184	عمارت	23.51	178	عزالت نشینی	23.27
184	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ	23.52	178	حضرت عزیر علیہ السلام	23.28
185	عمران کی بیوی	23.53	178	عشر	23.29
185	عمر	23.54	178	عصا	23.30
185	عمری	23.55	178	عصمت انبیاء	23.31
185	عمل	23.56	179	سورۃ العصر	23.32
186	سورۃ العنکبوت	23.57	179	عطا کرنا	23.33
186	عورت	23.58	179	عفو و درگزر	23.34
186	عہد	23.59	179	عقیدہ	23.35
187	عہد شکنی	23.60	179	عقد	23.36
187	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	23.61	179	عقل	23.37
189	عیادت	23.62	180	عقیقہ	23.38
189	عیب	23.63	180	سورۃ العلق	23.39
189	عیش و عشرت	23.64	180	علم / علم دین	23.40
(۲۲) غ			181	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ	23.41
			181	علم جفر	23.42
189	سورۃ الغاشیہ	24.1	181	علم غیب	23.43
189	غبن	24.2	181	علم لدنی	23.44
189	غریب	24.3	182	علم نجوم	23.45
189	غزوہ بدر	24.4	182	علم باری تعالیٰ	23.46
189	غصہ	24.5	182		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
191	لبای آلاء ربکما تکذبن	25.9	189	غفلت/ غافل	24.6
191	فتح	25.10		مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی	24.7
191	فتویٰ	25.11	189	صاحب	
191	فتنہ	25.12	189	غلام	24.8
192	سورۃ الفتح	25.13	190	غلام احمد قادیانی	24.9
192	فطر	25.14	190	غلو	24.10
192	سورۃ الفجر	25.15	190	مال غنیمت	24.11
192	فحش کام	25.16	190	غناء	24.12
192	فخر	25.17	190	غور و فکر	24.13
192	فرعون/ قوم فرعون	25.18	190	غیر اللہ کو پکارنا	24.14
193	فرقے	25.19	190	غیب	24.15
193	فرق	25.20	190	غلطی کرنا	24.16
194	فرقہ بندی	25.21	190	غیبت	24.17
194	فرشتہ	25.22	190	غیرت	24.18
195	فریب	25.23	191	غیظ و غضب	24.19
195	سورۃ الفرقان	25.24	(۲۵) ف		
195	فراست	25.25	191	سورۃ الفاتحہ	25.1
195	فرمانبردار	25.26	191	فاتحہ خلف الامام	25.2
195	فساد	25.27	191	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا	25.3
195	فضول خرچی	25.28	191	فاسق/ بد عقیدہ	25.4
195	فضل	25.29	191	سورۃ فاطر	25.5
195	فضیلت	25.30	191	فاحشہ	25.6
195	فطرت	25.31	191	فال	25.7
195	فعل	25.32	191	فارس	25.8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
202	قرض	26.15	196	فقہ	25.33
202	قرامطہ	26.16	196	فقیر/فقر	25.34
202	قرأت خلف الامام	26.17	196	فلسطين	25.35
203	قربانی	26.18	196	فلسفہ	25.36
203	قریش	26.19	196	سورة الفلق	25.37
203	سورة القریش	26.20	196	فواکھ	25.38
203	قرع اندازی	26.21	196	فیصلہ	25.39
204	قرض خواہ	26.22	196	سورة الفیل	25.40
204	قسم	26.23	196	فئے	25.41
204	قصہ	26.24	ق (۲۶)		
204	قصاص	26.25	196	سورة ق	26.1
204	سورة القصص	26.26	196	قاضی	26.2
205	قضاء	26.27	196	قائیل/حائیل	26.3
205	قلب	26.28	197	قارون	26.4
205	سورة القلم	26.29	197	سورة القارعہ	26.5
205	قمار	26.30	197	قبر	26.6
205	سورة القمر	26.31	197	قبلہ	26.7
205	قناعت	26.32	197	قبول اسلام	26.8
205	دعائے قنوت	26.33	197	قبح	26.9
205	قوت	26.34	197	قتل	26.10
205	قواعد فقہیہ	26.35	198	قدرت باری تعالیٰ	26.11
205	قیاس	26.36	198	سورة القدر	26.12
206	قید/قیدی	26.37	198	قذف	26.13
206	قیام تعظیسی	26.38	198	قرآن مجید	26.14

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
217	کن فیکون	27.22	206	قیامت	26.39
218	سورۃ الکوثر	27.23	209	سورۃ القیامہ	26.40
218	کوڑے	27.24	(۲۷) ک		
218	کھیل	27.25	209	کائنات	27.1
218	کھانا کھانے کے آداب	27.26	209	کابن	27.2
218	کھجور	27.27	209	سورۃ الکافرون	27.3
218	سورۃ الکھف	27.28	209	کامیابی	27.4
(۲۸) گ			209	کبوتر بازی	27.5
218	گدھا	28.1	209	کتا	27.6
218	گداگری	28.2	209	کتاب	27.7
219	گرفت	28.3	210	کذب	27.8
219	گروی رکھنا	28.4	210	کرامت	27.9
219	گستاخ رسول	28.5	210	کرانا کاتبین	27.10
219	گمراہ/گمراہی	28.6	210	کسب	27.11
219	گمان	28.7	210	کعبہ	27.12
219	گنبد خضریٰ	28.8	210	کفر/کفار	27.13
219	گناہ	28.9	216	کفارہ	27.14
221	گوشت	28.10	216	کفریہ کلمات	27.15
221	گوہ	28.11	217	کفو	27.16
221	گواہی دینا	28.12	217	کلمہ طیبہ	27.17
(۲۹) ل			217	کلمہ حق	27.18
221	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	29.1	217	کلالہ	27.19
	لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی	29.2	217	کلام باری تعالیٰ	27.20
221	العظیم		217	کم عقل	27.21

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	(۳۰) م		221	لاثری	29.3
225	مال	30.1	221	لاالج	29.4
225	مال غنیمت	30.2	221	لباس	29.5
225	سورۃ المائدہ	30.3	221	لذت	29.6
225	ماشاء اللہ	30.4	221	لذیز	29.7
225	سورۃ الماعون	30.5	221	لشکر	29.8
225	مباہلہ	30.6	221	لعان	29.9
225	حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا	30.7	222	لعنت	29.10
226	مباشرت	30.8	222	لغو	29.11
226	مایوس ہونا	30.9	222	لقب	29.12
226	متقی	30.10	222	لقط	29.13
226	متہ	30.11	222	لقیط	29.14
226	متفرقات	30.12	222	سورۃ لقمان	29.15
226	مٹی	30.13	222	حکیم لقمان	29.16
226	مجرم	30.14	222	لکھنا	29.17
226	مجمع البحرین	30.15	222	لوح محفوظ	29.18
226	مجذوب	30.16	223	لوح قرآنی	29.19
226	مجہد	30.17	223	لواطت	29.20
226	مجلس	30.18	223	حضرت لوط علیہ السلام	29.21
227	مجوسی	30.19	224	سورۃ الذهب	29.22
227	سورۃ المجادلہ	30.20	224	لواہ	29.23
227	مچھلی	30.21	224	لہو و لعب	29.24
227	محسن	30.22	224	سورۃ الليل	29.25
227	محراب	30.23	224	لیلۃ القدر	29.26

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
238	سورۃ المزمل	30.48	227	محرم الحرام	30.24
238	مسکین	30.49	227	سورۃ محمد	30.25
238	مسجد	30.50	227	محبت	30.26
239	مسح	30.51	227	سیدنا محمد عربی ﷺ	30.27
239	مسلمان	30.52	235	محمد بن عبدالوہاب نجدی	30.28
240	مشابہت	30.53	235	محکم	30.29
240	مشرق	30.54	235	مخلوق	30.30
240	مشرك	30.55	235	مدائنت	30.31
242	مشکل الفاظ کے معانی	30.56	236	مدافعت	30.32
249	مشورہ	30.57	236	مدد حاصل کرنا	30.33
250	مصیبت	30.58	236	سورۃ المدثر	30.34
250	مصارف زکوٰۃ	30.59	236	مدینہ منورہ	30.35
251	مصاہرت	30.60	236	مدعی نبوت	30.36
251	مضطر	30.61	236	مذاق کرنا	30.37
251	سورۃ المطففین	30.62	236	مذہب	30.38
251	سورۃ المعارج	30.63	236	حضرت مریم علیہا السلام	30.39
251	معاف کرنا	30.64	237	مرتد	30.40
251	معجزہ	30.65	237	مردار	30.41
252	معرفت	30.66	237	سورۃ مریم	30.42
252	معذور	30.67	237	مرغ	30.43
252	معصوم	30.68	238	مردوں کو زندہ کرنا	30.44
252	معراج النبی ﷺ	30.69	238	مرجہ	30.45
253	معاد	30.70	238	سورۃ المرسلات	30.46
253	معاملہ	30.71	238	مزارات	30.47

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
260	موسیٰ	30.96	253	حضرت معادیہ رضی اللہ	30.72
261	مولوی	30.97	253	مغضوب	30.73
261	موالات	30.98	253	مغفرت	30.74
261	مہر	30.99	253	مغرب	30.75
261	مہمان نوازی	30.100	254	مفتوحہ علاقے	30.76
261	مؤمن	30.101	254	مقابلہ	30.77
263	سورۃ المؤمنون	30.102	254	مقتول	30.78
263	سورۃ المؤمن	30.103	254	مقام محمود	30.79
263	میت	30.104	254	مکہ مکرمہ / اہل مکہ	30.80
263	میقات	30.105	255	مکس	30.81
263	میثاق	30.106	255	مکزی	30.82
263	میزان	30.107	255	ملت	30.83
263	میلاد رسول ﷺ	30.108	255	ملائکہ	30.84
264	میانہ روی	30.109	255	لمحہ	30.85
(۳۱) ن			255	سورۃ الملک	30.86
264	نام	31.1	255	سورۃ الممتحنہ	30.87
264	سورۃ الناس	31.2	255	منت مانگنا	30.88
264	ناپ تول	31.3	255	منطق	30.89
264	سورۃ النبأ	31.4	255	مناظرہ / مباحثہ	30.90
264	نبوت / نبی	31.5	255	مناقق	30.91
266	نجات	31.6	257	سورۃ المنافقون	30.92
266	نجات از جہنم طلب کرنا	31.7	257	موت	30.93
266	سورۃ النازعات	31.8	257	حضرت موسیٰ علیہ السلام	30.94
266	نجاشی	31.9	260	مواخذہ	30.95

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
271	نقصان	31.34	266	نجوی	31.10
271	نکاح	31.35	266	سورۃ النجم	31.11
272	نگاہ	31.36	266	سورۃ النمل	31.12
272	نماز	31.37	266	نحوست	31.13
272	نمرود	31.38	267	نداء یارسول اللہ ﷺ	31.14
272	سورۃ النمل	31.39	267	نذر	31.15
272	حضرت نوح علیہ السلام	31.40	267	نسخ	31.16
274	سورۃ نوح	31.41	267	سورۃ النبأ	31.17
274	نور	31.42	267	نسیان	31.18
274	سورۃ النور	31.43	268	نسب	31.19
274	نوحہ کرنا	31.44	268	نسبت	31.20
274	نیت	31.45	268	نشانی	31.21
274	نیزد	31.46	268	نصب	31.22
274	نیک اعمال	31.47	268	سورۃ النصر	31.23
275	نیک لوگ	31.48	268	نصاری	31.24
275	نیکی	31.49	268	نصیحت	31.25
275	نیکی کا حکم دینا	31.50	268	نطفہ	31.26
(۳۲) و			268	نذر لگنا	31.27
			268	نعمت	31.28
275	والدین (ماں + باپ)	32.1	268	نفس	31.29
276	والدین کریمین رضی اللہ عنہما	32.2	270	نفل	31.30
276	وادی حجر	32.3	270	نفاق	31.31
276	وادی طوی	32.4	270	نفع و ضرر	31.32
276	واعظ	32.5	270	نفع رسائی	31.33
276	وارث	32.6	271		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
280	ہجرت / مہاجرین	33.3	277	سورۃ الواقعہ	32.7
281	ہدیٰ	33.4	277	وجاہت	32.8
281	ہدیٰ	33.5	277	وجد	32.9
281	ہدایت / ہادی	33.6	277	وجود باری تعالیٰ	32.10
282	ہدیٰ	33.7	277	حضرت وحشی رضی اللہ عنہ	32.11
282	ہلاکت	33.8	277	وحی	32.12
282	سورۃ البقرہ	33.9	278	وراثت	32.13
282	ہم جنس پرستی	33.10	278	وزیر / وزارت	32.14
282	ہنسنا / تبسم / قہقہہ	33.11	278	وسیلہ	32.15
282	سورۃ ہود	33.12	279	وسوسہ	32.16
282	حضرت ہود علیہ السلام	33.13	279	وصیت	32.17
(۳۲) کی			279	وضو	32.18
			279	وعدا / وعید	32.19
283	یا جوج و ماجوج	34.1	279	وعدہ	32.20
283	یاد	34.2	279	وکیل	32.21
283	یتیم	34.3	279	ولایت	32.22
284	حضرت یحییٰ علیہ السلام	34.4	279	ولی	32.23
284	یزید	34.5	279	ولید بن عتبہ	32.24
284	سورۃ یسین	34.6	280	ولید بن مغیرہ	32.25
284	حضرت یعقوب علیہ السلام	34.7	280	ووث	32.26
285	یقین	34.8	280	وہم	32.27
285	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام	34.9	280	(۳۳) ۵/۵	
285	سورۃ یوسف	34.10			
285	حضرت یوسف علیہ السلام	34.11	280	حضرت ہارون علیہ السلام	33.1
289	یوم	34.12	280	ہاروت و ماروت	33.2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
			289	یوم حساب	34.13
			289	یوم حشر	34.14
			289	یوم عرفہ	34.15
			289	یوم میلاد	34.16
			289	یوم نحر	34.17
			289	سورہ یونس	34.18
			290	حضرت یونس علیہ السلام	34.19
			290	یہود و نصاریٰ	34.20

مقتت



انتساب

میں اپنی اس علمی کاوش کو ان دو عظیم شخصیات کے نام منسوب کرتا ہوں جن کے علمی فیضان سے یقیناً ایک عالم مستفیض و مستفید ہو رہا ہے جن کا وجود مسعود مسلمانانِ عالم کے لیے باعثِ رحمت اور مینارۂ نور ہے

میری مراد ہیں

محدث عصر، سعید ملت، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر
حضرت علامہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب

اور

میرے محسن و مربی، میرے استاذ محترم، میرے راہبر و رہنما
حضرت علامہ مولانا پروفیسر عون محمد سعیدی صاحب
امد اللہ ظلہما علی جمیع المسلمین والمسلمات



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف مؤلف اشاریہ تبیان القرآن

حضرت مولانا حافظ آس محمد سعیدی زید علمہ و فضلہ و اسعدہ اللہ فی الدارین نہایت مخلص اور جلیل القدر عالم دین ہیں انہوں نے نہایت محبت اور اخلاص سے تفسیر تبیان القرآن کا اشاریہ ترتیب دیا ہے جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے مضامین تبیان کی فہرست بنائی ہے، مثلاً کے باب میں ایک عنوان ہے: تو سل اس کی فہرست اس طرح بنائی ہے:

تو سل

187/1	وسیلہ کا معنی
188/1	انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ
196/1	تو سل بعد از وصال پر اعتراضات کے جوابات
198/1	تو سل بعد از وصال کے متعلق علماء کرام کے نظریات
448/1	حضور ﷺ کے وسیلہ سے دعا کا قبول ہونا
171/3	وسیلہ بمعنی ذریعہ تقرب
171-173/3	انبیاء و اولیاء کے وسیلہ سے دعا کرنا
174/3	وسیلہ بمعنی درجہ جنت
174/3	دعا اذان میں حدیث شفاعت کی تحقیق
175/3	دعا اذان کے بعض دیگر کلمات کی تحقیق
176/3	وسیلہ بمعنی مرشد کامل

پیدائش و ابتدائی حالات

حافظ آس محمد سعیدی کے والد کا نام محمد الیاس ہے، حافظ آس محمد 1987ء میں بہاولپور پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے ہی شہر میں حاصل کی، ان کے استاذ گرامی حافظ عون محمد سعیدی ہیں، دوسرے استاد جن سے انہوں نے اکتساب فیض کیا علامہ اللہ وسایا سعیدی ہیں اور شیخ المیراث علامہ احمد دین صاحب سے بھی استفادہ کیا۔ قرآن مجید حافظ محمد سلیمان کے پاس تین سال میں حفظ کیا، جب سے اب تک دو مرتبہ تراویح میں قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی اور باقی سالوں میں قرآن مجید کی سماعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ اپنے استاد حافظ عون محمد سعیدی صاحب سے 2005ء میں شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور حافظ عون محمد سعیدی غزالی زماں بیہقی ءدوراں حضرت علامہ سید سعید احمد شاہ صاحب کاظمی قدس سرہ العزیز کے دست اقدس پر بیعت ہیں۔

2002ء میں ثانوی عامہ اور میٹرک پاس کیا، 2003ء میں فاضل عربی پاس کیا اور بہاولپور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی 2004ء میں ثانوی خاصہ اور I.com پاس کیا۔ 2006ء میں B.com اور عالیہ پاس کیا، پھر 2008ء میں تنظیم المدارس سے شہادت عالیہ کی سند حاصل کی۔ 2006ء میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر کی تعلیم حاصل کی۔ عامہ خاصہ عالیہ اور عالیہ میں ممتاز مع شرف کی ڈگری حاصل کی جب کہ میٹرک I.com اور B.com پہلی ڈویژن (1st Division) کے ساتھ پاس کیا۔ 2007ء میں استاذ عون محمد سعیدی صاحب سے دورہ حدیث مکمل کیا۔ 2006ء میں مرکز تحقیق فیصل آباد میں تربیتی کورس مکمل کیا۔ تنظیم المدارس کے امتحان عالیہ کے لیے جو مقالہ تحریر کیا، اس کا عنوان تھا: قرآن اور سنت کی روشنی میں مسئلہ حجاب۔

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، بھیرہ شریف میں آل پاکستان مقابلہ تحریر منعقد ہوا، اس میں مقالے کے عنوان تھا: فروغ دین میں مدارس کا کردار اس مقابلے میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔

دورانِ تعلیم مختلف رسائل و جرائد میں مضامین لکھے، رسائل کے نام یہ ہیں: (۱) السعید (ملتان) (۲) نور الحیب (بصیر پور) (۳) ماہنامہ نظامیہ (لاہور) (۴) ماہنامہ عرفات (لاہور) (۵) مجلہ الہدایت (ملتان) اس کے علاوہ آسان جنرل ریاضی، محبت رسول ضروری کیوں اور قربانی کے مسائل و فضائل کے نام سے کتابیں لکھیں، جو طبع ہو چکی ہیں۔

2005ء میں اپنے استاذ کے مدرسے دارالعلوم حسینیہ قادریہ سعیدیہ میں تدریس شروع کی، جس میں صرف، نحو، انگریزی، ریاضی اور سراجی پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایل۔ ایل۔ بی کر رہے ہیں۔

سماجی خدمات

سعیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی اور اس کے چیئرمین منتخب ہوئے، اس تنظیم کی طرف سے کثیر تعداد میں غرباء میں آنا تقسیم کیا اور عید الفطر میں عید گفٹ پیک تقسیم کیے۔

اشاریہ تبیان القرآن شائع کرنے کا داعی اور محرک

حافظ آس محمد نے سب سے پہلے فقیرنا کارہ کی کتاب معاشرے کے ناسور پڑھی، پھر مقالات سعیدی، تذکرۃ الحمدین، شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن کے کچھ حصے پڑھے اور پھر نعمۃ الباری، ایک مرتبہ ان کے استاذ حافظ عون محمد سعیدی تبیان القرآن کی فہرستوں میں ورزش کے عنوان سے کچھ مواد تلاش کر رہے تھے، استاد شاگرد تقریباً 50 منٹ تک ڈھونڈتے رہے، پھر کہیں جا کر انہیں مطلوبہ مواد ملا۔ پھر انہیں یہ خیال آیا کہ لوگوں کو اس سے اپنا مطلوبہ عنوان تلاش کرنے میں اتنی ہی کاوش کرنی پڑتی ہوگی اور وقت صرف کرنا پڑتا ہو گا، تو کیوں نہ تفسیر تبیان القرآن کا ایک اشاریہ مرتبہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو علمی اور تحقیقی کام کرنے میں سہولت میسر ہو، پہلے انہوں نے تفسیر تبیان القرآن کی بارہ (12) جلدوں کی فہرست کو اکٹھا کیا، پھر انہوں نے حروف تہجی کے اعتبار سے کسی ایک عنوان کے تحت اس عنوان کے موافق جو مضامین مختلف جلدوں میں پھیلے ہوئے تھے، ان کو ایک جگہ جمع کیا اور یوں پوری تبیان القرآن کی فہرست بنا دی، ظاہر ہے اس میں انہوں نے بہت مشقت اٹھائی لیکن اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر صرف ایک مہینے میں یہ کام مکمل کر لیا، شروع میں آپ نے یہ کام چھوڑ دیا مگر رمضان کے مہینے میں خواب میں مجھ سے ملاقات کے بعد اس کام کو پھر اسی ذوق و شوق سے شروع کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل ان کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مشکور فرمائے اور قارئین تبیان القرآن کو اس سے زیادہ سے زیادہ

استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین! بجاہ سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین
 غلام رسول سعیدی غفرلہ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی



تبیان القرآن، ارباب علم و فکر کی نظر میں

قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سرہ العزیز

بسم الله الرحمن الرحيم ط الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على حبيبه
سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين. اما بعد:

تفسیر قرآن (تبیان القرآن) پر جو کام فخر الاماثل شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی زید مجدہم نے کیا ہے اس پر وہ صرف میرے ہی شکر یہ کہ مستحق نہیں بلکہ تمام اہلسنت کے شکر یہ کہ مستحق ہیں۔ جو خدمت، مسلک اور دین کی ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ تبیان القرآن علامہ سعیدی زید مجدہم کا ایک عظیم علمی و تحقیقی شاہکار اور ایک ایسا سمندر ہے کہ اگر کہا جائے: بحر لاساحل لہ تو بجا ہے۔

مولیٰ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور مزید خدمت دین کی توفیق بخشے (آمین)

فقیر شاہ احمد نورانی صدیقی غفرلہ

(ملخصاً حیات سعید ملت، ص: ۸۴ + حقائق شرح صحیح مسلم و دقائق تبیان القرآن، ص: ۱۸)



حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب (مہتمم دارالعلوم نعیمیہ، کراچی)

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله و حده ازلی ابدی لا اول له ولا آخر له صمدی سرمدی لا ضد ولا
ندله و الصلوة والسلام على من لانبی بعده سيدنا و مولانا محمد النبی الامی
و على کل من صحبه و تبعه باحسان بعده.

”تبیان القرآن“ عہد جدید کی نہایت جامع، کامل اور مکمل تفسیر ہے، میرے محدود مطالعہ کے مطابق اردو اور عربی کی کسی تفسیر میں اتنا ذخیرہ معلومات یکجا نہیں ہے، اگرچہ ہر تفسیر میں آپ کو جتنے جتنے تمام علوم و فنون سے متعلق معلومات ملیں گی، لیکن بالعموم ہر تفسیر میں کوئی نہ کوئی رنگ غالب ہے، مثلاً ابن جریر طبری اور ابن کثیر کی تفاسیر میں احادیث اور روایات پر زیادہ انحصار کیا گیا ہے، علامہ جار اللہ زبٹری کی تفسیر میں قرآن کی ادبیت اور بلاغت کی شان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، امام راغب اصفہانی نے لغت کے بیان تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، علامہ زجاج نے صرفی اور نحوی ابحاث کو اپنا موضوع بنایا ہے، علامہ ثعلبی نے اسرائیلیات اور تاریخی رطب و یابس کو جمع کر

دیا ہے، علامہ ابو بکر جصاص کی تفسیر میں فقہی رنگ غالب ہے، انہوں نے فقہ حنفی کی برتری ثابت کی ہے، علامہ قرطبی کی تفسیر یوں نہایت جامع ہے لیکن اس میں فقہ مالکی کو ترجیح دی گئی ہے، علامہ احمد جیون کی تفسیر بھی آیات احکام پر مشتمل ہے، امام رازی نے اپنی شان جامعیت کے ساتھ ساتھ فقہی موضوعات میں اگرچہ فقہ شافعی کو ترجیح دی ہے لیکن ان کی تفسیر کا خاصہ باطل فرقوں کا دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے رو بلوغ ہے، تفسیر روح المعانی میں دیگر امور کے علاوہ صوفی و نحوی ترکیب پر کافی توجہ دی گئی ہے، تفسیر روح البیان اور تفسیر مظہری میں تصوف کا رنگ غالب ہے، سید قطب کا مرکزی موضوع مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات اور جواہر طناوی کا مرکز نظر قرآن اور سائنس میں تطبیق ہے۔ ہمارے اس خطے پاک و ہند کی اردو تفاسیر میں ہر مفسر کے ذہن پر اس کا مخصوص مکتبہ فکر، مسلک، مذہب اور سیاسی سوچ غالب نظر آتی ہے، چنانچہ وہ قرآن کا مطالعہ اسی سیاق و سباق میں کرتے ہیں اور قرآن کی جامعیت، آفاقیت، ابدیت اور ہمہ گیریت کا حق ادا نہیں کر پاتے۔

الغرض ”کلام ربانی“ کی تفسیر کے تمام شعبوں کا کسی ایک تفسیر میں کما حقہ احاطہ کرنا نہایت دشوار امر ہے اور نہ کسی تفسیر کو حرف آخر کہا جاسکتا ہے۔ تاہم بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کی موجود اور دستیاب تفاسیر میں جو شان جامعیت و کاملیت ”تبیان القرآن“ کو حاصل ہے، اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، دوران تفسیر اردو زبان کے قارئین کے لیے مختلف موضوعات پر اتنا عظیم تحقیقی مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ جو کہیں اور کسی جگہ دستیاب نہیں ہے، مستقبل کا کوئی بھی مفسر و محقق صاحب ”تبیان القرآن“ کے کسی بھی نتیجہ فکر سے اختلاف تو کر سکتا ہے اور یہ اس کا حق ہے، لیکن اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔

”تبیان القرآن“ کی تمام زبانوں کی موجود تمام تفاسیر میں یہ بھی امتیازی شان ہے کہ اس میں ہر بات جدید معیار تحقیق کے مطابق، کتاب، صفحہ، مصنف، مطبع اور سن طباعت کے حوالوں کے ساتھ نقل کی گئی ہے، یہ چیز دیگر کتب تفاسیر میں بہت مخصوص موضوعات کے ضمن میں خال خال تو ملے گی، لیکن اس کا کلی التزام نہیں ملے گا۔

بلاشبہ ”تبیان القرآن“ علم تفسیر اور اس منبع علم سے پھوٹنے والے مختلف علوم و فنون کا انسائیکلو پیڈیا اور انمول خزانہ ہے اور یہ آفتاب علم، مطلع علم پر صدیوں جگمگا تارے گا، کسی نے سچ کہا ہے:

یلوح الخط فی القرطاس دھرا و کاتبہ رمیم فی التراب

(صفحہ پر لکھی ہوئی تحریر ہمیشہ چمکتی رہتی ہے، اس وقت بھی جبکہ اس کا لکھنے والا مٹی میں گل سڑ چکا ہوتا)

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مكرم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے طفیل حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کو تمام تر جسمانی، علمی، عملی، فکری اور ذہنی قوی کی کامل سلامتی کے ساتھ تبیان القرآن کی تکمیل کے بعد بھی تادیر مزید دینی و علمی عنوانات پر اپنے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین! یارب العلمین بجاہ سید المرسلین علیہ و علی آلہ و صحبہ افضل الصلوٰۃ و التسلیمات. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

پروفیسر مفتی منیب الرحمن (مہتمم: دارالعلوم نعیمہ کراچی)

چیئر مین: مرکزی رویت ہلال کمیٹی، پاکستان

رکن: اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان

(ماخوذ از: حقائق شرح صحیح مسلم و دقائق تبیان القرآن ص: ۲۳-۲۸)

حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب (مہتمم جامعہ رضویہ شمس العلوم کراچی)

علامہ غلام رسول سعیدی صاحب! جلیل القدر محدث، مفسر، خطیب اعظم، نامور محقق اور تبحر عالم دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندی فکر، جدت نظر، وسعت مطالعہ اور اظہار مافی الضمیر کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔ علامہ سعیدی صاحب کی محققانہ شان اپنے مرتبہ کمال پر نظر آتی ہے۔ آپ نے تحقیق کی روش کے تسلسل کو نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ اسے آگے بھی بڑھایا ہے۔ کسی بھی تفسیر، حدیث اور فقہی کاوش کو پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اس میں سابق مفسرین اور محققین کی تفسیری کاوشوں اور تحقیقات پر کس قدر اضافہ کیا گیا ہے اس کے پیش نظر مجھے یہ کہنے میں کچھ بھی تامل نہیں ہے کہ علامہ سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان القرآن اس معیار پر پوری اترتی ہے، تفسیر تبیان القرآن میں مسائل حاضرہ عبادات، معاملات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ احکام و مسائل میں تمام مذاہب آئمہ کو ان کی اصل کتابوں کے حوالے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر تبیان القرآن میں اسلام کے مسلمہ عقائد کو دلائل سے مزین کیا گیا ہے تفسیر میں مذکورہ احادیث کی تخریج کی گئی ہے۔ ماخذ و مراجع کی فہرست سنین و فوات کے ترتیب سے مرتب کی گئی ہے اس نوع کی یہ انفرادی فہرست ہے جس کے ذریعہ پتہ چل جاتا ہے کہ محدث، مفسر، فقیہ اور مصنف کا تعلق کس زمانے اور کس دور سے ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس تفسیر ”تبیان القرآن“ کو شرف قبول عام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

(ماخوذ از: حیات سعید ملت، ص: ۸۴-۸۵)



حضرت علامہ مولانا پروین سرفراز خان صاحب

(مدیر: جامعہ حسنیہ نزد سبزی منڈی بہاولپور)

تبیان القرآن اس دور کے محقق اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بے مثال اور بے بدل تفسیر ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی وہ شخصیت ہیں کہ ان جیسے لوگ صدیوں بعد صفحہ ہستی پر نمودار ہوتے ہیں اور دنیا والوں کو خلافت الہیہ کی یاد تازہ کرا جاتے ہیں۔

دنیا کے حسین گلشن میں ہر قدم پر ببول ملتے ہیں
کچھ انہی سے وقار گلشن ہے دو گھڑی کو جو پھول کھلتے ہیں

علامہ سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم (۷ جلد) تبیان القرآن (۱۲ جلد) اور نعمۃ الباری لکھ کر اہل سنت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ وہ صدیوں تک ان کا قرض نہیں چکا سکتے۔ دوں ہمت اور زوال پذیر اہلسنت محسن کشی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، یہ ہر اس شخص کے مخالف ہوتے ہیں جو انہیں بقاء اور عزت کا راستہ دکھاتا ہے اور ہر اس شخص کے قدموں میں گرتے ہیں جو خود بھی خواب خرگوش میں ہوتا ہے اور انہیں بھی میٹھی نیند کی لوریاں سناتا ہے۔ یہ تو مسلک اہلسنت کی حقانیت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت بالغہ سے ان میں ایسے جلیل القدر افراد بھیج دیتا ہے جو انہیں حیات نو کی نوید بنا جاتے ہیں۔ مجدد الف ثانی، علامہ فضل حق خیر آبادی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا

خان قادری، غزالی، زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی اور حضرت علامہ غلام رسول سعیدی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بڑے بڑے اساطین علم ان کے سامنے بالشتیے نظر آتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلک اہل سنت کے مخالفین خواہ کتنی ہی کثیر تعداد میں اپنے علماء تیار کریں وہ سارے مل کر ہمارے صرف ایک شاہکار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ہیرا لاکھوں ٹھیکریوں پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو سارے کا سارا دارالعلوم دیوبند ہے اور دوسری طرف تنہا اعلیٰ حضرت۔ مگر بخدا! اعلیٰ حضرت کے آفتاب کے سامنے وہ چراغ بھی نہ بن سکے البتہ چراغ پا ضرور ہو گئے..... اسی طرح اس دور میں بھی بے شمار بد مذہب، علم و تحقیق کا پرچم لے کر اٹھے مگر جب علامہ غلام رسول سعیدی کی ہستی ان کے سامنے آئی تو یہ لوگ ان کے ٹخنوں کو بھی نہ چھو سکے۔ یقیناً علامہ سعیدی صاحب نے اہل سنت کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے اور اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ ہر دور میں ایک ایسے محقق کی بہر حال ضرورت ہوتی ہے جو اس دور کے مسائل کا اور اک کر کے ان کا صحیح حل پیش کر سکے۔

علامہ صاحب کی تفسیر قرآن ہو یا شرح حدیث دونوں چندے آفتاب و چندے ماہتاب ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی دین، مسلک کے نام وقف کر دی ہے۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں نبیین و صدیقین کی صف میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بھی دین و مسلک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ (آمین)

مصر حاضرہ میں چونکہ یونیورسٹیز اور جامعات میں تحقیق کو باقاعدہ ایک فن کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور اس کے باقاعدہ اصول و ضوابط متعین کیے گئے ہیں (اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ دینی مدارس کے علماء نے اپنے زمانے کے ہر علم و فن میں اپنا لوہا منوایا ہے) لہذا ضرورت تھی کسی ایسے عالم دین کی جو دینی تحقیقات کو یونیورسٹیز اور جامعات کے مقابلہ میں زیادہ بہتر فنی انداز میں پیش کر سکے تو یہ سہرا اللہ تعالیٰ نے مولانا غلام رسول سعیدی کے سر باندھا، جنہوں نے جدید تحقیقی انداز کو اختیار کر کے تنہا اتنا بڑا کام کر دیا کہ آنے والی صدیوں میں کئی جامعات مل کر بھی اس فرد واحد کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ ساری زندگی ایک کمرہ میں بیٹھ کر کم و بیش ۲۰۰ انسٹیٹیوٹس کا کام ایک ہی شخص نے کر دکھایا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ اس طرفیہ کام مسلک حق اہل سنت کے نمائندہ نے کیا ہے۔ اس کی جزاء انہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے طرز تحقیق کو اختیار کر کے دیگر مصنفین بھی اپنی کتب میں مکمل حوالہ جات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ علماء کرام میں تحقیق کا یہ انداز سب سے پہلے انہوں نے ہی اختیار کیا۔ لہذا اب جتنا بھی تحقیقی کام آگے بڑھے گا اس کا ثواب علامہ صاحب کے نامہ اعمال میں ضرور لکھا جائے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ تحقیق کا یہ طریقہ کار کوئی آسان کام نہیں، اگر کوئی مصنف اس طرز پر لکھنا شروع کر دے تو چند ہی دنوں میں پریشان ہو جائے گا۔ شرح صحیح مسلم و تبیان القرآن جیسا ایک صفحہ لکھنا بھی مشکل کام ہے مگر علامہ صاحب نے اکیلے ہی ہزاروں صفحات لکھ کر ہر صفحہ کو بیسیوں حوالہ جات سے مزین کر دیا ہے۔ پھر مزید بات یہ ہے کہ کسی بھی موضوع کو تشنہ نہیں چھوڑا، تقریباً ہر موضوع پر لکھا اور باکمال لکھا۔ اگر کسی کے پاس آپ کی تصانیف ہوں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی ساری زندگی کے لیے آپ کی کتب ہی کافی رہیں گی اور دوسری کتب کی اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔

علمی تحقیقات کے حوالے سے ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ ان میں اختلاف کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ نیز کسی بھی شخصیت سے علمی و تحقیقی آداب کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف رائے کوئی برا کام نہیں ہے۔ لیکن ضد، ہٹ دھرمی، تعصب اور حسد کی بناء پر کسی کے پیچھے پڑ جانا یقیناً ایک بدترین کام ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم کہا کرتے ہیں کہ جس شخص سے تم اختلاف کرنے جا رہے ہو پہلے اس جتنا اور ویسا کام

کر کے دکھاؤ پھر اختلاف کرو تو تمہیں زیب بھی دیتا ہے ورنہ ”چھوٹا منہ بڑی بات“ کا محاورہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ بہر حال ہم علامہ صاحب کے طرز تحقیق کے بے حد شیدائی ہیں وہ ہر موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ایسے ایسے گہرے پائے گرا نمایاں پیش کرتے ہیں کہ آدمی ششدر رہ جاتا ہے۔ وہ نہایت اخلاص کے ساتھ معروضی انداز میں تحقیق فرماتے ہیں۔ لگی بندھی سوچ کے پیچھے چلنا ان کی عادت نہیں اور اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر وہ لگی بندھی سوچ کے مالک ہوتے تو آج یقیناً اس مقام پر نہ ہوتے۔

چند احمق قسم کے لوگ آپ پر بھبتی کتے ہیں کہ ”وہ تو مجتہد ہیں“ تو ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ الحمد للہ یقیناً وہ مجتہد ہیں۔ آج امت مسلمہ میں اجتہاد مفقود ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں مجتہدین کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں کوئی مجتہد موجود ہے جس کا اعتراف تم بھی اپنی زبان سے کر رہے ہو۔ اگر مولانا بھی تمہاری طرح لگی بندھی سوچ کے مالک ہوتے تو وہ بھی تمہاری طرح خشک مقلد ہی ہوتے اور ہمیں ایسے مقلدین کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو مجتہدین کی ضرورت ہے اور اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ مجتہد کی تمام صفات علامہ صاحب میں پائی جاتی ہیں وہ قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل پیش کرنے کی کامل صلاحیت رکھتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز ان کی رائے سے اختلاف کرنے کا حق بھی کسی مجتہد ہی کو ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی ان سے اختلاف کرے گا وہ مجتہد بن جائے گا نہ ہر کہ سر بتر اشد قلندر است۔ وہ ایسے زبردست محقق ہیں کہ جس مسئلے کے متعلق وہ مزید غور فرماتے ہیں اور ان پر حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سابقہ رائے سے رجوع کر لیتے ہیں، جس کی مثالیں ان کی کتب میں کئی جگہ پر موجود ہیں۔ بہر حال ہمیں فخر ہے کہ ہمارے درمیان مولانا غلام رسول سعیدی جیسی باوقار صالح، مجتہد، علمی شخصیت موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تادیر سلامت رکھے۔ راقم الحروف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ کے مبارک قدموں کو اپنے سر پر رکھ چکا ہے۔ شاید یہ اعزاز دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہ ہوا ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا قدم جس کے سر پر ہونا کامی اس کے مقدر میں کبھی نہیں لکھی جائے گی۔

کچھ اشاریہ کے بارے میں

مولانا آس محمد سعیدی صاحب جو کہ دارالعلوم حسنیہ کے ماہر اساتذہ میں سے ہیں اور اسی ادارہ سے ہی مکمل تعلیم حاصل کی ہے ان کی ہمت بڑے بڑے امور کو اپنی جواں نگاہ بناتی ہے۔ سعیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کر کے انہوں نے خلق خدا کی خدمت کا عظیم سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ مختلف مقالات اور مضامین بھی لکھ چکے ہیں مکتبہ حسنیہ کو بھی حسن و خوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کے عزائم بہت بلند ہیں انہوں نے میری تحریک پر تبیان القرآن کا انڈیکس تیار کرنے کا ارادہ کیا جو بہر حال ایک محنت طلب کام تھا اور پھر گونا گوں مصروفیات کے ہوتے ہوئے یہ جان جو کھوں کا کام بن جاتا ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے کامل توجہ اور انتہائی عرق ریزی کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ و مرداں چینس کنند۔ اشاریہ کی تکمیل کے بعد کراچی جا کر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اسے بہت سراہا اور اسی وقت فرید بک سٹال کے مالک جناب سید محسن اعجاز صاحب کو فون کر کے اس کی اشاعت کا عندیہ دیا جسے انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ قبول کر لیا۔ ہزاروں صفحات اور سینکڑوں عنوانات پر محیط تبیان القرآن میں مطلوبہ مواد کو تلاش کرنا یقیناً ایک مشکل ترین کام ہے اور جس کے پاس وقت نہ ہو اس کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ مولانا آس محمد صاحب نے قارئین کی اس مشکل کو آسان تر بنا دیا ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب سے انہوں نے تبیان القرآن کے تمام مضامین کو ایک خوبصورت لڑی میں پرو دیا ہے۔ اب علماء، خطباء، محققین اور مطالعہ کے شوقین حضرات کے لیے متعلقہ عنوان تک پہنچنا کچھ مشکل نہیں رہا۔ وہ چٹکیوں

میں اپنا مسئلہ تلاش کر کے فوری تسلی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے انہیں انٹرنیشنل سکالر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین ﷺ

پروفیسر عون محمد سعیدی

مدیر: جامعہ حسنیہ نزد سبزی منڈی بہاول پور

25 مارچ 2008ء



جناب محترم و مکرم شیخ عبدالمالک صاحب

شیخ الحدیث مولانا مفتی غلام رسول سعیدی، عصر حاضر کے ممتاز مفسر، عظیم القدر محدث اور وسیع النظر فقیہ ہیں۔ متعدد گراں قدر علمی تصانیف ان کی باقیات الصالحات ہیں۔ خصوصاً سات جلدوں میں صحیح مسلم شریف کی شرح پیش کر کے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ انہیں علمی گہرائی، گیرائی اور استحضار میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ مختصر مدت میں ایک مثالی اور جامع علمی کتاب پیش کر دیتے ہیں۔

تفسیر کا مطالعہ کرنے سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مصنف مدظلہ العالی نے ان خصوصیات اور اصولوں کی پوری طرح پاسداری کی ہے۔ شاید وہ عصر حاضر کے ان چند مفسرین میں شامل ہیں جو ایک مسلک سے وابستہ ہونے کے باوجود مسلکی تعصب کا شکار نہیں ہوئے اور اپنے مسلک میں مصلب ہونے کے باوجود دوسرے مسالک کا بھی کما حقہ احترام کرتے ہیں۔

مصنف کی تصنیف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مسلکی مسائل میں بریلوی مسلک پر قائم رہتے ہوئے دوسرے مسالک کا احترام کرتے ہیں اور بریلوی مسلک کی توضیح اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے سے دوری کو کم کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے لیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ بے شمار علمی عنوانات پر نہایت عالمانہ انداز میں تحقیق کی گئی ہے آیات سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں ان پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ جو علماء، طلباء اور عامۃ المسلمین کے لیے قیمتی معلومات اور فوائد پر مشتمل ہے۔

علمی تحقیق میں جس جرأت اور دیانت داری اور اعتدال کا مظاہرہ کیا ہے اس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ نیز ان کی وہ علمی تحقیقات جو خالص علمی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ گراں قدر ہیں اور تمام اہل علم کی ضرورت ہیں اس لیے یہ تفسیر اس بات کی حق دار ہے کہ ہر صاحب علم کی الماری کی زینت ہو۔ مصنف نے جس تیزی سے تفسیر لکھنے کا کام شروع کیا ہوا ہے اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ جلد ہی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاویں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اس تفسیر کو مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں اتحاد و اتفاق کا ذریعہ اور ایک دوسرے سے استفادے کی بنیاد بنا دے۔ دوسرے علماء کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق سے نوازے۔

آمین (ماہنامہ ترجمان القرآن: ص ۷۰-۶۵، باب ماہ اپریل ۱۹۹۹ء لاہور) (ماخوذ از: حیات سعید ملت، ص: ۸۵-۸۶)



استاذ العلماء علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب (ناظم تعلیمات: دارالعلوم نعیمیہ، کراچی)

الحمد لله الذي هدانا الى طريق اهل سنة وجماعة بفضلہ العظیم، والصلوة والسلام

على سيدنا محمد الذي كان على خلق عظيم وعلى اله الطيبين الطاهرين

و اصحابه المكرمين الداعين الى صراط مستقيم.

قرآن عظیم و حدیث رسول کریم ﷺ میں ارباب علم و فضل، اصحاب فکر و نظر اور صاحبان عقل و تدبر کے جو فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں وہ کسی صاحب فہم و فراست پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات طیبہ اور حضور اکرم ﷺ نے بے شمار احادیث مقدسہ میں ان کی عظمت و رفعت کو بیان فرمایا ہے۔ احقر اس وقت صرف تین آیات قرآنیہ اور دو احادیث نبویہ ﷺ پر اکتفا کرتے ہوئے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم

درجات. (المجادلہ: ۵۸: ۱۱)

اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

(الزمر: ۳۹: ۹)

اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے حکمت دے اسے بہت بھلائی ملے۔

اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتى

خييرا كثيرا. (البقرہ: ۲: ۱۲۹)

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

ایک فقیہ ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر سخت ہوتا

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد.

ہے۔

ان آیات کریمہ اور احادیث سنہ کی روشنی میں ایک عالم حقانی و فقیہ ربانی کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے خالق کائنات نے اس خاکدان عالم میں بے شمار مصنوعات و مخلوقات کو تخلیق فرمایا لیکن جو مقام و مرتبہ حالمین ایمان و علم کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک ایسے خادم دین اور درویش صفت شخصیت کو تلاش کرتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو ہمہ وقت خدمت دین متین کے لیے (یعنی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے لیے) وقف کر دیا۔ جس کی زندگی جہد مسلسل اور سعی پیہم سے عبارت ہے وہ ہیں عالم شہیر، محدث کبیر، فقیہ بے نظیر ابو الوفا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن کو مولائے کریم نے اپنے پیارے حبیب رؤف رحیم ﷺ کے صدقے ذہانت و فراست، قوت حافظہ، ذکاوت اور تفقہ فی الدین کی دولت سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے، نیز یہ کہ مبداء فیاض نے علامہ موصوف کو جو ذہن و قاذ طبع اخاذ، مزاج نقاد اور قلم سیال کی جس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ذالك فضل الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ شاید یہی

وجہ ہے کہ معاصرین میں سے بعض حضرات حسد کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور رسول کریم ﷺ کی برکت سے موصوف جب کسی موضوع یا کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں تو تحقیق و تدقیق اور تشریح و توضیح کا حق ادا کر دیتے ہیں بالخصوص (حوادث و نوازل) یعنی جدید مسائل جن پر ان کی شرح مسلم شریف اور تبیان القرآن شاہد عادل ہیں، موصوف ایک عالم و شارح ہی نہیں بلکہ ایک صاحب طرز ادیب بھی ہیں۔ علامہ موصوف کے مجتہدات و تحقیقات سے صرف نظر کرتے ہوئے احقر عرض کرتا ہے کہ علامہ سعیدی صاحب کی دونوں کتابیں (شرح صحیح مسلم و تبیان القرآن) حقائق و دقائق معانی و معارف کا خزینہ اور تحقیق و تخلیق کا گنجینہ ہیں۔ احقر مندرجہ بالا حروف و الفاظ اور عبارت کو اگر مجتمع کرے تو ایسی شخصیت تشکیل پاتی ہے جو علم و آگہی، فکر و نظر، ذہانت و ذکاوت، تدبر و تفکر اور تفقہ فی الدین کی جامع ہو اور یہ ہیں علامہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک ﷺ کے صدقے علامہ سعیدی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ مرحمت فرمائے۔ آمین

جمیل احمد نعیمی

استاذ الحدیث و ناظم تعلیمات، دارالعلوم نعیمیہ، کراچی

(ماخوذ از: حقائق شرح صحیح مسلم و دقائق تبیان القرآن ص: ۲۹-۳۱)



مولانا محمد ناصر خاں چشتی صاحب

حضرت سعید ملت کی مایہ ناز اور شہرہ آفاق تصنیف لطیف ”تفسیر تبیان القرآن“ جو اب تک بارہ عظیم و ضخیم جلدوں اور جہازی سائز کے تقریباً بارہ ہزار صفحات پر مشتمل تحقیقات نادرہ و عجیبہ اور قدیمہ و جدیدہ سے لبریز عظیم علمی و فقہی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ جس میں آیات قرآنیہ کا بے مثال، سلیس رواں اور با محاورہ اردو ترجمہ و بعدہ اس کی جامع اور مبسوط تفسیر اور تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ آیات مبارکہ سے ایمان و ایقان، علم و معرفت اور مکارم و محاسن کی عظیم و بے مثال جوہر پارے و شہر پارے نکھر کر سامنے آئے۔ اس کے علاوہ ان آیات مبارکہ سے بے شمار علمی و فقہی شہہ پارے تحقیق و تدقیق کے رنگ سے مزین ہو کر منصفہ وجود میں آئے، تفسیر تبیان القرآن کے ان انمول موتیوں اور لاجواب جوہر کو احاطہ تحریر و تقریر میں لانا ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ خصوصاً عصر حاضر کے پیچیدہ اور دقیق مسائل کا بہترین اور ضائب جواب آپ کو تفسیر تبیان القرآن کے علاوہ شاید خال ہی نظر آئے۔ اس لیے ہم بانگِ دہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر تبیان القرآن! قدیم و جدید علمی و فقہی تحقیقات کا حسین امتزاج ہے اور یہ اس صدی کی سب سے عظیم اور بہترین تفسیر ہے بلکہ اس صدی کا عظیم مذہبی شاہکار ہے۔

محمد ناصر خاں چشتی

فاضل دارالعلوم نعیمیہ، کراچی

(ماخوذ از: حیات سعید ملت ص: ۸۷)

تاثرات

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد (ایم اے پی۔ ایچ۔ ڈی اعزازِ فضیلت)

برادرِ مزید مجدکم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! عنایت نامہ موصول ہوا جس سے اندازہ ہوا کہ آپ فقیر کو جانتے پہچانتے نہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی سے فقیر کے دیرینہ مراسم ہیں وہ اہل سنت کا اثاثہ ہیں اور ان کی تصانیف اہل سنت کا سرمایہ ہیں فقیر کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ فقط والسلام

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

۹ شوال المکرم ۱۴۲۸ھ / ۲۱ اکتوبر ۲۰۰۷ء

۱۷/۲ سی۔ پی۔ ای۔ سی۔ ایچ سوسائٹی کراچی



محترم مولانا عبدالرشید صاحب

علامہ غلام رسول سعیدی دامت فیوضہم کی جلالت علمی کسی سے مخفی نہیں چنانچہ تبیان القرآن ان کی جلالت علمی کا ایک عظیم شاہکار ہے موصوف نے یقیناً اس کتاب کی تصنیف میں بے پناہ عرق ریزی اور محنت فرمائی کتاب کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا باقی تفاسیر کے مقابلے میں اس کو درج ذیل امور میں انفرادیت حاصل ہے:

(1) کسی مسئلہ کو تشنہ نہیں چھوڑا گیا (خصوصاً دورِ حاضر کے مسائل)

(2) بہتر اور معتمد و احسن قول کی نشاندہی فرمائی اور وہ بھی دلائل کی روشنی میں۔

(3) روح قرآن یعنی اعجاز قرآنی اور مقام محمدی ﷺ کی خوب وضاحت کی گئی۔

(4) یقیناً احادیث مبارکہ کا ایک عظیم ذخیرہ پیش کیا گیا اور مفسر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تفسیر بالحدیث کو اہمیت دے کیونکہ احادیث کے بغیر قرآن پاک کی تفسیر یقیناً مشکل ہے۔

(5) عموماً احادیث کی نشاندہی نمبروں کے ساتھ کی گئی اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے مدارس میں صحاح ستہ جو مروج اور مطبوعہ ہیں وہ نمبرنگ سے خالی ہیں اگر نمبرنگ کے ساتھ ساتھ مذکور کتاب کے صفحہ یا باب کو بھی لکھ دیا جاتا تو یقیناً اس سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوتا

اور مطلوبہ حدیث کی تلاش آسان ہو جاتی، شاید بعد کے کسی ایڈیشن میں اس پر عملدرآمد ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مولانا عبدالرشید

انجمن مدرسہ غوثیہ ہدایت القرآن

ممتاز آباد ملتان



مولانا شیر محمد خان صاحب

محترمی و مکرمی جناب قبلہ آس محمد سعیدی صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ! خیریت موجود عافیت مطلوب

آپ کا مراسلہ باصرہ نواز ہوا، تبیان القرآن از شیخ الحدیث علامہ سعیدی صاحب پر تبصرہ کرنے کا حکم نامہ موصول ہوا۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اگرچہ تبیان القرآن کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا، بہر حال علامہ سعیدی صاحب کے کام کے بارے اہل السنۃ والجماعت کی اکثریت معترف بھی نظر آتی ہے اور شکر گزار بھی، اس ناچیز کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے جو دل سے علامہ سعیدی صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو طویل عمر عطا فرمائے اور ہر موڑ پر آپ کی دستگیری فرمائے۔

اگرچہ بعض مسائل میں اختلاف رائے ممکن ہے، اور علماء نے اختلاف کیا بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس اختلاف رائے کو محاصمت کا رنگ دے دیا جائے، علمی اختلافات دلائل کی بنیاد پر ہر دور میں ہوتے رہے، یہ "اِخْتِلَافٌ اُمَّتِنِی رَحْمَةٌ" کے زمرے میں آتے ہیں۔

سعیدی صاحب نے جو کچھ لکھا، اس پر دلیل قائم کرنے کی سعی بلیغ فرمائی اور اپنی رائے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں بار بار التجائیں کیں کہ گرج حق ہے تو قبول فرما، یہ من جانب اللہ ہے اور خطا ہوئی تو معاف فرما، تو بڑے رقت انگیز انداز میں دعاؤں اور التجاؤں کے ساتھ اپنی معروضات کو پیش کیا گیا، یہ چیز خوف خدا پر دالت کرتی ہے۔

اور ان کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اپنی رائے سے رجوع کرنے میں جھجک محسوس نہیں فرماتے بلکہ بڑی جرأت سے اپنی رائے سے رجوع کر لینے کی ہمت رکھتے ہیں، جب کہ یہ صفت دور حاضر میں بہت حد تک ناپید ہو چکی ہے، اگرچہ بعض باتوں میں بزرگوں سے اختلاف رائے کیا ہے، لیکن اس میں بھی کافی حد تک محتاط انداز اختیار فرمایا، تحریر کے لب و لہجہ کو کنٹرول رکھنے کی کوشش فرمائی، لہذا ان کی فکر سے جن احباب کو اختلاف ہو، وہ بھی اسی قسم کا انداز اختیار فرماتے ہوئے دلائل سے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں تو بہت مناسب رہے گا۔

آپ نے بہت سارے جدید موضوعات کو صفحہ قرطاس کی زینت بنایا اور اپنی قیمتی آراء سے امت مسلمہ کو آگاہ فرمایا، اسے آپ کا طرہ امتیاز بھی کہا جاسکتا ہے۔

بایں ہمہ ناچیز کو ان کی ہر رائے سے اتفاق نہیں بلکہ بعض مقامات پر اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے اور ایسا ہر دور میں ہوتا رہا اور مجال تحقیق و جستجو میں ایسا ہونا ایک مثبت اقدام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، علماء کرام کو کھلے دل سے اس کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ وسعت

ظرفی کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔

ناچیز کی خواہش اور تمنا ہے کہ حضرت موصوف کو اللہ کریم توفیق ارزانی فرمائے کہ مختلف موضوعات پر ذخیرہ احادیث سے جو مواد پیش کیا جاتا ہے، اس کی چھان بین کر کے تقابلی جائزہ لیتے ہوئے قواعد جرح و تعدیل کے پیش نظر کوئی مستقل رسالہ یا کتاب اگر وجود میں آجائے و بہت مفید رہے گا۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو اور زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبول سے نوازے۔ تاخیر ہونے پر معذرت قبول ہو۔

راقم الحروف:

شیر محمد خان

خادم دارالافتاء الحمدیہ الغوثیہ، بھیرہ الشریفہ ضلع سرگودھا

۲۹ اپریل ۲۰۰۸ء



پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على سيدنا محمد

وعلى آله و صحبه اجمعين . آمين . اما بعد !

محدث عصر، سعید ملت، مفسر قرآن، جامع المعقول والمنقول، حضرت علامہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب مدظلہ العالی بے بدل مصنف اور عظیم محقق و مجتہد ہیں۔ ویسے تو آپ کی تمام تصانیف، آپ کے تبحر علمی اور فقہی تحقیقات سے مملو ہیں، مگر آپ نے خصوصاً ”تبیان القرآن“ میں جو علم و حکمت اور علمی و فقہی تحقیقات قلم بند کی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔

بلاشبہ! آپ نے تفسیر ”تبیان القرآن“ میں سینکڑوں تفاسیر قرآن کا خلاصہ و نچوڑ اور لب لباب بڑے خوبصورت، دلنشین اور سہل انداز میں پیش کر کے ایک عظیم کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ آپ مدظلہ العالی اپنی تفسیر کے انداز تحریر اور اسلوب کے بارے میں رقمطراز ہیں: ”میں نے اس تفسیر (تبیان القرآن) کو متوسط طریقہ پر لکھا ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے نہ بہت اختصار ہے، مسائل حاضرہ پر میں نے بہت شرح و وسط کے ساتھ شرح صحیح مسلم میں لکھ دیا ہے، اسی طرح عبادات اور معاملات پر سیر حاصل بحث اس میں آگئی ہے تاہم جو مسائل اور مباحث اس میں آنے سے رہ گئے ہیں ان شاء اللہ ان کا اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ معاصرین اور عہد قریب کے مفسرین کی تحقیقات اور نگارشات کو میں نے اپنے پیش نظر رکھا ہے اور جہاں میری رائے ان کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی، میں نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔“ (تبیان القرآن ج: ۱، ص: ۳۸-۳۹)

عصر حاضر میں تفسیر ”تبیان القرآن“ کو جو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کی تسلی و تشفی کا سامان ہے جو قرآن مجید کو جدید انداز و اسلوب اور قدیم ذخیرہ سے استفادہ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں۔

بلاشک و شبہ تفسیر ”تبیان القرآن“ علم و معارف کا ایک بحر بے کراں ہے، جس سے مطلوبہ حکمت کے موتیوں کو تلاش کرنا، کہ وہ کون کون سی جلدوں کے کن کن صفحات پر ہیں، ایک وقت طلب اور وقت طلب معاملہ تھا، لہذا اس کا ایسا اشاریہ مرتب کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ جسے تشنگان علم کے لیے Key کی حیثیت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے کاتب الحروف کو یہ کام کرنے کی ہمت و سعادت بخشی۔

اس اشاریہ کو ترتیب دیتے وقت درج ذیل امور کا خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے:

☆ اشاریہ مضامین کے بجائے حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے، کئی عنوانات، مرکبات اضافیہ کی صورت میں ہیں ان میں سے بعض میں مضاف کا اعتبار کیا گیا ہے، مثلاً: ”بیت اللہ“ ”علم غیب“ اور ”علم دین“ بالترتیب ”با“ اور ”عین“ کے تحت درج

کیے گئے ہیں۔ بعض عنوانات مضاف الیہ کی مناسبت سے لکھے گئے ہیں مثلاً: ”غزوة احد“ ”غزوة بدر“ اور ”نماز جنازہ“ بالترتیب ”الف“ ”با“ اور ”جیم“ کے تحت درج کیے گئے ہیں جن واقعات میں متعدد اشخاص اور جگہوں کے نام آتے تھے ان میں اشخاص و مواضع کا لحاظ کرتے ہوئے ایک ہی عنوان کئی جگہوں پر تحریر کیا گیا ہے۔ مثلاً ”مشرکین پر جلدی عذاب نہ آنے کی وجہ“ کو ”مشرک“ اور ”عذاب“ دونوں کے تحت تحریر کیا گیا ہے، عنوانات ترتیب دیتے وقت زیادہ تر مشہور الفاظ کا لحاظ رکھا گیا ہے البتہ سہولت کے لیے غیر مشہور الفاظ بھی ذکر کر دیئے گئے ہیں سوائے امت محمدیہ کے بقایا تمام امتوں کا ذکر ان کے انبیاء کے ساتھ ہی کر دیا گیا ہے۔ جیسے ”قوم ثمود“ اور ”قوم عاد“ کو بالترتیب ”حضرت صالح علیہ السلام“ اور ”حضرت ہود علیہ السلام“ کے تحت درج کیا گیا ہے۔

راقم نے تمام مندرجات کی لفظی و معنوی اور حوالہ جاتی صحت کا اپنی طرف سے پورا پورا خیال رکھا ہے۔ اس کے باوجود بتقاضائے بشریت غلطی کا امکان زد نہیں کیا جاسکتا لہذا دوران مطالعہ کسی محترم و مکرم اہل علم و تحقیق کو کوئی قابل اصلاح چیز نظر آئے تو براہ کرم اس سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جاسکے۔

اس اشاریہ کی ترتیب و تالیف کے دوران جن جن حضرات کا تعاون شامل رہا، راقم الحروف ان سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار اور ان کے لیے دعا گو ہے۔ جزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

نیز فرید بک شال لاہور کے مالک جناب محترم و مکرم سید محمد محسن اعجاز شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے جنہوں نے اس کی طباعت و اشاعت کا اہتمام فرمایا۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس میں دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو قبول فرماتے ہوئے راقم، ناشر، کمپوزر اور ہر قاری کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ طہ و یسین ﷺ

آس محمد سعیدی

(فاضل درس نظامی، فاضل عربی، فاضل اردو، بی کام، ایل ایل بی)

چیرمین: سعیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن،

گلبرگ روڈ، نزد نادرا آفس، بہاول پور

0300-6818535, 0321-6850235

۱۵ اپریل ۲۰۰۸ء / ۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ



صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
776/10	آخرت میں کفار کے عذاب کی وعید	17		آ	
777/10	آخرت میں متقین کے اجر و ثواب کی بشارت	18		آثار صحابہ	1
825/10	آخرت سے ڈرانا اور اللہ کی حمد و تسبیح کرنا	19	456/3	آثار صحابہ کی حجیت پر دلائل	1
825/10	آخرت میں برے کاموں کی بری اور ڈراؤنی صورتیں	20		آثار قیامت	2
				دیکھئے ”49: علامات قیامت“ صفحہ 184	1
324/11	آخرت چلانے والے اور گواہی دینے والے کا مصداق	21		آخرت	3
361/11	متقین کے آخرت میں احوال	22	278/1	دار آخرت کا معنی	1
739/12	آخرت میں توبہ اور ندامت کا بے فائدہ ہونا	23	494/1	آخرت کے لیے نیکیاں بھیجنا	2
	آداب	4		مسلمانوں کو آخرت میں دوستی اور سفارش سے نفع	3
191/8	پیری و مریدی کے آداب	1	924/1	مال و دولت اور شرک کے پرستاروں کی آخرت میں محرومی	4
124/12	اپنے ماتحت لوگوں اور اولاد کو ادب سکھانا	2	599/3	پہاڑوں کو چلانا۔ زمین کا صاف میدان ہونا	5
	حضرت آدم علیہ السلام	5	116/7	آخرت میں کفار کی اقسام	6
337/1	آدم کی لفظی تحقیق	1	723/7	آخرت میں مؤمنوں کے انعامات	7
337/1	حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل	2	726/7	آخرت میں کفار کے چار اوصاف	8
337/1	حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ	3	915/7	آخرت میں حساب کے متعلق احادیث	9
338/1	حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم	4	916/7	آخرت میں مسلمانوں کے مال کی نفع رسانی	10
339/1	حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ	5	356/8	آخرت میں مسلمانوں کی اولاد کی نفع رسانی	11
349/1	آیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رکھا گیا یا زمین کے کسی باغ میں؟	6	65/9	عقیدہ آخرت کی تعلیم	12
345/1	حضرت آدم علیہ السلام کا شجر سے کھانا معصیت تھا یا نہیں	7	115/9	دار آخرت کا حقیقی زندگی ہونا	13
			219/9	آخرت پر یقین کا معنی	14
351/1	حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی حکمتیں	8	338/9	مؤمن اور فاسق کا آخرت میں مساوی نہ ہونا	15
			579/10	آخرت کی طرف رغبت کی فضیلت	16

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
83/4	حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اور توبہ کرنا	26	352/1	حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے کلمات	9
85/4	حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتہ اور دائی بننے کی طمع پر اعتراضات اور ان کے جوابات	27	357/1	حضرت آدم علیہ السلام کو دوبار نیچے اترنے کا حکم دینے کی توجیہ	10
85/4	حضرت آدم علیہ السلام کا شجر ممنوع سے کھانا	28		عصمت آدم علیہ السلام پر حشویہ کے اعتراضات کے جوابات	11
91/4	حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر آنے کا سبب	29	357/1		
			361/1	قصہ آدم و ابلیس میں حکمتیں	12
489/4	حضرت آدم علیہ السلام و حوا کا اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھنا	30	125/2	حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت	13
604/4	بنو آدم کے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے کا معنی	31	186/2	حضرت آدم و عیسیٰ علیہما السلام میں وجوہ مماثلت	14
484/7	نسیان کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب نہ ہونا	32	143/3	حضرت آدم علیہ السلام سے محمد عربی ﷺ تک کا زمانہ	15
484/7	حضرت آدم علیہ السلام کا اولوالعزم رسول نہ ہونا	33	58/4	حضرت آدم علیہ السلام کی سوانح	16
			59/4	حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق	17
487/7	ابلیس کی حضرت آدم علیہ السلام سے عداوت کی وجوہ	34	60/4	حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کا مشاہدہ کرانا	18
	آزر	6	61/4	حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش	19
553-558 3	آزر کے متعلق مختلف اقوال	1		حضرت آدم علیہ السلام کا محمد عربی ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرنا	20
275/5	آزر کیلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کی توجیہ	2	62/4	حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کیلئے حضرت حوا کی تخلیق	21
275/5	قیامت کے دن آزر کی شفاعت کی توجیہ	3	63/4	حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری	22
283/7	آزر کو شیطان سے متنفر کرنے کی وجہ	4	64/4	حضرت آدم علیہ السلام کی وفات	23
351/8	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر کیلئے دعا کی توجیہ	5	64/4	حضرت آدم علیہ السلام کا برزخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مباحثہ	24
352/8	قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے ملاقات	6	64/4	حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس سے افضل ہونا	25
			69/4		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	آسمان کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل	3	353/5	قیامت کے دن آزر کی شفاعت	7
602/3			354/8	آزر کو دوزخ میں ڈالنے پر خلف و عدو و عید	8
155/4	آسمان کو سات دنوں میں بنانا	4		آزمائش	7
876/5	آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت کی نشانیاں	5	337/5	اللہ تعالیٰ کے آزمانے پر ایک اعتراض کا جواب	1
225-226 6	آسمان کی تبدیلی کے متعلق اقوال وغیرہ	6		میدان قیامت میں بچوں اور دیگر کا امتحان ہونا	2
529/7	آسمان بنانے کی حکمتیں	7	671/6		
545/7	آسمان کے نفع اور رتق کا معنی	8	43/7	انسان کو امتحان میں مبتلا کرنا	3
554/7	آسمان کی حفاظت	9	558/7	اچھی اور بُری دونوں حالتوں میں آزمانا	4
150/9	آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بلند صفات	10	648/7	حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کرنا	5
	آسمانوں کا گول اور ایک دوسرے سے منفصل ہونا	11	114/10		
236/9			228/8	اہل نعمت و اہل مصیبت کی آزمائش	6
	آسمان سے اترنے اور اس کی طرف چڑھنے والی چیزیں	12	40/9	رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی آزمائش	7
597/9			41/9	سابقہ امتوں کی آزمائشیں	8
697/9	آسمانوں کی حفاظت فرمانا	13	175/11	اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا مطلب	9
860/9	آسمان دنیا کا ستاروں سے مزین ہونا	14	919/11	اہل و عیال کا آزمائش ہونا	10
561/10	آسمانوں کی چابیوں کے محامل	15		حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا	8
761-765 10	آسمان کا دھواں لانے سے کیا مراد ہے؟	16		حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا راہِ حق میں مظالم برداشت کرنا	1
906/11	آسمان کے خزانے	17	132/12		
912/11	آسمان کا زبانِ قال سے تسبیح کرنا	18		حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا جنت میں حضور ﷺ کے نکاح میں ہونا	2
385/11	آسمان کی بناء کو متعدد بار ذکر کرنے کی حکمت	19	132/12		
712/12	آسمان میں نشانیاں	20		آسمان	9
676/12	آسمان کو ذات الرجیع فرمانے کی توجیہات	21	446/3	آسمان پر سیرگی لگانے کا معنی	1
515/12	آسمان کے دروازوں کا ثبوت	22	541/3	آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
851/7	نقش نعل پاک پر آیت لکھنا	5		آغاز	10
853/8	ایک آیت دو بار ذکر کرنے کی وجہ	6		دیکھئے ”11: ابتداء“ صفحہ 52	1
81/12	سب سے زیادہ امید افزاء آیت	7		آگ	11
	آیۃ الکرسی / کرسی	16		آگ کے اوپر تلے حصوں کو آگ کے	1
926/1	آیۃ الکرسی کے مفردات و جملوں کی تشریح	1	206/10	سائبان کہنے کی توجیہ	
928/1	آیۃ الکرسی کے فضائل	2	680/11	آخرت کی آگ کی شدت	2
928/1	کرسی پر بیٹھنے کی تحقیق	3		آل	12
929/1	کرسی کا معنی	4	397/1	آل کا لغوی معنی	1
929/1	چارزانو بیٹھنا	5	398/1	حضور ﷺ کی آل کے مصداق	2
	آیت تطہیر	17		آمین	13
437/9	آیت تطہیر کے مصداق	1	217/1	آمین کا معنی	1
437/9	آیت تطہیر سے ازواج مطہرات کا مراد ہونا	2	218/1	نماز میں آمین کہنے کے متعلق مذاہب اربعہ	2
438/9	آیت تطہیر سے اہل بیت کا مراد ہونا	3	219/1	آمین کہنے کی فضیلت میں احادیث	3
			219/1	آمین بالجبر کے متعلق احادیث	4
			220/1	آمین بالسر کے متعلق احادیث	5
			221/1	آمین کا قرآن کی جزء ہونا	6
520/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام	1		آنکھ	14
541/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشی کلمات	1		آنکھوں کی خیانت	1
543/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مطلق ذریت کیلئے دعا کرنے کی وجہ	2	339/10	آیت	15
547/1	مقام ابراہیم کی تعیین کی تحقیق	3	93/1	سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت	1
547/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسلمان کرنے کی دعا	4	95/1	سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت	2
547/1	فقط اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا	5	784/6	متقدمین کی پسندیدہ آیات	3
548/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی تعلیم	6	784/6	علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی پسندیدہ آیات	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
565/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے ملکوت کا بیان	21	548/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس عظیم رسول کی بعثت کی دعا کی؟	7
567/3	ستارے، چاند اور سورج کی الوہیت کے عقیدہ کو باطل کرنا	22	$\frac{552}{1}$	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سوانح	8
567/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو ”بڈا ربی“ کہنا	23	561/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین یہودیت و عیسائیت پر نہ ہونا	9
568/3	استدلال سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا	24	587/1	دعائے ابراہیم میں تزکیہ کا مؤخر جبکہ دعائے استجابت میں مقدم ہونا	10
568/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مباحثہ	25		حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مباحثہ کا پس منظر	11
572/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کا تسلسل	26	939/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل	12
614/7	حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی اولاد میں ذکر نہ کرنے کی وجہ	27	943/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات بعد الممات کا مشاہدہ کرانا	13
574/3	نواسوں کا اولاد میں داخل ہونا	28		آپ علیہ السلام کی طرف یہود و نصاریٰ کی نسبت کا باطل اور مسلمانوں کی نسبت کا برحق ہونا	14
582/5	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی تعداد	29	193/2	مقام ابراہیم کی نشانیاں	15
583/5	فرشتوں کے سلام کے الفاظ	30	267/2	خلیل کا معنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ ہونا	16
589/5	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے کی وجہ	31	809/2	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت محمد ﷺ کے مقام خلعت کا فرق	17
590/5	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے فرشتے ہونے کا علم تھا یا نہیں؟	32	811/2	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام وغیرہ	18
591/5	حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجہ	33	552/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات	19
594/5	فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ	34	552/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابوین کا ایمان والا ہونا	20
595/5	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی	35	562-565/3		
211/6	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی تشریح	36	212/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
70/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی اعتبار کی ترغیب	54	199/6	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غیر آباد وادی میں اپنے اہل کو چھوڑنے کا پس منظر و پیش منظر	37
329/8 897/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ	55		حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے کی وجوہ	38
898/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت	56	281/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر جمیل کا جاری رہنا	39
898/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی کواکب پرستی	57	286/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانا	40
899/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتروں کی طرف دیکھنے کا محمل	58	602/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانا	41
			603/7	بتوں کو توڑنے کی بڑے بت کی طرف نسبت	42
899/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود کو بیمار کہنے کا پس منظر	59	608/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا خود کو ظالم کہنا	43
899/9			608/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا	44
898/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بظاہر تین جھوٹ	60		حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی؟	45
901/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ”میں بیمار ہوں“ کہنے کی توجیہات	61	609/7 613/7 68/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت فرمانا	46
914/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صالح بیٹا طلب کرنا	62		حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کا باپ فرمانا	47
904/9	کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی بیماری کو طاعون سمجھا تھا؟	63	811/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مغفرت طلب کرنا	48
909/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش میں مبتلا کرنے کی حکمتیں	64	343-346 8	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مطلوب	49
926/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا سچا ہونا	65	349/8	قوم کا معنی اور مصداق	50
911/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اولین مہاجر ہونا	66	329/8	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا	51
380/11	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے مکالمہ	67	611/7 66/9, 908/9	حضرت لوط علیہ السلام و سارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا	52
	ابرار	2	67/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت	53
	دیکھئے ”48: نیک لوگ“ صفحہ 275	1			
	امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ	3	69/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
719/11	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا افضل الامت ہونا	15		امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق، زہد و تقویٰ، عبادت اور خوفِ خدا	1
720/11	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں احادیث و آثار	16	432/5		
793/12				حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	4
245/11	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت پر دلیل	17	209/2	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قمار کی وضاحت	1
			496/2	تقدیق معراج کا صلہ	2
787/12	آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سورۃ اللیل کا نزول	18	720/2	خصوصیات و فضائل	3
			215/3	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت	4
802/12	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کتب شیعہ کی تصریحات	19	217-220 3	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل	5
				حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعلان برأت کرنا خلافتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں وجہ طعن نہیں ہے	6
791/12	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر چھ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا	20	52/5		
			69/5	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ناعین زکوٰۃ سے قتال	7
	ابولہب	5		حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غار ثور میں رفاقت	8
1029/12	ابولہب کا نام اور رسول اللہ ﷺ سے اس کی عداوت	1	137/5		
1030/12	ابولہب کی عبرت ناک موت	2	140/5	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی وجوہ	9
1030/12	ابولہب کے بیٹے عتیبہ کا انجام	3	427/5	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ اور خوفِ خدا	10
1032/12	ابولہب کی بیوی کی مذمت	4		حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مہمانوں کی حدیث سے استنباط شدہ مسائل	11
1032/12	ابولہب کی بیوی کے لیے دوزخ کی وعید	5	887/7		
	ابلیس	6		حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی منفرد فضیلت و خصوصیت	12
	دیکھئے ”34: شیطان“ صفحہ 157	1	87/11		
	ابوجہل	7	92/11	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ایک اعتراض کا جواب	13
884/12	ابوجہل کی مذمت	1		فقہاء مہاجرین کا صادق ہونا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے صادق ہونے کو مستلزم ہے	14
885/12	ابوجہل کے لیے عذاب کی وعید	2			
	ابرہہ	8	816/11		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
425/5	نجات اور نقباء وغیرہ کی تعداد	4	981/12	پرنڈوں سے ابرہہ کے لشکر کو فنا کرنا	1
	سورۃ ابراہیم	13		اصحاب الفیل سے انتقام لینے میں رسول اللہ ﷺ کی فضیلت کے نکات	2
127/6	سورۃ کانام	1	982/12		
127/6	سورۃ ابراہیم کا زمانہ نزول	2	983/12	ابرہہ کے لشکر کا ہاتھیوں سے بھی کم درجہ ہونا	3
	سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم کی آپس میں مناسبت	3		حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ	9
128/6		4		حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کا موجودہ قرآن کے خلاف پڑھنا اور اس کی توجیہات	1
128/6	سورۃ ابراہیم کے مضامین و مقاصد	4	780-782 12		
228/6	سورۃ ابراہیم کا اختتام	5		حضرت ابوطالب	10
	حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ	14	425-429 3	ایمان ابوطالب کی تحقیق	1
	حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو تمام مغازی میں خلیفہ بنانا	1	271/5	ابوطالب کا مرتے وقت کلمہ نہ پڑھنا	2
295/4		2	271/5	ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت	3
566/12	حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ	2	839/8	ایمان ابوطالب کے متعلق آیات و احادیث	4
	رسول اللہ ﷺ کا حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے اعراض کرنے کی وجہ	3	839/8	ایمان ابوطالب کے متعلق مفسرین اہلسنت کی تصریحات	5
576/12				ابوطالب کے اسلام لانے کی روایت پر مختلف علماء کے تبصرے	6
	اجر/اجرت	15	841-844 8	ابتداء	11
584/2	تعلیم قرآن و دیگر عبادات پر اجرت لینا	1		ہر اہم کام کی ابتداء بسم اللہ، الحمد للہ اور صلوة و سلام سے کرنا	1
822/2	فقط دنیاوی اجر کی مذمت	2		ابدال	12
699/3	دس گنا، سات سو گنا اور بے حساب اجر کے محامل	3	703/8		
	کسی چیز کو ڈھونڈنے کی اجرت کی تحقیق	4		ابدال کے متعلق احادیث و آثار اور ان کی فنی حیثیت	1
820/5		5	421/5		
236/7	نیک کاموں کے ظہور پر خوش ہونے کا اجر	5			
630/7	ریڈیو اور ٹی وی کی مرمت کی اجرت لینا	6	423/5	احادیث ابدال کا معنی متواتر ہونا	2
634/7	مویشیوں کو گھیا بھن کرنے کی اجرت لینا	7	425/5	احادیث ابدال کی مزید توثیق	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
630/7	لاؤڈ سپیکر کے مائیک پر نماز پڑھنے کے متعلق اجتہاد	14	786-788 7	اللہ کی راہ میں مقتول اور طبعی موت مرنے والے کا اجر	8
630/7	روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانے کے متعلق اجتہاد	15	371/8	مواعظ اور خطابات پر اجرت لینا	9
630/7	ریڈیو اور ٹی وی کی مرمت کی اجرت لینے کے متعلق اجتہاد	16	795/8	اجرت لے کر کام کرنے کا جواز	10
630/7	حالت اضطرار میں مریض کو خون دینے کے متعلق اجتہاد	17	678/9	اللہ تعالیٰ کا زیادہ اجر عطا فرمانا	11
631/7	ایلو پیٹھک اور ہومیو پیٹھک دواؤں کے استعمال کے متعلق اجتہاد	18	460/11	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مادی اجر کی نفی کی ہے	12
631/7	بعض دیگر مسائل اجتہاد یہ	19	86/12	دودھ پلانے کی اجرت لینا	13
633/7	ائمہ اربعہ کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا معنی	20		اجتہاد	16
603/8	ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے کب اختلاف کر سکتا ہے؟	21	476 478-482/3	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اجتہاد	1
553/10	رسول اللہ ﷺ کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنے کی تحقیق	22	477/3	صحابہ کرام کا اجتہاد	2
554/10	عہد رسالت میں اجتہاد کے ثبوت پر دلائل	23	478/3	آپ ﷺ کا وحی کی اتباع کرنا اجتہاد کے منافی نہیں ہے	3
483/11	رسول اللہ ﷺ کے اجتہاد کی تحقیق	24	478/3	اجتہاد کی تعریف	4
483-487 11	رسول اللہ ﷺ کے اجتہاد میں مذاہب فقہاء	25	35/6	اجتہاد کا لغوی و اصطلاحی معنی	5
807/11	صحابہ کے اجتہاد کی تصدیق	26	35/6	اجتہاد پر ایک اعتراض کا جواب	6
456/3	اجماع کی حجیت پر دلائل	1		ایک مسئلہ میں حضرت سلیمان اور داؤد علیہما السلام کا اجتہاد	7
432/4	اجماع کے حجت ہونے پر دلائل	2	626/7	انبیاء علیہم السلام کا اجتہاد	8
			627/7	عصر حاضر میں اجتہاد کرنے کی تحقیق	9
			628/7	ضرورت اجتہاد	10
			628/7	مجتہد کی ضرورت	11
			629/7	طبقات فقہاء	12
			629/7	چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کے متعلق اجتہاد	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				اجازت	18
353/9	غزوة احزاب میں وقوع پذیر ہونے والے معجزات	3		تین اوقات میں گھر میں دخول کیلئے اجازت لینا	1
388/9	غزوة احزاب میں مسلمانوں پر اللہ کا خصوصی فضل	4	183/8	اجازت کا حکم منسوخ ہے یا باقی؟	2
			184/8		
				سورة الاحقاف	19
400/9	غزوة احزاب اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کے محامل	5		سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1
			35/11	لاحقاف کا معنی	2
	احوال آخرت	22	35/11 102/11	لاحقاف کا محل وقوع	3
	دیکھئے ”3: آخرت“ صفحہ 45	1	36/11	سورة الاحقاف کا زمانہ نزول	4
	احسان	23	36/11	سورة الاحقاف کے اغراض و مقاصد	5
553/6	احسان کا معنی	1	36/11	سورة الاحقاف کا خاتمہ	6
555/6	احسان اور عدل میں فرق	2	121/11	سورة الاحقاف کی آیت: ۳۵ منسوخ ہے یا نہیں؟	7
	احکام شریعت	24		سورة الاحقاف کی آیت: ۹ کا منسوخ ہونا؟	8
641/2	احکام شریعیہ پر عمل	1	120/11		
642/2	شریعت کا مزاج آسان احکام بیان کرنا ہے	2	<u>55-68</u> 11		
765/2	احکام شریعیہ کا مدار	3		سورة الاحزاب	20
804/7	احکام شریعیہ کی اقسام	4	349/9	سورة کا نام	1
807/7	جب عزیمت پر عمل کرنا مشکل ہو تو رخصت پر عمل کرنا فرض ہے	5	349/9	سورة الاحزاب کا زمانہ نزول	2
820/7	احکام شریعیہ کی تعداد، تعریفات اور مثالیں	6	350/9	سورة الاحزاب کے مضمولات	3
821/7	فرض و واجب کی تحقیق	7	403/9	سورة الاحزاب کی ایک آیت کا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہما کی شہادت سے ملنا	4
822/7	سنت مؤکدہ کی تحقیق	8	587/9	سورة الاحزاب کا اختتام	5
823/7	سنت غیر مؤکدہ کی تحقیق	9		غزوة احزاب	21
824/7	مستحب کی تحقیق	10	351/9	غزوة احزاب کا مختصر ذکر	1
825/7	حرام اور مکروہ تحریمی کی تحقیق	11	352/9	غزوة احزاب میں قضا ہونے والی نمازیں	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
498/2	احد کی ہزیمت پر مسلمانوں کو تسلی	9	826/7	اساءت کی تحقیق	12
	اختلاف	27	827/7	مکروہ تنزیہی کی تحقیق	13
290/2	عقائد حقہ میں اختلاف کی ممانعت	1	828/7	خلاف اولیٰ کی تحقیق	14
	باہمی بغض، حسد اور عصبیت کی وجہ سے	2	829-831 7	مباح کی تحقیق	15
291/2	اختلاف		374/8	احکام شرعیہ ظاہر پر مبنی ہیں	16
294/2	فرعی واجتہادی مسائل میں اختلاف	3	122/10	مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ کا گناہ نہ ہونا	17
307/2	بنی اسرائیل کے اختلاف کی مذمت کا سبب	4		احکام شرعیہ پر عمل کرنے پر ثواب کی بشارت	18
708-709 2	دلائل کی بناء پر اکابر سے اختلاف	5	89/12	اور نافرمانی پر عذاب کی وعید	
649/4	اختلاف رائے کی بناء پر مخالفت	6	388-395 12	کیا کفار احکام شرعیہ کے مخاطب ہیں؟	19
	مسائل فقہیہ میں آئمہ مجتہدین کے اختلاف	7		احصار	25
296/5	کے اسباب		730/1	احصار کی تعریف	1
	اختلاف کے مذموم ہونے کے باوجود	8	731/1	احصار کے متعلق مذاہب اربعہ	2
652/5	مجتہدین کے اختلاف کا محمود ہونا		733/1	محصر کے لیے قربانی کی جگہ کا تعین	3
	اختیارات	28		ضرورت کی وجہ سے منیٰ میں پہنچنے سے پہلے	4
111/7	اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں	1	734/1	سرمنڈوانا	
	اخلاص	29		غزوہ اُحد	26
396/2	اخلاص کا بیان	1	334/2	غزوہ اُحد کا مختصر تذکرہ	1
95/4 280/6	اخلاص کا معنی	2	336/2	غزوہ اُحد کے لیے صحابہ سے مشورہ	2
95/4	قرآن میں اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم	3	337/2	غزوہ اُحد کے متعلق احادیث	3
95/4	عمل میں اخلاص کے فوائد	4	401/2	غزوہ اُحد میں مسلمانوں کی پسپائی	4
97/4	عمل میں اخلاص نہ ہونے کا نقصان	5	403/2	مسلمانوں کو غم اٹھانے کا عادی بنانا	5
99/4	اخلاص سے کیا ہوا کم عمل	6	407/2	بھاگنے والے مسلمان	6
281/6	کیا چیز اخلاص کے منافی ہے؟	7	408/2	مسلمانوں کی خطا	7
281/6	اخلاص کے مراتب و درجات	8	455/2	چند شبہات کے جوابات	8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ادب مصطفیٰ ﷺ	31		دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کیلئے عبادت کرنا اخلاص ہے لیکن کامل اخلاص اللہ کی رضا جوئی ہے	9
275/11	نبی ﷺ کے قول و فعل پر اپنے قول و فعل کو مقدم کرنے کی ممانعت	1	282/6		
	حضور ﷺ کے سامنے بلند آواز کے ساتھ بولنے کی ممانعت	2	283/6	اخلاص کے متعلق قرآن مجید کی آیات	10
275/11			283/6 235/7	اخلاص کے متعلق احادیث و آثار	11
	بلند آواز سے بولنے کو دو مرتبہ منع کرنے کے الگ الگ محمل	3	284/6	اخلاص کے متعلق صوفیاء اور مشائخ کے اقوال	12
276/11				دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرنا بھی اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے	13
	اپنی ضرورت اور آپ ﷺ کی نعت کے کلمات کو آپ ﷺ کے سامنے بلند آواز سے پڑھنے کا جواز	4	285/6	کیا اصحاب اخلاص کو شیطان نے لغزش میں مبتلا کیا؟	14
276/11			289/6		
	رسول اللہ ﷺ کے سامنے آواز پست رکھنے والے صحابہ	5	234/7 116/9 166/10	اخلاص کا لغوی و اصطلاحی معنی	15
278/11					
	رسول اللہ ﷺ کو حجروں کے باہر سے ندا کرنے والوں کے مصادیق	6	908/12		
279/11			116/9	مومن اور کافر کے اخلاص میں فرق	16
	ادب	32	166/10	اخلاص کی حقیقت	17
	دیکھئے ”4: آداب“ صفحہ 45	1		اخلاص کی ترغیب اور ترہیب کے متعلق احادیث	18
	حضرت ادریس علیہ السلام	33	166/10		
	حضرت ادریس علیہ السلام کی سوانح	1	168/10	اخلاص کے متعلق اقوال علماء	19
290/7				اخلاص کی اہمیت	20
	حضرت ادریس علیہ السلام کا چوتھے یا چھٹے آسمان پر ہونا	2	951/12		
293/7				سورۃ الاخلاص	30
	حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں زندہ ہونا	3	1034/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
293/7				سورۃ الاخلاص کے فضائل	2
	حضرت ادریس علیہ السلام کو اوپر اٹھانا اور ان کی زندگی	4	1034/12 1039/12	سورۃ الاخلاص کا خلاصہ	3
294/7				سورۃ الاخلاص کی تکمیل	4
295/7	حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق قول فیصل	5	1041/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
420/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر زیادہ گرفت فرمانے کی توجیہ	9	653/7	حضرت اوریس علیہ السلام کا تذکرہ	6
				اذان	34
422/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو دگنا اجر عطا فرمانا	10	225/3	اذان کی ابتداء	1
			226/3	کلمات اذان	2
423/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باہمی فضیلت	11	229/3	اذان کا جواب	3
			229/3	دعا بعد الاذان	4
437/9	آیت تطہیر سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مراد ہونا	12	230/3	اذان کی فضیلت	5
			496/10	اذان کی فضیلت میں احادیث	6
445/9	ازواج مطہرات کا احادیث کو پہنچانا	13		اذان میں اشہدان محمد رسول اللہ	7
515/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا حق مہر	14	497/10	سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا	8
520/9	آیا نبی ﷺ پر ازواج میں باریوں کی تقسیم واجب تھی یا نہیں؟	15	499/10	مسجد میں اذان دینے کا شرعی حکم	8
				ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن	35
530/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے متعلق دل میں برا خیال لانا بھی قابل مواخذہ ہے	16		حضور ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا بیان	1
529/9	نبی ﷺ کی ازواج دنیا و آخرت میں آپ ﷺ کی ازواج ہیں	17	558/2	تعداد ازواج کا آپ ﷺ کی خصوصیت ہونا	2
			559/2	آپ ﷺ کے تعداد ازواج کی تفصیل وار حکمتیں	3
528/9	ازواج مطہرات سے پردہ کی اوٹ سے بات کرنے کا حکم	18	559-566/2	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مؤمنوں کی مائیں ہونے کی وضاحت	4
119/12	کیا کوئی خاتون ازواج مطہرات سے افضل ہو سکتی ہے؟	19	382/9	حضور علیہ السلام کا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو طلاق کا اختیار دینا	5
122/12	رسول اللہ ﷺ کے ایک ماہ ازواج سے ناراض رہنے کی وجہ	20	414/9	طلاق کا اختیار دینے کا سبب اور اس کی نوعیت	6
123/12	ازواج مطہرات کو دنیا و آخرت میں اختیار دینے کا سبب	21	415/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی تفصیل	7
			417/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مقام بیان فرمانا	8
119/12	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ کی ناراضگی	22	419/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
544/2	اسلام میں رنگ و نسل کا امتیاز	11		استغفار	36
809/2	دین اسلام کا برحق ہونا	12	384-390 10	حضور ﷺ کو استغفار کا حکم دینے کی توجیہ	1
567/2	مہر مقرر کرنا مذہب اسلام کی خصوصیت ہے	13	748/10	استغفار کے متعلق احادیث صحیحہ	2
65/3	دین اسلام کے احکام کا بتدریج نزول	14	749/10	والدین اور اعزہ کے لیے استغفار	3
66/3	اسلام کا کامل دین ہونا	15	750/10	استغفار کو لازم رکھنے کے متعلق احادیث صحیحہ	4
280/3	اسلام معتدل، سہل اور دین فطرت ہے	16	365/11	طلب مغفرت کے لیے وقت سحر کی خصوصیت	5
648/3	اسلام کے لیے شرح صدر کی علامت	17	367/11	استغفار کے کلمات اور اس کی فضیلت	6
655/3	جن علاقوں میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا وہاں کے باشندوں کا حکم	18	356/12	اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا	7
				استغفار کی فضیلت میں آیات، احادیث و آثار	8
			250/12		
686/4	اسلام کی نعمت سے عرب کے مخالف دھڑوں کا باہم شیر و شکر ہو جانا	19	285/12	استغفار کرنے سے دنیا و آخرت کی نعمتوں کا ملنا	9
126/5	تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ	20	1020-1023 12	رسول اللہ ﷺ کے استغفار کے محامل	10
481/5	اسلام کا فطرت کے مطابق ہونا	21		اسلام	37
				اسلامی تقویم	1
132/6	جس کے اسلام لانے کا اللہ نے اذن نہیں دیا اس کے اسلام نہ لانے میں اس کا کیا قصور ہے؟	22	716/1	اسلام دین یسر ہے	2
			687/1	دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت	3
			752/1	دین اسلام میں جبر نہیں ہے	4
132/6	اسلام کی نشر و اشاعت آپ ﷺ کی تعلیم سے ہوئی یا دلائل سے؟	23	931/1	اسلام کا معنی	5
402/6	اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنا	24	91,237/2 458/5 450/9		
651/6	اسلام سب سے مستحکم دین ہے	25	309,381/11		
569-571	اسلام کے خلاف یہودی کا اعتراض اور اس کا جواب	26	237/2	اسلام قبول نہ کرنے کے نقصانات	6
10			256/2	اسلام میں احکام کا آسان ہونا	7
			283/2	دین اسلام پر استقامت کے ذرائع	8
			288/2	تاحیات اسلام پر قائم رہنے کا حکم	9
823/10	دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا آیا وہ مکلف ہیں یا نہیں؟	27	473/2	دین اسلام کے غلبہ کی پیش گوئی	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
672/3	نقلی صدقہ میں کیا چیز اسراف ہے اور کیا نہیں؟	1		استاذ	38
698/6	تہذیب کا معنی	2	181/7	استاذ کا ادب و احترام	1
698/6	مبذرین کو شیطان کا بھائی فرمانا	3	255/9	استاذ کی تعظیم اور حقوق کے متعلق آیات	2
270/8	جو لوگ فضول خرچی نہیں کرتے	4	258/9	استاذ کی تعظیم اور حقوق کے متعلق احادیث	3
596/10	اسراف کا محمل	5		استاذ کی تعظیم و تکریم کے متعلق اعلیٰ حضرت کے دلائل	4
	لذت و آسائش کے لیے مال خرچ کرنا اسراف نہیں ہے	6	262/9		
596/10				استاذ کی تعظیم و تکریم کے متعلق فقہاء اور علماء کے اقوال	5
	اسرائیلی روایات	41	259/9		
				حضرت اسماعیل علیہ السلام	39
99/10	اسرائیلی روایات کا رد علامہ زفشری سے	1		حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر دلائل	1
100/10	اسرائیلی روایات کا رد امام رازی سے	2	202/6		
	اسرائیلی روایات کا رد علامہ ابوالحیاء اندلسی سے	3	279/7	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات	2
101/10			653/7	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ	3
102/10	اسرائیلی روایات کا رد علامہ اسماعیل حقی سے	4	915/9	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلیم ہونا	4
103/10	اسرائیلی روایات کا رد علامہ آلوسی سے	5		حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر و پیش منظر	5
	اسماء مصطفیٰ ﷺ	42	916/9		
331/7	رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ	1		حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے مینڈے کا مصداق	6
334/7	رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ کے معانی	2	917/9		
333/7	رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ کی تعداد	3		حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر دلائل	7
	رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ کے متعلق علماء کی تحقیق	4	918-922/9		
337/7				حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلقوم کٹنے سے محفوظ رہنا	8
351/7	نقش نعل پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا	5	923/9		
503/9	نبی ﷺ کے اسماء اور آپ ﷺ کی صفات	6		حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اپنے والد اور بھائی سے منفصل کرنے کی توجیہ	9
127/11	اسم محمد (ﷺ) کی تشریح و تحقیق	7	126/10		
127/11	نام محمد (ﷺ) کے فضائل و خصوصیات	8		اسراف	40

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
480/10	صحابہ کرام اور فقہاء تابعین سے استقامت کی تفسیر	6	128/11	آپ ﷺ کا نام محمد ہونا آپ ﷺ کے کمال مطلق ہونے کی دلیل ہے	9
481/10	استقامت کے حصول کا دشوار ہونا	7	130/11	نام محمد (ﷺ) وصف اور علیت کا جامع ہے	10
	حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ	46	131/11	اسم محمد (ﷺ) کی خصوصی عظمتیں	11
553-556	حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی شکایات کی توجیہات	1		استمناء بالید	43
9			855/7	استمناء بالید کا شرعی حکم	1
	استخارہ	47		اسماء باری تعالیٰ	44
59/3	استخارہ کرنے کا طریقہ	1	157/1	اللہ تعالیٰ کے اسماء کو لکھنے اور پڑھنے کے آداب	1
851/8	درپیش مہم کے وقت استخارہ کرنا	2	424/4	اللہ کے اسماء حسنیٰ کا معنی	2
59/3	استخارہ کے متعلق احادیث	3	425/4	اسم مسمی کا عین ہے یا غیر	3
850/8	اسم اعظم	48	426/4	اللہ تعالیٰ کے اسماء کا توفیقی ہونا	4
429/4	اسم اعظم کی تحقیق	1	428/4	اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء کی تفصیل	5
482/7	اسم اعظم کے متعلق احادیث	2	430/4	اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کی تفصیل	6
	اسباب	49	133/6	لفظ اللہ کے نام ہونے پر دلائل	7
224/8	رزق اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے اسباب تلاش کر کے اختیار کرنا	1	435/7	اسماء حسنیٰ کا بیان	8
226/8	ترک اسباب کیسا؟	2		اللہ تعالیٰ کے نام کے نقص اور عیب سے پاک ہونے کی وجوہ	9
853/8	اسباب معیشت کی نعمتیں	3	639/5	استقامت	45
	اسماء حسنیٰ	50	640/5	استقامت کا لغوی و شرعی و عرفی معنی	1
	دیکھئے "44: اسماء باری تعالیٰ" صفحہ 60	1	479/10	صوفیاء کے نزدیک استقامت کا معنی	2
	استعانت / استمداد	51	640/5	استقامت کا معنی اور اس کی اہمیت	3
	دیکھئے "33: مدد حاصل کرنا" صفحہ 236	1	436/10	استقامت کو استغفار پر مقدم کرنے کی توجیہ	4
	استنجاء	52	437/10	نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے استقامت کی تفسیر	5
261/5	پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت	1	479/10		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
307/6	اصحاب الايكة کا معنی و مصداق	1		اصحاب الاخدود	53
308/6	اصحاب الايكة کا ظلم اور ان سے اللہ کا انتقام لینا	2	652/12	اخذود کا معنی	1
	اطاعت	58	652/12	اصحاب الاخذود کے واقعہ کی تفصیل	2
	فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے ملک میں آباد کرنا	1	657/12	خندق کھودنے والوں کا انجام	3
164/6				اصول فقہ	54
164/8	کتاب، سنت اور حکام مسلمین کی اطاعت	2	189/9	مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا ضابطہ	1
288/8	اختیاری اطاعت اور جبری اطاعت	3	252/9	لفظ عام سے عموم و خصوص مراد لینے کا ضابطہ	2
649/8	شیخ، امام یا امیر کی اطاعت کا ضروری ہونا	4		اصول حدیث	55
	شرک و معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنے کا حکم	5	677/8	خبر و احوال اور خبر متواتر کی تعریف و احکام	1
45/9				اصحاب کہف	56
45/9	والدین کی اطاعت کے متعلق احادیث	6	48/7	اصحاب کہف کے واقعہ کا شان نزول	1
150/9	ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے	7	49/7	اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کی سوانح	2
919/11	ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے	8	56/7	اصحاب کہف کی دعا	3
958/12	اطاعت میں کثرت طلب کرنا	9	63/7	اصحاب کہف کا کھڑا ہونا	4
	اطمینان	59	65/7	اصحاب کہف کے جسم کی حفاظت	5
573/10	اطمینان سے کام کرنے کی فضیلت	1	67/7	اصحاب کہف کا کروٹیں بدلنا	6
	اعتکاف	60	70/7	اصحاب کہف کا نیند سے اٹھنا	7
704/1	اعتکاف کا معنی مع اقسام	1		اصحاب کہف اور ان کے شہر والوں کے درمیان ماجرا	8
704/1	اعتکاف کی شرائط	2	76/7		
704/1	اعتکاف کے آداب	3	84/7	اصحاب کہف کی صحیح تعداد	9
705/1	اعتکاف کے مفسدات	4	85/7	اصحاب کہف کے اوصاف	10
705/1	اعتکاف کے ضروری مسائل	5	93/7	غار میں اصحاب کہف کے قیام کی مدت	11
	اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم	61	93/7	آیا اصحاب کہف زندہ ہیں یا نہیں؟	12
				اصحاب الايكة	57

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	اقامت	67	142/1	اعوذ باللہ کے مفردات و اعراب کا بیان	1
22/3	کلمات اقامت	1	143/1	اعوذ باللہ کو نماز و غیر نماز میں پڑھنا	2
	اقرار	68	571/6	قرآن کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ پڑھنا	3
596/10	اقرار کا محمل	1		سورۃ الاعلیٰ	62
	اللہ تعالیٰ	69	681/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
148/1	لفظ اللہ کا معنی اور اس کا وصف و علم ہونا	1	681/12	سورۃ الاعلیٰ کے مشمولات	2
	اللہ تعالیٰ کے اسماء کو لکھنے اور پڑھنے کے	2	703/12	سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر کا اختتام	3
162/1	آداب			اعتبار	63
169/1	رب کا لغوی و شرعی معنی	3	806/11	اعتبار کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
171/1	اللہ تعالیٰ کی تربیت میں غور و فکر	4		سورۃ الاعراف	64
177/1	اللہ، رب، رحمان و رحیم میں وجہ ارتباط	5	27/4	سورۃ کا نام	1
	اللہ کے کلام کے قدیم ہونے پر اعتراض اور	6	28/4 144/4	الاعراف کا معنی و مصداق	2
282/1	اس کا جواب			سورۃ الاعراف کی آیتوں کی تعداد اور ان کی	3
	اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو ممکنات کے ساتھ	7	30/4	صفات	
282/1	مکلف کرنا		31/4	سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول	4
283/1	محال بالذات کے ساتھ مکلف کرنا	8	31/4	سورۃ الاعراف کے مضامین اور مقاصد	5
298/1	اللہ کے استہزاء کی توجیہ	9		سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کی باہمی	6
301/1 633/3 537/5	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے	10	32/4	مناسبت	
	اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معنی اور اس کا	11	147/4	اصحاب الاعراف کو دخول جنت کا اذن	7
302/1	کذب پر محال ہونا		526/4	سورۃ الاعراف کا اختتام	8
	اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے قریب ہونے کے	12		اغواء	65
303/1	باوجود یا ایہا الناس سے ندا کرنے کی توجیہ		77/4	اغواء کا معنی	1
305/1 310/1	اللہ تعالیٰ کا خالق اور لا شریک ہونا	13		اقتدار	66
336/1	اللہ تعالیٰ کی طرف مشورہ کی نسبت کا شرعی حکم	14	765/7	جن کو اقتدار عطا کیا جائے گا ان کے مصداق	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
495/2	اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام کرنا	35	472/1	اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت میں فرق	15
	من عرف نفسه فقد عرف ربه کی تشریح	36	507/1	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل	16
520/2			559/1	اللہ تعالیٰ کی مثل پر ایمان لانا	17
544/2	خالق کی عظمت	37	560/1	اللہ تعالیٰ کا رنگ	18
651/2	اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے خلاف تمنا کرنا	38	574/1	اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی پر اشکال کا جواب	19
	اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا	39	621/1	واحد کا معنی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت	20
669/2				اللہ تعالیٰ کے وجود، وحدت اور اس کے علم پر دلائل	21
675/2	اللہ تعالیٰ کے ظلم نہ کرنے کا معنی	40	623/1		
675/2	اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب بڑھانے کا مطلب	41		اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے کی توجیہ	22
812/2	اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا	42	647/1		
821/2	بندوں کے شکر سے اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا	43	649/1	اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی	23
116/3	اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا عہد و میثاق	44	743/1	اللہ تعالیٰ کے جلد حساب لینے کی تفسیر	24
	کیا اللہ نے کافر کے کفر یا اس کے ایمان کا ارادہ کیا تھا؟	45	874/1	اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا	25
176/3				دلوں کو ٹیڑھا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف	26
238/3	ید اللہ کا معنی	46	67/2		
329/3	اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکو کار و بدکار	47	120/2	جن افعال سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے	27
	قیامت کے دن انبیاء کا فرمانا کہ ”ہمیں کچھ علم نہیں“	48	122/2	جن افعال سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا	28
358/3			239/2	اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کا مطلب	29
361/3	اللہ تعالیٰ پر اسماء کے اطلاق کا ضابطہ	49		مرتدوں کو ہدایت نہ دینے کے اشکال کے جوابات	30
381/3	اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت	50	239/2		
	تمام تعریفوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہونا	51	289/2	اللہ تعالیٰ کی رسی کا بیان	31
392/3			401/2 516/2	اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں	32
	اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل	52	406/2	اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا مطلب	33
393/3				اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا دنیاوی تمام لذتوں سے افضل ہونا	34

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا	72	396/3	اللہ تعالیٰ کے کمال علم پر دلیل	53
299/4			404/3	الوہیت، رسالت اور قیامت پر دلیل	54
437/4	اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت پر دلائل	73	404/3	اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق احادیث	55
451/4	اللہ تعالیٰ کی ذات میں علوم خمسہ کا منحصر ہونا	74		حقیقی حاجت رواء، کارساز اور مستعان	56
600/4	اللہ تعالیٰ کی معلومات واقعہ اور فریضہ	75	411/3	صرف اللہ ہے	
603/4	اللہ تعالیٰ کا انسان اور اس کی دل کے درمیان حائل ہونا	76	465/3	مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارنا انسان کا فطری تقاضا ہے	57
605/4	رحمان کی دو انگلیوں سے مراد	77	470/3	اللہ کے مستحق عبادت ہونے پر دلیل	58
609/4	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا	78	504/3	اللہ کے قبر کا معنی	59
610/4	اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ممانعت	79	511/3	اللہ کے مولیٰ اور حق ہونے کا معنی	60
	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت	80	585/3	اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی	61
612/4			610/3	اللہ تعالیٰ کے لیے مولود نہ ہونا	62
621/4	اللہ تعالیٰ کا فضل	81	614/3	اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا	63
158-166 4	اللہ کا عرش پر استواء فرمانا	82		اللہ کے کلمات کے صادق اور عادل ہونے کا معنی	64
336/4	کلام باری تعالیٰ	83	633/3		
705/4	اللہ تعالیٰ کا علم تمام زمانوں کو محیط ہے	84	657/3	اللہ تعالیٰ کے مستغنی ہونے کا معنی	65
187/5	اللہ تعالیٰ کے بھلانے کا مطلب	85		استغفار اور رحمت کا اللہ تعالیٰ میں منحصر ہونا	66
	بڑے سے بڑا نیک بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رحمت سے مستغنی نہیں	86	658/3		
227/5			660/3	اللہ کے لیے پھلوں اور مویشیوں کی تقسیم	67
231/5	اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا	87	674/3	مویشیوں کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	68
264-266 5	اللہ تعالیٰ کا جنت کے بدلہ میں مومنوں کی جانوں اور مالوں کا خریدنا	88	133/4	اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا	69
			195/4 206/4	اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا	70
355/5	اللہ تعالیٰ کے حجاب سے مراد	89		اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیفیت اور اس کے متعلق مختلف مذاہب	71
409/5	اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مصداق	90	297/4		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
97/6	رحمن کے انکار کا شان نزول	105	448/5	اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا محال ہونا	91
133/6	لفظ اللہ کے نام ہونے پر دلائل	106	479/5	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلیل	92
134/6	اللہ تعالیٰ کا کسی سمت کے ساتھ مختص نہ ہونا	107		اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود اپنے بندوں کو نفع	93
193/6	بندوں کی جفا کے صلہ میں اللہ کی وفا	108	482/5	پہچانا ہے نہ کہ ضرر پہچانا	
	اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے صیغوں سے تعبیر	109		اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے متعلق	94
244/6	کرنا		538/5	متاخرین کا مسلک	
460/6	الہ کا معنی	110		اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے متعلق	95
	اللہ تعالیٰ کو مصیبت کے وقت پکارنا اور بعد	111	539/5	متقدمین کا مسلک	
464/6	میں بھول جانا			اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے متعلق	96
	اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کا معنی اور	112	541/5	قرآنی آیات	
470/6	اللہ تعالیٰ کے اسماء کا توفیقی ہونا			اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے متعلق	97
521/6	اللہ تعالیٰ کے لیے مثال گھڑنے کے محامل	113	542/5	احادیث	
814/6	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے	114	553/5	اللہ تعالیٰ کسی کافر پر رحم نہیں فرمائے گا	98
815/6	اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے	115	547/5	ہر کام کے آغاز سے قبل اللہ کا نام لینا	99
815/6	اللہ تعالیٰ کی کبریائی	116		اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا جمادات کو	100
222/7	اللہ تعالیٰ کے کلمات کا غیر متناہی ہونا	117	550/5	خطاب	
276/7	اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونا	118		اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کا	101
276/7	اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اس کے تقاضے	119	559/5	معنی	
279/7	اللہ تعالیٰ پر وارث کا اطلاق	120		اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل	102
303/7	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام "اللہ" نہیں	121	764/5		
	اللہ تعالیٰ کا سوال کہ "تمہارے دائیں ہاتھ	122		اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور ہدایت دینے	103
356/7	میں کیا ہے؟"		94/6	کے محامل	
357/7	اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ سے ہم کلام ہونا	123		عرش پر استواء اور دیگر صفات کے متعلق	104
371/7	اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا معنی	124	37/6	متقدمین و متاخرین کے نظریات	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
309/9	اللہ تعالیٰ کا تدبیر کرنے کا معنی	145	380/7	اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلائل	125
312/9	عالم الغیب کا معنی	146	783/7	اللہ تعالیٰ کی تعظیم	126
313/9	ہر چیز اور ہر مخلوق کو حامل حسن بنانا	147	533/7	اللہ تعالیٰ کو عرش عظیم کا رب کہنا کیسا؟	127
621/9	اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا	148	536/7	اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہونے پر دلیل	128
680/9	اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے	149	652-653/7	اللہ تعالیٰ کے رحم الراحمین ہونے کی وجوہ	129
725/9	اللہ تعالیٰ کا بے نیاز اور نکتہ نواز ہونا	150	884/7	اللہ تعالیٰ کے ظلم نہ کرنے کی وجوہ	130
726/9	اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرنا	151		مخلوقات کے تنوع سے اللہ کی ذات پر استدلال	131
850/9	اللہ تعالیٰ کی صفات میں مبالغہ کا معنی	152	161/8		
	اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے اور رسولوں پر سلام بھیجنے میں مناسبت	153	199/8	اللہ تعالیٰ کے خالق اور مستحق عبادت ہونے پر دلیل	132
972/9			865/8		
	اللہ تعالیٰ کی صورت اور اس کے ہاتھوں کی تفسیر	154	213/8	اللہ تعالیٰ کی توحید کی تمہید	133
143/10			367/8 468/8	اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا	134
153-156 10	کیا دنیا میں سب کچھ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے؟	155	407/8	اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کے قہر و غضب کے تقاضے	135
172/10	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ستر فرمانا	156	849/8	اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں	136
	اللہ تعالیٰ کا تمام جہانوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہونا	157	43/9	اللہ تعالیٰ کا غنی اور بے نیاز ہونا	137
176/10			60/9	اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ	138
177-181 10	اللہ تعالیٰ کا تمام افعال کا خالق ہونا	158		اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر روزمرہ کے مشاہدات سے استدلال	139
181/10	اللہ تعالیٰ کا کفر اور معصیت کو پسند نہ فرمانا	159	112/9		
206/10	اے میرے بندو! اس کے مخاطب کون ہیں؟	160	153/9	اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کا شریک کہنا ظلم ہے	140
253/10	اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے	161	264/9	اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے	141
	اللہ تعالیٰ کو بندروں اور خنزیریوں کا مالک کہنا کیسا؟	162	274/9	اللہ تعالیٰ کے پاس حسن انجام کا پانا	142
288/10			276/9	اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کی وجہ	143
296/10	اللہ تعالیٰ کے جسمانی اعضاء	163	277/9	اللہ تعالیٰ کا غیر متناہی ہونا	144

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
644/11	اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کا معنی اور اس کی رحمت کے تقاضے	182	334/10	اللہ تعالیٰ خود بلند ہے اور مخلوق کے درجات بلند کرنے والا ہے	164
265/11	اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ فرمانے کی توجیہات	183	469/10	اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ظن رکھنا چاہیے؟	165
321/11	اللہ تعالیٰ کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہونے کا معنی	184	473-476 10	کیا اللہ تعالیٰ گناہ کا ارادہ کرتا ہے؟	166
386/11	اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں	185	542/10	اللہ تعالیٰ علی الاطلاق عظیم اور بلند ہے	167
387/11	اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے محامل	186	565/10	اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے مماثلت کی نفی	168
393-398 11	آیا اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہیں یا نہیں؟	187	574/10	اللہ تعالیٰ کے بندوں پر لطیف ہونے کا معنی	169
398/11	اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی ہے	188	825/10	اللہ تعالیٰ کے بھلا دینے کی توجیہ	170
458/11	اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے محامل	189	822/10	اللہ کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعارض کا جواب	171
459/11	اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیوں کو ثابت کرنا پرلے درجہ کی حماقت ہے	190	41/11	اللہ عزوجل کا انکار، استخفاف اور استحقار کفر ہے	172
569/11	اللہ تعالیٰ کے ہنسانے اور لانے کی توجیہات	191	76/11	اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کا خوف	173
138/12	”تبارک“ کا معنی اور اس لفظ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا	192	179/11	اللہ تعالیٰ کے مستغنی ہونے کی وضاحت	174
141/12	اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے اور آزمانے کی توجیہ	193	180/11	اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی جگہ کس قوم کو دے گا؟	175
141/12	رحمن کے نظام تخلیق میں کسی قسم کی کمی کا نہ ہونا	194	920/11	اللہ تعالیٰ کو قرض حسد دینے کا معنی	176
142/12	بار بار دیکھنے کے حکم کی توجیہ	195	881/11	اللہ تعالیٰ کے فضل کی مختلف تعبیریں	177
153/12	اللہ تعالیٰ پر آسمان والے کے اطلاق کی توجیہ	196	779/11	اللہ تعالیٰ کا سرگوشیوں پر مطلع ہونا	178
155/12	اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دلائل	197	713/11	اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں سب اسی کے محتاج ہیں	179
356/12	اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا معنی	198	714/11	اللہ تعالیٰ کے اول و آخر، ظاہر و باطن ہونے کے معانی	180
352/12	اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر	199	670/11	اللہ تعالیٰ کے خاص افعال کا مخلوق کی طرف نسبت کرنے کا جواب	181
254/12	اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس سفارشی بنانے کا عدم جواز	200			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	امام	73		اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس کو وسیلہ بنانے کے منافی ہے	201
522/1	امام کا لغوی معنی	1	255/12		
	اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک امام کا شرعی معنی	2	256/12	”اللہ اور رسول چاہے“ کہنا موہم بے ادبی ہے	202
522/1			256/12	اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو بتدریج پیدا فرمانا	203
525/1	امام کا معصوم ہونا	3		اللہ کے نزدیک کفار کی ذلت اور مؤمنوں کی عزت و وجاہت	204
526/1	امام کا تقرر	4	297/12		
529/1	اہل تشیع کے بارہ امام	5	171/10 1038/12	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل	205
	امامت	74		الہام	70
			767/12	الہام کا معنی	1
529/1	امامت منعقد کرنے کا طریقہ	1		نیک کاموں کا الہام نیکی کی جدوجہد کرنے والوں کو ہوتا ہے	2
374/1	خواتین کی امامت	2	768/12	الہام سے مراد اچھے اور برے کاموں کا لزوم ہے	3
374/1	خواتین کی امامت کے متعلق احادیث	3			
378/1	سمجھدار اور نابالغ لڑکے کی امامت	4	769/12	نیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث	4
	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	5	769/12	الحاد	71
376/1					
529/1	امامت کے مسائل	6	733/7	الحاد کا معنی	1
530/1	امامت کا واجب ہونا	7	514/10	الحاد کا معنی اور اس کا مصداق	2
	نماز میں فاسق کی امامت کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	8	515/10	جعلی پیروں اور بناوٹی صوفیوں کا الحاد	3
531/1				حضرت الیاس علیہ السلام	72
	امتحان	75		حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب اور ان کا مصداق	1
	دیکھئے ”7: آزمائش“ صفحہ 47	1	576/3		
	امن و سلامتی	76	947/9	حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ اور ان کی سوانح	2
210/6	امن و سلامتی کا ایمان و اسلام پر مقدم ہونا	1	948-950	حضرت الیاس علیہ السلام کی ہمارے نبی ﷺ سے ملاقات	3
295/6	امن و سلامتی کی تفسیر	2	9		
	امی	77	950/9	حضرت الیاس علیہ السلام کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی روایت	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
254/5	امر بالمعروف و نہی المنکر کی وجہ	13	357/4	امی کا معنی	1
396/8	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فرضیت	14	356/4	قرآن و سنت میں نبی پر امی کا اطلاق	2
397/8	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کیا جائے	15		امثلہ	78
307/2	امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ملائمت کو	16	105/7	مالدار کافر اور مومن کی مثال	1
399/8	اختیار کیا جائے			امر بالمعروف و نہی عن المنکر	79
	امت محمدی ﷺ	80		امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق قرآنی	1
570/1	امت مسلمہ کا دیگر امتوں پر گواہ ہونا	1	297/2	آیات	
314/2	امت محمدیہ کا تمام امتوں سے افضل ہونا	2	298/2	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق	2
	قرآن و حدیث میں لفظ "امت" کے	3	422/7	احادیث	
505/5	اطلاقات		300/2	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تفصیل و تحقیق	3
60/6	امت محمدی ﷺ کا سب سے زیادہ ہونا	4		نہی عن المنکر کے لیے تادیب اور تعزیر کے	4
594/6	امت کا معنی	5	301/2	مراتب	
660/7			303/2	بغیر علم کے وعظ و تقریر کرنا کیسا؟	5
880/7			400/1	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے خود	6
72/10			306/2	نیک ہونا	
95/6	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانا	6	398/8	ہتھیاروں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر	7
97/6	ملت ابراہیم کی اتباع کی توجیہ	7	306/2	کرنا کیسا؟	
14/7	اس امت کا نام امت مسلمہ کس نے رکھا؟	8	399/8	کسی شخص سے محبت کی وجہ سے امر بالمعروف	8
18/8	امت محمدی ﷺ کے فضائل	9		ترک کرنا	
08/9	امت محمدی کو ذکر کا حکم دینے کی توجیہ	10	307/2	امر بالمعروف میں ملائمت اختیار کرنا	9
04/9	رسول اللہ ﷺ کا امت کے حق میں شاہد ہونا	11	234/3	امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنے کی مذمت	10
06/9	رسول اللہ ﷺ کا اعمال امت پر شاہد ہونا	12		نجات کیلئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا	11
9/9	امت مسلمہ کا قرآن مجید کا وارث ہونا	13	344/3	ضروری ہونا	
	امت محمدی ﷺ سے کون کون سا عذاب	14		امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت	12
6/10	اٹھایا گیا ہے؟				
	امتیاز	81	344/3		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
757/1	ابتدا میں نوع انسانی کا دین حق پر ہونا	2		اسلام میں ذات پات کا امتیاز نہ کرنے پر	1
757/1	تمام انسانوں کا دین فقط اسلام ہے	3	306/11	احادیث سے دلائل	
123/2	انسان، فرشتوں سے افضل ہیں	4		امانت	82
186/2	انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی حکمتیں	5	699/2	امانت ادا کرنے کے متعلق آیات	1
222/2	بشر کا معنی	6	700/2	امانت ادا کرنے کے متعلق احادیث	2
	انسان کے نفس سے وجود باری تعالیٰ اور توحید	7	700/2	اللہ کے ساتھ معاملہ میں امانت داری	3
603/3	پر دلائل		701/2	خلق خدا کے ساتھ معاملہ میں امانت داری	4
604/3	تمام انسان نسلاً برابر ہیں	8	702/2	اپنے نفس کے ساتھ معاملہ میں امانت داری	5
479/5	انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار مطلق	9	613/4	امانت کے متعلق حکم قرآن	6
	انسان کے افعال کی قدرت میں مذہب	10	613/4	امانت کے متعلق حکم حدیث	7
534/5	مشکلمین اور جبر و قدر کی وضاحت		856/7	امانت کی حفاظت کرنا	8
573/5	انسان کو زمین سے پیدا کرنے کے دو محل	11	578/9	امانت کے متعلق احادیث	9
	انسان کی پیدائش سے وجود باری تعالیٰ پر	12		آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی گئی	10
573/5	استدلال		579/9	امانت	
	انسان کی خلقت کے مادہ میں مختلف آیات	13	586/9	جنس انسان پر امانت پیش کرنے کی حکمت	11
271/6	کی توجیہ		236/12	امانت کی رعایت	12
	انسان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور	14		امید	83
270/6	وحدانیت پر استدلال		239/6	دنیا میں مشغولیت اور بے امیدوں کی مذمت	1
427/6	انسان اور بشر کو نبی اور رسول بنانے کی تحقیق	15	241/6	مستقبل سے امیدیں وابستہ رکھنا	2
655/6	انسان کا جلد باز ہونا	16		امیر	84
660/6	انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے	17	680/6	امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی حکمتیں	1
756/6	انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہ	18	600/10	بعض لوگوں کو امیر بنانے کی مصلحتیں	2
783/6	انسان کا کمزور دل اور ناشکر ہونا	19		انسان	85
42/7	انسان کا با اختیار ہونا	20	756/1	تاریخ انسانیت	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	چالیس سال کی عمر میں انسان کا اپنی قوت کے کمال کو پہنچ جانا	40	43/7	انسان کو امتحان میں مبتلا کرنا	21
83/11			435/7	لوگوں کی اقسام	22
913/11	انسان کی صورت سب سے حسین ہے	41	481/7	لوگوں کے آگے اور لوگوں کے پیچھے کی تفسیر	23
	انسان کی دنیا میں غفلت اور آخرت میں اس کی نگاہ کا تیز ہونا	42	763/7	بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں سے دور کرنا	24
324/11			456/8	انسان کو خیر و شر کا اختیار ہے	25
393/11	انسانوں کی وجہ تخلیق	43	313/9	انسان کو مٹی سے بنانا	26
525/11	انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کے متعلق احادیث	44	524/11		
	انسان کی باقی مخلوق پر فضیلت	45	257/12		
1053/12			314/9	انسان کو پانی کی ایک حقیر بوند سے بنانا	27
686/12	انسان کی درست تخلیق کا مطلب	46	665/9	مٹی اور نطفہ سے انسان کی پیدائش	28
668/12	انسان کے محافظ اور نگہبان کی تحقیق	47		انسان کو اپنی اصلاح کیلئے کتنی عمر کی ضرورت ہے؟	29
	فرشتے انسان کی کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟	48	692/9		
671/12				انسان کو پیدا کر کے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازنا	30
674/12	انسان کو لوٹانے کے دو محمل	49	174/10		
	انسانوں کا مختلف احوال اور منازل میں منتقل ہونا	50		انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حال کو زمین کی پیداوار پر قیاس کرے	31
541/12			215/10		
872/12	انسان کی بہترین ساخت میں ہونے کی توجیہ	51		انسان کے دل میں اللہ کے نور کا معیار اور اس کی علامتیں	32
944/12	انسان کا اپنے ”الکنود“ ہونے پر گواہ ہونا	52	217/10		
976/12	تمام انسانوں کا خبارے میں مبتلا ہونا	53	710/7	تخلیق انسان کے مراحل	33
	انسان پر ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی نیک بنائے	54	411/10		
973/12			467-468	قیامت کے دن انسان کے اعضاء کا نطق	34
	انسان کے مقدم اور موخر اعمال کے محامل	55	10		
608/12			468/10	آنکھ، کان اور کھال کی خصوصیت کی توجیہ	35
609/12	انسان کی تخلیق کی تفصیل	56	522/10	انسان کی ناسپاسی اور ناشکری	36
	انسان کی معتدل صورت بنانا	57	634/10	مذکر اور مؤنث کی پیدائش کی علامات	37
610/12				بٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مترم کرنے کی وجوہ	38
429/12	انسان کے مصداق میں متعدد اقوال	58	634/10		
430/12	جس مدت میں انسان قابل ذکر نہ تھا	59	658/10	انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت کا ہونا	39

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	سورة الانفطار	88	432/12	انسان کو اختیار دیا ہے خواہ وہ شکر گزار ہو یا ناشکر	60
604/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1	410/12	انسان کی اپنے اوپر بصیرت کے دو محمل	61
614/12	سورة الانفطار کا اختتام	2	422/12	انسان کو عبث پیدا نہ فرمانا	62
	انجام	89		انسان کی صرف دو صنفوں پر ایک اعتراض کا جواب	63
	ہر شخص کا انجام اس کے اعمال کے اعتبار سے ہے	1	423/12	بشر کا معنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت	64
580/11			524/5	بشر ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے	65
	انجیل	90	530/5	بشر کا معنی	66
53/2	انجیل کا معنی	1	274/6 223/7	کفار کا انبیاء کو بشر کہنے کی وجہ	67
53/2	انجیل کی تاریخی حیثیت اور اس کے مشمولات	2	224/7	انبیاء کا بشر ہونا ہمارے لیے وجہ احسان	68
54/2	انجیل کے متعلق قرآن کی آیات	3	225/7	رسول اللہ ﷺ کا خود پر بشر کا اطلاق فرمانا	69
54/2	موجودہ انجیل	4	225/7	نبی اور رسول ﷺ کا بشر ہونا	70
56/2	احکام اسلام بمقابلہ تعلیمات انجیل	5	226/7	رسول اللہ ﷺ کا بشر ہونا	71
	نزول قرآن کے بعد انجیل پر عمل کے حکم کی توجیہ	6	227-230/7	نبی ﷺ سے "میں بشر ہوں" کہلوانے کی وجہ	72
205/3			231/7	بشر کی تفسیر	73
413/11	عیسائیوں کی موجودہ انجیل کا وجود مشکوک ہے	7	253/8	بشر کا معنی اور اس کا تخلیقی مادہ	74
413-420 11	اناجیل اربعہ کی اصلیت	8	147/10	رسول اللہ ﷺ کے بشر ہونے کی تحقیق	75
	انعام	91	434/10		86
422/10	اللہ تعالیٰ کے بندوں پر انعامات و احسانات	1		سورة الانشقاق	
482/10	عباد صالحین پر اللہ تعالیٰ کے انعامات	2	633/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1
485/10	فرشتوں کا مومنین کو موت کے وقت انعامات کی بشارت دینا	3	633/12	سورة الانشقاق کے مشمولات	2
			644/12	سورة الانشقاق کا اختتام	3
	انڈا	92			87
884/9	انڈے کا پاک اور حلال ہونا	1		سورة الانشراح	
	انڈے کے غذائی اجزاء اور بد پرہیزی کے نقصانات	2	840/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1
885/9			867/12	سورة الانشراح کی تفسیر کی تکمیل	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
878/2	انبیاء اور اس کی تعداد	15		انگور	93
889/2	انبیاء کافرشتوں سے افضل ہونا	16	607/3	انگور کے خواص	1
128/3	بعض رسولوں کے انکار سے نجات نہیں ہوگی	17	862/7	انگور کے غذائی اور طبی فوائد	2
413/3	انبیاء اور اولیاء، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کے اذن سے تصرف کرتے ہیں	18		انبیاء کرام ﷺ	94
471/3	انبیاء کا مقرر شدہ کام	19	157/1	انبیاء ﷺ کے نام لکھنے اور پڑھنے کے آداب	1
572/3	انبیاء، علماء اور مومنین کے درجات کی بلندی	20	551/1	تمام انبیاء ﷺ کا پیدائشی مومن ہونا	2
530/3	قرآن و سنت کی روشنی میں انبیاء کا نسیان	21	558/1	تمام انبیاء ﷺ پر ایمان لانے کی وجہ	3
577/3	انبیاء کے ذکر میں ایک نوع کی مناسبت	22		تمام انبیاء ﷺ پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لانے کے محال	4
578/3	انبیاء کا ملائکہ سے افضل ہونا	23	558/1	انبیاء ﷺ کی حیات	5
647/3	نبی کی صفات لازمہ	24		حیات انبیاء ﷺ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے معارضہ کے جوابات	6
237/4	تمام نبی حاصل معجزہ ہیں	25	600/1	وفات کے بعد انبیاء ﷺ کے دکھائی دینے کی کیفیت	7
304-310/4	انبیاء ﷺ کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دینا	26		رسولوں کی باہمی فضیلت	8
312/4	انبیاء علیہم السلام کی ہمارے نبی ﷺ پر فضیلت	27	601/1	انبیاء کرام ﷺ کی جسمانی و روحانی خصوصیات	9
311/4	حیات انبیاء ﷺ پر دلائل	28	894/1	انبیاء ﷺ کا دعوائے الوہیت کرنا عقلاً ممتنع ہے	10
654/5	انبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمتیں	29	226/2	انبیاء سابقین پر ایمان لانا	11
451/5				انبیاء کی بعثت کا عام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہونا	12
523/5			446/2	انبیاء کرام کو علم غیب	13
577/5	انبیاء کرام ﷺ کی تبلیغ کی ترتیب	30		تمام انبیاء کے صدق پر رسول اللہ ﷺ کی شہادت	14
619/5	انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے قصص اور واقعات بیان کرنے کے فوائد	31	480-483/2		
106/6	انبیاء کرام کا امر اور نہی سے مکلف ہونا	32			
141/6	انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت	33	676/2		
141/6	تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے	34			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
679/9	انبیاء علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت	55	160/6	انبیاء کا کافروں کی دھمکیوں سے نہ ڈرنا	35
737/9	انبیاء علیہم السلام کو کفار کا بدشگون کہنا	56	163/6	کیا انبیاء پہلے کافروں کے دین پر تھے؟	36
810/9	انبیاء علیہم السلام کا ملائکہ سے افضل ہونا	57	743/6	بعض نبیوں کی بعض پر فضیلت	37
815/9	انبیاء علیہم السلام کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے	58	110/7	انبیاء علیہم السلام پر مصائب کا آنا	38
826/9	انبیاء علیہم السلام کے حواس اور عقل کا ڈھلتی ہوئی عمر میں زیادہ فعال ہونا	59	224/7	کفار کا انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنے کی وجہ	39
895/9	انبیاء سابقین کے قصص	60	252/7	انبیاء علیہم السلام کی وراثت	40
121/10	انبیاء علیہم السلام کا خالص دار آخرت کے ساتھ مشغول ہونا	61	377/7	اللہ کے دشمنوں سے ڈرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے	41
236/10	انبیاء علیہم السلام کا آن واحد میں متعدد جگہ موجود ہونا	62	373/7	انبیاء علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا جانا	42
320-322 10	کیا فرشتے انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں؟	63	638/7	انبیاء علیہم السلام کا مختلف پیشے اپنانا	43
634/10	انبیاء علیہم السلام کو اولاد عطا فرمانے کی تفصیل	64	473/8	انبیاء علیہم السلام کے ذنوب کی توجیہ	44
	ان شاء اللہ	95	598/8	انبیاء مبعوثین کی ترتیب	45
88/7	ان شاء اللہ کہنے کو ترک کرنا	1	631/8	انبیاء کرام علیہم السلام کا پرندوں کی باتیں سمجھنا	46
89/7	ان شاء اللہ کہنے کے فقہی مسائل	2		انبیاء کرام علیہم السلام کا اپنے صالح ہونے کی دعا کرنے کی وجہ	47
90/7	ان شاء اللہ کہنے کو بھولنا	3	648/8	انبیاء کرام علیہم السلام کا علم غیب	48
	سورة الانبياء	96	660/8	انبیاء کرام علیہم السلام کا منکر کافر ہے	49
509/7	سورة کا نام	1	137/9	یوم میثاق میں انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے متعدد محامل	50
510/7	سورة طہ اور سورة الانبياء میں باہمی مناسبت	2	384/9	انبیاء علیہم السلام سے سوال کے متعدد محامل	51
698/7	اختتامی کلمات و دعا	3	385/9	انبیاء علیہم السلام کے ڈرنے کی حقیقت	52
	انصار	97	459/9	انبیاء علیہم السلام کا جسمانی عیوب سے بری ہونا	53
239/5	انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تفصیل	1	574/9	انبیاء علیہم السلام کی حیات و وفات کے بعد ان کا قبروں سے نکلنا	54
241/5	انصار کے فضائل	2	614/9		
	سورة الانفال	98			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	کن لوگوں پر خرچ کرنا انسان پر واجب ہے؟	14	531/4	انفال کا معنی	1
696/6			532/4	سورۃ الانفال کی وجہ تسمیہ	2
700/6	خرچ میں اعتدال کا واجب ہونا	15	532/4	سورۃ الانفال کا زمانہ نزول	3
700/6	خرچ کرنے کی فضیلت	16		ترتیب نزول کے لحاظ سے سورۃ الانفال کا	4
702/6	زیادہ خرچ کرنا	17	533/4	مقام، آیتوں کی تعداد اور سبب نزول	
704/6	تمام مال صدقہ کرنا	18	538/4	سورۃ الانفال کے مضامین کا خلاصہ	5
	اپنے اوپر، اپنے عیال پر اور دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب	19	539/4	سورۃ الانفال کے مقاصد	6
823/11			540/4	انفال کا معنی اور اس کا مصداق	7
	سورۃ الانعام	100	718/4	سورۃ الانفال کا اختتام اور دعا	8
386/3	سورۃ الانعام کے نزول کے متعلق احادیث	1		انفاق فی سبیل اللہ	99
387/3	سورۃ الانعام کی فضیلت	2		آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالخصوص	1
388/3	سورۃ الانعام کا موضوع	3	276/1	زکوٰۃ مراد ہے یا عام صدقہ وغیرہ؟	
389/3	سورۃ الانعام کے مضامین	4	276/1	راہِ خدا میں کل مال خرچ کرنا	2
708/3	سورۃ الانعام کا اختتام	5	924/1	راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کی تاکید	3
	انار	101	647/1	انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف	4
607/3	انار کے خواص	1	948/1	بے حساب اجر دینے کی وجوہات	5
	انعام یافتہ لوگ	102	949/1	صدقات و خیرات کے آداب و شرائط	6
213/1	انعام یافتہ لوگوں کا بیان	1	950/1	متفرق مثالیں	7
213/1	انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کا بیان	2	956/1	صدقہ میں دیئے جانے والے مال کی صفات	8
	انعامی بانڈز	103	968/1 973/1	خفیہ اور علانیہ صدقہ	9
816/1	انعامی بانڈز کا شرعی حکم	1	970/1	اہل ذمہ کو نفلی صدقات دینا	10
713/5	انعامی بانڈز کے جواز کی بحث	2	673/2	اللہ کی راہ میں اخلاص سے خرچ نہ کرنا	11
	انعامی بانڈز کے متعلق جسٹس پیر محمد کرم شاہ کا فیصلہ	3	672/3	نفلی صدقہ میں کیا چیز اسراف اور کیا نہیں؟	12
716/5			148/4	اللہ کی راہ میں پانی خرچ کرنا	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
447/11	نابالغ اولاد کا اپنے مسلمان ماں باپ کو جنت میں لے جانا	13	718/5	انعامی بانڈز کے جواز کے متعلق جسٹس شفیع الرحمان کا فیصلہ	4
	اولوالعزم	107		اولی الامر	104
117/11	اولوالعزم کا معنی	1	705/2	اولی الامر کی تفسیر میں متعدد اقوال	1
118/11	اولوالعزم رسولوں کے مصادیق	2	706/2	اولی الامر کی اطاعت بالاتباع ہے	2
	اہلسنت وجماعت	108		قرآن مجید اور احادیث، اقوال صحابہ پر مقدم ہیں	3
571/1	مسلك اہلسنت وجماعت کا سب سے افضل ہونا	1	706/2	اوس و خزرج (قبائل)	105
127/4	معمولات اہلسنت کا جواز	2	295/2	اوس و خزرج پر اللہ تعالیٰ کے احسانات	1
	محبت اہل بیت صرف اہلسنت وجماعت کی خصوصیت ہے	3		اولاد	106
588/10	تقظیم صحابہ کا عقیدہ صرف اہلسنت وجماعت کی خصوصیت ہے	4	70/2	اولاد کے ذکر میں حسن ترتیب	1
	اہانت	109	617/4	اولاد کا فتنہ ہونا	2
234/8	عقبہ ابی معیط کا حضور ﷺ کی اہانت کرنا	1	158/5	اولاد کا سبب عذاب ہونا	3
186-188/9	غیر مسلم اموات کی اہانت کا جواز	2		عام لوگوں کا اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑنا کیسا ہے؟	4
	اہل کتاب	110	357/8	اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا	5
607/1	اہل کتاب کا نبی ﷺ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانا	1	204/6	آخرت میں مسلمانوں کی اولاد کی نفع رسانی	6
417/3	اہل کتاب کا اللہ کی مخالفت کرنا	2	277/8	اولاد کی محض کثرت باعث فخر اور پسندیدہ نہیں	7
196/2	اہل کتاب کا رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنا	3		اولاد کے فرائض	8
197/2	اہل کتاب کے امینوں اور خاندانوں کا ذکر	4	78/11	اولاد میں کثرت کی طلب مطلقاً مذموم نہیں ہے	9
202/2	کفر پر مذمت میں اہل کتاب کی تخصیص	5	734/11	اولاد پر شفقت کرنے کی ترغیب	10
281/2	اہل کتاب کے گمراہ کن حیلے	6	446/11	مومنوں کے ایمان کی وجہ سے ان کی نابالغ اولاد کا جنت میں داخل ہونا	11
282/2			444/11	مومنوں کی بالغ اور کافر اولاد ان کے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگی	12

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	تنگی میں دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا ضابطہ	3	282/2	مسلمانوں میں عداوت کی آگ بھڑکانا	7
171/9			319/2	اہل کتاب میں سے ایمان والوں کی تفصیل	8
817/11	ایثار کا لغوی و اصطلاحی معنی	4	89/3,91/3	اہل کتاب کی تعریف اور ان کا ذبیحہ	9
818/11	ایثار کے متعلق احادیث و آثار	5	91/3	اہل کتاب مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح	10
821/11	کس کس کو ایثار کی اجازت ہے؟	6	91/3	اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح	11
822/11	تنگی میں دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا ضابطہ	7	812/6	ایمان لانے میں اہل کتاب کا عاجزی کرنا	12
	جان کا ایثار صرف رسول اللہ ﷺ کے لیے کرنا جائز ہے	8	96/9	اہل کتاب کے لقب کے مستحق کون؟	13
824/11			757-760	اہل کتاب میں سے جو شخص ہمارے نبی ﷺ پر ایمان لایا اس کو دو اجر ملنے کی تحقیق	14
436/12	ایثار کی فضیلت میں احادیث	9	11		
437/12	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایثار کرنا	10		اہل بیت	111
	ایمان	113	592/5	اہل بیت کے مصداق کون؟	1
247/1	ایمان کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	438/9	آیت تطہیر سے اہل بیت کا مراد ہونا	2
458/5			440-443/9	اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا	3
450/9				اہل بیت کے ساتھ مذکر کی ضمائر لانے کی وجہ	4
381/11	ایمان کی تعریف	2	443/9	شیعہ کا اہل بیت کی عصمت کو ثابت کرنا اور اس کا جواب	5
249/1	نفس ایمان اور ایمان کامل	3	444/9	اہل بیت کرام کے فضائل	6
250/1	مومن ہونے کے لیے ماننا ضروری ہے	4	681/9	آل یاسین سے مراد آل محمد ﷺ ہے	7
251/1	ایمان کی حقیقت	5	952/9	محبت اہل بیت صرف اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے	8
252/1	ایمان میں کمی اور زیادتی	6	588/10	محبت اہل بیت کے متعلق احادیث	9
253/1	اسلام اور ایمان میں نسبت	7	588/10	ایثار	112
550/4	جن کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا ان کو تبلیغ کرنا	8		مہاجرین پر انصار مدینہ کے ایثار کی تفصیل	1
473/2	کفار کے دلوں پر مہر لگانے کے بعد ان سے مواخذہ کیوں؟	9	169/9	صرف اصحاب صبر کے لیے تنگی میں اپنے اوپر ایثار کی اجازت ہے	2
256/1	صحابہ کرام کے ایمان کا معیار	10	170/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
761/5	ایمان پر شکر ادا کرنے کا وجوب	28	413/1	ایمان والوں کو دوبارہ ایمان کا حکم دینا	11
876/5	ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے مصادیق	29	1028/1	اللہ، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ذکر کی ترتیب	12
76/6	ایمان و کفر کی پانی اور جھاگ سے تشبیہ	30	649/1	اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی	13
100/7	ایمان لانے میں انسان کا فائدہ	31	314/2 394/10	ایمان کامل کا معیار	14
340/7	ایمان کے مدارج و مراتب	32	476/2	ایمان کے بدلے کفر کو خریدنا	15
428/7	ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے	33	522/2	ایمان کے ساتھ گناہوں پر مواخذہ	16
231/8	ایمان لانے کو معلق کرنا	34		ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینے کی توجیہ	17
248/8	ایمان کے سورج کا طلوع ہونا	35	827/2		
288/8	اختیاری ایمان اور جبری ایمان	36	881/2	رسول کے بغیر محض عقل سے ایمان لانا	18
6820/8	ایمان کا نبی ﷺ کے ادب سے ملنا	37	628/3	اللہ کا مطلوب بندوں کا اختیاری ایمان ہے	19
740/8	دولت ایمان سے کون کون مشرف ہوں گے؟	38	439/4	بغیر دلیل کے ایمان لانا صحیح ہے یا نہیں؟	20
791-793 10	ایمان والوں میں سے قابل مدح کون؟	39	462/5	فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	21
113/11	ایمان لانے سے تمام گناہوں کی مغفرت ہوگی یا بعض کی؟	40	514/5	تمام اہل ملل پر سیدنا محمد ﷺ پر ایمان لانے کا وجوب	22
126/11	ایمان لانے کے بعد گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا	41		غیر متمدن دنیا میں رہنے والوں کے لیے فقط توحید پر ایمان لانا ضروری ہے	23
816/11	اس کی توجیہ کہ انصار نے مہاجرین سے پہلے ایمان کی جگہ بتالی	42	515/5	پسماندہ اور کمزور لوگوں کا ایمان لانا نبوت میں طعن کا موجب نہیں	24
	ایندھن	114	528/5		
680/11	ایندھن فراہم کرنے کی نعمت	1	528/5	اللہ کے نزدیک اغنیاء کی بہ نسبت فقراء کا مقرب ہونا	25
	ایلاء	115		طبقاتی فرق اور نام و نسب، فضیلت کا موجب نہیں	26
795/1	ایلاء کا معنی اور اس کے وقوع کے بعد فقہاء کا اختلاف	1	529/5		
	ایٹھی ہتھیار	116	558/5	ایمان اور تقویٰ کے بغیر نسلی امتیاز اور نسبی برتری کی کوئی وقعت نہیں	27

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ایصال ثواب	119	663/4	تیر اندازی کے فضائل	1
562/1 1029/1	ایک شخص کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہونا	1		اس دور میں تیر اندازی کے مصداق ایٹمی میزائل ہیں	2
	ایصال ثواب کیلئے نامزد جانوروں کا حلال ہونا	2	664/4		
340/3				ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے تفکر کرنا اور اس کیلئے سائنسی علوم حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے	3
728/6	ایصال ثواب کے متعلق احادیث	3	665/4		
727/6	لیس للانسان الاماسعی کی وضاحت	4	667/4	جہاد کے لیے بندھے ہوئے گھوڑوں کی فضیلت اور اس دور میں اس کے مصداق	4
	کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس پر ایک اور سوال	5	669/4	دشمنان اسلام کو مہو ب کرنے کی حکمت	5
530/11				ایذاء پہنچانا	117
532-557 11	ایصال ثواب کے عدم جواز پر معتزلہ کا استدلال اور اس کے جوابات و دیگر تفصیلات	6	556/9	اللہ، رسول اور مؤمنوں کو ایذاء پہنچانے کا فرق	1
				حضرت ایوب علیہ السلام	118
557/11	اس کا جواب کہ زندہ کے لیے ایصال ثواب کیوں نہیں کیا جاتا؟	7	648/7	حضرت ایوب علیہ السلام کا نام و نسب اور ان کی بعثت کی ترتیب	1
558/11	اس کا جواب کہ رسول اللہ ﷺ سے ایصال ثواب کا ثبوت کہاں ہے؟	8	648/7 114/10	حضرت ایوب علیہ السلام کو آزماتش میں مبتلا کرنا	2
560-566 11	ایصال ثواب کے متعلق مزید تحقیق	9	650/7	حضرت ایوب علیہ السلام کے نقصانات کی تلافی کرنا	3
	اس اعتراض کا جواب کہ قرآن مجید میں دوسرے کیلئے دعا کے ثبوت سے ایصال ثواب کا ثبوت لازم نہیں آتا	10	119/10		
559/11			114/10	حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ	4
	اس کا جواب کہ ایصال ثواب کے کھانے سے اغنیاء کیوں کھاتے ہیں؟	11	649/7	حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کی تحقیق	5
560/11			114/10	حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو بعض مفسرین کا شیطان کی تاثیر قرار دینا	6
	ب		116/10		
	بارش	1	650/7	حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے لیے قسم پوری کرنے میں تخفیف و رعایت	7
252/8	مختلف علاقوں میں بارش نازل فرمانا	1	119/10		
252/8	بارش کا نظام	2	652/7 120/10	حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے لطیف نکات	8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
134/6	بت پرستوں کے سخت عذاب کا سبب	12		بارش کے پانی سے بنجر زمین کو زرخیز کرنے کا انعام	3
154/6	مشرکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بت پرستی کیوں کرتے تھے؟	13	346/9	باطل	2
	اولاد ابراہیم کو بت پرستی سے مامون رکھنے کی دعا پر اعتراض کے جوابات	14	641/9	حق و باطل کا فرق	1
196/6				بال	3
382/6	بتوں کے خدا اور سفارشی ہونے کا ابطال	15	532/6	خنزیر کے بالوں کا نجس ہونا	1
64/7 282/7	بتوں کی عبادت	16	536/6	انسان کے بالوں کا طاہر ہونا	2
313/7 894/7	بت پرستی کا رد	17		باندی	4
	بتوں کا انتقام لینے کے لئے رحمن کی مذمت کرنا	18	855/7	بغیر نکاح کے باندیوں سے جنسی عمل کرنا کیسا؟	1
585/7			855/7	اس دور میں باندی بنانا	2
800/7	بتوں کا عجز اور ان کی پرستش کا باطل ہونا	19	136/8	باندیوں کے بعض احکام	3
802/7	بت پرستوں کا اللہ کی قدر نہ کرنا	20		بت / بت پرست	5
705/8	بتوں میں کوئی اچھائی نہیں	21	223/3	بت پرستوں سے متعلق قرآن کی اصطلاح	1
332/8	صنم کا معنی	22	493/3	بتوں کی عبادت کا خلاف عقل ہونا	2
333/8	بتوں کی عبادت کا رد فرمانا	23	538/3	بت پرستی کا لہو و لعب ہونا	3
334/8	بتوں کو دشمن کہنا	24	625/3	بتوں کو برا بھلا کہنا	4
697/9	بتوں کی عبادت پر عقلی و نقلی دلائل کا نہ ہونا	25	660/3	بتوں کے لیے پھلوں اور مویشیوں کی تقسیم	5
	بعل کا معنی اور اس کی پرستش کا پس منظر و پیش منظر	26	191/4	بت پرستی کی ابتداء	6
951/9			499/4	بتوں کی بے مائیگی اور بے چارگی	7
951/9	بعل کی ناکامی وغیرہ	27		بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دینے میں مشرکین کے نظریات	8
547/10	بتوں کو ولی اور کارساز بنانے کی مذمت	28	340/5		
667-672 10	کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے	29		بتوں کے صرف اسماء ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	9
	مشرکین کا نبی ﷺ کی عبادت کی بنسبت اپنے بتوں کی عبادت کو افضل قرار دینا	30	764/5	اللہ نے بتوں کی تعظیم کا ہرگز حکم نہیں دیا	10
700/10			71/6	بت پرستوں کا دلائل کے ساتھ رد	11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
418/7	زیورات سے پچھڑا بنانا	2		آیا کفار نے اپنے بتوں کو بہتر قرار دیا تھا یا	31
419/7	پچھڑے کو معبود قرار دینا	3	701/10	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟	
	بخیل	8	731/10	مشرکین کو بت پرستی پر ملامت کرنا	32
963/1	بخل کو بے حیائی سے تعبیر کرنے کی وجہ	1		بتوں کے نہ سننے کی قیامت تک کی تحصیل کی	33
485/2	بخل کا معنی	2	45/11	وجہ	
485/2	بخل کی اقسام	3		بتوں کا قیامت کے دن مشرکین کی عبادت	34
486/2	بخل کی مذمت میں قرآنی آیات	4	46/11	سے بے زاری کا اظہار کرنا	
487/2	بخل کی مذمت میں احادیث	5	513/11	بتوں کی پرستش کا ابطال اور توحید کا استحقاق	35
805/6			513/11	لات، عزیٰ اور منات کی تحقیق	36
946/12			514/11	بت پرستوں کی ظالمانہ تقسیم	37
780/9	بخل کی مذمت مزید	6	517/11	بتوں کے مؤنث ہونے پر دلائل	38
737/11	بخل کا معنی اور اس کا حکم دینا	7		وڈ، سواع، یغوث، یعوق اور نسر وغیرہا کی	39
	بخل کے پیدائشی وصف ہونے پر ایک اعتراض	8	260/12	تاریخی حیثیت	
229/12	کا جواب			کیا کفار مکہ اور کفار نوح کے معبود بت ایک	40
	بدعت	9	262/12	ہی تھے؟	
507/1	بدعت اور ابداع کا معنی	1		بچے	6
628/1	بدعت کی تعریف و اقسام	2	585/2	زمانہ جاہلیت میں بچوں کو وارث نہ بنانا	1
534/1	بدعات سے اجتناب کا حکم	3	669/6	نابالغ اولاد کا اللہ کی مشیت پر موقوف ہونا	2
692/3	بدعت سیئہ کی تعریف	4	670/6	مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا	3
691/3	بدعت کا لغوی و اصطلاحی معنی	5	670/6	مشرکین کے بچوں کا دوزخ میں داخل ہونا	4
348/4	بدعت کی اقسام	6	671/6	مشرکین کی اولاد کا اہل جنت کا خادم ہونا	5
369/9			672/6	تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا	6
748/11	(معرکہ) بدر	10		پچھڑا	7
749-754	معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں	1		حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پچھڑے کی	1
11	غزوہ بدر کا مختصر تذکرہ	2	417/7	عبادت کرنا	
72/2	بدر کا معنی اور اس کا جغرافیائی محل وقوع	3			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
693/4	فدیہ لینے کی وجہ سے عتاب کے محال	22	341/2	بدر میں مسلمانوں کا ضعف	4
696/4	بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے جوابات	23	341/2	بدر میں مسلمانوں کی مغلوبیت کے اسباب	5
697/4	مشرکین کے قتل سے جنگی قیدیوں کو مستثنیٰ کرنا	24	343-353/2 558-569/4	جنگ بدر میں قتال ملائکہ	6
	بدر میں بلا اذن مال غنیمت لینے کے باوجود	25	533/4	غزوہ بدر کا خلاصہ	7
699/4	عذاب کا نازل نہ ہونے کا سبب		534/4	غزوہ بدر کے متعلق احادیث	8
702/4	بدر میں رسول اللہ ﷺ کی غیب کی خبر	26	557/4	غزوہ بدر کے دن حضور کا گڑ گڑا کر دعا کرنا	9
704/4	بدر کے قیدیوں سے فدیہ	27	572/4	غزوہ بدر میں اللہ کی امداد کی چھ انواع	10
	حاضرین بدر کو ان کی فضیلت کی وجہ سے	28		غزوہ بدر کی رات مسلمانوں پر غنودگی کا	11
784/11	صف اول میں بٹھانا		573/4	طاری ہونا	
595/11	جنگ بدر میں کفار کی شکست کی خبر	29		غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ کی قیام گاہ	12
596/11	جنگ بدر میں حضور ﷺ کی فتح کی دعا	30	573/4	اور بارش کا نزول	
	بدو دعا	11	576/4	رسول اللہ ﷺ کا مقتولین بدر سے خطاب	13
	اپنے آپ کو اور اپنے اموال کو بدو دعا دینے	1	592/4	کفار بدر کے قتل کی نفی	14
333/5	کی ممانعت		644/4	فتح بدر میں سیدنا محمد ﷺ کی دلیل نبوت	15
	بدکار	12		کفار اور مسلمانوں کی تعداد کم دکھانے کی	16
574/5	بدکاروں کے لیے دنیا کا ظرف ہونا	1	644/4	حکمت	
676/6	بدکاروں کے لیے وعید	2	655/4	مقتولین بدر کی بوقت موت کیفیت	17
	بدگمانی	13	657/4	کفار بدر کا قبضہ فرعون کے مماثل ہونا	18
	بدگمانی دور کرنے کیلئے وضاحت کرنے کا	1		مسلمانوں پر تخفیف کر کے مشکل حکم کو منسوخ	19
841/5	استجاب		691/4	کرنا	
297/11	مسلمان کے متعلق بدگمانی کا حرام ہونا	2		کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی کی	20
298/11	ظن اور گمان بے جواز اور عدم جواز کے محمل	3	691/4	وجوہات	
	بدلہ دینا	14		بدر کے قیدیوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ	21
	دیکھئے "13: جزاء" صفحہ 102	1	692/4	کا صحابہ سے مشورہ کرنا	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				بدلہ لینا	15
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کپڑوں اور آپ کے بالوں سے بیماروں کا شفا یاب ہونا اور دیگر برکتیں	1	603/6	بدلہ لینے میں تجاوز کرنا	1
852/5			604/6	بدلہ کے بجائے صبر	2
	بروج	19		بدلہ نہ لینے میں رسول اللہ ﷺ کی مبارک سیرت	3
252/6	بروج کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	605/6		
255/6	بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	2	619/10	بدلہ لینے اور نہ لینے کی آیتوں میں بظاہر تعارض کا جواب	4
264/8 648/12	بروج کا لغوی و عرفی معنی	3	621/10 624/10	بدلہ لینے کے جواز میں احادیث	5
649/12	بروج کے مصادیق میں اقوال مفسرین	4		بدلہ نہ لینے اور معاف کر دینے کے متعلق احادیث	6
650/12	بارہ برجوں کے معانی	5	622/10		
650/12	ستاروں کی بروج میں گردش	6		بدشگون	16
	سورة البروج	20		دیکھئے ”24: شگون“ صفحہ 155	1
645/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1		برائی	17
645/12	سورة البروج کے مشمولات	2		برائی ہمارے گناہوں کے نتیجہ میں رونما ہوتی ہے	1
645/12	سورة البروج کے متعلق احادیث	3	730/2		
646/12	سورة البروج سے مقصود	4	704/3	برائی کے موجد کو ذمہ لہ سزا	2
662/12	سورة البروج کا اختتام	5	705/3	دوسرے کے جرم کی سزا	3
	برائی سے روکنا	21		برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی نصیحت اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت میں اس کی مثالیں	4
	دیکھئے ”79: امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ صفحہ 69	1	900-904 7		
	بسم الله الرحمن الرحيم	22		برائی کو اچھائی سمجھنے والے اور ان کا شرعی حکم	5
146/1	بسم اللہ کا معنی	1	657/9	عجب الذنب کی تحقیق	6
147/1	بسم اللہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی وجہ	2	659/9		
150/1	بسم اللہ میں رسول ﷺ کی طرف اشارہ	3	503/10	بدی کے متعلق مفسرین کے اقوال	7
151/1	بسم اللہ کے متعلق فقہی بحث	4		برکات مصطفیٰ ﷺ	18

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	بغض	28	151/1	بسم اللہ کا آیت قرآنی ہونا	5
719/7	رسول اللہ ﷺ سے بغض رکھنا	1	152/1	بسم اللہ کا سورہ فاتحہ کی جز نہ ہونا	6
	سورۃ البقرہ	29		بسم اللہ کا سورتوں کے شروع میں ان کی جز نہ ہونا	7
231/1	سورۃ البقرہ کا اجمالی تعارف	1	153/1		
232/1	سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ	2	155/1	بسم اللہ کو نماز میں آہستہ پڑھنا	8
	سورۃ البقرہ کا محل نزول اور آیات و حروف کی تعداد	3	157/1	بسم اللہ کے فوائد و حکمتیں	9
233/1			211/8 550/8	بسم اللہ کے معانی	10
234/1	سورۃ البقرہ کے فضائل	4		حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مکتیب میں بسم اللہ لکھنا	11
1027/1	سورۃ البقرہ کے افتتاح و اختتام میں مناسبت	5	681/8		
1030/1	سورۃ البقرہ آخری دو آیتوں کی فضیلت	6	212/9	بسم اللہ کے اسرار	12
	بلوغت	30		بسیار خوری	23
582/2	لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کا معیار	1	105/4	بسیار خوری کا اسراف ہونا	1
	ملکہ سبا بلقیس	31	105/4	بسیار خوری کی مذمت	2
660.661/8	ملکہ سبا کی تحقیق و تعارف	1	217/7	بسیار خوری کے دینی و دنیوی نقصانات	3
	بلقیس کی حکمرانی سے عورت کی حکمرانی پر استدلال	2	411/7	کھانے سے حد سے زیادہ بڑھنے کا معنی	4
664/8				بشارت	24
	عورت کو مردوں کے کسی بھی ادارہ کی سربراہ بنانا	3	208/10	بشارت دینا کیسا؟	1
667/8				بشر	25
669-672/8 675/8	عورت کو سربراہ مملکت بنانا	4		دیکھئے "85: انسان" صفحہ 70	1
675/8	تحت بلقیس کی صفت	5		بعث بعد الموت	26
679/8	بلقیس کو ہد کا خط پہنچانا	6	838/9	بعث بعد الموت پر کفار کے اعتراض کا جواب	1
687/8	بلقیس کے بھیجے ہوئے ہدیہ کی تفصیل	7	838/9 870/9	بعث بعد الموت پر دلائل	2
	بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہونا	8		بغاوت	27
688/8			352/5	بغاوت کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
380/1	یہود کی بے عملی	4	688/8	تحت بلقیس منگوانے کی وجوہ	9
396/1	بنو اسرائیل پر فرعون کا عذاب	5		حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کا تحت بلقیس	10
400/1	بنو اسرائیل کے لیے سمندر چیرنا	6	689/8	کو حاضر کرنا	
401/1	بنو اسرائیل کی قبولیت توبہ	7		تحت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے	11
404/1	بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر لے جانا	8	691/8	حاضر کرنے کی کیفیت	
405/1	ستر اسرائیلیوں کا دوبارہ زندہ ہونا	9	694/8	بلقیس کے ایمان لانے کی تفصیل	12
405/1	میدان تیبہ میں بنو اسرائیل کی سرگردانی	10	695/8	بلقیس کا نکاح	13
406/1	بنو اسرائیل کا حطہ کو حطہ کہنا	11		سورۃ البلد	32
407/1	بنو اسرائیل پر طاعون کا عذاب	12	744/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
412/1	اسرائیل کی حکومت، یہود پر عذاب کے باوجود	13	744/12	سورۃ البلد کی سورۃ الفجر کے ساتھ مناسبت	2
417/1	بنو اسرائیل کے سروں پر پہاڑ معلق کرنا	14	744/12	سورۃ البلد کے مشمولات	3
419/1	موجودہ بندروں کے مسخ شدہ اسرائیلی ہونا	15	747/12	لا اقسام میں لفظ "لا" کے دو محمل	4
417/1	بنو اسرائیل کی گائے	16	750/12	سورۃ البلد کی تفسیر کی تکمیل	5
435/1	بنو اسرائیل کی تحریف	17	<u>747-752</u> 12	وانت حل بهذا البلد کی تفاسیر	6
754/1	بنو اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کرنا	18		سورۃ بنی اسرائیل	33
877/1	بنو اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف مسلمانوں اور نبی ﷺ کا جہاد کے لیے جانا	19	612/6	سورۃ کا نام	1
881/1	بنو اسرائیل کا تابوت	20	612/6	زمانہ نزول اور سورۃ النحل کی سورۃ بنی اسرائیل سے مناسبت	2
127/3	بنو اسرائیل کی عہد شکنی	21	612/6	سورۃ بنی اسرائیل کے مشمولات	3
145/3	بنو اسرائیل کے انبیاء	22	816/6	اختتامی کلمات	4
146/3	بنو اسرائیل کے بادشاہ	23		بنو اسرائیل	34
146/3	بنو اسرائیل کا اپنے زمانے میں سب سے افضل ہونا	24	363/1	بنو اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں	1
149/3	میدان تیبہ میں بنو اسرائیل	25	363/1	بنو اسرائیل اور اللہ کے مابین عہد	2
			370/1	بنو اسرائیل کی تلپیس اور کتمان حق	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	بنی اسرائیل کو کس زمین کا وارث بنایا گیا تھا؟	45	258/3	بنو اسرائیل کا دوبارہ اندھا اور بہرا ہونا	26
322/8			267/3	تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل پر لعنت	27
771/10	بنی اسرائیل کی فضیلت اور ان کی آزمائش	46	368/3	بنو اسرائیل پر نازل ہونے والا طعام	28
800/10	بنو اسرائیل کو دی گئی نعمتیں	47	283/4	بنو اسرائیل کو مصر اور شام پر قابض کرنا	29
	بغض و عناد کی بناء پر بنی اسرائیل کا حق سے انکار کرنا	48	286/4	بنو اسرائیل نے کون سا سمندر پار کیا تھا؟	30
801/10			288/4	بنو اسرائیل کی ناشکری اور احسان فراموشی	31
	بنو قریظہ	35	334/4	بنو اسرائیل کا پھڑا بنانے اور اس کی پرستش کرنا	32
659/4	بنو قریظہ کی عہد شکنی	1		توبہ قبول کرنے کے باوجود بنو اسرائیل پر عذاب کی وعید	33
352/9	غزوہ بنو قریظہ کا مختصر تعارف	2	348/4		
411/9	غزوہ بنو قریظہ کے متعلق احادیث	3	351/4	ستر اسرائیلیوں کا انتخاب	34
410/9	بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دینا	4	377/4	بنو اسرائیل کے بوجھ اور ان کے طوق کا اٹھانا	35
	غزوہ بنو المصطلق	36		اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں بنو اسرائیل کی نافرمانیاں	36
901/11	غزوہ بنو المصطلق میں منافقین کا مسلمانوں سے جھگڑا کرنا	1	399/4		
	غزوہ بنو قینقاع	37	402/4	نافرمانی پر اصرار کرنے والے اسرائیلیوں کو بندر بنانا	37
900/11	غزوہ بنو قینقاع میں منافقوں کے خلاف سازش کرنا	1	459/5	بنی اسرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محال	38
	غزوہ بنو نضیر	38	461/5	بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور فرعون کا غرق ہونا	39
802/11	غزوہ بنو نضیر	1	410/7	بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلانا	40
803/11	غزوہ بنو نضیر کی مزید تفصیل	2	417/7	بنی اسرائیل کو آزمائش میں ڈالنا	41
	بنو نضیر کے عذاب سے عبرت حاصل کرنے کی تفصیل	3	771/8	بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی وجہ	42
805/11			772/8	بنی اسرائیل کو امامت اور بادشاہت سے نوازا	43
808/11	بنو نضیر کے درختوں کو کاٹنا اور چھوڑ دینا	4		بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی اور فرعون کا تعاقب	44
817/11	اموال بنو نضیر صرف مہاجرین کو عطا فرمانا	5	320/8		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
719/6	اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں	3	831/11	بنو نضیر کو منافقین کا ورغلانا	6
665/10	اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا ہونا محال ہے	4		بھاگنا (میدان جنگ سے)	39
634/10	مذکر و مؤنث کی پیدائش کی علامات	5	589/4	میدان جنگ سے پسائی کی دو جائز صورتیں	1
636/10	بیٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ	6	590/4	اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں سے کم یا دو گنا ہو تو پھر مسلمانوں کا بھاگنا جائز نہیں	2
667/10 703/10	فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں	7	591/4	میدان جنگ سے بھاگنے کا عموم یا خصوص	3
	بیٹا	45		بہتان	40
634/10	مذکر و مؤنث کی پیدائش کی علامات	1	133/4	اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا	1
	بیٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ	2		بھولنا	41
634/10				دیکھئے "18: نسیان" صفحہ 267	1
	بیماری	46		بیع	42
337/8	عام لوگوں کی بیماری کے اسباب	1	1003/1	بیع مطلق و بیع سلم کی تعریف	1
338/8	بنی علیہ السلام اور نیک لوگوں کی بیماری کے اسباب	2	1004/1	بیع سلم کی شرائط	2
339/8	بیماری کے متعلق عارفین کے اقوال	3		پکنے سے پہلے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی بغیر توڑے بیع	3
	بیعت	47	608/3	باغوں میں پھلوں کی مروجہ بیع کے جواز کی صورتیں	4
377/8	جاہل پیروں کی بیعت کا حرام ہونا	1		بیٹھنا	43
649/8	شیخ، امام یا امیر کی بیعت کا ضروری ہونا	2	609/3	کرسی پر بیٹھنے کی تحقیق	1
	حضور ﷺ کا اسلام لانے والی خواتین سے بیعت لینا	3		چارزانو بیٹھنا	2
859/11			929/1		
860/11	حضور ﷺ کی بیعت لینے کی کیفیت	4	930/1		
250/11	اصحاب بیعت رضوان کی فضیلت	5		بیٹی	44
251-255 11	کس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی؟	6	467/6	بیٹیوں کو عار سمجھنے کی مذمت	1
				بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کے متعلق احادیث	2
	سورۃ البینہ	48	468/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
253/8	پانی کی تفسیر	8	901/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
680/11	بیٹھا پانی فراہم کرنے کی نعمت	9	904-906 12	البینہ: ۱، اور البینہ: ۴، میں تعارض کا جواب	2
	پرودہ	3	924/12	سورۃ البینہ کی تفسیر کا اختتام	3
	دیکھئے ”12: حجاب“ صفحہ 111	1		بیوی	49
	پرہیز	4		دیکھئے ”14: زوجہ“ صفحہ 142	1
	قرآن و حدیث سے پرہیز کے ثبوت کے دلائل	1			
510/6				پاک	1
	پرندہ	5	840/9	ہڈی کا پاک ہونا	1
389,390/8 629/8	پرندوں کو پالنے کے متعلق احادیث	1		انسان کے جسم سے الگ ہونے کے بعد	2
	پڑوسی	6	841/9	بالوں کا پاک ہونا	
	دیکھئے ”4: جار“ صفحہ 101	1		بال، ہڈی اور دیگر سخت و ٹھوس اجزاء کی	3
	بل صراط	7	841/9	طہارت میں مذاہب فقہاء	
	بل صراط پر کفار، مومنین اور فساق و صالحین کے احوال کے متعلق احادیث	1		رسول اللہ ﷺ کے فضلات کی طہارت کے متعلق احادیث	4
877/9			842-850/9		
	پناہ طلب کرنا	8		پانی	2
392/10	فتنہ باز لوگوں سے پناہ طلب کرنا	1	107/4	پانی پینے کے آداب	1
1046/12	اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا	2	108/4	کھڑے ہو کر پانی پینا	2
	پوسٹ مارٹم	9		وضو کے بچے ہوئے پانی اور آب زمزم کو	3
185/9	غیر مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کا جواز	1	112/4	کھڑے ہو کر پینا چاہیے	
185/9	مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کا عدم جواز	2	64/6	پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تمثیل کے محامل	4
	پہاڑ	10	365/6	بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغوں کی روئیدگی	5
712/12	پہاڑ میں نشانیاں	1		تمام چیزوں کی پانی سے پیدائش کے بارے میں ایک اشکال کا جواب	6
515/12	قیامت کے دن پہاڑوں کے چھ احوال	2	546/7		
	پیش گوئی	11	547/7	پانی سے ہر چیز کی حیات کے بارے میں سائنس کا نظریہ	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ت		526/8	علم نجوم کی بنیاد پر پیش گوئیاں	1
	تباہ	1	532/8	علم جفر کی بنیاد پر پیش گوئیاں	2
139/7	گذشتہ تباہ ہونے والی بستیاں	1		حساب و کتاب اور سائنسی آلات کے ذریعے پیش گوئی	3
	تبلیغ	2	532/8		
244/3 249/3	تبلیغ رسالت	1	129/9	رومیوں کی ایرانیوں پر فتح کی پیش گوئی	4
267/3	تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل پر لعنت	2		پیشہ	12
415/3	جن لوگوں کو قرآن و حدیث کی تبلیغ کی گئی	3		رزق حلال کی طلب کیلئے کسی بھی پیشہ کی فضیلت	1
403/4	تبلیغ کا فرض کفایہ ہونا	4	639/7		
485/5	رسول اللہ ﷺ نے انتہائی تبلیغ کر دی ہے	5	641/7	بعض پیشوں کو گھٹیا اور باعث عار سمجھنا	2
	کیا حضور ﷺ نے کفار کے طعن و تشنیع کے خوف سے تبلیغ میں کمی کی؟	6	608/9	جائز پیشوں کی فضیلت	3
510/5			608/9	بعض پیشوں کو برا جاننے کی مذمت	4
742/6	تبلیغ میں نرمی اور حسن اخلاق	7		پیوند کاری	13
388/11	کفار کو تبلیغ کرنے سے منع کرنے کی توجیہ	8		ایک انسان کے اعضاء کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوندی کاری کرنا	1
	تبیان القرآن	3	154/9	اپنے جسم کے بعض اعضاء کو نکلوانا یا کٹوانا	2
1055/12	تفسیر تبیان القرآن کی تکمیل اور کلمات شکر	1		تغیر خلق اللہ ہے	
1058/12	تبیان القرآن جلد ثانی عشر کی مفصل ڈائری	2	159/9		
1059/12	تبیان القرآن کی تصنیف کی ڈائری	3	160-169/9	انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی ممانعت	3
	غزوہ تبوک	4		پیشوا	14
135/5	غزوہ تبوک کی تیاری	1		قرآن و حدیث کے مقابلہ میں دینی پیشواؤں کو ترجیح دینا کیسا؟	1
280/5	غزوہ تبوک کی تنگی اور سختی	2	122/5		
	غزوہ تبوک میں ساتھ جانے والوں کی چار قسمیں	3	121/5	احبار اور رہبان کا معنی	2
255/5			126/5	یہودی اور عیسائی علماء کے مال کمانے کے ناجائز طریقے	3
	عقیدہ تثلیث	5		پیدائش	15
192/2 886/2	عقیدہ تثلیث کا ابطال	1	169/6	تمام مخلوق کی پیدائش مبنی بر حکمت ہے	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	تخلیق	10	260/3 261/3	عقیدہ تثلیث	2
442-445	زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کرنے کی تفصیل	1		تجوید	6
10			172/1	مالک اور ملک کی قراءتیں	1
	مدبر	11		تحفہ دینا	7
520/2	مخلوق و خالق میں غور و فکر	1	685/8	ایک دوسرے کو تحفہ دینے کا جواز	1
768/7	غور و فکر کرنے کا محل آیا دل ہے یا دماغ؟	2	195-197/9	معاوضے کی طلب سے کسی کو ہدیہ دینا	2
88/10	مدبر کا معنی	3		تحويل قبلہ	8
	قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا قرآن کی ناقدری کرنا ہے	4	565/1	ابتدائی قبلہ	1
88/10			565/1	تحويل قبلہ کا بیان	2
	قرآن کو غور سے نہ سننے کی وجہ سے کفار کا ہدایت سے محروم ہونا	5	566/1	تحويل قبلہ کے مسائل	3
517/10			567/1	نماز میں ایک طرف منہ کرنے کے اسرار	4
	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے متعلق احادیث	6	576/1	اہل کتاب پر تحويل قبلہ کا بھاری ہونا	5
798/10			577/1	نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا	6
	مدبیر	12	578/1	اہل کتاب کو تحويل قبلہ کے برحق ہونے کا علم	7
195/12	اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر	1	582/1	قبلہ کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت	8
	تر بیت	13	582/1	حضور ﷺ کے لیے اللہ کی ذات کا قبلہ ہونا	9
171/1	اللہ تعالیٰ کی تربیت میں غور و فکر	1		کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کو تین بار ذکر کرنے کی حکمتیں	10
	ترغیب	14	584/1		
117/2	ترغیب کا معنی	1	568/1	استقبال قبلہ کے فقہی مسائل	11
	ترہیب	15		سورۃ التحريم	9
117/2	ترہیب کا معنی	1	97/12	سورۃ کا نام	1
	تزکیہ	16	97/12	سورۃ الطلاق اور سورۃ التحريم میں مناسبت	2
698-700	تزکیہ نفس	1	98/12	سورۃ التحريم کے مشمولات	3
12			133/12	سورۃ التحريم کا اختتام	4
	تسبیح باری تعالیٰ	17			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
712/8	ویڈیو اور ٹی وی کی تصاویر کا شرعی حکم	8	723/6	کون کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے	1
713/8	پاسپورٹ کے فوٹو گراف کی رخصت	9	150/8	جانداروں اور بے جانوں کی تسبیح	2
612/9	تصویروں کا شرعی حکم	10	156/8	کنکریوں، طعام اور پرندوں کی تسبیح	3
	تصدیق	20		تسبیح کرنے والوں کی اقسام، مراتب اور درجات	4
518/11	تصدیق کی اقسام	1	500/9		
	تعظیم رسول ﷺ	21	864/11	اللہ تعالیٰ کی تسبیح کبھی منقطع نہیں ہوتی	5
388/4	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم میں صحابہ کا عمل	1	713/11	اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی اقسام	6
388/4	وصال کے بعد بھی حضور ﷺ کی تعظیم و توقیر	2	704/11	اللہ تعالیٰ کے اسم کی تسبیح کی توجیہات	7
389/4	رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا ادب و احترام	3	341/11	رات کو اٹھ کر تسبیح پڑھنا	8
				کسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا	9
390/4	رسول اللہ ﷺ کا ادب قرآن مجید کے عمل پر مقدم ہے	4	467/11		
	تعلیم/تعلیم	22	683/12	تسبیح کا معنی	10
			1020/12		
177/7	تعلیم و تعلیم کے آداب	1		تصوف	18
257/9				تصوف کے جھوٹے مدعی	1
	تعویذ	23	194/7		
	دیکھئے "48: علاج" صفحہ 183	1		تصویر	19
	تعظیم خداوندی	24	708/8	تصویر بنانے کا شرعی حکم	1
779/9	تعظیم خداوندی قدوس کی تفصیل	1	708/8	جاندار کی تصویر بنانے کی تحریم	2
	تعریض	25	709/8	بے جان کی تصویر بنانے کا جواز	3
				تصویر بنانے کے حکم میں فقہاء شافعیہ و مالکیہ کا نظریہ	4
604/7	جھوٹ سے بچنے کیلئے کلام میں تعریض استعمال کرنا	1	709/8		
606/7	تعریض اور کنایہ کا فرق	2	710/8	تصویر بنانے کے حکم میں فقہاء احناف کا نظریہ	5
606/7	قرآن و احادیث میں تعریض کا استعمال	3	711/8	تصویر بنانے کے حکم میں علماء ازہر کا نظریہ	6
	تعریض کی تعریف اور اس کے ثبوت میں احادیث	4		تصویر بنانے کے حکم میں علامہ غلام رسول سعیدی کا نظریہ	7
901/9			711/8		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
245/1	تقویٰ کے متعلق احادیث	3		تعجب	26
246/1	تقویٰ کے مراتب	4	870/9	تعجب کے معنی	1
285/2	اللہ سے ڈرنے کا حکم	5		سورۃ التغابن	27
287/2	تقویٰ کا معنی	6	909/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
286/2	تقویٰ کے متعلق احادیث	7	909/11	سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن میں مناسبت	2
707/7	تقویٰ کی تعریف اور اس کی ضرورت	8	910/11	مسجات اور آخری چھ سورتوں میں ارتباط	3
147/11	تقویٰ کے مصداق میں متعدد اقوال	9	910/11	سورۃ التغابن کے مشمولات	4
263/11	کلمۃ التقویٰ کے متعلق متعدد اقوال	10	921/11	سورۃ التغابن کا اختتام	5
278/11	تقویٰ کو پرکھنے کا معنی	11		تفسیر کبیر (للامام رازی)	28
149/12	تقویٰ کا بیان	12		مفتی محمد شفیع کانپوری کا تفسیر کبیر کو امام رازی	1
	تقلید	31	916/12	کی تفسیر نہ قرار دینا	
629/1	تقلید کی تعریف	1	917/12	ابوالکلام آزاد کی تفسیر کبیر پر مبہم تقلید	2
733/2	تقلید کا حجت ہونا	2	918/12	تفسیر کبیر کے محاسن	3
341/3	تقلید مذموم اور تقلید محمود	3		تفسیر	29
637/3	تقلید صحیح اور تقلید باطل کا فرق	4	118/1	تفسیر اور تاویل کا لغوی معنی	1
294/5	تقلید شخصی پر دلائل	5	119/1	تفسیر کے اصطلاحی معنی	2
428/6	مسئلہ تقلید پر ہاسنلوا اہل الذکر سے استدلال	6	120/1	تفسیر اور تاویل میں فرق	3
	مذکورہ استدلال پر نواب صدیق حسن خان کے اعتراضات کے جوابات	7	121/1	تفسیر قرآن کی فضیلت پر عقلی دلائل	4
429-432/6	تقلید کا لغوی و اصطلاحی معنی	8	121/1	تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث	5
432/6	قرآن کریم سے تقلید پر استدلال	9	124/1	قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے طبقات	6
433/6	احادیث سے تقلید پر استدلال	10	58/1	تفسیر کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانا	7
434/6	آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے تقلید پر استدلال	11		تقویٰ	30
			242/1	تقویٰ کا صیغہ اور اس کا لغوی معنی	1
			243/1	تقویٰ کا اصطلاحی معنی	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	قصہ یوسف میں تقدیر کے غالب آنے کی مثالیں	7	444/6	غیر مقلد علماء کی عبارات سے تقلید پر استدلال	12
728/5			446/6	تقلید کی ضرورت	13
119/6	قضاء معلق اور قضاء مبرم	8		ایک مقلد کے لیے متعدد ائمہ کی تقلید کا عدم جواز اور تقلید شخصی کا وجوب	14
652/8	تقدیر کا تدبیر پر غالب آنا	9	448/6		
	تقدیر پر وارد ہونے والے اشکالات کے جوابات	10	449/6	تقلید پر امام غزالی کے دلائل	15
965-968/9			450/6	تقلید پر امام رازی و آمدی کے دلائل	16
	منکرین تقدیر کے متعلق احادیث اور ان سے تعلقات کا شرعی حکم	11	451/6	تقلید پر شیخ ابن تیمیہ کے دلائل	17
415/10			451/6	مسئلہ تقلید میں حرف آخر	18
913/11	تقدیر پر ایک مشہور اشکال کا جواب	12	340/7	مقلد کے ایمان کا صحیح ہونا	19
597/11	مسئلہ تقدیر	13	523/7	مسئلہ تقلید	20
597/11	تقدیر کے متعلق علماء اہل سنت کے اقوال	14	151/8	تقلید مخطی اور تقلید مصیب کی تعریف	21
598/11	تقدیر کے متعلق احادیث	15	67/9	عقائد میں اندھی تقلید کا مذموم ہونا	22
71/12	تقدیر کے متعلق قرآن کی آیات	16	273/9	تقلید اور عقیدہ کافر کا فرق	23
72/12	تقدیر کا لغوی و اصطلاحی معنی	17	273/9	عقائد میں تقلید کا جواز یا عدم جواز	24
72/12	تقدیر کا کھوج لگانے کی ممانعت	18	375/10	تقلید کی تحقیق	25
73/12	خلق اور تقدیر کا فرق	19		تقدیر	32
74/12	قضاء معلق اور قضاء مبرم	20	154/5 537/5	مسئلہ تقدیر	1
75/12	تقدیر کے متعلق احادیث	21		جب انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں شقی ہونا لکھ دیا تو پھر معصیت میں اس کا کیا قصور ہے؟	2
770-774 12	جبر	22	625/5	تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کے متعلق احادیث	3
785/12			625/5	قضاء مبرم کو کوئی نہیں ٹال سکتا	4
686/12	تقدیر کے متعلق آیات و احادیث	23	626/5	تقدیر پر ایمان لانا	5
248/12	تقدیر مبرم اور تقدیر معلق	24	626/5	تقدیر میں بحث کرنا	6
249/12	ہدایت اور گمراہی کا اللہ کی تقدیر سے ہونا	25			
	تقسیم کرنا	33	627/5		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
151/10	تکبر کی مذمت میں احادیث	15	323/6	تقسیم کرنے والے	1
287/10	تکبر کی تعریف اور متکبرین کا حشر	16		تقویم	34
734/11	تفاخر کی مذمت میں حدیث	17	716/1	اسلامی تقویم	1
	تکلف	37	132/5	عبادات و معاملات میں قمری تقویم کا اعتبار	2
156/10	تکلف اور محکفین کا معنی	1	328/5	تاریخ کا تعین قمری حساب سے کرنا چاہیے	3
157/10	تکلف اور تصنع کی مذمت میں احادیث	2		تقیہ	35
	سورۃ التکویر	38	112/2	تقیہ کی تعریف، اقسام اور شرعی حکم	1
584/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	113/2	تقیہ کے متعلق شیعہ کا نظریہ	2
584/12	سورۃ التکویر کے مشمولات	2	115/2	تقیہ کے متعلق آئمہ اہل سنت کا نظریہ	3
603/12	سورۃ التکویر کا اختتام	3		تکبر	36
	سورۃ النکاثر	39	340/1 318/4	تکبر کا معنی	1
955/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	340/1	ابلیس کے تکبر کا بیان	2
966/12	سورۃ النکاثر کی تفسیر کی تکمیل	2	739/1	نسلی تفاخر	3
	تلاوت کلام پاک	40	528/2	غرور کا معنی	4
677/9	تلاوت قرآن پاک کے آداب	1	75/4	تکبر کرنے والے کے لیے ذلت اور پستی	5
692/11	جنبی اور حائض کے لیے تلاوت قرآن پاک	2	319/4	تکبر کی مذمت میں قرآنی آیات	6
	تمباکونوشی	41	320/4	تکبر کی مذمت میں احادیث طیبہ	7
305/3	تمباکونوشی کا شرعی حکم	1	321/4	تکبر کی وجہ سے کپڑے منخوں سے نیچے لٹکانا	8
	تہجد	42	322-331/4	بغیر تکبر کے کپڑے منخوں سے نیچے لٹکانا	9
773/6	تہجد کا معنی	1	552/5	تکبر کی مذمت	10
773/6	تہجد کی رکعات	2	395/6 716/6	تکبر کی مذمت کے متعلق احادیث	11
774/6	تہجد کا نفل ہونا	3	396/6	متکبرین کی مغفرت	12
472/8	تہجد کی نماز کی فضیلت و اہمیت	4	715/6	اکڑا کر چلنا	13
			114/7	بیویوں اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا	14

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
84/2	کوئی بھی توبہ سے مستغنی نہیں	4	183/10	تہجد کی نماز کے فضائل	5
86/2	استغفار کی فضیلت	5	337/12	نماز تہجد پڑھنے کے حکم میں مذاہب فقہاء	6
375/2	توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی نوید	6	338/12	تہجد کی فرضیت کا منسوخ ہونا	7
378/2	توبہ کی تعریف، ارکان اور شرائط	7	338/12	نماز تہجد پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعات	8
379/2	گناہوں کو معین کر کے توبہ کرنا	8	347/12	تہجد پڑھنے کی فضیلت میں احادیث	9
610/2	جہالت سے گناہ کرنے پر توبہ	9	354/12	تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی توجیہ	10
611/2	موت کے وقت توبہ کی مقبولیت	10	353/12	نماز تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟	11
349/4	توبہ کی حقیقت	11		توسل	43
611/4	ابولبابہ انصاری کی توبہ	12	187/1	وسیلہ کا معنی	1
200/5	جلاس بن سدید کی توبہ	13	188/1	انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ	2
246/5	ابولبابہ کی توبہ	14	196/1	توسل بعد از وصال پر اعتراضات کے جوابات	3
278/5	نبی ﷺ کا توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قبول کرنے کی توجیہ	15	198/1	توسل بعد از وصال کے متعلق علماء کرام کے نظریات	4
279/5	مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کرنے کا محمل	16	448/1	حضور ﷺ کے وسیلہ سے دعا کا قبول ہونا	5
281/5	اللہ تعالیٰ کا بار بار توبہ قبول فرمانا	17	171/3	وسیلہ بمعنی ذریعہ تقرب	6
282/5	حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی توبہ قبول ہونے کی تفصیل	18	171-173/3	انبیاء اور اولیاء کے وسیلہ سے دعا کرنا	7
494/5	استغفار کے حکم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ	19	174/3	وسیلہ بمعنی درجہ جنت	8
157/6	توبہ کرنے کی ترغیب میں احادیث	20	174/3	دعا اذان میں حدیث شفاعت کی تحقیق	9
105/10	توبہ کی اقسام	21	175/3	دعا اذان کے بعض دیگر کلمات کی تحقیق	10
139/10	تائب کے لیے بری جگہ اور برے لوگوں کو چھوڑ دینے کا استحباب	22	176/3	وسیلہ بمعنی مرشد کامل	11
285/10	توبہ کی ضرورت کیوں؟	23		توبہ	44
424/10	توبہ کب قبول نہیں ہوتی؟	24	617/1	توبہ کا معنی	1
				قرآن و سنت میں توبہ کا بیان	2
				توبہ کے قبول ہونے کی شرائط	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
315/4	تورات کے احکام کا درجہ بدرجہ ہونا	15		توبہ کا لغوی و عربی معنی اور اس کے متعلق	25
341/4	تورات کی تختیوں کو زمین پر ڈالنا	16	591/10	احادیث	
316/4	الواح تورات میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ ﷺ کی امت کی خصوصیات	17	114/12	حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کا حکم دینے کی توجیہ	26
351/4	تورات کی تختیاں ٹوٹی تھیں یا نہیں	18	406/12	توبہ نہ کرنا	27
	احکام تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے	19	127/12	توبۃ النصوح کی تعریف	28
882/11	یہود کی مذمت		128/12	توبہ کرنے سے گناہوں کا معاف ہونا	29
	موجودہ تورات کے متن میں حضور ﷺ کے متعلق بشارتیں	20		تورات	45
882/11	توکل	46	38/2	توراة کا معنی	1
	توکل کا معنی	1	38/2	پرانے عہد نامے کے مشمولات	2
431/2	توکل کے متعلق قرآن کی آیات و احادیث	2	39/2	اصل تورات کے مشمولات	3
432/2	طیبہ		39/2	موجودہ تورات کے متعلق یہودی، عیسائی اور منکرین کا نظریہ	4
433/2	توکل کی صحیح تعریف	3	40/2	تورات کا تلف ہو جانا	5
435/2	کیا اسباب کو ترک کرنا توکل ہے؟	4	40/2	تورات کی نشاۃ ثانیہ	6
438/2	کیا اشیاء کو جمع کرنا توکل کے خلاف ہے؟	5		موجودہ تورات کے موضوع اور محرف ہونے کے ثبوت میں داخلی شہادتیں	7
	اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا	6	41/2	اصل تورات کے متعلق قرآن کے ارشادات	8
439/2	توکل کا معنی و مفہوم	7	43/2	موجودہ تورات کا محرف ہونا	9
227/4 420/6 111/9	توکل پر توکل	8	44-52/2 129/3 191/3 584/3	تورات میں تحریف	10
229/4	توکل کی تعریف پر اشکال و جواب	9	197/3	موجودہ تورات میں آیت رجم	11
81/6	توکل کا غلط مفہوم	10	201/3	قرآن کی صداقت	12
82/6	توکل کا صحیح مفہوم	11	313/4	تورات کی تختیوں کا مادہ، تعداد اور تاریخ نزول	13
153/7	کیا سفر میں زاوراہ لینا توکل کے خلاف ہے؟	12	314/4	تورات میں ہر چیز کی تفصیل	14

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
312/5	سورۃ التوبہ کی آخری آیت کی فضیلت	11	468/8	توکل کی تحقیق	13
	سورۃ التوبہ کی آخری آیت آیا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قرآن میں مندرج ہوئی یا حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے؟	12	469/8	حق توکل کا معنی	14
			469/8	کیا اسباب کو ترک کرنا توکل میں شامل ہے؟	15
405/9			470/8	توکل کی تعریف میں صوفیاء کے اقوال	16
	توہین رسالت	49	287/10	متوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا	17
	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق احادیث و آثار	1	198/12	اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تلقین	18
79/5			70/12	توکل کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	19
				تواضع	47
	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء	2	75/4	تواضع کرنے والے کے لیے سربلندی	1
79/5			552/5	تواضع کی تعریف	2
	شریعت کی توہین کرنے والا تورات کی تصریح کے مطابق واجب القتل ہے	3		سورۃ التوبہ	48
85/5			35/5	سورۃ التوبہ کے اسماء اور وجہ تسمیہ	1
	نبی ﷺ کی شان میں توہین کا لفظ کہنا کفر ہے اگرچہ توہین کی نیت نہ ہو	4	36/5	سورۃ التوبہ کے اسماء کے متعلق احادیث	2
184/5			37/5	سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال کی باہمی مناسبت	3
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توہین کرنے والے کی شدید مذمت	5	38/5	سورۃ التوبہ کا زمانہ نزول	4
1033/12			39/5	سورۃ التوبہ کے نزول کا پیش منظر و پس منظر	5
	توحید باری تعالیٰ	50	41/5	سورۃ التوبہ کے مسائل و مطالب	6
361/5				سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی توجیہات	7
	توحید کے اثبات پر دلائل	1	43/5	سورۃ التوبہ سے قبل بسم اللہ پڑھنے میں مذاہب ائمہ	8
36/6	سورج و چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	2		سورۃ التوبہ کے مدنی ہونے سے بعض آیتوں کا استثناء	9
	زمینوں، درختوں اور پھلوں سے توحید باری پر استدلال	3	45/5		
39/6			47/5		
41/6	زمین کے مختلف طبقات سے توحید باری پر استدلال	4			
	مختلف ذائقوں سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	5	309-312	سورۃ التوبہ کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے یا نہیں؟	10
42/6			5		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
762/9	دن اور رات کے توارد میں توحید باری تعالیٰ پر استدلال	20	354,461 479,722/6 380/7 238,674	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	6
837/9	توحید کی ترغیب	21	859/9		
135/10	اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے سے اس کی توحید پر استدلال	22	366/6	زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نشانی	7
223/10	اللہ تعالیٰ کی توحید پر آسان اور عام فہم دلیل	23		سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نشانی	8
509/10	توحید باری تعالیٰ پر دلیل	24	367/6		
659/10	ازواج کی تخلیق سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	25	379/6	اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال	9
660/10	چوپایوں اور کشتیوں کی تخلیق سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	26	696/7	صرف توحید کی وحی کی جانے پر اعتراض کا جواب	10
788/10	آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	27	252/8	بارش کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل	11
789/10	انسانوں، حیوانوں اور درختوں سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	28	303/8	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل	12
789/10	رات اور دن کے اختلاف سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	29	715/8	زمین کی خصوصیات سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	13
789/10	توحید کے مراتب	31	65/8	عقیدہ توحید کی تعلیم	14
789/10	بارش سے روئیدگی اور ہواؤں سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	30	135/9	انسان کے اپنے نفس اور خارجی کائنات سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	15
806/10	توحید کے مراتب	31		انسان اور بشر کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	16
149/11	حضور ﷺ پہلے سے اللہ کی توحید کے عالم تھے	32	145/9		
667/11	تخلیق انسان سے توحید باری پر استدلال	33		کائنات کی دیگر کئی اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	17
374/11	انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں	34	146-150/9 238/9	توحید کی فضیلت	18
375/11	عالم کبیر کی نشانیوں کے مقابلے میں عالم صغیر کی نشانیاں	35	760/9	زمین کی روئیدگی سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	19

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
664/4	اس دور میں تیر اندازی کے مصداق ایٹمی میزائل ہیں	2	568/11	اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل	36
665/4	ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے تفکر کرنا اور اس کیلئے سائنسی علوم حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے	3	779/12	رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی توحید پر دلائل	37
667/4	جہاد کے لیے بندھے ہوئے گھوڑوں کی فضیلت اور اس دور میں اس کے مصداق	4	780/12	نر اور مادہ کو پیدا کرنے میں اللہ کی توحید کی نشانی	38
669/4	دشمنان اسلام کو مرعوب کرنے کی حکمت	5	711/12	اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں	39
ط					
	ٹیکس	1	713/12	اللہ تعالیٰ کا خوب صورت چیزوں سے اپنی توحید پر استدلال نہ فرمانا	40
127/7	ٹیکس لگانا	1	685/12	اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اس کی توحید پر دلیل	41
129/7	ٹیکس لگانے کا وجوب	2	578-580 12	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	42
131/7	حکومت کا ٹیکس کی آمدنی کو ذاتی تصرف میں لانا	3		تور یہ	51
625/10	انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسوں کی تحقیق	4	901/9	تور یہ کی تعریف اور اس کے ثبوت میں احادیث	1
ث					
	ثابت قدمی	1		تیمم	52
398/2	سابقہ امتوں کی مصائب میں ثابت قدمی	1	684/2	تیمم کی تعریف اور شرائط	1
775/7	آپ کو پیغام حق سنانے میں ثابت قدم رکھنا	2	682/2	جبھی کے لیے جواز تیمم	2
	حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ	2	685/2	تیمم کے مسائل	3
202/5	حضرت ثعلبہ رضی اللہ کو منافق کہنا	1	114/3	تیمم کا طریقہ اور دیگر احکام	4
203/5	حضرت ثعلبہ رضی اللہ کا بدری صحابی ہونا	2		سورۃ التین	53
204-209/5	حضرت ثعلبہ کو منافق قرار دینے والی روایت کا ضعف	3	868/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	ثواب	3	868/12	سورۃ التین کے مشمولات	2
312/2	ثواب کا فضل ہونا	1	873/12	سورۃ التین کی تفسیر کی تکمیل	3
				تیر اندازی	54
			663/4	تیر اندازی کے فضائل	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				ثواب کے درجات	2
357/6	گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں سے علیحدہ ذکر کرنا	13	445/2	مومنوں کو ثواب عطا فرمانے کا وجوب اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی وجہ سے ہے	3
357-359/6	گھوڑوں کا گوشت حرام ہونا	14	480/5	ثواب کا بیان	4
360/6	پالتوں گدھوں اور خچروں کا گوشت	15	62/9	ثواب میں اضافہ	5
389/8	جانوروں کو پالنے کے متعلق احادیث	16	894/12	قوم شمود	4
389,390/8	موذی جانوروں کو قتل کرنا	17		دیکھئے "2: حضرت صالح علیہ السلام" صفحہ 159	1
652/8	تربیت دینے کے لیے جانوروں کو مارنا	18			
662/10	جمال کا معنی اور مویشیوں کا جمال	19			
356/6 663/10	جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت	20			
	جاہل / جہالت	2			
382/1	جاہل کا وعظ، تقریر اور مرید کرنا	1	803/2	جانور	1
472/1	علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا حکماً جہل ہے	2	633/7	مویشیوں کے کان چیرنا	1
645/3	جہل کے مراتب	3	634/7	مویشیوں میں اللہ کے حقوق	2
151/8	جہل مرکب	4	634/7	مویشیوں میں بندوں کے حقوق	3
612/8	جہل کی مذمت	5	634/7	مویشیوں کو گنا بھن کرنے کی اجرت	4
585/9	انسان کے جاہل ہونے کی توجیہ	6	635/7	رہن رکھے ہوئے مویشیوں سے استفادہ	5
	جادو	3	636/7	مویشیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا	6
461/1	سحر کا معنی	1	35/3	جانوروں کے ذبح کرنے پر اعتراض کا جواب	7
462/1	سحر کے دلائل مع اعتراضات کے جوابات	2		جس جانور کو درندوں نے کھا لیا ہو، اس کا حکم	8
465/1	سحر کے شرعی حکم کے متعلق مذاہب اربعہ	3	56/3	حرام جانور	9
468/1	ہاروت ماروت پر سحر	4	84/3	جانوروں کے حساب و قصاص کے متعلق احادیث	10
257/4	سحر کی تعریف	5	451/3	جانوروں کے انسانوں سے وجوہ مماثلت	11
257/4	سحر اور معجزہ میں فرق	6	452/3	بکریوں، گایوں، اور اونٹوں کے مقاصد و وظائف خلقت	12
259/4	سحر اور ساحر کا شرعی حکم	7	355/6		
			662/10		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
842/11	جاسوس کا شرعی حکم	1	259/4	سحر کے سیکھنے اور سکھانے کا حکم	8
300/11	ملک کے داخلی و خارجی استحکام کے لیے محکمہ جاسوسی قائم کرنا	2	260/4	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ	9
	جان بچانا	6	262/4	جادوگروں کا ایمان لانا	10
537/5	جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تعریف	1	391/7	جادوگروں کی تعداد	11
	سورۃ الجاثیہ	7	393/7	جادوگروں کو لاثھیاں ڈالنے کا حکم دینا	12
784/10	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	395/7	ساحر کا میاب نہیں ہوتا	13
784/10	سورۃ الجاثیہ کے مشمولات	2	396/7	سحر کی تعریف و شرعی حکم	14
813/10	سورۃ الجاثیہ اور سورۃ البقرہ، دونوں میں کانوں اور دلوں پر مہر لگانے کے الگ الگ محامل	3	397/7	جادو سے کسی چیز کی حقیقت کا تبدیل ہونا	15
825/10	جاثیہ کی تاویلات	4	399-401 7	فرعون کے جادوگروں کا ایمان لانا	16
826/10	سورۃ الجاثیہ کا اختتام	5	310/8	سحر کو صرف تخیل اور مسمریزم قرار دینا کیسا؟	17
	جبریہ	8	311/8	سحر کا لغوی و اصطلاحی معنی	18
674/2	جبریہ کا رد اور ایمان میں تقلید کا کافی نہ ہونا	1	313/8	سحر اور کرامت میں فرق	19
	جبر و قدر	9	313/8	سحر کے واقع ہونے کے دلائل	20
459-470	جبر و قدر کے مسئلہ میں مفسرین و محدثین کی تقاریر	1	315/8	سحر کی اقسام	21
12			316/8	فرعون کے ساحروں کا ایمان لانا	22
770-774	جبر و قدر	2	317/8	فرعون کا اپنے جادوگروں پر الزام تراشی کرنا	23
12			319/8	جادوگروں کا اول المؤمنین ہونا	24
785/12			730-734/6	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو کیا جانا	25
			735/6	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو کا اثر	26
	جبلت	10	1048-1050 12	رسول اللہ ﷺ پر جادو کا اثر	27
427/8	جبلت کا معنی	1		جار (پڑوسی)	4
427/8	طبیعت، خصلت، خلق اور عادت کا فرق	2	671/2	پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنا	1
428/8	جبلت کے متعلق احادیث	3		جاسوس	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
181/10	جزاء کا مدار اعمال اور اسباب دونوں پر ہے	4	434/8	خصلت و عادت کا معنی	4
821/10	مؤمنوں اور کافروں کی جزاء کے متعلق احادیث	5	434/8	کیا عادت کا بدلنا ممکن ہے یا نہیں؟	5
95/11	نیکو کار اور بدکار کی پوری پوری جزاء	6		حضرت جبریل علیہ السلام	11
	جس عمل میں زیادہ مشقت ہو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے	7	352/6	ملائکہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کا مراد ہونا	1
718/11			303/7	حضرت جبریل علیہ السلام کا زیادہ نہ آنا	2
636/11	نیکی کی جزاء کی تفسیر میں احادیث و آثار	8	441/8	حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہنا	3
442/11	کفار کی جزاء اور مومنوں کی جزاء میں امام رازی کی نکتہ آفرینی	9	442/8	کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن کے علاوہ دیگر احکام کی بھی آپ ﷺ پر وحی نازل کی؟	4
939/12	مومن اور کافر کے اعمال کے بدلہ کا ضابطہ	10		حضرت جبریل علیہ السلام کی شدت قوت اور نبی ﷺ کا حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبار دیکھنا	5
532/12	جزاء اور عطا میں بظاہر تعارض کا جواب	11			
190/12	آخرت میں مسلمین اور مجرمین کی جزاء	12	487/11		
	جزیہ	14	594/12	حضرت جبریل علیہ السلام کی چھ صفات کا تذکرہ	6
115/5	جزیہ کا معنی	1		حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کی اتباع کا معنی	7
116/5	جزیہ کن سے وصول کیا جائے؟	2	412/12		
117/5	جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء	3		حضرت جبریل علیہ السلام کے فعل کو اللہ سبحانہ کا فعل قرار دینا	8
	جلد بازی	15	412/12		
585/7	عجلت کا انسان کی فطرت میں شامل ہونا	1		حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کے معانی پوچھنے کی ممانعت	9
585/7	عجلت کی بناء پر کفار کی مذمت	2	413/12		
	جمعة المبارک	16		جدال	12
56/5	جمعہ کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ	1		دیکھئے "31: جھگڑنا" صفحہ 107	1
58/5	جس جمعہ کو یوم عرفہ ہو اس دن حج اکبر ہونا	2		جزاء	13
59/5	جمعہ کے دن حج کے متعلق اقوال مفسرین	3	327/5	عدل کے ساتھ جزاء دینے کی توجیہ	1
60/5	جمعہ کے دن حج کے متعلق اقوال فقہاء	4		جب ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اس پر جزاء و سزا کیوں؟	2
598/6	مسلمانوں کا جمعہ کے دن ہدایت کو پانا	5	98-100/7		
874/11	جمعہ کے متعلق احادیث	6	278/8	رحمان کے مقبول بندوں کی جزاء	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
874/11	سورۃ کا نام	1	885/11	جمعہ کی وجہ تسمیہ	7
875/11	سورۃ الجمعہ کا زمانہ نزول	2	886/11	نماز جمعہ کے متعلق احادیث	8
875/11	سورۃ الجمعہ کے مشمولات	3	887/11	نماز جمعہ کے ضروری مسائل	9
893/11	سورۃ الجمعہ کا اختتام	4	888/11	جمعہ کی سعی، اذان اول پر لازم ہے یا ثانی پر؟	10
	جمہوریت	21		عید اور جمعہ دونوں ایک دن میں جمع ہو جائیں تو دونوں کو پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟	11
85/10	موجودہ مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کا فرق	1	889/11	نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنا	12
	جنت	22	890/11	جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل	13
317/1	جنت کا معنی، اس کی ترغیب اور اس کی طلب	1	891/11	خطبہ جمعہ کے دوران صحابہ کے اٹھ کر چلے جانے کی توجیہ	14
320/1	جنتی عورتیں اور حوریں	2	892/11		
	جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہوں وہ عورت جنت میں کس کے ہمراہ ہوگی؟	3		جماعت	17
321/1	جن مردوں اور عورتوں کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا	4	371/1	جماعت کے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء	1
	جنت میں ناپاک خواہشات کی عدم موجودگی	5	373/1	نوافل کی جماعت کا شرعی حکم	2
322/1	جنت کی طلب کی دعا کرنا	6		جماع	18
741/1	جنت طلب کرنا کیسا؟	7		عورتوں سے عمل معکوس کرنا	1
500/2	اہل جنت کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا	8	411/8	جنسی عمل کا تذکرہ کنایہ سے کرنا	2
719/2	دخول جنت کا سبب اللہ کا فضل ہے نہ کہ اعمال کا	9		تہذیب اور شائستگی کا تقاضا ہے کہ جماع اور مباشرت کو کنایہ سے تعبیر کیا جائے	3
408/3	اہل جنت کے دلوں سے دنیا کی رنجش کا محو ہونا	10	509/9		
140/4	جنت میں دخول کا حقیقی سبب اللہ کا فضل ہے	11		جمادات	19
141/4	دخول جنت کے لیے اعمال کو سبب قرار دینا	12		جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر قرآن سے استدلال	1
143/4	دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی نعمتیں	13	579/9	جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر احادیث سے استدلال	2
190/5			580/9	جمادات سے کلام کرنے کی توجیہ	3
			581/9		
				سورۃ الجمعہ	20

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				جنت کی تخفیف	14
727/7	جنت میں مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات کی تخصیص	33	194/5		
			330/5	اہل جنت کی گفتگو کا معمول	15
859/7	کن صفات کا حامل جنت میں داخل ہوگا؟	34	353/5	جنت کے داعی کے متعلق احادیث	16
859/7	الفردوس کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	35	649/3 354/5	جنت کو دار السلام کہنے کی وجوہات	17
860/7	جنت کے وارث ہونے کا معنی	36		حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی کو جنت عطا کرنے کا اختیار تھا	18
222/8	جنت میں ہر چاہی ہوئی چیز کا ملنا	37	876/5		
360/8	جنت کی صفات	38	86/6	جن صفات کی بناء پر جنت عطا کی جاتی ہے	19
361/8	جنت کس جگہ پر واقع ہے؟	39		جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہیے	20
557/8	جنت کی تعریف و تحسین	40	86/6		
563/8	جنت کی تخفیف نہ کی جائے	41		جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مجتمع ہونا بھی نعمت ہے	21
615/8	اپنے آپ کو جنتی کہنا	42	87/6		
107/9	جنت کے بالا خانوں کا مستحق کون؟	43		جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق احادیث	22
140/9	جنت میں سماع کی تحقیق	44	88/6		
	اہل جنت کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا درجہ	45	104/6	جنت کی صفات	23
337/9				جنت نہ بنائے جانے کے متعلق معتزلہ کے دلائل اور ان کا رد	24
508/9	جنت کا حصول اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے	46	104/6		
796/9	جنت کی نعمتوں سے اہل جنت کا محظوظ ہونا	47	178/6	جنت میں سلام کا معنی	25
797/9	جنت میں حوروں اور نیک خواتین کی صفات	48	103/7	جنت کی نعمتیں	26
798/9	جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا	49	106/7	جنت اور اس کے مطلوب کا معنی	27
	اہل جنت پر اللہ کا سلام اور اس کی عظمت و انفرادیت	50		جنت الفردوس کا مقام	28
800/9			219/7		
127/10	جنت عدن کے متعلق احادیث و آثار	51	219/7	جنت کے فضائل	29
128/10	جنت کے دروازے کھلے رکھنے کے اسرار و نکات	52	221/7	جنت کو کم تر کہنا	30
129/10	متقین کے لیے جنت کی نعمتیں	53	302/7 316/7	جنت اور جنتیوں کی صفات	31
			487/7	جنت کی نعمتوں کی قدر دلانا	32

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	جس عورت کے متعدد شوہر ہوں وہ جنت میں کس کے پاس رہے گی؟	73	213/10	جنت کے بالا خانے	54
639/11			254/10	اہل جنت کے دلوں کا حسد اور کینہ سے پاک ہونا	55
336/11	اہل جنت کے لیے غیر مترقبہ نعمتیں	74	778/10		
448/11	جنت کے پھلوں اور گوشت کی صفات	75	361/10	جنت کی نعمتیں اور اس میں اللہ کا دیدار	56
448/11	اہل جنت کے مخمور ہونے کی کیفیات	76		ایک فریق کا جنتی اور دوسرے فریق کا دوزخی ہونا	57
449/11	مسلمان کی صفات اور ان کے مصداق	77	545/10		
450/11	اہل جنت کا باہمی مکالمہ	78	727/10	جنت کی وراثت کی توجیہ	58
919/12	مؤمنین صالحین کو جزاء میں دائمی جنت عطا فرمانا	79	781/10	اہل جنت کی دائمی نعمتیں	59
	مؤمنین صالحین اور مؤمنین تائبین کو ایک سے زائد جنت دینا	80		شہداء اور صالحین کے لیے دخول جنت میں آسانیاں	60
920/12			138/11		
	کوئی مسلمان اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ نہ کرے	81	145/11	جنت میں انواع و اقسام کے مشروبات	61
923/12				جنت میں دخول کے بعد مغفرت کے ذکر کی توجیہات	62
710/12	جنت میں لغویات نہ سننے کی وجوہ	82	145/11		
710/12	جنت کے چشمے، گلاس، فرش اور تکیے	83	735/11	حصول جنت کا حقیقی اور ظاہری سبب	63
630/12	جنت میں ابرار کی نعمتیں	84	658/11	جنت کے پرندوں کی کیفیت	64
613/12	جنت کا ثواب	85	661/11	جنت کی بیویوں، کیلوں اور درختوں کی صفات	65
563/12	جنت کی صفات کے متعلق احادیث	86	662/11	اہل جنت کی بیویوں کی کیفیات	66
531/12	اہل جنت پر نوازشیں	87	659/11	حوروں کا حسن و جمال	67
447/12	جنت میں ابرار کو ملنے والے نعمتیں	88	628/11	دو جنتوں کے مصداق میں احادیث و آثار	68
	جنت میں چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال	89	632/11	جنت کے چشموں کی کیفیت	69
448/12			633/11	جنت کے بستروں اور پھلوں کی کیفیت	70
449/12	جنتی لڑکوں کے دائمی ہونے کی توجیہ	90		جنت کے درختوں، چشموں اور پھلوں کی نعمت	71
450/12	جنتیوں کی سلطنت	91	637/11		
210/12	جنت کی بلندی اور اس کی نعمتوں کی تفصیل	92	638/11	آیا جنت میں مؤمنوں کی بیویاں زیادہ حسین ہوں گی یا جنت کی حوریں؟	72

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
109/11	جنات کا قرآن سن کر رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا	19		جن	23
114/11	آیا اطاعت گزار جنات کو ثواب ہوگا یا نہیں؟	20	653/3	جنات کے لیے رسولوں کے ذکر کی توجیہ	1
634/11	جنات کا جنت میں داخل ہونا	21	655/3	مومن جن جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں؟	2
633/11	انسان عورتوں کے ساتھ جنات کا جماع کرنا	22	656/3	جنات کے دخول جنت کے متعلق علماء کی آراء	3
393/11	جنات کی وجہ تخلیق	23	656/3	مسلمان جنوں کا جنت میں داخل ہونا یا نہ ہونا	4
271/12	الجن کا لغوی و اصطلاحی معنی	24		جنات کا انسانوں کو دیکھنا اور انسانوں کا ان کو دیکھنا	5
272/12	جنات کے متعلق فلاسفہ اور مفکرین کی آراء	25	91/4	جنات کا انسانوں پر تصرف	6
274/12	جنات کے متعلق مفسرین کی آراء	26	93/4	انسان کے اعضاء پر جنات کے تصرف کی نفی	7
275-280 12	کیا حضور ﷺ نے جنات کو دیکھا تھا؟	27	177/6	انسانوں پر جنات کے تسلط کا رد	8
280/12	انسان کے جسم میں جنات کا تصرف	28	288/6	جنات پر رسول اللہ ﷺ کا تصرف	9
281/12	جنات کا اپنے جرائم کا اعتراف کر کے ان سے برأت کا اظہار کرنا	29	645/7	جنات کا نبی ﷺ کی شریعت کا متحمل ہونا	10
283/12	فرشتوں کی باتوں کو جنات سے محفوظ رکھنا	30	645/7	جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کرنا	11
283/12	جنات کے فرقے	31	646/7	جنات کا آپس میں اور انسانوں کے ساتھ نکاح	12
	سورۃ الجن	24	864-870/9	جنات کا فرشتوں کی باتیں سننا	13
267/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1		جنات کا نماز فجر میں رسول اللہ ﷺ سے قرآن سننا	14
268/12	سورۃ الجن کے مشمولات	2	110/11	اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کے مدعیان کے محامل	15
332/12	سورۃ الجن کا اختتام	3	963/9	لیلۃ الجن میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے یا نہیں؟	16
312-317 12	سورۃ الجن آیت نمبر ۲۶ کی تفسیر	4		لیلۃ الجن کی مختلف روایات میں تطبیق	17
	نماز جنازہ	25		جنات کے قول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہونے کی وجوہ	18
389/2	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز جنازہ	1	111/11		
532/2	غائبانہ نماز جنازہ	2	112/11		
238/10	رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت	3	113/11		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
309/3	جوئے کے دینی و دنیاوی خرابیاں	7	240/10	عام مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت	4
714/5	لاٹری اور قمار بازی کے متعلق تعزیرات پاکستان	8	242-249 10	نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا	5
131/9	جوئے سے جیتی ہوئی رقم صدقہ کرنا	9		جنون	26
	جوامع الکلم	29	602/9	جنون کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
165/8	جوامع الکلم کی مثال	1		جنگِ جمل	27
	جھوٹ	30		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اصلاح کے قصد سے	1
287/1	جھوٹ کی تعریف مع شرعی حکم	1	428/9	بصرہ روانہ ہونا	
287/1	جھوٹ کے عذاب سے متعلقہ احادیث	2		قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ کے	2
288/1	جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع	3		تعاقب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بصرہ روانہ	
	جان، مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا	4	429/9	کرنا	
288/1	شعر اور مبالغہ میں جھوٹ بولنا	5		قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سازش کر کے	3
289/1	تعریض اور توریہ میں جھوٹ بولنا	6	430/9	بصرہ میں مسلمانوں کے مابین جنگ کرادینا	
316/1	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا محال ہونا	7		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا	4
280/6	جھوٹ کی قباحت	8	434/9	جنگِ جمل میں مسلمانوں کے خون بہنے پر غم اور افسوس کرنا	
151/8	تکذیب کی تعریف	9	287/11	جنگِ جمل کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ	5
901-904/9	ضرورت اور مصلحت کے وقت جھوٹ بولنا	10	289/11	جنگِ جمل کے متعلق حرفِ آخر	6
599/9	صدق اور کذب کی صحیح تعریفات	11		جواء	28
571/11	سابقہ امتوں میں مکذبین پر عذاب	12	777/1	جوئے کی تعریف اور اس کا حرام ہونا	1
	جھگڑنا	31	778/1	لاٹری اور انعامی بانڈز کا شرعی حکم	2
	جدال کا معنی اور اس کا قرآن و حدیث میں	1	209/2	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قمار کی وضاحت	3
137/7	اطلاق		305/3	جوئے کی تعریف اور اس کا حرام ہونا	4
709/7	جدال کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حکم	2	306/3	معمہ، لاٹری اور سٹاک کا شرعی حکم	5
317/10	جدال کی اقسام	3	307/3	جو سر اور شطرنج	6

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
971/4	جہاد کی فضیلت کے متعلق احادیث	19		جہنم	32
673/4	جہاد کی حکمت اور کفار کو قتل کرنا اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی رحمت کے منافی نہیں ہے	20		دیکھئے ”19: دوزخ“ صفحہ 129	1
674/4	جہاد کے فرض عین ہونے کی صورتیں	21	717/1	جہاد/ جنگ	33
675/4	جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورتیں	22	717/1	اجازت جہاد کی آیت	1
676/4	جہاد کے مباح ہونے کی شرائط	23	718/1	بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو جہاد میں قتل کرنا	2
677/4	جہاد کے وجوب کی شرائط	24		ہجرت سے قبل قتال کرنا	3
86/5	فتح مکہ کے لیے جہاد کرنے کے فوائد	25	720/1	حرم میں ابتداءً قتل کا ممنوع ہونا اور کفار سے مدافعت جہاد کا جائز ہونا	4
98/5	اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کعبہ کو آباد کرنے سے افضل ہے	26	761/1	جہاد کی تعریف اور اس کی اقسام	5
136/5	جہاد کے لیے نکلنے کا وجوب	27		جہاد کرنے میں عزت اور نہ کرنے میں ذلت ہے	6
143/5	جہاد کی اقسام	28	761/1	جہاد کے درجات اور اس پر اجر و ثواب	7
149/5	منافقین کا جہاد کے لیے نکلنا رب تعالیٰ کو ناپسند ہونے کے باوجود ان کی مذمت کرنا	29	874/1	جہاد کی تحریک	8
196/5	منافقوں کے خلاف جہاد کی توجیہ	30	935/1	مشروعیت جہاد پر اعتراض کا جواب	9
292/5	جہاد کا تبلیغ اسلام کے لیے فرض کفایہ ہونا	31	411/2	کیا جہاد کی نیت نہ کرنا نفاق ہے؟	10
300/5	قریب کے کافروں سے جہاد کی ابتداء	32	722/2	جہاد کی تیاری اور اس کی طرف رغبت کرنا	11
805/7	جہاد کا حق ادا کرنے کی تفسیر	33	723/2	اجر و ثواب کے لیے جہاد کرنا	12
252/8	جہاد کبیر	34	723/2	مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا	13
471/10	جہاد بالنفس اور جہاد اکبر کے متعلق احادیث	35	724/2	مسلمانوں اور کافروں کی باہمی جنگ	14
133/11	کن کافروں کے متعلق جہاد کا حکم ہے؟	36		ترغیب جہاد کے متعلق قرآن و حدیث کے ارشادات	15
133/11	کفار کا خون بہانے کے بعد ان کو گرفتار کرنا	37	724/2		
135/11	جہاد کا حکم کب ختم ہوگا؟	38	766/2	بلا عذر جہاد میں شریک نہ ہونا	16
	جہاد اور قتال کی فرضیت سے مسلمانوں کا خوش اور منافقوں کا غمگین ہونا	39	767/2	عذر کی وجہ سے جہاد کرنا	17
156/11			670/4	جہاد کی فضیلت کے متعلق قرآنی آیات	18

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	چاندی	2		جہاد سے روگردانی پر منافقوں کے عذر کو رد کرنا	40
722/10	چاندی کے برتنوں کا حرام ہونا	1	156/11		
723/10	چاندی کے کام والے کپڑوں کا جواز	2	176/11	جہاد کی ترغیب اور زبوں حالی کی وجوہ	41
724/10	چاندی کے ظروف کی تفصیل	3	178/11	جہاد میں مال خرچ کرنے کی فضیلت	42
451/12	چاندی کے کنگن	4	866/11	بلا ضرورت جنگ کی صفوں کو توڑنا	43
448/12	جنت میں چاندی کے برتن	5	245/11	سخت جنگجو قوم کے متعلق متعدد اقوال	44
	چشمے	3		کمزور اور معذور لوگوں کیلئے جہاد میں عدم شرکت کی رخصت	45
295/6	چشموں کی تفسیر	1	248/11		
	چغلی کھانا	4	262-263	اگر کفار کے خلاف جہاد کرنے سے مسلمانوں کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟	46
183/12	چغلی کھانے پر وعید	1	11		
	چلنا	5		جو لوگ کسی بھی طریقے سے اصلاح کو قبول نہ کریں ان کا آخری حل ان کے خلاف جہاد ہے	47
268/9	آہستہ اور بھاگ کر چلنا	1	519/11		
	چوری کرنا	6		جھوٹی نبوت کے دعویدار	34
	دیکھئے "19: سرقہ" صفحہ 146	1	593/3	مسیلہ اور اسود العینی کے احوال	1
	چھٹی	7	350/10	مدعی نبوت کو قتل کرنا یا نہ کرنا	2
599/6	جمعہ کے دن چھٹی	1			
600/6	اتوار کے دن چھٹی	2			
601/6	جمعہ کے دن چھٹی کرنے پر دلائل	3	534/8	چاند نظر آنے کی سائنسی و تکنیکی وجوہ	1
	اتوار کی چھٹی کے حامیوں کے دلائل اور ان کے جوابات	4	770/9	چاند کی منازل	2
891/11				سورج اور چاند میں سے کسی کا دوسرے پر سبقت نہ کرنا	3
892/11	جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل	5	771/9		
	چھپکلی	8	764/12	چاند کن چیزوں میں سورج کے تابع ہے؟	4
610/7	چھپکلی کو مارنے کا حکم	1		رات اور دن کی سلطنت کا چاند سے زیادہ ہونا	5
	چھینک	9	765/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
130-131/7	حاکم کی اطاعت کے وجوب پر دلائل	4	651/9	چھینک کا نعمت اور بیماری ہونا	1
180/8	حکمران دنیوی امور کے منتظم ہیں	5		چیونٹی	10
634/8	سلطان کے متعلق احادیث	6	628/8	چیونٹیوں کے متعلق احادیث	1
635/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت	7	637/8	نملہ کا معنی	2
381/9	سربراہ مملکت کا فرض ہے کہ وہ مؤمنوں کی زندگی اور موت میں ان کا کفیل اور ضامن ہو	8	637/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ڈرانے	3
804/9	حکام کی اطاعت کا محمل	9	642/8	والی چیونٹی	
	حاجت روائی	4		چیننا	11
390/6	انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی	1	50/10	چیچ اور چنگھاڑ کے تین محمل	1
	حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا	2		ح	
391/6	اولیاء اللہ سے حاجت روائی	3		سورة الحاقہ	1
392/6	حبیب النجار	5	199/12	سورة کا نام وغیرہ	1
738/9	حبیب النجار کا تذکرہ	1	200/12	سورة الحاقہ کے مشمولات	2
742/9	اپنے لیے فطرنی اور قوم کے لیے والیہ ترجعون کہنا	2	204/12	الحاقہ کا معنی	3
744/9	قوم کا حبیب نجار کو قتل کر دینا	3	217/12	سورة الحاقہ کا اختتام	4
748/9	حبیب نجار کی طرف قوم کی نسبت کرنا	4		حضرت حاطب رضی اللہ عنہ	2
748/9	بستی والوں کو ایک زبردست چیخ سے ہلاک ہونا	5		کس عورت کے ذریعے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے خطر روانہ کیا تھا؟	1
	حج و عمرہ	6		حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے مواخذہ کیوں نہیں کیا گیا؟	2
609/1	حج و عمرہ کا معنی	1		حاکم	3
610/1	شوال میں عمرہ کرنے والے پر حج فرض ہونا	2	651/3	ظالم حکومت کا سبب عوام کا ظلم ہے	1
612/1	صفا اور مروہ میں سعی گناہ نہیں، فرمانے کی وجہ	3		سلطان کا معنی اور علماء کی سلطنت کا بادشاہوں کی سلطنت سے زیادہ قوی ہونا	2
			617/5	سلطان اور سلطان مبین میں فرق	3
			618/5		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
581/2	قرآن و سنت سے حج کا ثبوت	2	613/1	صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں مذاہب اربعہ	4
582/2	نا اہل کو ذمہ داری سونپنا	3	737/1	فرضیت حج کی اقسام و تاریخ	5
	حج	8	725/1	عمرہ کرنے کا طریقہ	6
198/3 206/3	شرائع سابقہ کا حج ہونا	1	726/1	حج کرنے کا طریقہ	7
	حج اکبر	9	737/1	حج تمتع کا بیان	8
54/5	حج اکبر کے مصداق کے متعلق احادیث	1	737/1	حج کے مہینے	9
55/5	حج اکبر کے مصداق کے متعلق مذاہب فقہاء	2	737/1	فرضیت حج کے اسباب	10
55/5	حج اکبر کے متعلق مختلف اقوال میں تطبیق	3	737/1	ایام حج میں فحش باتیں اور گناہ وغیرہ کرنا	11
55/5, 58/5	حج اکبر کا معنی	4	738/1	حج کے لیے سفر خرچ تیار کرنا	12
59/5	جمعہ کے حج کے متعلق مختلف اقوال	5	738/1	حج کے دوران روزی کمانا	13
	سورۃ الحج	10		حج کرام کے اجر و ثواب اور ان سے مصافحہ کرنے کے متعلق احادیث و آثار	14
231/6	سورۃ کا نام اور الحج کا معنی	1	746/1	قیام منیٰ کی مدت	15
232/6	الحج کا مصداق	2	746/1	حج کی تعریف، شرائط، فرائض، واجبات، سنن، آداب اور ممنوعات و مکروہات	16
233/6	الحج کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح	3	274/2	حج کے فضائل	17
234/6	سورۃ الحج کے مقاصد	4	275/2	حج کی استطاعت	18
342/6	سورۃ الحج کا اختتام	5	278/2	قدرت کے باوجود حج نہ کرنا	19
	سورۃ الحج	11	279/2	مال حرام و حلال سے حج کرنا	20
701/7	سورۃ الحج کی وجہ تسمیہ	1	280/2	قیامت تک کون کون حج کرے گا؟	21
702/7	سورۃ الحج کے کئی یاد دہنی ہونے میں اختلاف	2	737/7	حج میں تاخیر کے جواز سے حضرت ابن عباس کی تفسیر پر اعتراض اور اس کے جوابات	22
702/7	سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی باہمی مناسبت	3	907/11	حج (قوی تصرف سے روکنا)	7
703/7	سورۃ الحج کے مشمولات	4		حج کا معنی	1
832/7	سورۃ الحج کا اختتام	5	581/2	حج کا معنی	1
	حج	12			
185/8	بوڑھی عورتوں کا حج	1			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	سورۃ الحجرات	13		عورت کے بے پردہ نکلنے کے متعلق قرآن و سنت کی تصریحات	2
272/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	667/8		
272/11	سورۃ الحجرات کے مسائل و مقاصد	2		پردہ کے لزوم کے متعلق قرآن و سنت کی تصریحات	3
310/11	سورۃ الحجرات کا خاتمہ	3	668/8		
	حدود و قصاص	14		اجنبی مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا	4
542/1	حرم میں حدود و قصاص لینا	1	668/8		
654/1	غلام اور ذمی کے قصاص کا بیان	2	669/8	عورتوں کا مردوں سے کلام کرنا	5
657/1	جماعت سے ایک شخص کا قصاص لینا	3	525/9	آیت حجاب نازل ہونے کے متعلق احادیث	6
658/1	سلاطین اور حکام سے قصاص	4	527/9	نزول حجاب کی تاریخ	7
660/1	قصاص لینا حکومت کا منصب ہے	5		دینی و دنیاوی ضرورت کی بناء پر عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا	8
660/1	کیفیت قصاص اور آلہ قتل	6	527/9		
662/1	ولی مقتول کا معاف کرنا	7		حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو گھر سے باہر نکلنے پر دو بار ٹوکنا	9
662/1	دیت کی مقدار اور عاقلہ کا بیان	8	528/9		
603/2	عورتوں کی بدکاری پر ابتدائی سزا	9	528/9	عورتوں سے پردہ کی اوٹ سے سوالات کرنے کا حکم	10
605/2	زانی کے خلاف استغاثہ کرنے والی لڑکی پر حد	10		خواتین پر ان کے محارم اور باندیوں سے پردہ لازم نہیں	11
608/2	عمل قوم لوط پر حد یا تعزیر	11	531/9		
415/8	حدود کے نفاذ کا رحمت ہونا	12	558/9	جلباب کی تحقیق	12
	حدیث	15	558/9	چہرہ ڈھانپنے کی تحقیق	13
706/2	احادیث صحیحہ، اقوال صحابہ پر مقدم ہیں	1	559/9	عورت کے حجاب کے متعلق آیات	14
709/2	ائمہ و فقہاء کے اقوال پر احادیث کو مقدم رکھنا	2	559/9	ذٰلک ادنیٰ ان یعرفن سے چہرہ کا حجاب	15
181/3 453/6	حجیت حدیث	3	863/9	بوڑھی عورتوں کا حجاب	16
	خبر واحد کے حجت ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	4	564/9	عہد رسالت میں حجاب و نقاب کے معمولات	17
363/5			565/9	عہد تورات میں حجاب و نقاب کے معمولات	18
38/4	احادیث کا حجت ہونا	5	565/9	چہرے کے حجاب پر شبہات اور ان کے جوابات	19

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
166-169/3	حدود کا کفارہ	8	183/4	چالیس احادیث کی تبلیغ کرنا	6
	حرام	19	185/4	حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی شرائط	7
631/1 706/1	حرام کھانے کا وبال	1	92/8	حدیث افک سے استنباط شدہ مسائل	8
	حرام کیے ہوئے مردہ جانوروں میں سے	2	97/8	حدیث افک پر اعتراضات کے جوابات	9
631/1	مستثنیات		446/9	کتب احادیث مقبولہ کا حجت ہونا	10
634/1	سطح آب پر آنے والی مردہ مچھلی	3		صریح حدیث پر عمل کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کی توجیہات	11
635/1	بہائے ہوئے خون کا حرام ہونا	4	556/10		
637/1	حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت	5	101/12	صحیحین کی دو روایتوں کے تعارض کا جواب	12
706/1	مال حرام سے صدقہ کرنے کا شرعی حکم	6		سورۃ الحدید	16
721/1	حرمت والے مہینوں کا بیان	7	707/11	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	ممانعت قتال کا حرمت والے مہینوں میں	8	707/11	سورۃ الحدید کا مکی یا مدنی ہونا	2
765/1	منسوخ ہونا		710/11	سورۃ الحدید کی فضیلت	3
957/1	حرام مال سے صدقہ کا وبال	9	710/11	سورۃ الحدید کے مشمولات	4
643/2	مال حرام کی انواع و اقسام	10	761/11	سورۃ الحدید کا اختتام	5
72/3	ضرورت کی بناء پر حرام اشیاء کا استعمال	11		حروف	17
84/3	حرام جانور	12	792/9	تاء کی اقسام	1
	قرآن و حدیث میں حرام کیے ہوئے طعام کی تفصیل	13		حراہ	18
677/3			162/3	حراہ کا معنی و تعریف	1
683/3	اللہ کے حرام کیے کاموں کی تفصیل	14	162/3	حراہ کا رکن	2
683/2	شرک کا حرام ہونا	15	162/3	حراہ کی شرائط	3
684/3	والدین کے ساتھ بدسلوکی کا حرام ہونا	16	163/2	حراہ کے جرم کی تفصیل	4
685/3	قتل اولاد کا حرام ہونا	17	164/3	ڈاکو کے فقط ڈرانے کی سزا	5
686/3	بے حیائی کے کاموں کا حرام ہونا	18	165/3	ڈاکو کے صرف مال لوٹنے کی سزا	6
686/3	قتل ناحق کا حرام ہونا	19	165/3	ڈاکو کا قتل کرنا اور مال لوٹنا	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
330/7	طہ	3	689/3	یتیم کے مال میں بے جا تصرف کا حرام ہونا	20
551/8	طس کے اسرار	4	690/3	ناپ تول میں کمی کا حرام ہونا	21
770/8	طسم کا معنی	5	690/3	ناحق بات کا حرام ہونا	22
212/9	الم کے اسرار	6	691/3	اللہ سے بد عہدی کا حرام ہونا	23
305/9	الم کے نکات	7	224/4	ڈرا دھمکا کرنا جائز رقم بنو رنا حرام ہے	24
712/9	بعض سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات ذکر کرنے کی حکمت	8	551/4	مال حرام سے نجات کے طریقے	25
713/9	حروف مقطعات کا معنی و مفہوم	9		حرام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا عدم جواز	26
36/10	ص کے معانی و محامل	10	557/5		
315/10	حم کا معنی	11	665/7	حرام بمعنی واجب	27
431/10			877/7	حرام کمائی سے کھانا	28
741/10					
538/10	حم ہ عسق کی تاویلات	12		حرمت والے مہینے	20
39/11	حم	13	36/3	حرمت والے مہینے	1
312/11	ق	14	340/3	بحیرہ وغیرہ کی حرمت	2
164/12	نون اور قلم کے معانی	15		حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کا منسوخ ہونا	3
	حسد	23	64/5		
488/1	حسد کی تحقیق	1	132/5	حرمت والے مہینوں کا بیان اور ان کا شرعی حکم	4
488/1	حسد کے متعلق احادیث	2	133/5	مشرکین کا حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنا	5
490/1	حسد کے مراتب	3		حرص	21
490/1	حسد کے اسباب	4	805/6 113/7	حرص کی مذمت	1
491/1	حسد کا علاج	5		حرص کے پیدائشی وصف ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	2
677/5	کسی کو ضرر سے بچانے کے لیے دوسرے کا عیب بیان کرنے کا جواز	6	229/12		
677/5	حسد کے خطرہ سے نعمتوں کو چھپانا	7		حروف مقطعات	22
678/5	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کا پیشگی علم ہونا	8	240/1	حروف مقطعات کے علم کی تحقیق	1
			250/7	کھبعض	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
429/8	حسن اخلاق کے متعلق احادیث	1	688/5	حسد، رشک اور منافست کی تعریفیں	9
430/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق حسنہ	2	689/5	حسد نہ کرنے کی فضیلت	10
504/10	حسن اخلاق کے متعلق احادیث	3	690/5	حسد مذموم	11
958/12	حسن اخلاق میں کثرت طلب کرنا	4		حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد	12
165/12	حسن اخلاق کی تعلیم و تاکید	5	688/5	ہی ان کے تمام گناہوں کی جڑ تھا	
	رسول اللہ ﷺ کے محاسن اخلاق کے متعلق	6	691/5	حسد ایک نفسیاتی بیماری ہے	13
166/12	احادیث		692/5	حسد کے متعلق احادیث	14
165/12	خلق اور خلق کا معنی	7		حسد کی تعریف، شرعی حکم اور اس کے متعلق	15
179-182 12	وانک لعلی خلق عظیم کی تفسیر	8	1050/12	احادیث	
	سورۃ الحشر	28		حساب	24
798/11	سورۃ کا نام	1	516/3	قیامت کے دن جلد حساب	1
798/11	سورۃ الحشر کے مشمولات	2	520/3	حساب کی کیفیت	2
836/11	سورۃ الحشر کا اختتام	3	521/3	نعمتوں کی کتنی مقدار پر حساب	3
	حشرات الارض	29	521/3	حساب کو آسان کرنے کا طریقہ	4
494/6	حشرات الارض کو مارنے کا شرعی حکم	1	84/6	سخت حساب کا معنی	5
389/8	حشرات الارض کو قتل کرنا	2	638/12	آسان حساب کا معنی	6
	حشر	30	638/12	آسان حساب کے متعلق احادیث	7
100/4	انسانوں کے حشر کی کیفیت	1	528/12	حساب کی امید نہ رکھنے کی توجیہات	8
132/4	نیک مسلمانوں کا حشر	2		حسرت	25
143/4	حشر کے دن کفار کی توبہ	3	752/9	حسرت کا معنی	1
187/4	حشر کے دن مردوں کو زندہ کرنا	4		حسن سلوک	26
325/5	حشر اجساد پر دلائل	5	708/6	حسن کا عقلی ہونا	1
329/5	منکرین حشر کے احوال	6	848/11	غیر متحارب کفار کے ساتھ حسن سلوک کرنا	2
329/5	حشر پر ایمان لانے والوں کے احوال	7		حسن اخلاق	27

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
659/9	بنجر زمین کی زرخیزی سے حشر و نشر پر استدلال	26	354/5	محشر میں مومنین کی عزت و سرفرازی	8
762/9	دن اور رات کے توارد میں حشر اجساد پر دلائل	27	356/5	محشر میں کفار کی ذلت و رسوائی	9
839/9	منکرین محشر کے شبہات اور ان کے جوابات	28	622/5	کیا حشر کے دن لوگوں کا مطلقاً باتیں کرنا ممنوع ہے؟	10
87/10 393/10 817/10	حشر و نشر کے ثبوت پر دلائل	29	623/5	کیا لوگ حشر کے دن سعید اور شقی میں منحصر ہوں گے؟	11
513/10	حشر و نشر کے امکان پر دلیل	30	623/5	لوگوں کے سعید اور شقی ہونے کے متعلق احادیث	12
658/10	بارش نازل کرنے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر استدلال	31	43/6	انکار حشر کا کفر ہونا اور اس کی سزا	13
667/11	تخلیق انسان سے حشر و نشر پر استدلال	32	415/6	کفارہ حشر و نشر کو محال کہنا	14
345/11	قبروں سے باہر نکلنے کی کیفیت	33	416/6	حشر و نشر کے امکان اور وقوع پر دلائل	15
346/11	گناہگاروں کے حشر کی کیفیت	34	671/7	عام لوگ حشر میں بے لباس جبکہ شہداء لباس کے ساتھ اٹھیں گے	16
347-353 11	بندہ کا جن گناہوں پر خاتمہ ہو، ان ہی گناہوں میں قیامت کے دن اس کو اٹھایا جانا	35	672-676 7	آیا حشر میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا یا نبی ﷺ کو؟	17
514/12	حشر کے دن لوگوں کا فوج در فوج آنا	36			
209/12	لوگوں کا محشر میں تین بار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جانا	37			
	حقوق العباد	31			
842/1	عورتوں کے مردوں پر حقوق	1	677/7	کیا قیامت کے دن برہنہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟	18
847/1	مردوں کے عورتوں پر حقوق	2	712/7	کائنات کے امکان سے حشر و نشر پر استدلال	19
849/1	عورت پر مرد کی خدمت	3	893-894 7	حشر کے وقوع میں مشرکین کے شبہات	20
	اللہ کے کرم سے حقوق العباد بھی معاف ہو سکتے ہیں	4	720/8 748/8	حشر و نشر کا ثبوت	21
594/7			747/8	حشر کے دن کفار کے کفر و شرک پر زبرد تو بیخ	22
	حقیقت	32	62/9 137/9	حشر کا ثبوت	23
500/1	حقیقت کا بیان	1	644/9	روز محشر کفار کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجہ	24
173/7	حقیقت کی تعریف	2	644/9	روز محشر کفار کی خواہشیں	25

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضرت حلیمہ	37		حق	33
	(حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن)		641/9	حق و باطل کا فرق	1
	حضرت حلیمہ کا جنت میں حضور ﷺ کے نکاح میں ہونا	1	40/11	حق کا معنی و مراد	2
132/12				حکمت	34
	حمد	38	964/1	حکمت کی تعریف و اقسام	1
160/1 649/9	حمد کے لغوی و اصطلاحی معنی	1	964/1	حکمت کے متعلق احادیث	2
161/1	تمام تعریفوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا مستحق ہونا	2	964/1	حکمت کے مصداق	3
162/1	اللہ تعالیٰ کی کما حقہ حمد سے مخلوق کا عاجز ہونا	3	242/9	حکمت کے معانی و تعریفات	4
162/1	اللہ کی حمد کرنے کے احوال و واقعات	4	243/9	حکیم لقمان کی حکمت آمیز باتیں	5
164/1	اللہ تعالیٰ کی حمد کی فضیلت	5		سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی حکمت آمیز احادیث	6
165/1	خود اپنی حمد و ثنا کرنے کی شرعی حیثیت	6	244/9		
167/1	دوسرے کے سامنے اس کی حمد و ثنا کرنا	7	702/9	اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دینے کی حکمتیں	7
168/1	منہ پر تعریف کرنے کا جواز	8	60/10	حکمت کی تعریفات	8
690/2	اپنی پاکیزگی و فضیلت بیان کرنا	9	580/11	حکمت بالغہ کے محال	9
41/7	اللہ کی حمد کرنے کا طریقہ	10		حکومت	35
	آخرت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے چھ مقامات	11		دیکھئے "3: حاکم" صفحہ 110	1
595/9				حلال	36
	حمد کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد کی اقسام اور حمد و شکر کی ادائیگی کا طریقہ	12	628/1	حلال کا معنی	1
596/9			957/1	حلال کمائی کی مدح	2
526/11	خود ستائی کی ممانعت	13	274/3	حلال چیزوں سے اجتناب کی ممانعت	3
1020/12	حمد کی تعریف	14	280-282/3	حلال کو حرام کرنا	4
	حمل	39	284/3	بیوی سے کہنا "تو مجھ پر حرام ہے" کا شرعی حکم	5
			642/3	حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا شرعی حکم	6
			877/7	حلال کمائی سے کھانا	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
779/10	حور کا معنی اور جنت میں حوروں سے عقد کا محمل	2	55/6	رحم میں کمی اور زیادتی کے محامل	1
780/10	دنیاوی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟	3		حمل کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت	2
659/11	حوروں کا حسن و جمال	4	56/6	میں مذاہب فقہاء	
638/11	آیا جنت میں مؤمنوں کی بیویاں زیادہ حسین ہوں گی یا جنت کی حوریں؟	5		سورۃ حَمَّ السَّجْدَةِ	40
640/11	حوروں کے متعلق سید مودودی کے انوکھے نظریہ پر بحث و نظر	6	427/10	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	حوارین	43	427/10	سورۃ حَمَّ السَّجْدَةِ کا زمانہ نزول	2
179/2	حوارین کا معنی و مصداق	1	429/10	سورۃ حَمَّ السَّجْدَةِ کے مشمولات	3
	حضرت حواء علیہا السلام	44	529/10	سورۃ حَمَّ السَّجْدَةِ کا خاتمہ	4
343/1	حضرت حواء علیہا السلام کی خلقت کا بیان	1		غزوة حنین	41
	حیاء	45	107/5	وادی حنین کا محل وقوع	1
324/1	حیاء کا معنی اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت	1		اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری	2
	حیلہ	46	107/5	نبی ﷺ کی اہل حنین سے جہاد کی تیاری	3
424/1	حیلہ کی تعریف اور اس کی اقسام	1	107/5	نبی ﷺ کا غزوة حنین کے لیے روانہ ہونا	4
831/5	قرآن و سنت میں حیلہ	2	108/5	بعض نو مسلم صحابہ کا حنین کے راستے میں ذات انواط کی تمنا کرنا	5
423/1	فقہاء کے بعض حیلے	3	108/5	حنین میں ابتدائی شکست اور اس کے اسباب	6
424/1	اسقاط حیلہ	4	109/5	غزوة حنین میں کامیابی و کامرانی	7
825/5	حیلہ کے جواز کی تحقیق	5	110/5	یوم حنین میں فرشتوں کا نزول	8
826-828	حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے امام ابوحنیفہ پر اعتراضات اور ان کے جوابات	6	110/5	اہل حنین کو عذاب دینے کا معنی	9
5				اہل حنین میں سے ہوازن اور ثقیف کا اسلام قبول کرنا	10
829/5	حیلہ کے جواز پر قرآن و سنت سے دلائل	7	111/5		
831/5	حیلہ کے جواز میں معترضین کے منشاء غلطی کا ازالہ	8		حور	42
	حیات	47	884/9	حوروں کو پوشیدہ اندوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی توجیہ	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حیات النبی ﷺ	49	595/1	حیات کا معنی	1
227/10	حضور ﷺ کی حیات کے ثبوت میں احادیث	1	595/1	برزخ میں حیات	2
229-235	حضور ﷺ کی حیات کے متعلق مستند علماء	2	596/1	اولیاء اللہ کی جسمانی حیات	3
10	کی تصریحات		596/1	شہداء کی حیات	4
235/10	اجسام مثالیہ کا تعدد	3	598/1	انبیاء علیہم السلام کی حیات	5
				انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت	6
			387/6		
	خارجی	1	569/11	حیات کی مختلف تعبیریں	7
161/5	خارجیوں کے ظہور کا سبب	1	139/12	حیات کا معنی	8
161/5	خارجیوں کے متعلق اہل سنت کا نظریہ	2	557/12	حیات بعد الہمات پر استدلال	9
162/5	خارجیوں کی علامت	3	507/12	حیات بعد الہمات پر کفار کا شبہ اور اس کا جواب	10
332/10	خوارج کی تعریف اور ان کا مصداق	4	406/12	حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا	11
333/10	خوارج کے متعلق احادیث	5	943/1	حیات بعد الموت اور صدقہ میں مناسبت	12
	خاموش	2	947/1	حیات کا معنی	13
269/7	خاموشی کا روزہ رکھنا	1	328/1	مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل	14
	خاک نشین	3	116/11	حیات بعد الموت پر دلائل	15
758/12	خاک نشین کے مصداق	1	373/11	حیات بعد الہمات کو کفار کے بعید سمجھنے کی وجہ	16
	خاندانی منصوبہ بندی	4	668-669	پہلی بار پیدا کرنے کے بعد تھکنے کا باطل ہونا	17
662/3	خاندانی منصوبہ بندی کی ترغیب اور تشہیر کا شرعی حکم	1	11	حیض	48
663/3	ضبط تولید	2	314-318	حیض کے حکم کا شان نزول	1
	خبر واحد	5	11	حائضہ سے مباشرت	2
363/5	خبر واحد کے حجت ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	1	785/1	حیض کا معنی	3
	ختم نبوت	6	785/1	ایام حیض	4
			786/1	حیض، نفاس اور استحاضہ میں مبتلا خواتین کے مسائل	5
			787/1		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				ختم نبوت پر دلیل	1
403/9	سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ملنا	1	277/1	حضور ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق آیات	2
404/9	حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب	2	461/9	حضور ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق احادیث	3
405-408	سورۃ توبہ کی آخری آیت آیا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قرآن میں مندرج ہوئی یا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے؟	3	463/9	احادیث ختم نبوت کی صحیح تعداد	4
9			470/9	نبی ﷺ کے بعد مدعی نبوت کی تصدیق کرنا	5
408/9	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	474/9	منکرین ختم نبوت کا اجمالی جائزہ	6
433/11	حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب	5	475/9	غلام احمد قادیانی کا ختم نبوت پر ایمان و اصرار	7
			481/9	۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت	8
	خسارہ	11	482/9	۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت	9
551/12	خسارہ کی تفسیر میں دو اقوال	1		کیا اگر آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ زندہ رہتے تو نبی بن جاتے؟	10
	خشوع و خضوع	12	483/9	ختم نبوت کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب	11
388/1 450/9	خشوع کا معنی	1	486/9	لانی بعدی میں لانی کمال کے لیے ہے	12
862/1	خشوع و خضوع کا حکم	2	488/9		
842/7	الخشوع کا لغوی معنی	3		خدمت	7
843/7	الخشوع کا اصطلاحی معنی	4		ملکی اور جنگی معاملات میں کفار سے خدمت لینا	1
843/7	الخشوع کے درجات	5	224/3		
844/7	قرآن میں الخشوع کے درجات	6		خراج	8
844/7	الخشوع کے متعلق لفظاً و معنی احادیث	7		دیکھئے "29: عشر" صفحہ 178	1
846/7	الخشوع کے متعلق آثار صحابہ و اقوال تابعین	8		خرچ کرنا	9
848-850/7	نماز میں خشوع و خضوع کے وجوب پر دلائل	9		دیکھئے "99: انفاق فی سبیل اللہ" صفحہ 75	1
851/7	خشوع کے فوائد	10		حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ	10
851/7	نماز میں خشوع کرنے والوں کی چند مثالیں	11			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
358/1	حضور ﷺ کا حقیقت میں خلیفہ اعظم ہونا	3	727/11	خشوع و خضوع کی تعریف	12
169-171	آیت استخلاف کا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ مخصوص نہ ہونا	4		خشیت الہی	13
8				دیکھئے "25: خوف خدا" صفحہ 122	1
171-174	آیت استخلاف کا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ مخصوص ہونا	5		خصائص مصطفیٰ ﷺ	14
8				وہ چیزیں جو فقط آپ ﷺ پر فرض ہیں امت پر نہیں	1
174-179	آیت استخلاف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بارہ امام یا امام مہدی کا مراد ہونا یا نہ ہونا	6	517/9	وہ اشیاء جو صرف آپ ﷺ پر حرام ہیں امت پر نہیں	2
8					
665/8	خلافت و امامت کی تعریفات	7	518/9	وہ اشیاء جو صرف آپ ﷺ کے لیے حلال ہیں امت کے لیے نہیں	3
666/8	اس دور میں خلیفہ مقرر کرنا	8	519/9	انبیاء سابقین کے اعتبار سے آپ ﷺ کے خصائص	4
76/10	خلیفہ کا معنی	9		حضرت خضر علیہ السلام	15
77/10	انسانی معاشرہ میں خلیفہ کی ضرورت	10		حضرت خضر علیہ السلام کا نام، لقب اور کنیت	1
	انبیاء علیہم السلام کا عموماً اور سیدنا محمد ﷺ کا خصوصاً خلیفۃ اللہ ہونا	11		حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہنے کی وجہ	2
78/10				حضرت خضر علیہ السلام کا نبی ہونا	3
	خلیفہ کا خواہش کی اتباع کرنا عذاب شدید کا موجب ہے	12		حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ تھے یا انسان؟	4
79/10				حیات حضرت خضر علیہ السلام	5
80/10	خلافت علی منہاج النبوت کی تحقیق	13		حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب	6
80/10	آیت استخلاف کی تحقیق	14		حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کا تختہ توڑنا	7
81/10	خلافت کی تعریف	15		بچہ کو قتل کرنا	8
82/10	خلافت کی شرائط	16		خلیفہ/ خلافت	16
83/10	خلافت منعقد کرنے کے طریقے	17		خلیفہ کی تعریف و اقسام	1
85/10	خلیفہ کو منتخب کرنے والوں کے لیے شرائط	18		حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ	2
	خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم	17			
765/7	خلفائے راشدین کی فضیلت	1	334/1		
	خمر و دیگر منشیات	18	336/1		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	غزوہ خندق	21	773/1	خمر کی قرآن میں تحریم	1
	اللہ تعالیٰ کا کفار کو غزوہ خندق سے بے نیل	1	775/1	خمر کی حدیث میں تحریم	2
409/9	مرام لوٹانا			خمر کی تعریف میں مذاہب ائمہ اربعہ کے نظریات	3
	خواہش	22	776/1	شراب کی تحریم کے متعلق احادیث	4
803/2	جھوٹی آرزو	1	297/3	شراب کی حقیقت	5
	خودکشی	23	298/3	شراب کا بعینہ حرام ہونا	6
644/2	خودکشی کرنا کیسا؟	1	299/3	نشہ آور مشروب کی قلیل و کثیر مقدار	7
645/2	خودکشی کرنے والے کے لیے عذاب	2	300/3	انگریزی دواؤں اور پرفیوم کا شرعی حکم	8
645/2	خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ	3	300/3	شراب نوشی پر وعید	9
	خون	24	303/3	خمر کی حد کا بیان	10
52/3	خون کے شرعی احکام	1	304/3	بھنگ اور افیون کا شرعی حکم	11
	خوفِ خدا	25	304/3	سکون آور دواؤں کا استعمال	12
313/3	خشیتِ الہی کا ذکر	1	305/3	شراب کے دینی و دنیوی نقصانات	13
510/4	خوفِ خدا سے مرنے والے کے لیے دو جنتیں	2	308/3	تحریمِ خمر کی تاریخ	14
547/4	خوفِ خدا کے متعلق قرآنی آیات	3	313/3	سکر کا معنی	15
548/4	خوفِ خدا کے متعلق احادیث و آثار	4	486/6	سکر کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات	16
427-432/5	خلفائے راشدین کا خوفِ خدا	5	487/6	خمر کی تعریف اور اس کا حکم	17
432/5	امامِ اعظم کا خوفِ خدا	6	488/6	خمر کا بعینہ جبکہ بقیہ مشروبات کا بقدر نشہ حرام ہونا	18
462/6	ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟	7			
598/7	غیب میں ڈرنے کا معنی	8	490/6		
575/8	رسولوں کا اللہ سے ڈرنا یا نہ ڈرنا	9		خمس	19
577-580/8	خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا اللہ سے ڈرنا	10	639-641/4	خمس کی تقسیم میں مذاہب اربعہ کا موقف	1
674/9	عالم کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا	11		خنزیر	20
675/9	خوفِ خدا کی اقسام	12	52/3	خنزیر کا نجس اور حرام ہونا	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
675/5	خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت	6		خوفِ خدا رکھنے والوں کے لیے قرآن میں بشارتیں	13
	حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خواب کا ذکر کرنے سے منع کیا جانے کا سبب	7	675/9		
675/5	کفار اور فساق کے خواب سچے ہونے کی توجیہ	8	676/9	خوفِ خدا رکھنے والوں کے لیے احادیث میں بشارتیں	14
676/5	خواب صرف ہمدرد اور خیر خواہ کے سامنے بیان کیا جائے	9	920/11	بقدر طاقت اللہ سے ڈرنے کا حکم	15
676/5	عمدِ خواب کی غلط تعبیر بیان کرنا	10	630/11	اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ	16
677/5	سچے خوابوں کی بشارت ہونے کی تفصیل	11	630/11	خوفِ خدا سے مرنے والے نوجوان کو دو جنتیں	17
678/5	خواب کا پہلی تعبیر پر واقع ہونا ضروری نہیں	12	921/12	عام مسلمانوں کی خدا خوفی کی دلیل	18
781/5	خواب کی تعریف اور اقسام	13	921/12	اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت	19
878/12	خیانت	27	922/12	اللہ تعالیٰ کے خوف کی دو تفسیریں	20
	مالِ غنیمت میں خیانت کرنا	1	81/12	اللہ سے ڈرنے کے فوائد	21
441/2	اموالِ مسلمین میں خیانت کرنا	2	697/12	اللہ سے ڈرنے والے کا مصداق	22
442/2	اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی امانت میں خیانت کے محامل	3	563/12	خوفِ خدا کی وجہ سے گناہ ترک کرنا	23
612/4	اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے خیانت کی ممانعت	4		نیک اعمال نہ کرنے اور برے اعمال سے نہ بچنے پر عذاب کا خوف	24
706/4	خیانت کے متعلق آیاتِ قرآنیہ	5	234/12	نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کے باوجود اللہ کے عذاب کا خوف	25
610/4	خیانت کے متعلق احادیثِ طیبہ	6	235/12	خشیتِ الہی کا ذکر	26
613/4	خیانت کی ممانعت	7	313/3		
699/9	خیال	28		خواب	26
	تخیل کی تعریف	1	667/5	خواب کی تعریف	1
151/8	غزوہ خیبر	29	667/5	خواب کی اقسام	2
	منافقین کا غزوہ خیبر میں شرکت کیلئے اصرار کرنا	1	670/5	اچھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم	3
243/11			670/5	رسول اللہ ﷺ کی خواب میں زیارت	4
			672/5	چند خوابوں کی تعبیروں کے متعلق احادیث	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
591/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت اور ان کی سیرت	8		د	
	حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کے متعلق احادیث	9		دارالحرب	1
592/8	حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کی ادائیگی کا طریقہ	10	772/1 990/1 210/2	دارالحرب کی تعریف	1
593/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی	11		دارالسلام	2
594/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں	12	772/1 990/1	دارالسلام کی تعریف	1
594/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر	13	649/3	جنت کو دارالسلام فرمانے کی وجوہ	2
595/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات	14		دارالکفر	3
597/8	حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا	15	772/1 990/1 210/2	دارالکفر کی تعریف	1
619/8	حضرت داؤد علیہ السلام کو عظیم علم دیا جانا	16	213/2	دارالکفر میں کفار کا مال کھانا کیسا؟	2
611/8	حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصی فضائل	17		داڑھی	4
605/9	حضرت داؤد علیہ السلام کا آہن گر ہونا	18	510/1	داڑھی میں قبضہ کی بحث	1
607/9	زرہ بنانے میں مناسب مقدار کے محامل	19	45/3	داڑھی کی مقدار	2
609/9	آل داؤد کو شکر کرنے کا حکم	20		حضرت داؤد علیہ السلام	5
613/9	حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت کی دس وجوہ	21	744/6	حضرت داؤد علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر	1
53/10	حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کرنا	22	619/7	حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب	2
58/10	حضرت داؤد علیہ السلام کی ہیبت	23	619/7	حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت میں احادیث	3
59/10	حضرت داؤد علیہ السلام کا محافظان کا لشکر تھا	24	620/7	حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات	4
59/10	حضرت داؤد علیہ السلام کے حجرہ کی دیوار پھاند کر آنے والے انسان تھے یا فرشتے؟	25	637/7	حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کی تسبیح	5
63/10	آنے والوں کے فرشتے ہونے پر دلائل	26	590/8 52/10	حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ	6
64-66/10			590/8	حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب اور ان کا جالوت کو قتل کرنا	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	دعوتِ دین	11	64-66/10	آنے والوں کے انسان ہونے پر دلائل	27
492/10	قرآن و سنت سے انبیاء اور مرسلین کی دعوت کا ثبوت	1	66/10	حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف ایک فریق کے بیان پر کیوں فیصلہ کیا؟	28
492/10	قرآن و سنت سے علماء دین کی دعوت کا ثبوت	2	67/10 74/10	حضرت داؤد علیہ السلام کے استغفار کی توجیہات	29
494/10	قرآن و سنت سے امراء اور حکام کی دعوت کا ثبوت	3	70/10	حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ کے حضور توبہ کرنا	30
495/10	قرآن و سنت سے مؤذنین کی دعوت کا ثبوت	4	76/10	حضرت داؤد علیہ السلام کی عصمت پر استدلال	31
				سورۃ الدخان	6
502/10	قرآن و سنت سے عام مؤمنین کی دعوت کا ثبوت	5	737/10	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
493/10	علماء دین کی اقسام	6	737/10	سورۃ الدخان کی فضیلت میں احادیث	2
115/11	دعوت الی اللہ دینے والوں کی احادیث میں مثالیں	7	738/10	سورۃ الدخان کے مقاصد و مسائل	3
			783/10	سورۃ الدخان کا اختتام	4
				درود شریف	7
	دعا	12		دیکھئے ”19: صلوٰۃ (درود و سلام)“ صفحہ 163	1
212/1	”اھدنا“ میں جمع کے صیغہ سے دعا کرنے کی وجہ	1		درایت	8
691/1	اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث	2	51/11	درایت کا معنی	1
692/1	ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث	3	52/11	درایت تفصیلی کی نفی	2
693/1	فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا	4		درگور کرنا	9
698/1	طلب جنت کی دعا کرنا	5	591/12	زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا	1
699/1 397/10	قبولیت دعا کی شرائط و آداب	6	591/12	زندہ درگور کرنے کا سبب	2
701/1 397/10	دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات	7	591/12	زندہ درگور کرنے کی ممانعت میں احادیث	3
67/2	دل کو دین پر ثابت رکھنے کی دعا	8		دشمن	10
525/2	دعا قبول ہونے کے باوجود دعا کرنا	9	684/4	دشمن سے صلح کرنے کا حکم	1
526/2	دعا قبول ہونے کا طریقہ	10	686/4	دشمن کی نیت فاسد ہونے کے باوجود صلح کا جواز	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	وضو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھنے کا ثواب	32	169/4	مانعین دعا کے دلائل اور ان کے جوابات	11
354/8			170/4	دعا قبول نہ ہونے کے فوائد	12
355/8	قیامت کے دن پردہ رکھنے کی دعا کی تلقین	33	17/4 395/10	دعا کی ترغیب و فضیلت	13
	دوزخ سے پناہ مانگنے اور جنت کے حصول کی دعا کرنا	34	173/4	آہستہ دعا کرنے کے فوائد	14
555/8			174-183/4	خارج از نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا	15
717/8	مضطر اور مصیبت زدہ کی دعا کا قبول ہونا	35	186/4	دعا میں حد سے بڑھنا	16
	مظلوم، مسافر اور والد کی دعا جلد قبول ہوتی ہے	36	246/4	دعا سے مصیبت ٹلنے کے بعد خدا کو فراموش کر دینا	17
718/8					
502/9	تحت کا معنی اور اس کے مواقع	37	460/5	اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنے کی دعا کرنا	18
896/9	دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط	38		دعا کی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جہالت ہے	19
	دعا میں اخروی مطالب کو دنیاوی مطالب پر مقدم رکھنا	39	461/5		
106/10			867/5	دعا میں سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا	20
182/10	راحت و مصیبت، ہر حال میں اللہ سے دعا کرنا	40	868/5	موت کی دعا کرنا	21
378/10	آخرت میں کفار کی دعاؤں کو قبول نہ فرمانا	41	209/6	دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں احادیث	22
401-406	دعا کے اوقات کے متعلق علماء اور فقہاء کے اقوال	42	211/6	نبی معصوم کی دعا مغفرت کے محامل	23
10			215/6	نماز میں دعا مانگنے کے آداب	24
	قرآن و ذکر میں مشغول ہونا افضل ہے یا دعا کرنا؟	43	216/6	دعا حرام	25
410/10				کیا تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا کی خلف و عید کو مستلزم ہے؟	26
	مسلمانوں کی بعض دعائیں قبول نہ فرمانے کی حکمتیں	44	216/6		
592/10			252/7	دعا کے آداب	27
	سفر پر روانہ ہوتے وقت سواری پر بیٹھنے کے بعد کی دعا	45	448/7	انبیاء اور اولیاء کی دعاؤں کی قبولیت	28
660/10			275/8	مال اور اولاد میں کثرت کی دعا کرنا	29
661/10	سفر سے واپسی کی دعا	46	278/8	امام بننے کی دعا کرنا	30
751/10	دعا کے قبول نہ ہونے سے اکتانا نہیں چاہیے	47	350/8	بعد والوں کی بناء کے حصول کی دعا کرنا	31

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
749/1	دنیا و آخرت کی بربادی	2		تہائی رات کے مستجاب وقت میں دعا قبول نہ ہونے کی وجوہ	48
76/2	دنیا کی تزئین و آرائش	3	368/11		
504/2	دنیا کی رنگینیوں اور دلفریبیوں سے بے رغبتی پیدا کرنا	4	856/12	اللهم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون یہ دعا حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کی ہے	49
77/2	دین و دنیا میں توازن	5		دل	13
79/2	اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت	6	421/4	قرآن و حدیث میں دل کی طرف عقل و ادراک کی نسبت	1
80/2	اعتدال کے ساتھ بیٹیوں کی طرف رغبت	7	769/7		
81/2	اعتدال کے ساتھ مال کی طرف رغبت	8		قلب سلیم کی تعریف اور اس کی علامت و مصداق	2
	اعتدال کے ساتھ گھوڑوں اور مویشیوں کی طرف رغبت	9	358/8		
82/2				کسی شخص کے اندر دودل نہ بنانے کے متعدد محال	3
83/2	اعتدال کے ساتھ کھیتی باڑی کی طرف رغبت	10	370/9		
436/3	دنیا کا بے وقعت ہونا	11	371/9	قلب کے مصداق کے متعلق قدیم و جدید آراء	4
440/3	دنیا کی محبت قطعاً مذموم نہیں ہے	12	898/9	قلب سلیم کا معنی	5
436/3	دنیا کے بے وقعت ہونے کے متعلق احادیث	13	218/10	دل کی سختی کے اسباب	6
371/5	قیام دنیا کو کم سمجھنے کی وجوہات	14	339/10	دل کی چھپی ہوئی باتیں	7
134/6	دنیاوی لذتوں کا بے مایہ ہونا	15	627/12	دل پر زنگ لگانا	8
239/6	دنیا میں مشغولیت اور لمبی امیدوں کی مذمت	16		ظاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افعال کا معیار ہونا	9
	متاع دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہونا	17	947/12		
317/6				دماغ	14
320/6	دنیاوی عیش کے سامان کو ترک کرنا	18	421/4 768/7	دماغ کا محل عقل ہے	1
321/6	اسلام میں دین و دنیا کا امتزاج	19		دم درود	15
676/6	صرف دنیا کے طلب گار کا انجام	20		دیکھئے "48: علاج" صفحہ 183	1
44/7	دنیا سے رغبت کو کم کرنا	21		دنیا	16
45/7	دنیا کی زینت اور اس سے دامن بچانا	22	176/1	دنیا میں راحت و مصیبت کا آنا	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
734/12	دنیاوی عیش و عشرت کی مذمت کی وجوہ	43	112/7	دنیا کی پانی کے ساتھ تشبیہ	23
735/12	دنیاوی مال کے حصول پر اترانا کیسا؟	44		دنیاوی فراخ دستی اور تنگ دستی حق و باطل کا معیار نہیں	24
631/12	دنیا میں کفار کا مومنوں پر ہنسنا اور مذاق اڑانا	45	310/7		
561/12	دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا	46		دنیا میں ریشم اور سونا چاندی پہننے اور شراب پینے والے کا شرعی حکم	25
458/12	دنیا کی جلد ملنے والی نعمتوں کی محبت	47	728/7		
228/12	حب دنیا کی آفات	48	905/7	موت کے وقت دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی تمنا	26
	دن	17	906/7	موت کے وقت مرتبہ کا علم	27
791/7	دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرنا	1	114/9	دنیا کا معنی اور اس کا خسیس و گھٹیا ہونا	28
	دن میں رات کو اور رات کو دن میں داخل کرنے کا معنی	2	115/9	دنیاوی زندگی کو کھیل تماشہ فرمانے کی وجہ	29
278/9			135/9	دنیا دار اور دین دار لوگوں کی سوچ و فکر کا فرق	30
308/9	جن چھ دنوں میں دنیا بنائی گئی	3	308/9	جن چھ دنوں میں دنیا بنی	31
308/9	منگل کے دن کو منحوس سمجھنا	4	338/9	مومن اور فاسق کا دنیا میں مساوی نہ ہونا	32
	پچاس ہزار سال کے دن اور ایک ہزار سال کے دن میں تطبیق (یوم قیامت کے متعلق)	5	422/9	دنیاوی لذتوں میں غلو نہ کرنے کی تلقین	33
311/9			571/9	دوزخ میں کفار کے عذاب کی کیفیت	34
	ایک ہزار سال میں اللہ کی طرف کاموں کے چڑھنے کے محامل	6	579/10	دنیا سے بے رغبتی کے متعلق احادیث	35
310/9			673/10	دنیاوی مال و متاع کا مذموم ہونا	36
586/11	معین دنوں کا منحوس یا مبارک ہونا	7	681/10	دنیا کی زیب و زینت کفار کے لیے ہے	37
765/12	دن کن چیزوں کو ظاہر کرتا ہے؟	8	681/10	اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا حقیر ہونا	38
765/12	دن کی سلطنت کا سورج اور چاند سے زیادہ ہونا	9	718/10	دنیاوی تعلق کا ناپائیدار ہونا	39
345/12	دن کے وقت میں مصروفیات کی وجوہ	10		دنیا میں اچھی اور مقدس اشیاء کے باوجود	40
	دودھ	18	732/11	دنیاوی زندگی کو صرف دھوکے کا سامان کہنا	
844/1	دودھ پلانے کے شرعی احکام	1		دنیا میں فقر اور تو نگری حق و باطل کا معیار نہیں	41
844/1	دودھ پلانے کی مدت	2	589/11		
480/6	گوبر اور خون کے درمیان دودھ کو پیدا کرنا	3	733/12	دنیا کی نعمتیں ملنے کو عزت و کرامت سمجھنا	42

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	دوزخ کے دروازے اور ان میں عذاب	13	480/6	ز حیوانوں میں دودھ	4
291/6	یافتگان		481/6	اوجھڑی میں دودھ	5
102/7	دوزخ کے متعلق آیات و احادیث	14	481/6	دودھ کی خلقت میں اسرار و دقائق	6
	کیا دوزخ میں دخول کفار کے ساتھ خاص ہے؟	15	483/6	دودھ کی خلقت میں حشر و نشر کا امکان	7
207/7			484/6	دودھ کے متعلق احادیث	8
308/7	دوزخ میں دخول پل صراط سے گزرنا ہے	16	485/6	دودھ کا کیمیائی تجزیہ	9
309/7	مسلمانوں کے دخول نار سے مراد	17	862/7	دودھ کے غذائی اور طبی فوائد	10
	دوزخ میں داخل ہونے اور دور رکھے جانے کا تعارض	18	80-83/11	دودھ پلانے کی انتہائی مدت	11
669/7			86/12	دودھ پلانے کی اجرت لینے کا جواز	12
907/7	برزخ کا معنی	19		دوزخ	19
918/7	دوزخ میں کفار کی چھ دعائیں	20	316/1	دوزخ میں جلنے والے پتھروں کا بیان	1
	دوزخ کی آنکھ، کان اور زبان کے متعلق احادیث	21	500/2	دوزخ سے پناہ مانگنا	2
220/8			414-418/2	دوزخ سے نجات طلب کرنا	3
221/8	آیا دوزخ میں کوئی اچھائی ہے؟	22	837/2	دوزخ کے طبقات	4
221/8	کفار کا جہنم میں جھونکا جانا	23	640/3	جہنم کے خلود سے استثناء	5
360/8	دوزخ کی صفات	24	81/4	کیا تمام اہل بدعت اور گمراہ فرقے دوزخی ہیں	6
361/8	دوزخ کس جگہ واقع ہے؟	25	135/4	دوزخ میں کفار کے احوال	7
362/8	مشرکین اور ان کے باطل معبودوں کی دوزخ میں حالت زار	26	419/4	بہت سے انسانوں اور جنوں کو دوزخ کیلئے پیدا کرنا	8
	دوزخ میں مشرکین اور بتوں کا ایک دوسرے کو طعن کرنا	27	215/5	دوزخ کی گرمی	9
363/8			653/5	جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا	10
104/9	زمین پر دوزخ کا وجود	28	166/6	دوزخ کے پانی کی کیفیت	11
	جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھرنے کے متعلق احادیث	29	167/6	دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کا نہ آنا	12

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
719/2	صدیق کی تعریف	1	330/9 328/11	دوزخ میں اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی توجیہ	30
709/7	بد مذہبوں سے دوستی رکھنا	2	377/10	دوزخ میں کافروں کا مباحثہ	31
236/8	کیسے شخص کو دوست بنایا جائے؟	3	470/10	دوزخ میں کفار کے عذاب کا لزوم	32
365/8	قیامت کے دن فقط مومنوں کی دوستی کا کام آنا	4		دوزخ کے نگران "مالک" سے اہل دوزخ کا کلام	33
	دھمکی دینا	21	728/10		
582/6	دھمکی دینے کی تعریف اور اس کے مسائل	1	329-335	دوزخ کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کرنا	34
	دھواں	22	11		
481/12	دوزخ کے دھوئیں کی تین شاخوں کے محامل	1	963/12	کون کون دوزخ کو دیکھیں گے؟	35
482/12	دھوئیں کے سائے کی صفات	2	977/12	دوزخ کی آگ کی شدت	36
	دھریہ	23	147/12	کفار کو دوزخ کا عذاب دینے کی توجیہ	37
782/9	دھریوں کا رد اور ابطال	1	147/12	دوزخ میں چنگھاڑ کی تفسیر میں تین اقوال	38
815/10	دہر کا لغوی و عرفی معنی	2	148/12	دوزخ کے غمیض و غضب میں آنے کی توجیہ	39
815/10	دہر کے متعلق احادیث	3	738/12	دوزخ کو لانے والے	40
	دہریے بلا دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں	4	613/12	دوزخ کا عذاب	41
816/10				کیا سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا؟	42
	دھمال	24	587/12		
387/8	ہمارے زمانہ کے بناوٹی صوفیاء کا دھمال کرنا	1	589/12	دوزخ کا مصداق کس جگہ پر ہے؟	43
	سورۃ الدھر	25	563/12 377/12	دوزخ کی صفات کے متعلق احادیث	44
425/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	378-383 12	دوزخ کے فرشتوں کی تعداد	45
425/12	سورۃ الدھر اور سورۃ القیامہ کی باہمی مناسبت	2	378/12	فرشتوں کو دوزخ کا محافظ بنانے کی حکمتیں	46
425/12	سورۃ الدھر کا مکی یا مدنی ہونا	3	386/12	دوزخ کی صفات کا تذکرہ	47
426/12	سورۃ الدھر کے مشمولات	4	125/12	دوزخ کے محافظ فرشتوں کی صفات	48
469/12	سورۃ الدھر کا اختتام	5	228/12	دوزخ کے بلانے کی توجیہات	49
	دھوکا دینا	26		دوست	20

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
756/2	قتل خطا، قتل شبہ عمد اور قتل عمد کی دیت	2		دیکھئے ”23: فریب“ صفحہ 195	1
757/2	دیت کی ادائیگی کی مدت	3		دین	27
758/2	عورت کی نصف دیت کی تحقیق	4	176/1	دین کا لغوی و شرعی معنی	1
759/2	ورثاء مقتول میں دیت کو تقسیم کرنا	5	528/3	دین میں تفرقہ ڈالنے کی مذمت	2
	دارالحرب میں کسی مسلمان کو غلطی سے قتل	6	760/5	دین کا معنی	3
759/2	کرنے پر دیت		660/7	دین اور شریعت کا فرق	4
759-761/2	ذمی کافر کی دیت	7	661/7	دین میں فرقے بنانے کی ممانعت	5
	دیدار الہی	29	720/7	ادیان مختلفہ اور ان کا شرعی حکم	6
	دیکھئے ”30: روایت باری تعالیٰ“ صفحہ 138	1	806/7	دین میں تنگی نہیں	7
	دیہاتی	30		دین آسان ہے سو مشکل احکام نہ بتائے جائیں	8
232/5	العرب اور الاعراب کا معنی	1	808/7	سچے دین کو لانے اور اس کی تصدیق کرنے والے	9
	الاعراب سے مراد مدینہ کے گرد رہنے والے	2	253/10	تمام انبیاء کا دین واحد اور شریعتوں کا متعدد ہونا	10
234/5	دیہاتی ہیں		561/10	دین کا لغوی و اصطلاحی معنی	11
234/5	اعراب کی سنگ دلی اور شقاوت	3	562/10	انبیاء کے بعد دین میں تفرقہ ڈالنے والے کون؟	12
	ڈاکو/ڈاکہ	1	566/10	اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے طریقے	13
	دیکھئے ”18: حرابہ“ صفحہ 113	1	139/11	دین اسلام کے غلبہ کے محامل	14
	ڈکار	2	267/11	دین کی سلامتی جسم کی سلامتی سے زیادہ اہم ہے	15
651/9	ڈکار کا نعمت اور بیماری ہونا	1	1055/12	رسول اللہ ﷺ اور تمام امت کے لیے دین کا آسان ہونا	16
	سورۃ الذریات	1	694/12	دیت	28
355/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1		دیت کا معنی	1
355/11	سورۃ ق اور سورۃ الذریات کی باہمی مناسبت	2	756/2		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
431/7	قرآن پر ذکر کا اطلاق	14	355/1.1	سورۃ الذاریات کے مشمولات	3
144/8	کن لوگوں کو خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی	15	404/11	سورۃ الذاریات کا اختتام	4
93/9	ذکر اللہ کی فضیلت میں احادیث	16		ذبیحہ	2
277/9	اللہ تعالیٰ کے ذکر کو فانی اور باقی قرار دینا	17	641/3	جس ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کے متعلق مذاہب فقہاء	1
277/9	کلمات اللہ کا غیر متناہی ہونا	18		ذخیرہ اندوزی کرنا	3
400/9	اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ضروری امور	19	781/5	ضرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کا جواز	1
451/9	بہ کثرت اللہ کا ذکر کرنے کے متعلق احادیث	20	109/9	ضرورت کے بغیر ذخیرہ اندوزی کرنے کی ممانعت	2
498/9	امت محمدی کو ذکر کا حکم دینے کی توجیہ	21		ذکر الہی	4
500/9	ذکر کرنے والوں کی اقسام، مراتب اور درجات	22	502/1	ذکر بالجہر کی تحقیق	1
501/9	بعض اذکار و اوراد	23	745/1	ذکر کی اقسام اور اس کے متعلقہ اقوال	2
343/11	اذکار ماثورہ پڑھنے کا ثواب	24	592/1	ذکر سے متعلق احادیث کریمہ	3
288/12	اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا معنی	25	517/2	اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرنا	4
289/12	اللہ کے ذکر سے اعراض کا دنیا میں تنگی کا سبب ہونا	26	835/2	ذکر خفی کی فضیلت	5
	ذوی القربیٰ	5	520/4	معتدل آواز کے ساتھ ذکر بالجہر	6
443/1	رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک	1	521/4	ذکر کے لیے اوقات کی تخصیص	7
649/1	رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت	2	647/4	دوران قتال ذکر کے متعلق احادیث	8
545/2	رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور جوڑنا	3	648/4	دوران قتال ذکر کے متعلق علماء کے اقوال	9
	ذوی الارحام	6		اللہ کے ذکر سے دلوں کے مطمئن ہونے اور خوفزدہ ہونے کے درمیان تطبیق	10
	دیکھئے "13: وراثت" صفحہ 278	1	95/6	مطمئن دلوں کے مصداق	11
	ذوالقرنین	7	96/6	ذکر خفی کی فضیلت	12
201/7	ذوالقرنین کا مصداق اور اس کی وجہ تسمیہ	1	250/7	ذکر میں سستی	13
202/7	تورات میں ذوالقرنین کی طرف اشارے	2	375/7		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
741/11	رہبانیت کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	203/7	ذوالقرنین کا تصرف اور اس کا اقتدار	3
742-747	مذہب اربعہ کے مفسرین کا اختراع رہبانیت	2	203-206/7	ذوالقرنین کے تین سفر	4
11	سے بدعت حسنہ کے جواز پر استدلال		212/7	ذوالقرنین کی تحقیق	5
755/11	رہبانیت کی رعایت نہ کرنے والوں کے مصادیق	3		حضرت ذوالکفل علیہ السلام	8
	راز	4	654/7	حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو نبی بنانے کا واقعہ	1
	راز کو افشاء کرنا	1	655/7	حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی نبوت میں علماء کا اختلاف	2
112/12	حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ ﷺ کے راز کو افشاء کرنا	1		ذوالحجہ	9
	رب	5	721/12	الفجر سے مراد ذوالحجہ کی صبح اور اس کی فضیلت	1
	دیکھئے "69: اللہ تعالیٰ" صفحہ 62	1		ولیل عشر سے مراد ذوالحجہ کے دس دن	2
	ربا	6	722/12	اور ان کی فضیلت	
976/1	ربا کا معنی	1		ر	
977/1	ربا الفضل کی تعریف اور اس کی علت	2		رات	1
980/1	ربا الفضل کی حرمت کا سبب	3	791/7	رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنا	1
981/1	بینک کے سود کے مجوزین کے دلائل کے جوابات	4	278/9	رات کو دن میں اور رات میں دن کو داخل کرنے کا معنی	2
983/1	افراط زر کی صورت میں اصل زر کو بحال رکھنا	5		رات کو عبادت، معصیت اور غفلت میں گزارنے والے	3
984/1	دارالحرب کے سود میں فقہاء کا نظریہ	6	408/10	رات کی سلطنت کا سورج اور چاند سے زیادہ ہونا	4
987/1	سود کے ذریعہ حربی کافروں کا پیسہ بٹورنا	7	765/12	رات کو نماز کے لیے اٹھنے میں مشقت کی وجہ سے زیادہ ہونا	5
990/1	دارالحرب، دارالکفر اور دارالاسلام کی تعریفات	8	344/12	راحت	2
991/1	قیامت میں سود خور کا انجام	9		راحت کے وقت مسلمانوں کا طریقہ	1
992/1	ربا اور بیع کا فرق	10	737/11	راہب/ رہبانیت	3
993/1	ربا کو بتدریج حرام کرنا	11			
994/1	ربا کو حرام قرار دینے کی حکمتیں	12			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	اللہ تعالیٰ کی رحمت و عذاب دونوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے	2	994/1	سود خور کے لیے دائماً دوزخ	13
296/6			994/1	سود کا کم ہونا اور صدقہ کا بڑھنا	14
297/6	اللہ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات	3	995/1	سودی کاروبار ترک نہ کرنے والا	15
682-693	وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کی تفسیر	4	996/1	سود پر وعید کے متعلق احادیث	16
7			1002/1	سود کے بعد تجارتی قرضوں کا ذکر	17
652/9	رحمت کی متعدد تفاسیر	5	365/2	سود مفرد اور سود مرکب	18
	اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونا	6	365/2	ربا الفضل	19
587/11			366/2	ربا الفضل میں علت حرمت	20
	اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل کرنے کے دو محمل	7	367/2	سود میں منہمک رہنے والے کا انجام	21
261/11			747/6	کھلم کھلا سود کھانا	22
149/1	رحمان و رحیم کا معنی	8		ربانیین	7
150/1	رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی وجوہ	9		ربانیین کا معنی	1
172/1	رحمن و رحیم کی تفسیر میں مفسرین کی فرو گذاشت	10	224/2	رحم	8
	رزق	11		رحم کی تحقیق	1
273/1	رزق کا معنی	1	62/8	قرآن سے رحم کا ثبوت	2
274/1	حرام کا رزق ہونا یا نہ ہونا	2	62/8	رحم کی منسوخ التلاوة آیت	3
241/3	گناہوں کو ترک کرنے سے رزق میں فراخی	3	64/8	آیت رحم کی بحث	4
499/5	اللہ تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثالیں	4	65/8	رحم کی احادیث متواترہ	5
119/6	رزق میں وسعت کے متعلق احادیث	5	66/8	سورة الرحمن	9
516/6	رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت	6		سورة کا نام اور اس کے متعلق احادیث	1
706/6	رزق میں کمی اور زیادتی	7	601/11	سورة الرحمن کے مشمولات	2
265/9	تلاش رزق میں اعتدال	8	602/11	سورة الرحمن کا اختتام	3
598/9	رزق کریمہ کا معنی	9	644/11	رحمت باری تعالیٰ	10
199/10	رزق کی وسعت	10		اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا کفر ہونا	1
561/10	رزق کی اقسام	11	846/5		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
626/9	حضور علیہ السلام کی رسالت تمام مخلوق کے لیے ہے	17	601/10	کشادگی رزق کی وجہ سے سرکشی کی وجوہات	12
			375/11	آسمان میں مخلوق کے رزق کی تفسیریں	13
627/9	پتھروں، پہاڑوں، درختوں اور جانوروں کا آپ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کرنا اور ہر چیز کا آپ ﷺ کی رسالت کو پہچانا	18	74/12	رزق میں وسعت کے متعلق احادیث	14
640/9	تبلیغ رسالت کا اجر طلب نہ کرنا	19		رسالت/رسول	12
715/9	حضور علیہ السلام کی رسالت کی قسم کھانا	20	731/2	منصب رسالت	1
736/9	بشریت کا رسالت کے منافی نہ ہونا	21	244/3	تبلیغ رسالت	2
970/9	رسولوں کے غلبہ سے مراد	22	329/3	کسی کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا	3
544/10	قرآن و احادیث سے حضور علیہ السلام کی رسالت کا عموم	23		ہر امت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو محمل	4
582-588	تبلیغ رسالت پر قرابت سے محبت کے اجر کے سوال پر اعتراض کا جواب	24	372/5	ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے	5
10			313/6	زمین والوں کے لیے فرشتہ کو رسول نہ بنانا	6
381/10	رسولوں کی نفرت کے محامل	25	803/6	رسول کا لغوی و اصطلاحی معنی	7
418/10	رسولوں کی تعداد کی تحقیق	26	279/7	صرف انسانوں اور مردوں کو رسول بنایا جاتا ہے	8
688/10	گذشتہ رسولوں سے سوال کرنے کی توجیہات	27	523/7	رسول کا اپنی قوم کی طرف پیغام پہنچانا	9
811/10	بعض بندوں کو رسول اور بعض کو گمراہ بنانے کی توجیہ	28	870/7	رسول کا اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہونا	10
878/11	آپ ﷺ کی رسالت کا عموم	29	871/7	تمام رسولوں سے بیک وقت خطاب کرنا	11
702/12	رسولوں کی تعداد کی تحقیق	30	877/7	حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایک اعتراض کا جواب	12
	رشوت	13	524/7	آپ ﷺ کی رسالت کا عموم	13
707/1	رشوت کا معنی	1	212/8	رسالت کی تمہید	14
707/1	قرآن و حدیث میں رشوت کا حکم	2	123/8	عقیدہ رسالت کی تعلیم	15
708/1	رشوت کی اقسام	3	65/9	حضور علیہ السلام کی رسالت کے برحق ہونے پر دلائل	16

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	نوعان	نمبر شمار
30/6	سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مناسبت	4	643/2	رشوت کی تعریف، وعید اور شرعی احکام	4
32/6	سورۃ الرعد کے مضامین و مقاصد	5	194/3	رشوت کا معنی و اقسام	5
123/6	سورۃ الرعد کا اختتام	6		رشتہ دار	14
	رقص و سرود	17	82/6	رشتوں کو جوڑنے کی اقسام	1
627/4	جاہل صوفیاء کا رقص و سرود	1	83/6	رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث	2
387/8	ہمارے زمانہ کے بناوٹی صوفیاء کا رقص کرنا	2	557/6	رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی	3
	رکون (کفار سے میل جول)	18	758/12	رشتہ داروں کو صدقہ دینے کی فضیلت	4
641/5	رکون کا لغوی، عربی اور شرعی معنی	1		رضائے الہی	15
	رکون کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	2		رضائے مصطفیٰ ﷺ	
642/5	رکون کی ممانعت کے متعلق احادیث	3	750/1	رضائے الہی کی خاطر دنیا ترک کرنا	1
	رمضان المبارک	19	99/5	اللہ تعالیٰ کی رضا جنت سے افضل ہے	2
725/12	ولیسال عشر سے مراد رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی فضیلت	1	192/5	اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے	3
	رمل	20		اللہ تعالیٰ کی رضا کا مہاجرین و انصار کی نیکیوں میں اتباع کیے جانے پر موقوف ہونا	4
291/7	رمل کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	1	242/5	اللہ کی رضا کا بہت بڑا درجہ ہے	5
	روزہ	21	561/8	اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جنت عطا کرنے سے بڑا انعام ہے	6
667/1	روزہ کا معنی	1	921/12	اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندوں کی رضا کے محامل	7
668/1	رمضان کے روزوں کے فضائل	2	922/12	نبی کریم ﷺ کی رضا کے محامل	8
671/1	نظلی روزوں کی فضیلت	3	502/7	رضا اور مشیت میں فرق	9
686/1	حاملہ اور مرضہ کے لیے روزہ کی رخصت	4	781/9	سورۃ الرعد	16
689/1	عید گاہ جاتے ہوئے بکسیرات پڑھنا	5		سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
703/1	روزہ کی رات میں عمل زوجیت کی اجازت	6	27/6	الرعد کا معنی	2
703/1	طلوع فجر کے بعد سحری کھانا	7	28/6	سورۃ الرعد کے کئی یاد دہنی ہونے میں اختلاف	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
455-458	یہود کا جبرائیل کو اپنا دشمن کہنا اور اللہ تعالیٰ کی	2	672/1	بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت	8
1	طرف سے جواب		673/1	روزہ کے اسرار و رموز	9
362/3	روح القدس کا معنی	3		روزہ کے فساد و عدم فساد کے بعض ضروری	10
	روضہ رسول ﷺ	23	674/1	مسائل	
260/5	روضہ رسول ﷺ کے فضائل	1	674/1	انجکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنا	11
	روح	24	675/1	مریض کا روزہ قضاء کرنا	12
509/3	فرشتوں کی طرف قبض روح کی نسبت	1	677/1	مسافر کا روزہ قضاء کرنا	13
	موت کے وقت مسلمانوں اور کافروں کی	2		بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ	14
510/3	روحوں کے نکلنے کی کیفیت		681/1	رکھنا	
511/3	روح کا انسان کی حقیقت ہونا	3		رمضان کے اسرار و رموز اور رمضان میں	15
512/3	روح کا جسم سے پہلے پیدا ہونا	4	683/1	نزول قرآن کا بیان	
274/6 352/6	روح کا معنی	5	684/1	قطبین میں روزہ	16
353/6	روح سے وحی اور اللہ کے کلام کا مراد ہونا	6	684/1	روزہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت	17
786/6	روح کا لغوی و اصطلاحی معنی	7		سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھتا ہوا	18
787/6	روح کی موت	8		پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا	
788/6	جسم کی موت کے بعد روح کا مستقر	9	685/1	اور اس کا عکس؟	
789/6	روح کا حادث اور مخلوق ہونا	10		سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر	19
790/6	نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟	11	685/1	پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے تو کیا	
791/6	رسول اللہ ﷺ کو روح کا علم	12		کرے؟	
747/7	کافر کی روح نکلنے کی کیفیت	13	686/1	میت کی طرف سے روزہ رکھنا	20
192/9	روح کے تقاضے	14	785/2	قطبین میں روزہ	21
314/9	روح کی اللہ کی طرف اضافت	15	630/7	روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانا	22
314/9	روح کی تحقیق	16	631/7	حالت اضطرار میں مریض کو خون دینا	23
314/9	روح کا لغوی و اصطلاحی معنی	17		روح المقدس	22
			446/1 362/3	روح القدس کا معنی	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
758/9	گندم کی روٹی کا عظیم نعمت ہونا	2	315/9	روح کے مصداق میں مختلف اقوال	18
	سورۃ الروم	27	316/9	روح کی صحیح تعریف	19
125/9	سورۃ کا نام اور اس کے متعلق احادیث	1		روح کے بدن میں حلول کرنے اور درد و	20
126/9	سورۃ الروم کی سورۃ العنکبوت سے مناسبت	2	316/9	لذت کا ادراک کرنے کے ثبوت میں آیات	
126/9	سورۃ الروم کے مشمولات	3		روح کے بدن میں حلول کرنے اور درد و لذت	21
206/9	سورۃ الروم کا اختتام	4	317/9	کا ادراک کرنے کے ثبوت میں احادیث	
	رہائش	28	318/9	شہداء کی روحوں کو جنت میں رزق ملنا	22
56/7	جنگلوں اور غاروں میں رہنا	1		مومن اور کافر کی روحوں کو قبر میں ان کے	23
57/7	عزالت نشینی کے بجائے لوگوں کے ساتھ رہنا	2	318/9	جسموں میں داخل کرنا	
58/7	عزالت نشینی اور تمدنی زندگی میں درمیانی کیفیت	3		مومن اور کافر کی روحوں کی ان کے جسموں	24
126/8	غیر رہائشی عمارات کی تعیین	4	319/9	سے نکلنے کی کیفیت	
	رہن (گروی رکھنا)	29	148/10	روح کا معنی اور روح پھونکنے کا محمل	25
1015/1	رہن کی تعریف اور اس سے فائدہ اٹھانا	1	335/10	روح کو وحی سے تعبیر کرنے کی وجوہ	26
1017/1	رہن کی شرائط اور ضروری مسائل	2	897/12	روح کا مصداق	27
1018/1	اعتماد کی صورت میں گروی رکھنے کو ترک کرنا	3	590/12	روحوں کو جسموں کے ساتھ ملانے کے محامل	28
1020/1	رہن کے اسرار و حکمتیں	4	543/12	کافر کی روح کھینچنے کی کیفیت	29
	بیع اور رہن کے بعد اعمال صالحہ سے مکلف	5	545/12	مومن کی روح کھینچنے کی کیفیت	30
1022/1	کرنے کا ذکر		549/12	اولیاء اللہ کی ارواح	31
	رویت باری تعالیٰ	30	223/12	الروح	32
616/3	رویت باری تعالیٰ کے متعلق فقہاء کے نظریات	1		رونا	25
616/3	منکرین رویت کے دلائل اور ان کے جوابات	2	215/5	زیادہ رونے کی تلقین	1
618/3	رویت باری کے متعلق آیات قرآنیہ	3	228/5	عبادت سے محرومی کے سبب رونا	2
618/3	رویت باری کے متعلق احادیث نبویہ	4		روٹی	26
619/3	شب معراج اللہ کا دیدار	5	756/9	روٹی کی تعظیم و تکریم	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	سورۃ الزخرف	2		روایت باری تعالیٰ کے متعلق اہل قبلہ کے مذاہب	6
651/10	سورۃ کا نام اور اس کے مقاصد	1	300/4		
732/10	سورۃ الزخرف کا اختتام	2	301/4	منکرین روایت کے دلائل اور ان کے جوابات	7
	زرہ	3	192/5	اللہ تعالیٰ کا دیدار عظیم نعمت ہے	8
609/9	زرہ بنانے میں مناسب مقدار کے محامل	1	302/4	روایت باری پر اہل سنت کے دلائل	9
	زکوٰۃ	4	355/5	اللہ تعالیٰ کا دیدار	10
370/1	زکوٰۃ کا معنی اور اس کے وجوب کی شرائط	1	415-417 12	قیامت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی روایت	11
	اسلام کے نظام زکوٰۃ پر یہودیوں کے اعتراض کا جواب	2	192/5	اللہ تعالیٰ کا دیدار عظیم نعمت ہے	12
493/2				ریا کاری	31
127/5	زکوٰۃ نہ دے کر مال جمع کرنے کی مذمت	3	835/2	ریا کاری سے عبادت کرنا	1
	جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ موجب عذاب نہیں ہے	4	651/4	ریا کی مذمت	2
128/5			481/5	ریا کاری کا شرک خفی ہونا	3
	ادا کی زکوٰۃ کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف صحابہ	5	512/5	ریا کاری کی مذمت اور اس پر وعید	4
129/5			237/7	قربانی کے عمل میں ریا کاری	5
	زکوٰۃ دینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں	6	995/12	ریا کاری کی تعریف	6
166/5			995/12	فرائض دکھا کر اور نوافل چھپا کر ادا کیے جائیں	7
	زکوٰۃ لینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں	7		ریشم	32
168/5			723-726 10	چار انگل ریشم کے کام کے جواز کی تفصیل	1
85/6	زکوٰۃ کو ظاہر اور پوشیدہ دینے کے محامل	8		ریب	33
361/6	گھوڑوں میں زکوٰۃ	9		مزید دیکھئے "21: شک" صفحہ 154	1
126/7	بینک سے کاٹی ہوئی زکوٰۃ	10		ز	
259/7 854/7	زکوٰۃ کا معنی	11		زبور	1
553/8	زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی	12	677/7	زبور کا معنی	1
215/9	زکوٰۃ کا لغوی و اصطلاحی معنی	13	678/7	قرآن کے صدق پر زبور کی شہادت	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
929/12	زلزلہ پیمائی	5	216/9	انبیاء پر زکوٰۃ کا فرض نہ ہونا	14
	برصغیر پاک و ہند میں زلزلے تاریخ کے	6	217/9	زکوٰۃ کی تاکید اور اس کے فضائل	15
930/12	آئینے میں		369/11	زکوٰۃ کی تعریف	16
	زلزلے سے متعلق ۲۰ / اہم سوالات کے	7		حضرت زکریا علیہ السلام	5
932/12	جوابات		141/2	سوانح عمری	1
935/12	زلزلہ سے متعلق اہم نکات	8	143/2	حضرت مریم کی کفالت کرنا	2
937/12	زلزلہ کا لغوی و عرفی معنی	9	145/2	اولاد کی دعا کرنا	3
937/12	زمین پر قیامت کے زلزلہ کی کیفیت	10	151/2	حضرت یحییٰ کی ولادت کو مستعجب سمجھنا	4
	سورۃ الزلزال	7		تین دن سے حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان	5
925/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	151/2	بند کرنے کے فوائد اور حکمتیں	
	زم زم	8	250/7	حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت	6
204/6	زم زم کے فضائل	1	251/7	حضرت زکریا علیہ السلام کا نداء خفی کرنے کی وجہ	7
	زمین	9		حضرت زکریا علیہ السلام کو کس نے بشارت دی	8
324/1	زمین کا گول ہونا اور اس کا گردش کرنا	1	254/7	تھی؟	
345/1	زمین اور آسمان کی تخلیق میں ترتیب	2	255/7	حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال	9
446/3	زمین میں سرنگ بنانے کا معنی	3	256/7	حضرت زکریا علیہ السلام کے محراب کا مصداق	10
541/3	زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی	4		حضرت زکریا علیہ السلام کا تین دن تک لوگوں	11
	زمین کبھی موحدین اور عابدین سے خالی	5	256/7	سے بات نہ کرنا	
558/3	نہیں رہی		658/7	حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ	12
	زمین کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ اور	6		زلزلہ	6
601/3	توحید پر دلائل				
155/4	زمین کو چھ دنوں میں بنانا	7	926/12	زلزلہ کی تعریف، اسباب اور اثرات	1
353/5	زمین کی پیداوار کی دنیا کے ساتھ مثال	8	926/12	زلزلہ کی تاریخ	2
	زمین کے ذکر کو آسمان کے ذکر پر مقدم کرنے	9	927/12	زلزلہ کہاں آسکتا ہے؟	3
415/5	کی وجہ		928/12	زلزلہ کس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے؟	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	زمین میں داخل اور اس سے خارج ہونے والی چیزیں	29	500/5	زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کی وجہ	10
597/9				زمین کی پیدائش سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	11
697/9	زمین کی حفاظت فرمانا	30	573/5		
698/9	زمین کی حرکت پر دلائل	31		زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت کی نشانیاں	12
	دنیا کی زمین کی وسعت، جنت کی زمین کی وسعت اور رزق کی وسعت	32	876/5		
199/10			120/6	اطراف زمین کو کم کرنے کے محامل	13
561/10	زمینوں کی چابیوں کے محامل	33	$\frac{223-226}{6}$	زمین کا تبدیل ہونا	14
	زمین کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے نعمتیں	34	260/6	زمین سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	15
658/10				زمین کو پھیلانا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے	16
906/11	زمین کے خزانے	35	261/6		
912/11	زمین کا زبان قال سے تسبیح کرنا	36	377/6	زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا	17
937/12	زمین پر قیامت کے زلزلہ کی کیفیت	37	435/7	زمین کی اقسام	18
938/12	زمین کا اپنا بوجھ باہر نکالنا	38	529/7	زمین بنانے کی حکمتیں	19
938/12	زمین کے خبر دینے کی کیفیت	39	545/7	زمین کے فتح اور رتق کا بیان	20
712/12	زمین میں نشانیاں	40	549/7	زمین کا اپنے مدار میں گردش کرنا	21
90/12	سات زمینوں کے متعلق مفسرین کی آراء	41	679/7	زمین کی وراثت سے جنت کی زمین مراد ہونا	22
91/12	سات زمینوں کے متعلق صریح احادیث	42	679/7	زمین کی وراثت سے دنیا کی زمین مراد ہونا	23
$\frac{92-96}{12}$	سات زمینوں کے متعلق اثر ابن عباس	43		جب زمین کی وراثت صرف نیک بندوں کو دی جاتی ہے تو پھر کافروں کو حکومتیں اور اقتدار کیوں دیا گیا؟	24
679/12	زمین کو ذات الصدع فرمانے کی توجیہات	44	680/7		
637/12	زمین کو پھیلانے کے متعلق احادیث	45	710/7	زمین کی پیداوار سے حشر و نشر پر استدلال	25
559/12	زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کرنے کی تحقیق	46	266/8	زمین پر وقار کے ساتھ چلنا	26
559/12	زمین کے منافع اور فوائد	47	150/9	زمین میں اللہ کی بلند صفات	27
	سورة الزمر	10		زمین کا متزلزل نہ ہونا اس کی حرکت کے منافی نہیں	28
160/10	سورة کا نام	1	238/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	زانیہ کے لیے صرف زانی سے نکاح کی اجازت	12	160/10	سورۃ الزمر کا زمانہ نزول	2
67/8			160/10	سورۃ الزمر اور سورۃ ص میں مناسبت	3
68-69/8	زانیہ سے مومن کا نکاح	13	161/10	سورۃ الزمر کے مشمولات	4
76/8	زانی کو از خود قتل کرنا	14	304/10	سورۃ الزمر کا اختتام	5
	زندگی	13		زندیق	11
454/8	فانی زندگی پر مغرور نہ ہونے کی تلقین	1	308/1	زندیق کی تحقیق اور اس کا شرعی حکم	1
	زوجہ	14	308/1	زندیق کی توبہ	2
578/2	بیویوں کے درمیان عدل	1	633/4	زندیق کا معنی و مفہوم	3
659/2	بیوی کو مارنا	2	632/4	زندیق کی توبہ	4
660/2	اختلاف زن و شوہر	3		زندیق، منافق، دھریہ اور ملحد کی تعریفوں میں فرق	5
662/2	شوہر کا بیوی کو نفقہ و طلاق نہ دینا	4	633/4		
284/3	بیوی سے کہنا ”تو مجھ پر حرام ہے“ کا شرعی حکم	5	634/4	زندیق کو قتل کرنے کا شرعی حکم	6
518/6	شوہر کی خدمت کرنا	6		زنا	12
	عام مسلمانوں پر ازواج میں باریوں کی تقسیم کا جواب	7	819/1	زنا کی شہادت	1
521/9			709/6	حرمت زنا کی وجوہ	2
109/12	بیوی کو حرام کہنے میں مذاہب فقہاء	8	710/6	حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم کرنا	3
	بیویوں کے سوا جنسی لذت کے حصول کی ممانعت	9	43-48/8	زنا کا لغوی معنی	4
236/12			48/8	حد زنا کی شرائط	5
	زوج	15	49/8	احسان کی تحقیق	6
668/2	جو شخص اپنی بیوی کو نہ خرچ دے اور نہ آباد کرے	1	49/8	زنا کی ممانعت اور دنیا و آخرت میں اس کی سزا	7
819-820 2	بیویوں کے درمیان عدل کرنا	2	50/8	زنا کی مذمت	8
290/8	زوج کریم کا معنی	3	57/8	زنا کی حد میں عورت کے ذکر کو مقدم کرنا	9
	شوہر پر اس کی بیوی اور بچوں کے خرچ دینے کا وجوب	4	59-61/8	زانی کو کوڑے مارنے کے بعد شہر بدر کرنا	10
86/12			61/8	غیر شادی شدہ زانی کو صرف کوڑے مارنا	11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
376/6	زیورات کی زکوٰۃ میں مذاہب فقہاء	4		زہد	16
726/10	مرد کے زیور پہننے کی تفصیل	5	412/5	نقص اور بناوٹی زہد اللہ کی ناشکری ہے	1
	زیتون	19	427-432 5	خلفائے راشدین کا زہد و تقویٰ	2
607/3	زیتون کے خواص	1	432/5	امام اعظم کا زہد و تقویٰ	3
862/7	زیتون کے غذائی اور طبی فوائد	2	48/7	زہد کی تعریف	4
	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ	20	46/7	زہد کے متعلق احادیث	5
376/9	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات	1		آخرت کے ثواب میں اضافہ کی خاطر زہد کو اختیار کرنا	6
	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا سلوک	2	96/11	نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کا زہد	7
456/9	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	21	96-100 11	زیارت رسول کریم ﷺ	17
	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا		719/2	زیارت رسول ﷺ کے لیے صحابہ کا اضطراب	1
452/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا غیر کفو میں نکاح ہونا	1		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور ﷺ کی زیارت کرنا اور آپ ﷺ کی تعلیم سے مستفید ہونا	2
	رسول اللہ ﷺ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تفصیل	2	493/9	ایک وقت میں متعدد مقامات پر نبی ﷺ کی زیارت کی کیفیت	3
456/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی مختصر سوانح	3	494/9	اولیاء کا حضور ﷺ کی بیداری و نیند میں زیارت کرنا	4
458/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح میں مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آسانی	4	493/9	عہد صحابہ میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت اور آپ ﷺ سے استفادہ کا اس قدر ظہور کیوں نہیں ہوا؟	5
459/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمہ اور آیت حجاب نازل ہونے کے متعلق احادیث	5	495/9	زیورات	18
525/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمہ کی بعض تفصیلات	6		زیورات کے متعلق احادیث	1
527/9	زینت	22	373/6	زیورات کے متعلق فقہی احکام	2
	زینت کا معنی	1	374/6	زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق احادیث و آثار	3
733/11	زیارت قبور	23	374/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
831/12	سائل کو دینے کی ترغیب میں احادیث	14	959/12	زیارت قبور کا بیان	1
	اگر سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کریں؟	15	960/12	عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم	2
833/12					
834/12	مخلوق سے گزر گڑا کر سوال نہ کیا جائے	16		س	
	صرف اللہ کی طرف سوال کرنے میں رغبت کی جائے	17		سامری	1
866/12			429/7	سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملامت کرنا	1
233/12	سوال کرنے کے جواز کا ضابطہ	18	430/7	سامری کی دنیا میں سزا	2
	سازش	4	430/7	سامری کا پچھڑے کو جلا کر رکھ کرنا	3
699/9	بڑی سازش کی ممانعت	1	429/7	اثر رسول کے متعلق تفسیر	4
	سورۃ سبا	5		سالک	2
591/9	سورۃ کا نام اور اس کا زمانہ نزول	1	563/10	سالک کی تعریف	1
591/9	سورۃ سبا اور سورۃ الاحزاب میں مناسبت	2		سائل / سوال کرنا	3
592/9	سورۃ سبا کے مشمولات	3	266/4	کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کا جواز	1
644/9	سورۃ سبا کا اختتام	4	847/5	سوال کرنے کی شرائط و احکام	2
	سبحان	6	80/6	سوال نہ کرنے کا عہد	3
615/6	سبحان کا معنی	1	80/6	سوال کرنے کے جواز کی شرائط	4
616/6	سبحان اللہ کہنے کی فضیلت	2	699/6	سائل سے پیش آنے کا طریقہ	5
	سبب نزول	7	714/6	کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جانا	6
86/1	اسباب نزول کا بیان	1	182/7	کھانا مانگنے کا سوال کرنا	7
87/1	اسباب نزول کے فوائد	2	222/8	اللہ کے وعدہ کی بناء پر اس سے سوال کرنا	8
88/1	عام سبب اور آیت کے عام الفاظ	3	369/11	سائل اور محروم کی تعبیرات	9
88/1	خاص سبب اور آیت کے خاص الفاظ	4	371/11	اسلام میں سوال کرنے کی شرعی حیثیت	10
91/1	ایک آیت کے متعدد اسباب	5	371/11	سوال نہ کرنے کے متعلق احادیث	11
	سابقہ مشن	8	372/11	سوال کرنے کے جواز اور عدم جواز کا معیار	12
			830/12	صحیح سائل کا معیار اور غیر مستحق سائل کیلئے وعید	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
67/6	لغوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا	10	496/2	سابقہ امتوں میں قربانی و صدقات وغیرہ کو آگ کا کھانا	1
68/6	سایوں کے سجدہ کرنے کی توجیہ	11		قوم سبا	9
68/6	سجدہ کی فضیلت کے متعلق احادیث	12	615/9	قوم سبا کی خوشحالی اور بد حالی	1
277/6	فرشتوں کے سجدہ کی کیفیت	13	616/9	اہل سبا کی ناشکری اور اس کا انجام	2
278/6	تمام فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا	14		السبع المثانی	10
456/6	ہر چیز کے سائے کے سجدہ کی توضیح	15	315/6	السبع المثانی کی تفسیر میں متعدد اقوال	1
457/6	ہر چیز کے سجدہ ریز ہونے کا محمل	16		ستارہ	11
295/7	سجدہ تلاوت کرنے کے آداب	17	690/12	ستاروں کی بروج میں گردش	1
721/7	سورج کا سجدہ کر کے ٹھہرنا	18	607/12	ستاروں کے جھڑنے کی توجیہ	2
				سٹہ بازی	12
722/7	سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، درختوں، مومنوں اور کافروں کے سجدہ کی کیفیت	19		دیکھئے ”28: جواء“ صفحہ 107	1
885/12	سجدہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول	20		سجدہ	13
	سجدہ تلاوت	14	340/1 65/4	سجدہ کا معنی	1
331/9	سجدہ تلاوت کے آداب	1		آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ	2
332/9	نماز میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ	2	339/1		
	سورہ ص کے سجدہ کے وجوب میں اختلاف فقہاء	3	65/4	قرآن میں سجدہ کے اطلاقات	3
68/10			523/4	سجدہ تلاوت کی تحقیق	4
			523/4	سجدہ تلاوت کے حکم میں مذاہب فقہاء	5
69/10	سورہ ص کے سجدہ تلاوت کے متعلق احادیث و آثار	4	524/4	سجدہ تلاوت کی تعداد	6
69/10	نماز اور خارج از نماز سجدہ تلاوت کا ادا ہونا	5	522/4	حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جانا	7
512/10	آیت سجدہ	6	66/6 277/6	سجدہ کا لغوی و اصطلاحی معنی	8
694/11	جنسی، حائض اور بے وضو کا سجدہ تلاوت کرنا	7	67/6	اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا	9

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	سرگوشی کرنا	21		سورة السجده	15
392/7	سرگوشی کرنا	1	301/9	سورة کا نام	1
779/11	اللہ تعالیٰ کا سرگوشیوں پر مطلع ہونا	2	301/9	سورة السجده کے فضائل میں احادیث	2
780/11	تین اور پانچ سرگوشیاں کرنے والوں کی تخصیص	3	302/9	سورة السجده اور سورة لقمان کی مناسبت	3
	یہودیوں اور منافقوں کو مسلمانوں کے خلاف	4	303/9	سورة السجده کے مشمولات	4
780/11	سرگوشیوں سے منع فرمانا		348/9	سورة السجده کا اختتام	5
782/11	مسلمانوں کو سرگوشی سے منع کرنے کا محل	5		سجده تعظیسی	16
	مجلس میں ایک آدمی کو چھوڑ کر باقیوں کا	6	864/5	شریعت محمدی ﷺ میں سجده تعظیسی کا حرام	1
783/11	سرگوشیاں کرنا منع ہے		148/10	ہونا	
787-789	نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے	7		سج	17
11	کے حکم کی حکمتیں			مزید دیکھئے "10: صدق" صفحہ 162	1
	سزا	22		سحر	18
	کسی کو تادیب و سرزنش کے لیے سزا دینے	1		دیکھئے "3: جادو" صفحہ 100	1
392/8	کی حد			سرقہ کرنا (چوری کرنا)	19
394/8	قید کرنے اور مالی جرمانے کی سزائیں	2	180/3	سرقہ کا معنی	1
279/8	رحمن کے مردود بندوں کی سزا	3		جاہلیت اور اسلام میں جن کے ہاتھ کاٹے گئے	2
361/10	بقدر جرم سزا دینا	4	180/3	چور کے ہاتھ کاٹنے میں حکمت	3
	حضرت سعد رضی اللہ	23	181/3	حد سرقہ کا نصاب	4
412/9	حضرت سعد رضی اللہ کا موت کی تمنا کرنا	1	181-185	کون سا ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے؟	5
	سفر	24	186/3	جن صورتوں میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا	6
777/9	کشتی کے ذریعے سفر کی خصوصی نعمت	1	187/3	سرجری	20
	سکوت	25		سرجری کیلئے غیر مسلم اور مسلم اموات کا پوسٹ مارٹم	1
	دیکھئے "2: خاموش" صفحہ 119	1	185-188		
	سگریٹ نوشی	26	9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضرت سلیمان علیہ السلام کے احوال کے متعلق احادیث	17		دیکھئے ”41: تمباکو نوشی“ صفحہ 94	1
607/8				حضرت سلیمان علیہ السلام	27
609/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات	18	459/1	حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت	1
611/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم علم عطا کیا گیا	19	621/7 598/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام و نسب	2
622-627	حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت و علم کے وارث تھے نہ کہ مال کے	20	621/7	حضرت سلیمان علیہ السلام کے احوال و فضائل	3
8			622/7	حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات	4
634/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز دی گئی	21	622/7	حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام کا اختلاف	5
635/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور ان کا لشکر	22		حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے تیز وزم ہواؤں کو مسخر کرنا	6
	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ڈرانے والی چیونٹی	23	642/7		7
636/8			642/7	جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کرنا	
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنت اور بعد از وفات ذکر جمیل کی دعا کرنا	24	598/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں ذکر	8
647/8			599/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا قضاء ہونا	9
	حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہمارے لیے نصیحت	25	600/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد	10
650/8				حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجتہاد میں اصابت رائے	11
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد کی گمشدگی کے متعلق سوال کرنا	26	602/8		12
651/8				حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث پر اعتراض کا جواب	
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کی بشارت دینا	27	601/8		13
652/8				حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعاتی شہادت سے استدلال	
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب میں پہلے اپنا نام لکھنا	28	603/8		14
678/8				حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا ملک عطا کیا گیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا	
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلیقیس کو ایمان لانے کا حکم دینا	29	604/8		15
682/8				حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کرنا	
	حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی فضائل	30	604/8		16
609/9				حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا طاری ہونا	
613/9		31			
90/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ	32	605/8		مسخر کرنا

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
837/8	سلام کی اقسام	12	90/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کی تعداد	33
732/10	کافروں کو سلام کرنے کا مسئلہ	13	91-96	حضرت سلیمان علیہ السلام کا آزمائش میں مبتلا ہونا	34
781/11	اہل ذمہ کو سلام کا جواب دینے میں فقہاء کے مذاہب	14	10	حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے متعلق اسرائیلی روایات	35
703/11	مومنوں پر فرشتوں کے سلام کے مواضع اور مقامات	15	96/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کا محمل	36
	سلطان	29	106/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلطنت کی دعا کرنا	37
	دیکھئے "3: حاکم" صفحہ 110	1		حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کرنا	38
	سلطنت	30	110/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو زنجیروں سے جکڑنا	39
	دیکھئے "3: حاکم" صفحہ 110	1	111/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کا دنیاوی و اخروی قرب	40
	سماع موتی	31	111/10	سلام / معانقہ	28
576/4	سماع موتی کی بحث	1		سلام کا مقرر کردہ طریقہ	1
	سماع موتی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کی توجیہ	2	735/2	مصافحہ اور معانقہ کی فضیلت	2
577/4	سماع موتی کے ثبوت میں احادیث و آثار	3	736/2	کن لوگوں کو سلام میں پہل کرنی چاہیے	3
584/4	سماع موتی کا ثبوت	4	737/2	کن مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے	4
737/8	قبر والوں کے سننے کا مسئلہ	5	738/2	جن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے	5
669/9	قبر والوں کے غور و فکر نہ کرنے پر ایک اعتراض کا جواب	6	584/5	جن لوگوں کے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے	6
670/9	سماع	32	584/5	سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی احکام و مسائل	7
	سماع کے دوران قیام	1	585/5	سلام کے متعلق احادیث	8
63/7	ہمارے زمانہ کے بناوٹی صوفیاء کا سماع	2	583/5	سلام کی اقسام	9
387/8	کس قسم کے اشعار کے ساتھ سماع جائز ہے	3	284/7	کفار و فساق کو سلام کرنا	10
222/9	آلات موسیقی کے ساتھ سماع کا حرام ہونا	4	285/7	گھر میں دخول کے وقت گھر والوں کو سلام کرنا	11
225/9			188/8		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
96/1	مکی اور مدنی سورتوں کی معرفت	3	225-229	آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں ائمہ	5
	سورج	37	9	مذہب اربعہ کے نظریات	
151/3	حدیث رد شمس	1	229/9	جائز اور ناجائز سماع	6
149/3	حضرت یوشع کے لیے سورج ٹھہرانا	2	230/9	سماع کے اسباب	7
150/3	نبی ﷺ کا سورج کو لوٹانا	3	231/9	سماع کی حقیقت	8
144/7	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے رد شمس	4	231/9	سماع کی انواع و پھیلاؤ	9
147/7	حدیث رد شمس پر اعتراضات کے جوابات	5	233/9	سماع کے متعلق اعلیٰ حضرت کی تحقیق	10
763/9	سورج کے مستقر کے متعدد محامل	6		سمندر	33
764-770	سورج کا غروب کے وقت عرش کے نیچے	7	368/6	سمندر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	1
9	سجدہ کرنا		368/6	سمندر کی تسخیر کا معنی	2
	سورج اور چاند میں سے کسی کا دوسرے پر	8	369/6	سمندری جانوروں کا کھانا	3
771/9	سبقت نہ کرنا		185/7	سمندر میں کام کرنے والے مسکین	4
510/10	سورج گرہن کے وقت نماز پڑھنا	9		سنت	34
	سورج گرہن کی نماز کے طریقہ میں مذاہب	10	509/1	سنت کی تعریف، اقسام اور شرعی حکم	1
510/10	ائمہ		511/1	ترک سنت کی سزا	2
	سورج کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں،	11	382/2	سنت کا معنی	3
764/12	برکتیں اور نشانیاں		382/2	قرآن مجید کی روشنی میں سنت کا مفہوم	4
764/12	چاند کن چیزوں میں سورج کے تابع ہے؟	12	455/3	سنت کی حجیت پر دلائل	5
	رات اور دن کی سلطنت کا سورج سے زیادہ	13	94/7	سنت پر عمل کرنے کا جواز	6
765/12	ہونا			سود	35
	سونا	38		دیکھئے "6:ربا" صفحہ 133	1
722/10	سونے کا برتنوں کا حرام ہونا	1		سورۃ	36
	سونے کے ظروف آرائش اور چار انگل سونے	2	93/1	سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت	1
723/10	کے کام والے کپڑوں کا جواز		95/1	سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	شب برأت میں شب بیداری کرنا اور مخصوص عبادات کرنا	4	744/10	سونے کے ظروف کی تفصیل	3
759/10			451/12	سونے کے کنگن	4
	شب برأت میں صلوٰۃ التسبیح اور دیگر نوافل کو جماعت سے پڑھنا	5	448/12	جنت میں سونے کے برتن	5
759/10				سہو	39
	شجرۃ الزقوم	3	994/12	سہو کی تحقیق	1
750/6	شجرہ الزقوم کا معنی	1		سیارہ	40
751/6	شجرۃ الزقوم کو ملعون فرمانا	2	554/7	ہر سیارہ کا اپنے مدار میں گردش کرنا	1
	الشح	4		ہر سیارے کی گردش کے متعلق سائنس کی تحقیق	2
826/11	الشح کے متعلق احادیث و آثار	1	550/7		
	شہر	5		قدیم فلاسفر کے نزدیک ہر سیارہ کا اپنے مدار میں گردش کرنا	3
403/8	شرکی اقسام	1	771/9		
	شرح صدر	6	772/9	ہر سیارہ کی اپنی گردش کے متعلق سائنسی تحقیق	4
841/12	شرح صدر کا معنی	1		سیدھا راستہ	41
842/12	شرح صدر کے متعلق احادیث	2		دیکھئے "12: صراط مستقیم" صفحہ 162	1
	شُرک	7		ش	
311/1 687/2	شُرک کی تعریف	1		شام	1
311/1 688/2	کیا چیز شرک ہے اور کیا نہیں؟	2	613/7	شام کا برکت والی سرزمین ہونا	1
287/4	شُرک کے فعل کا جہالت و حماقت ہونا	3		شب برأت	2
288/4	کسی مسلمان موحد کو مشرک کہنا کیسا	4		لیلۃ مبارکۃ سے نصف شعبان کی رات	1
363/5 447/5	شُرک کا بطلان	5	744/10	مراد ہونے کے متعلق روایات	
	نبی ﷺ کو شرک سے منع کرنے میں امت کی طرف تعریض ہے	6	744-748 10	شب برأت میں کثرت مغفرت کے متعلق احادیث وغیرہ	2
651/5	دنیا میں شرک کا قابل درگزر ہونا	7	751-759	وہ کام جن کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی مقبولیت سے محرومی ہوتی ہے	3
760/5	شرک سے اجتناب کے اختصا ص کی توجیہ	8	10		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
642/2	شریعت کا مزاج، آسان احکام بیان کرنا ہے	6	65/6	غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا شرک ہے	9
765/2	احکام شرعیہ کا مدار	7	395/6	کفار مکہ کے شرک پر اصرار کا سبب	10
381/3	شریعت کی طرف اشارہ	8	516/6	شرک کے رد پر دلیل	11
782/5	تمام مقاصد حیات کے لیے شریعت کا متکفل ہونا	9	683/6	شرک کی مذمت	12
173/7	شریعت کی تعریف	10	745/6	مطلقاً مد و طلب کرنے کو شرک کہنا	13
562/10	شریعت کا لغوی و اصطلاحی معنی	11	214/8	شرک کی پستی	14
561/10	تمام انبیاء کا دین واحد اور شریعتوں کا متعدد ہونا	12	224/8	شرک کی مذمت	15
580/10	خود ساختہ شریعتوں کی مذمت	13	720/8	شرک کا ابطال	16
801/10	حضور ﷺ کی شریعت کا ممتاز اور منفرد ہونا	14	851/8	اولیاء اللہ کو ”مشکل کشا“ کہنے کو مودودی کا شرک قرار دینا	17
802/10	آپ ﷺ کی شریعت کے بعد کسی اور کی شریعت کی طرف التفات کرنا جائز نہیں	15	238/9 837/9	شرک کی مذمت	18
	شرم گاہ	9	864/8	اس آیت کی توجیہ کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں	19
89/4	مرد اور عورت کی شرم گاہوں کے مصادیق	1	251/9	شرک کے ظلم عظیم ہونے کی وجہ	20
101/4	برہنہ طواف کی ممانعت	2	1039/12	شرک کی تعریف اور مشرکین مکہ کا شرک	21
102/4	تعمیر کعبہ کے وقت تہبند اتار کر کندھے پر رکھنے کی روایت کی تحقیق	3		شریعت	8
	شعور	10	176/1	شریعت کا معنی	1
286/1	شعور کا معنی	1	217/1	جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کا شریعت کا مکلف ہونا	2
	شعر	11	301/1	شریعت کے معنی میں اہل سنت و معتزلہ کا اختلاف	3
519/7	شعر کا معنی اور رسول اللہ ﷺ کا علم شعر کی تحقیق	1	500/1	شریعت کا مزید بیان	4
			641/2	احکام شرعیہ پر عمل	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
418/8	حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ	6	536/8	شعر کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اس کی تاریخ	2
420/8	حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام بعثت	7	537/8	شعراء کا ہر وادی میں بھٹکتے پھرنا	3
421/8	اہل مدین اور اصحاب الایکہ	8	538/8	اشعار کی مذمت میں احادیث	4
436/8	اصحاب الایکہ پر عذاب نازل ہونا	9		رسول اللہ ﷺ کا انتقام لینے کیلئے کفار کی	5
77/9	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا	10	539/8	ہجو کرنا	
77/9	عاد اور ثمود کی ہلاکت	11	541/8	اشعار کی فضیلت میں احادیث	6
	شعائر اللہ	13	543/8	حکیمانہ اشعار کا معدن و منبع	7
36/3	شعائر اللہ کا معنی	1	543/8	رسول اللہ ﷺ کے اشعار نہ کہنے کا سبب	8
328/3	کعبہ اور شعائر حرم	2	828/9	شعر کی تحقیق	9
748/7	شعائر اللہ کا معنی و مصداق	3		قرآن کی بعض آیتوں پر شعر ہونے کا شبہ	10
749/7	اولیاء کے مزارات کا شعائر اللہ میں داخل ہونا	4	828/9	اور اس کا جواب	
	سورۃ الشعراء	14	829/9	گمراہ کن اشعار	11
283/8	سورۃ کا نام وجہ تسمیہ	1		نبی ﷺ کے کہے ہوئے کلام موزوں کے	12
283/8	سورۃ الفرقان سے سورۃ الشعراء کی مناسبت	2	831/9	شعر ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ	
284/8	سورۃ الشعراء کے مقاصد و مسائل	3	834/9	کیا حضور ﷺ کو شعر کہنے کے فن کا علم تھا؟	13
285/8	سورۃ الشعراء کی فضیلت	4	834/9	اچھے اور پسندیدہ اشعار کا بیان	14
437/8	سورۃ الشعراء میں انبیاء کے قصص کی تنقیح	5		حضرت شعیب علیہ السلام	12
543/8	سورۃ الشعراء کا اختتام	6	609/5	حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ کی تشریح	1
	شفاء	15	609/5	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سامنے تقریر	2
339/8	شفاء کے متعلق عارفین کے اقوال	1	611/5	حضرت شعیب علیہ السلام کے خطاب کا تمہ اور قوم کو نصیحت	3
	شفقت	16		حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو کفار کے	4
729/9	مخلوق پر شفقت کی تفصیل	1	613/5	نہ سمجھنے کی وجہ	
	شفاعت	17		حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی	5
391/1	شفاعت پر قرآن سے استدلال	1	614/5	تفصیل	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
443/7	شفاعت کے متعلق محمد بن عبدالوہاب کا نظریہ	20	393/1	شفاعت پر حدیث سے استدلال	2
443/7	شفاعت کے متعلق شیخ اسماعیل کا نظریہ	21	747/1	شفاعت طلب کرنا	3
454/7	شفاعت کے متعلق ابوالاعلیٰ مودودی کا نظریہ	22		نبی کریم ﷺ کے روضہ پر حاضر ہو کر شفاعت	4
444/7 477/7	شفاعت بالوجاہت کا مفہوم	23	714/2	طلب کرنا	
445/7	شفاعت اور محبت	24	734/2	شفاعت کا معنی اور اس کی اقسام	5
447/7	شفاعت اور دعا	25	734/2	نیکی کے کاموں میں شفاعت	6
449/7	شفاعت بالاذن	26		فساق مومنین کے لیے نبی کریم ﷺ کی	7
457/7	ہر شخص کی شفاعت کے لیے مخصوص اذن	27	379/3	شفاعت	
459/7	گناہ کبیرہ کی شفاعت کے جواز پر دلائل	28		حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گناہگاروں کی	8
461/7	شفاعت کے متعلق علماء اہل سنت کا نظریہ	29	621/4	آخرت میں دوبارہ شفاعت فرمانا	
464/7	انبیاء علیہم السلام کی شفاعت	30	196/6	مرتببین کبار کی شفاعت پر دلیل	9
464/7	شفاعت کے متعلق قرآن کی آیات	31		شفاعت کی توقع کے باوجود توبہ کرنے میں	10
464/7	حضرت سیدنا محمد ﷺ سے طلب شفاعت	32	775/6	تاخیر نہ کی جائے	
465/7	صالحین کی شفاعت، مومنین کے لیے	33	775/6	شفاعت کبریٰ کے متعلق احادیث	11
465/7 322/10	فرشتوں کا شفاعت کرنا	34		قیامت کے دن حضور ﷺ کی شفاعت کی	12
466/7	شفاعت کے متعلق چالیس احادیث	35	777/6	اقسام	
541/7	کفار و مشرکین کے لیے شفاعت کا عدم جواز	36		حضور ﷺ کی شفاعت سے دوزخ سے	13
623/9	کفار کے لیے شفاعت نہ ہونے کی دلیل	37	778/6	مسلمانوں کو نکالا جانا	
212/10	گناہ کبیرہ کے مرتببین کی شفاعت پر ایک	38	438/7	شفاعت کا لغوی معنی	14
339/10	اعتراض کا جواب		440/7	شفاعت کا اصطلاحی معنی	15
274/10	بتوں کی شفاعت کرنے کا رد	39	441/7	شفاعت کے متعلق معتزلہ کا نظریہ	16
	مشرکین کے لیے بتوں کی شفاعت کا باطل	40	441/7	شفاعت کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کا نظریہ	17
108/11	ہونا		442/7	شفاعت کے متعلق غیر مقلدین کا نظریہ	18
	کفار کیلئے فرشتوں کی شفاعت نہ کرنے کی	41	442/7	شفاعت کے متعلق شیعہ کا نظریہ	19
517/11	توجیہ				

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
142/6	شکر کے متعلق احادیث و آثار	9	613/12 533/12	اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت کی ممانعت	42
143/6	شکر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا معیار	10	536/12	حصول شفاعت کی دعا پر معتزلہ کے اعتراض کا جواب	43
146/6	حمد اور شکر میں فرق	11	396/12	فساق مؤمنین کے لیے شفاعت کا ثبوت	44
146/6	من لم يشكر الناس لم يشكر الله	12	213/12	کفار کا شفاعت سے محروم ہونا	45
147/6	شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	13	227/12	مسلمانوں کا گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کرنا	46
152/6	اللہ کا شکر نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں	14		شق صدر	18
463/6	شکر کے شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث	15	851/12	معراج کے موقع پر شق صدر	1
644/6	حضرت نوح علیہ السلام کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا	16	852/12	آپ علیہ السلام کا شق صدر کتنی بار ہوا؟	2
699/6	شیطان کا، ناشکرا ہونا	17	853/12	شق صدر پر اعتراضات کے جوابات	3
473/8	بندہ کے شکر اور اللہ کے شکر کا معنی	18		شق قمر	19
646/8	ادائیگی شکر کا طریقہ	19	574/11	واقعہ شق القمر کے متعلق احادیث	1
193/9	شکر کی تلقین	20	576/11	واقعہ شق القمر پر اعتراضات کے جوابات	2
280/9	شکر کی فضیلت میں احادیث و آثار	21	580/11	واقعہ شق القمر کو مشرکین مکہ کا دیکھ لینا	3
282/9	صوفیاء کے نزدیک شکر کی تعریفات	22		شکر/شا کر	20
452/12	بندوں کا مشکور اور اللہ کا شا کر ہونے کی توجیہ	23	839/2	شکر کی ایمان پر تقدیم	1
187/12	ناشکری کا انجام بد	24	840/2	شا کر اور علیم میں مناسبت	2
	شک	21	53/4 143/6 146/6	شکر کا معنی	3
241/1	ریب کا معنی	1		شکر کے متعلق قرآنی آیات	4
241/1	قرآن میں ریب کی نفی اور اثبات کا عمل	2	54/4	شکر ادا کرنے کے طریقے	5
	قرآن میں بظاہر شک کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہونا اور اس سے عام لوگوں کا مراد ہونا	3	54/4	شکر کی فضیلت	6
466/5			56/4	لباس کی نعمت پر شکر	7
467/5	شک کی نسبت عام لوگوں کی طرف ہونا	4	89/4	شکر ادا کرنے کے متعلق حدیث	8
			116/4		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
79/3	بندوق سے مارا ہوا شکار	18	467/5	شک کی نسبت کے متعلق بعض تراجم	5
80/3	بندوق کے شکار کو حلال قرار دینا	19	576/5	شک اور مریب میں فرق	6
	شگون	24	151/8	شک کی تعریف	7
271/4	قال اور شگون نکالنے کی تحقیق	1		شکوہ / شکایت	22
272/4	بدشگونی کی ممانعت کے اسباب	2	231/12	فقر اور مرض میں شکوہ و شکایت نہ کرنا	1
273/4	نیک قال کے جواز کا سبب	3		شکار	23
274/4	عورت، مکان اور گھوڑے میں بدشگونی	4	316/3	حالت احرام میں شکار	1
275/4	بدشگونی لینا کفار کا طریقہ ہے	5	317/3	محرم کو شکاری جانوروں کے قتل کی اجازت	2
	کسی چیز سے بدشگونی لینا یا کسی دن کو منحوس	6	318/3	قتل کرنے پر ضمان	3
276/4	قرار دینا		318/3	شکار کی تعریف	4
278/4	بدشگونی کے متعلق خلاصہ	7	318/3	شکار پر دلالت کی وجہ سے ضمان	5
651/6	طار کا لغوی و عرفی معنی	8	320/3	شکار کی جزاء	6
657/6	طار کے متعلق احادیث	9	322/3	طعام کا صدقہ	7
699/8	نحوست و بدشگون کی تحقیق	10		اضطرار کی صورت میں شکار اور مردار میں	8
737/9	کفار کا انبیاء کو بدشگون کہنا	11	322/3	سے کس کو اختیار کیا جائے؟	
44/11	بدشگونی کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	12	322/3	دوسری بار شکار کو مارنا	9
452/10	بعض ایام کا منحوس ہونا	13	323/3	سمندری شکار	10
456-464 10	نحوست اور بدشگونی کا رد	14	324/3	شکار کا گوشت محرم کے لیے	11
44/11	بدشگونی کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	15	73/3	شکار کی اقسام اور اس کا شرعی حکم	12
	شمس	25	73/3	شکار کی شرائط	13
	دیکھئے "37: سورج" صفحہ 149	1	74/3	شکار کرنے والے جانور	14
	سورۃ الشمس	26	74/3	شکاری کتے کا معیار	15
	سورۃ کا نام، وجہ تسمیہ اور اس کی فضیلت میں	1	75/3	جس شکار یا ذبیحہ پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے	16
76/12	احادیث		77/3	غلیل، کمان اور دیگر آلات سے شکار کرنا	17

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	گواہی کے لیے گواہوں کے جانے کا شرعی حکم	10	761/12	سورۃ الشمس اور سورۃ البلد کی باہمی مناسبت	2
1013/1			762/12	سورۃ الشمس کے مشمولات	3
1014/1	کاتب اور گواہ کے ضرر کا بیان	11	775/12	سورۃ الشمس کا خاتمہ	4
1019/1	گواہی دینے کا وجوب	12		”وما بناھا“ میں ”ما“ سے مراد ”من“	5
604/2	حدود میں عورتوں کی گواہی	13	766/12	ہونے کی توجیہ	
605/2	حدزنا میں چار مردوں کی گواہی	14		شوہر	27
826/2	اپنے خلاف گواہی دینے کا معنی	15		دیکھئے ”15: زوج“ صفحہ 142	1
826/2	عدل کو گواہی پر مقدم کرنا	16		سورۃ الشوریٰ	28
827/2	گواہی نہ دینا	17	533/10	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
117/3	صحیح اور سچی شہادت	18	535/10	سورۃ الشوریٰ کا زمانہ نزول	2
118/3	نااہل کو سند دینا	19	535/10	سورۃ الشوریٰ کے مقاصد و مباحث	3
119/3	شہادت کی تعریف	20	617/10	شوریٰ کا معنی	4
346/3	غیر مسلموں کو گواہ بنانا	21	649/10	سورۃ الشوریٰ کا اختتام	5
347/3	اہل ذمہ کی آپس میں گواہی	22		شہادت	29
350/3	ناگزیر صورت میں غیر مسلموں کو گواہ بنانا	23	1006/1	شہادت کا معنی	1
	واقعاتی شہادت کے حجت ہونے پر قرآن و	24	1007/1	شہادت کی اقسام	2
839/5	حدیث سے دلائل		1008/1	شہادت کا حکم	3
386/8	فاسق انسان کی شہادت مقبول نہیں	25	1008/1	شہادت کی تعریف، رکن اور سبب	4
524/10	قرآن عقلیہ اور شواہد کے خلاف شہادت کا	26	1008/1	شہادت کی شرائط	5
527/10	غیر معتبر ہونا		1008/1	عورت کی شہادت	6
236/12	گواہیوں کی تفصیل	27	1010/1	جن امور میں فقط عورت کی گواہی معتبر ہے	7
	شہید	30		مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلہ میں	8
315/1 602/1	شہید کا معنی	1	1011/1	دو عورتوں کی شہادت	
596/1	شہداء کی حیات	2	1012/1	عورت کی شہادت کو نصف قرار دینا	9

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
108/12	رسول اللہ ﷺ کا شہد نہ پینے کا عزم	6	596/1	شہادت کے بعد بعض جسموں کا متغیر ہونا	3
	شہاب ثاقب	32		سبز پرندوں میں شہید کی روح کے متحمل ہونے سے تنازع کا جواب	4
254/6	شہاب ثاقب کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	597/1	شہید کے متعلق فقہی احکام	5
255-260	آپ ﷺ کی بعثت سے قبل شہاب ثاقب گرائے جانے کے متعلق متعارض احادیث	2	603/1	شہید کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	6
6			385/2 719/2		
515/8	شہاب ثاقب کے متعلق حدیث	3	413/2	اللہ کی راہ میں مرنا	7
516/8	ستاروں کی تاثیر کی نفی کے متعلق احادیث	4	457/2	حیات شہداء کے متعلق احادیث	8
	حقیقت میں شیطان کو آگ کا شعلہ لگتا ہے یا ستارہ ٹوٹتا ہے؟	5	458-461	حیات شہداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات	9
260/6			2		
862/9	شہاب ثاقب سے کیا مراد ہے؟	6	462/2	شہادت کا اجر و ثواب	10
	شہاب ثاقب گرانے پر چند شبہات کے جوابات	7	463/2	حکمی شہداء کے متعلق احادیث	11
863/9			467/2	حکمی شہداء کا خلاصہ	12
863/9	شہاب ثاقب کا معنی	8	468/2	غسل شہداء	13
143/12	شہاب ثاقب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	9	468/2	شہداء کی نماز جنازہ	14
143/12	شہاب ثاقب کے متعلق احادیث	10	469/2	شہداء کا رزق	15
	شہاب الزہری	33	728/11	ہر مومن کا شہید ہونا	16
102/8	شہاب الزہری کون تھے؟ کیا تھے؟ کیسے تھے؟	1	729/11	حاکمی شہداء کی تعداد	17
	شیطان	34	730/11	شہادت کی تمنا کا اجر	18
341/1	ابلیس کا معنی اور اس کا فرشتہ یا جن ہونا	1		شہد	31
340/1	ابلیس کے تکبر کا بیان	2	492/6	شہد کی مکھی کی طرف وحی	1
	شجر ممنوعہ کھلانے کے لیے ابلیس کی دوسرے اندازی	3	493/6	شہد کی مکھی کی اقسام	2
346/1			494/6	شہد کی مکھی کے عجیب و غریب افعال	3
	وہ شیطان جس سے منافق خلوت میں ملتے تھے	4	497/6	شہد کا ذیابیطس کے مریض کے لیے شفاء نہ ہونا	4
296/1				رسول اللہ ﷺ کا شہد سے امتناع کو حرام سے تعبیر کرنا	5
803/2	شیطان کا گمراہ کرنا	5	107/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
175/6	ابلیس کا وعدہ اور اللہ کا وعدہ	26	805/2	شیطان کا وعدہ	6
175/6	شیطان کا سلطان کی نفی کرنے کے دو محمل	27	629/3	شیاطین کا سرکش ہونا	7
	برے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کے	28	630/3	شیطان کے دوسرے اندازی کی تحقیق	8
176/6	بجائے خود کو مطعون کیا جائے		631/3	شیاطین کو پیدا کرنے کی حکمتیں	9
176/6	شیطان کے دوسرے کی کیفیت	29	66/4	ابلیس جن تھا یا فرشتہ؟	10
	شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مکالمہ کے	30	67/4	ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہونے	11
278/6	اہم نکات		70/4	پر استدلال	
699/6	شیطان کا ناشکر ہونا	31		شیطان کے ساتھ طویل مکالمہ، اس کی فضیلت	12
132/7	شیطان کی ذریت کا معنی	32	74/4	پر دلالت نہیں کرتا	
283/7	شیطان کی ولایت کا معنی	33		ابلیس کو جنت سے اترنے کا حکم دیا گیا تھا یا	13
315/7	شیاطین کو کفار پر مسلط کرنا	34	74/4	کہ آسمان سے	
457/8	شیاطین قرآن کو نازل نہیں کر سکتے	35	76/4	ابلیس لعین کو کتنی زندگی دی گئی ہے؟	14
458/8	شیاطین فرشتوں کا کلام نہیں سن سکتے	36	78/4	ابلیس کا جبر اور قدر میں حیران ہونا	15
139/9	ابلیس کے صیغہ کی تحقیق	37	78/4	ابلیس کا صراط مستقیم سے بہکانے کی سعی کرنا	16
	شیطان کے پیروکاروں کا اس کی پیش گوئی کو	38	79/4	ابلیس کا چار جہات سے حملہ آور ہونا	17
617/9	سچ کر دکھانا		80/4	ابلیس کا یہ دعویٰ کہ اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے	18
654/9	شیطان کے دھوکے کا بیان	39	83/4	ابلیس کی دوسرے اندازی	19
804/9	شیطان کو عبادت سے روکنے کا محمل	40	506/4	نزغ شیطان کا معنی	20
805/9	شیطان کی اطاعت	41	506/4	وساوس شیطان سے نجات کا طریقہ	21
	شیطان کا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے	42		دوسرے شیطان کی وجہ سے عصمت انبیاء پر	22
809/9	گناہ کرانے کے باوجود نا کام رہنا		507/4	اعتراض اور اس کا جواب	
815/9	شیطان کا کام صرف تزئین ہے	43	652/4	ابلیس کا سراقہ کی شکل میں آ کر کفار کو بہکانا	23
	شیطان کو کسی انسان کے جسم پر تسلط اور	44		ابلیس کو سراقہ کی شکل میں متشکل ہونے کی	24
117/10	تصرف حاصل نہیں ہے		652/4	قدرت دینے کی حکمت	
148/10	ابلیس کا معنی اور اس کا جنات میں سے ہونا	45	174/6	شیطان سے مراد ابلیس ہونا	25

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
37/10	ولایت عین مناص کی تفسیر	6		ابلیس کے اس زعم کا بطلان کہ وہ آدم سے افضل ہے	46
159/10	سورہ ص کا اختتام	7	151/10		
	حضرت صالح علیہ السلام	2		معصیت میں شیطان کی اتباع دوزخ میں	47
209/4	قوم شمود کی اجمالی تاریخ	1	685/10	شیطان کی اتباع کو مستلزم ہے	
209/4	حضرت صالح کی بعثت	2	814/10	شیطان کا تبع کون ہے؟	48
209/4	حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ کی طلبی	3	142/12	ستاروں سے شیاطین کو رجم کرنا	49
210/4	قوم شمود کی سرکشی اور ان پر عذاب	4		ستاروں سے شیاطین کو رجم کرنے پر	50
211/4	اونٹنی کا قاتل کون تھا؟	5	145/12	اعترافات کے جوابات	
212/4	اونٹنی کا معجزہ ہونا	6		شیعہ	35
212/4	قوم شمود کا قصہ	7	898/9	شیعہ کا لغوی معنی	1
567/5	حضرت صالح علیہ السلام کا دلائل قائم کیے بغیر توحید کی دعوت دینا	8		حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت	2
576/5	حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کی امیدوں کی وجوہات	9	898/9	موجودہ شیعہ کا اکابر صحابہ پر سب و شتم کرنا	3
577/5	حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے معجزہ ہونے کی وجوہ	10	643/5	شیخ	36
			117/12	لفظ شیخ کا معنی اور اس کے مواضع استعمال	1
577/5	اپنی نبوت پر یقین کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام نے بصورت شک بات کیوں کی؟	11		ص	
578/5	اونٹنی سے قوم کی دشمنی کا سبب	12		سورہ ص	1
578/5	اونٹنی کو قتل کرنے کی وجوہ	13	29/10	سورہ ص کا نام اور وجہ تسمیہ	1
578/5	اونٹنی کو قتل کرنے کی تفصیل	14	29/10	سورہ ص کا زمانہ نزول	2
579/5	قوم شمود پر عذاب نازل ہونے کی تفصیل	15	30/10	سورہ ص کے اغراض و مقاصد	3
313/6	حضرت صالح علیہ السلام کی نشانیاں	16	31/10	سورہ ص کے مضامین اور مشمولات	4
402/8	حضرت صالح علیہ السلام کو قوم شمود کی طرف بھیجنا	17	68/10	سورہ ص کے سجدہ کے وجوب میں اختلاف فقہاء	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	صالح	3	404/8	حضرت صالح علیہ السلام سے دلیل کا مطالبہ	18
	دیکھئے ”48: نیک لوگ“ صفحہ 275	1		حضرت صالح علیہ السلام کا چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھانا	19
	صائبین	4	404/8		
412/1	صائبین کے دین کی تحقیق	1	405/8	قوم ثمود کا اونٹنی کو قتل کرنا	20
	صابن	5		قوم ثمود کے نادم ہونے کے باوجود ان پر عذاب نازل ہونا	21
636/1	ملکی وغیر ملکی صابنوں کو استعمال کرنا	1	406/8		
	صبر	6	698/8	حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کا تعارف	22
387/1	صبر کا معنی	1	699/8	اونٹنی کو قتل کرنے والے نو آدمی	23
387/1	صبر کے متعلق احادیث	2		حضرت صالح علیہ السلام کے مخالفین کی سازش کا ناکام ہونا	24
605/1	دنیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات	3	700/8		
606/1	مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت	4	700/8	قوم ثمود کے ہلاک ہونے کی کیفیت	25
606/1	انا لله وانا اليه راجعون پڑھنے کی فضیلت	5		حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے تبعین کا الحجر سے نکل جانا	26
608/1	مروجہ ماتم کی شرعی حیثیت	6	701/8		
534/2	صبر کا معنی	7	464/10	قوم ثمود کا ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جانا	27
534/2	صبر کے متعلق احادیث	8		قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت	28
535/2	صبر اور مصابہہ میں فرق	9	590/11		
535/2	مصابہہ کے متعلق احادیث	10	591/11	قوم ثمود اور اونٹنی کے درمیان پانی کی تقسیم	29
485/5	زیادتیوں پر صبر کا حکم	11	591/11	قوم ثمود کا اونٹنی کو ذبح کرنا	30
690/5	اختیاری صبر کی زیادہ فضیلت	12	592/11	قوم ثمود پر عذاب کی کیفیت	31
691/5	ہمارے نبی ﷺ کا صبر حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر سے زیادہ عظیم ہے	13	383/11	قوم ثمود کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں	32
			774/12	قوم ثمود کی سرکشی اور اس کا عذاب	33
	حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے بجائے بیٹوں کی تفتیش کیوں نہ کی؟	14	730/12	قوم ثمود کا عذاب	34
720/5			732/12	قوم ثمود کا پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانا	35
721/5 843/5	صبر جمیل کی تعریف	15	205/12	قوم ثمود کی عذاب سے ہلاکت	36

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
295/1	صحابہ کرام پر سب و شتم کی مذمت	1	721/5	صبر جمیل کے حصول کے اسباب	16
571/1	عدالت صحابہ	2	722/5	صبر جمیل کی اقسام	17
479/2 527/2	تمام صحابہ کرام کا مومن و طیب ہونا	3	843/5	صبر جمیل کے اجر کے متعلق احادیث	18
99/5	سابقین صحابہ کی فضیلت	4	84/6	صبر کی اقسام	19
78/5	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صحابہ کرام کو دینی بھائی کے بجائے میرے اصحاب کہنا	5	84/6	صبر کی وجوہ اور جس وجہ سے صبر اللہ کے لیے ہو	20
209/5	صحابہ کرام کے صدقات پر منافقین کے طعنے	6	88/6	مومنوں کا صبر کرنا	21
643/5	اکابر صحابہ پر شیعہ کا سب و شتم کرنا	7	142/6	صبر کے متعلق احادیث	22
588/10	تعمیم صحابہ کا عقیدہ صرف اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے	8	604/6	صبر کرنے کی ترغیب	23
588/10	تعمیم صحابہ کے متعلق احادیث	9	501/7	نبی کریم ﷺ کو صبر کا حکم	24
794/11	اپنے کافر باپ یا بیٹے اور دیگر رشتہ داروں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دینے والے صحابہ	10	193/9	صبر کی تلقین	25
827/11	صحابہ اور اختیار تابعین سے محبت کا وجوب	11	266/9	صبر اور عزیمت کی تفصیل	26
827/11	اصحاب کو سب و شتم کی ممانعت	12	280/9	صبر کی فضیلت میں احادیث و آثار	27
721/11	فضائل صحابہ میں احادیث	13	282/9	صوفیاء کے نزدیک صبر کی تعریفات	28
268/11	خلفائے راشدین کے فضائل	14	120/10	حضور علیہ السلام کو صبر کی تلقین	29
269/11	سجدوں کے اثر سے پیشانی پر نشان	15	200/10	صبر کے معانی	30
269/11	تورات اور انجیل میں صحابہ کی صفات	16	201/10	صبر کا بے حساب اجر عطا فرمانے کی وجوہ	31
270/11	صحابہ کرام کے فضائل	17	201/10	صبر کی جزاء کے متعلق احادیث و آثار	32
	صحیفہ	8	505/10	لوگوں کی زیادتی پر صبر کرنا اور انہیں جواب نہ دینا	33
418/10	صحیفوں کی تعداد کی تحقیق	1	918/11	مصائب پر صبر کرنے کی تلقین و ترغیب	34
821/10	لوگوں کو ان کے صحائف اعمال کی طرف بلانا	2	447/12	صبر کی اقسام	35
947/12	صحیفوں کے مندرجات کو ظاہر کرنے کے محال	3	226/12	صبر جمیل	36
				صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	جنگِ صفین	15	702/12	صحیفوں کی تعداد کی تحقیق	4
289/11	جنگِ صفین کے متعلق حرفِ آخر	1	629/12	مومنوں کے صحائف کے متعلق احادیث و آثار	5
	صفاتِ باری تعالیٰ	16	658/6	صحائفِ اعمال کو گلے میں لٹکانا	6
136-139 10	اللہ تعالیٰ کا غفار ہونا	1	659/6	بندہ کا اپنے صحائفِ اعمال کو پڑھنا	7
316/10	العزیز اور العظیم کا معنی	2		صدق	9
355/10	جبار و متکبر کا معنی اور ان کے متعلق احادیث	3		دیکھئے "20: دوست" صفحہ 130	1
	اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرنے کے متعلق احادیث	4		صدق	10
798/10			380/3	سچ بولنے کا فائدہ	1
	المتکبر کا لفظ اللہ کے لیے باعثِ مدح اور مخلوق کے لیے باعثِ مذمت ہے	5	288/5	صدق کے متعلق احادیث	2
835/11			289/5	صدق کی عقلی فضیلت	3
	رحمن کا معنی اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہونا	6		صدقہ	11
604/11				دیکھئے "99: انفاق فی سبیل اللہ" صفحہ 75	1
	اللہ تعالیٰ کی صفات میں متقدمین و متاخرین کا اختلاف	7		صراطِ مستقیم	12
584/11			211/1	صراطِ مستقیم کا معنی	1
684/12	اللہ تعالیٰ کی صفتِ الاعلیٰ ذکر کرنے کی وجوہ	8	211/1	نمازی کا صراطِ مستقیم کی دعا کرنا	2
659/12	اللہ تعالیٰ کی عظیم اور منفرد صفات	9	288/6	صراطِ مستقیم کی متعدد تفاسیر	3
	سورۃ الصّٰفّٰتِ	17		صعقہ	13
	سورۃ الصّٰفّٰتِ کی وجہ تسمیہ اور اس کا زمانہ نزول	1	310/4	صعقہ کا معنی	1
853/9				سورۃ البقرہ میں الصاعقہ اور سورۃ الاعراف میں الریحہ فرمانے کی توجیہ	2
853/9	سورۃ الصّٰفّٰتِ کے متعلق احادیث	2	353/4		
855/9	سورۃ الصّٰفّٰتِ کے مشمولات	3		سورۃ الصّف	14
972/9	سورۃ الصّٰفّٰتِ کے اختتامی کلمات	4		سورۃ کا نام	1
	صلح حدیبیہ	18	862/11	سورۃ الصّف کے مشمولات	2
	صلح حدیبیہ کی رو سے صرف مہاجر مسلمانوں کو کفار کی طرف واپس کرنا	1	862/11	سورۃ الصّف کا اختتام	3
853/11			873/11		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	انبیاء ﷺ کے غیر پرانفراداً صلوة نہ بھیجنے کے دلائل	6	183/11	صلح حدیبیہ کا تذکرہ	2
250/5				ذوالقعدہ میں عمرہ کیلئے روانہ ہونے اور حدیبیہ کے مقام پر روکے جانے کے متعلق احادیث	3
249/5	انبیاء ﷺ کے غیر پرانفراداً صلوة پڑھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات	7	184/11		
501/9	اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کا معنی	8	189/11	صلح حدیبیہ کی باقی ماندہ شرائط	4
533/9	نبی ﷺ پر اللہ اور فرشتوں کی صلوة کا معنی	9	190/11	بیعت رضوان کے متعلق قرآن کی آیات	5
	رسول اللہ ﷺ پر صلوة و سلام پڑھنے کی فضیلت میں احادیث	10	191/11	بیعت رضوان کے متعلق احادیث	6
536/9			192/11	بیعت رضوان کا مفصل واقعہ	7
	دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت	11	193/11	بشارت کی تعیین سے پہلے عمرہ حدیبیہ کی توجیہ	8
539/9				حدیبیہ کے بعد غزوات میں اللہ تعالیٰ کی پیہم نعمتیں	9
540/9 545/9	بعض دیگر مواقع پر درود پڑھنے کی فضیلت	12	256/11		
	درود ابراہیمی میں تشبیہ اور دوسرے اعتراض کا جواب	13		اللہ تعالیٰ کا حدیبیہ میں کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روکنا	10
542/9			257/11		
	نبی ﷺ پر درود پڑھنے کے حکم میں مذاہب ائمہ	14		حدیبیہ میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہ دینے کی توجیہات	11
543/9			261/11		
	ہر بار نبی کریم ﷺ کے ذکر میں درود پڑھنے کے دلائل اور ان کے جوابات	15		حدیبیہ میں وہ کونسی باتیں تھیں جن کو مسلمان نہیں جانتے تھے؟	12
544/9			267/11		
	اذان سے پہلے اور بعد میں درود پڑھنے کا حکم	16	267/11	حدیبیہ کے بعد کون سی فتح حاصل ہوئی؟	13
544/9				صلوة (درود و سلام)	19
	اذان اور اقامت کے وقت صلوة و سلام پڑھنے کی تحقیق	17			
545/9			607/1	غیر انبیاء پر صلوة بھیجنے کی شرعی حیثیت	1
	جن مواقع اور مواضع پر فقہاء سلام نے صلوة و سلام پڑھنے کو مکروہ کہا ہے	18		انبیاء کے غیر پرانفراداً صلوة بھیجنے کی تحقیق	2
547/9			248/5		
	غیر انبیاء پر استقلالاً صلوة پڑھنے میں مذاہب ائمہ	19		صلوة کا لغوی معنی	3
547/9			248/5	انبیاء ﷺ پر انفراداً صلوة بھیجنے میں مذاہب فقہاء	4
	غیر انبیاء پر استقلالاً سلام پڑھنے کا بھی ممنوع ہونا	20		انبیاء ﷺ کے غیر پر صلوة و سلام بھیجنے میں جمہور کا موقف	5
548/9			249/5		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
863/1	صلوٰۃ خوف پڑھنے کے متعلق آئمہ کی آراء	18	548/9	غیر انبیاء کے لیے استقلالاً لفظ صلوٰۃ کا استعمال	21
865/1	صلوٰۃ خوف پڑھنے کے متعلق مذاہب ائمہ اربعہ	19	549/9	نبی علیہ السلام کے بغیر صرف صلوٰۃ پڑھنے کا بلا کراہت جواز	22
146/2	نمازی کو نذا کرنا	20		صلوٰۃ (نماز)	20
146/2	محراب میں نماز پڑھنا	21	264/1	صلوٰۃ کا معنی	1
155/2	سجدہ کا ذکر رکوع کے ذکر پر مقدم	22	265/1	بتدریج نمازوں کی فرضیت کا بیان	2
518/2	کروٹ کے بل نماز پڑھنا	23	266/1	نماز میں تمام عبادات کی جامعیت	3
679/2	حالت نشہ میں نماز پڑھنا	24	267/1	قرآن اور احادیث میں نماز پڑھنے کی تاکید	4
777/2	نماز خوف پڑھنے کا طریقہ	25		تارک صلوٰۃ کے متعلق مذاہب اربعہ کے نظریات	5
778/2	سفر شرعی میں نماز کو قصر کرنا	26	269/1		
779/2	مسافت شرعی کی مقدار	27	388/1	نماز سے مدد حاصل کرنا	6
779/2	مسافت قصر کا اندازہ بحساب میل	28	371/1	باجماعت نماز کے فوائد	7
782/2	مسافت قصر کا اندازہ سمندری سفر میں	29	505/1	چلتی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا	8
783/2	حالت جنگ میں نماز	30		نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلوٰۃ کی تخصیص	9
784/2	ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز	31	549/1		
785/2	قطبین میں نماز	32	567/1	نماز میں ایک طرف منہ کرنے کے اسرار	10
834/2	سستی سے نماز پڑھنا	33	576/1	نمازوں پر ایمان کے اطلاق کی وجہ	11
591/3	تمام عبادات میں نماز کی اہمیت	34	583/1	پانچوں نمازوں کے مستحب اوقات	12
592/3	تارک نماز کے متعلق مذاہب فقہاء	35		حفاظت نماز کی تاکید، نماز میں سستی اور اسے ترک کرنے پر وعید	13
702/3	نماز کا افتتاح کس سے کیا جائے؟	36	855/1		
601/4	فرض نماز میں رسول اللہ ﷺ کے بلانے پر حاضر ہونا واجب ہے	37	859/1	صلوٰۃ وسطیٰ کے متعلق آراء	14
66/5	ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تارک صلوٰۃ کو قتل کرنا	38	863/1	چلتی ہوئی ٹرین اور طیارہ پر نماز پڑھنا	15
644/5	نماز کی اہمیت	39	866/1	حفاظت نماز اور عدت و فوات میں مناسبت	16
			864/1	صلوٰۃ خوف پڑھنے کے متعلق احادیث	17

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
503/7	نماز پڑھنے کی تاکید	59		نماز فجر کو سفید اور روشن وقت میں پڑھنے، عصر کو دو مثل سایہ کے بعد پڑھنے اور وتر کے وجوب میں امام ابوحنیفہ کی تائید	40
560/7	آخری ایام میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نمازیں	60	644/5	پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کا معاف ہونا	41
562/7	ایام مرض میں نماز ظہر کی امامت کس نے کرائی؟	61	648/5	حضور ﷺ کی لیلۃ التعریس میں نماز فجر کا قضا ہونا	42
629/7	چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا	62	770/5	غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہونے کی تحقیق	43
630/7	لاؤڈ سپیکر کے مائیک پر نماز پڑھنا	63	771/5	غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہونے کا سبب	44
857/7	نماز کو سستی اور غفلت سے پڑھنا	64	772/5	اب جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کو قضا کرنا	45
886/7	عشاء کی نماز کے بعد جاگ کر باتیں کرنا	65	772/5	نبی ﷺ کی نمازوں میں سہو کی تحقیق	46
267/8	نماز فجر باجماعت پڑھنے کی فضیلت	66	772/5	مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت	47
	کن لوگوں کو خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کرتی	67	205/6	صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت	48
144/8	نماز برے کاموں سے روکتی ہے کی تفصیل	68	267/6	نماز پڑھنے سے رنج و غم کا دور ہونا	49
91/9	پانچ نمازوں کے اوقات	69	327/6	پانچ نمازوں کی فرضیت	50
142/9	عہد نماز ترک کرنا	70	769/6	اوقات نماز کے متعلق احادیث	51
191/9	نماز کو قائم کرنے کا معنی	71	770/6	تعدیل ارکان میں کمی	52
213/9	اقامت صلوٰۃ کے آداب	72	296/7	مستحب وقت کے بعد نماز پڑھنا	53
677/9	زیادہ دور سے آ کر مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت	73	297/7	نوافل سے فرائض کی کمی کی تلافی	54
728/9	نماز میں صف بستہ کھڑے ہونے کی فضیلت	74	297/7	فرض نہ پڑھنے سے نفل نامقبول	55
857/9	چاشت اور اشراق پڑھنے کی فضیلت	75	299/7	جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنا	56
55/10	اشراق کی نماز کا وقت	76	298/7	عہد نماز ترک کرنے والے پر نماز کی قضاء	57
56/10	نماز چاشت کی رکعات کی تعداد اور اس کا وقت	77	300/7	نماز کے اوقات اور رات کو نماز پڑھنا	58
57/10	نماز میں قیام کی فضیلت	78	350/7		
186/10			355/7		
			501/7		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	صلح	21		سجدہ اور قیام میں رات گزارنے والوں کے مصادیق	79
282/11	مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کرانا	1	188/10		
	حضرت حسن رضی اللہ عنہما کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا	2	616/10	نماز نہ پڑھنے پر وعید	80
283/11	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے لشکر کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے باوجود اسلام سے خارج نہ ہونا	3	760/10	فرائض کی قضاء کو نوافل کی ادائیگی پر مقدم کرنا	81
284/11				نقلی عبادات کا شروع کرنے کے بعد واجب ہو جانا	82
	صلہ رحمی	22	705/11	رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کی توجیہ	83
460/8	صلہ رحمی میں القرب فالقرب کی ترجیح	1	705/11	سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کی توجیہ	84
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا	2	339/11	فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کی خاص اہمیت	85
461/8	رحم کی تراوٹ سے فائدہ پہنچانا	3	340/11	مغرب سے قبل دو رکعت نماز سنت پڑھنا	86
462/8	صلح رحمی کے متعلق احادیث	4		رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا سب سے عمدہ طریقہ	87
158/11			363/11	نماز فجر سے قبل دو رکعت سنت ادا کرنا	88
	صوفی	23	468/11	مکروہ وقت میں نماز	89
176/10	جاہل صوفیاء کے خود ساختہ احکام کا رد	1	884/12	کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟	90
	صور	24	994/12	کفار کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی متعدد تفاسیر	91
541/3	قرآن و احادیث کی روشنی میں صور پھونکنے کا بیان	1	497/12	صبح اور پچھلے پہر اللہ کے ذکر کرنے سے مراد پانچ نمازیں ہیں یا اللہ کی تسبیح کرنا؟	92
748/8	صور کا لغوی و اصطلاحی معنی	2	457/12	نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کا فرض نہ ہونا	93
749/8	صور پھونکنے کے متعلق احادیث	3	354/12	جماعت سے نماز نہ پڑھنا	94
749-753 8	کتنی بار صور پھونکا جائے گا؟	4	194/12	اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر	95
753-757 8	تھی الصعق سے مستثنیٰ افراد	5	195/12	رکوع اور سجود کی تسبیحات	96
787/9	صور پھونکنے کی تعداد	6	216/12	نماز کی حفاظت سے متعلق امور	97
			236/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
839/12	سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کا اختتام	5		صور پھونکنے کے بعد بے ہوشی سے مستثنیٰ رہنے	7
	ضد	3	787/9	والی شخصیات	
313/7	ضد کا معنی	1		صور سے متعلق سورۃ یاسین اور سورۃ زمر کی	8
	ضمانت	4	789/9	آیتوں کے تعارض کا جواب	
821/5	مال اور شخص کی ضمانت کے متعلق احادیث	1	790/9	لوگوں کے دوسرے صور سے زندہ ہونے کی وجہ	9
822/5	ضمانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام	2	791/9	دوسرے صور کی تفصیل	10
	ط		296/10	صور پھونکنے کی تحقیق	11
	سورۃ الطارق	1		دوسرے صور میں پھونکنے کے بعد لوگوں کے	12
663/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	345/11	زندہ ہونے کی کیفیت	
663/12	سورۃ الطارق کے متعلق احادیث	2		صیغہ امر	25
663/12	سورۃ الطارق کی سورۃ البروج سے مناسبت	3	38/3	صیغہ امر کے مواضع	1
664/12	سورۃ الطارق کے مشمولات	4	40/3	تقاضائے امر کا واحد ہونا	2
679/12	سورۃ الطارق کا اختتام	5	41/3	امر کا مقتضی وجوب	3
	طالوت	2	42/3	ممانعت کے بعد امر کا مقتضی	4
879/1	طالوت کا بیان	1	43/3	نبی ﷺ کے افعال سے وجوب	5
889/1	طالوت کی فتح	2		ض	
	طاعون	3		ضالین	1
872/1	طاعون سے ڈر کر بھاگنا	1	215/1	ضالین کے معانی	1
407/1	طاعون کے متعلق احادیث	2	217/1	ضالین کی تفسیر	2
407/1	بنو اسرائیل پر طاعون کا عذاب	3		سورۃ الضحیٰ	2
408/1	طاعون کے متعلق قدیم علماء و سائنس کی تحقیق	4	803/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
409/1	طاعون کا علاج	5	803/12	سورۃ الضحیٰ کی سورۃ اللیل سے مناسبت	2
	طائر	4	803/12	سورۃ الضحیٰ کے مشمولات	3
	دیکھئے "24: شکلون" صفحہ 155	1	805/12	سورۃ الضحیٰ پر سورۃ اللیل کو مقدم کرنے کی وجہ	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
756/12	بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت	11		طریقہ	5
	طعنہ	8	500/1	طریقہ کا بیان	1
295/11	ایک دوسرے کو طعنہ دینے کی ممانعت	1	381/3	طریقہ	2
	سورۃ الطلاق	9	173/7	طریقہ کی تعریف	3
41/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1		طریقہ انتخاب	6
42/12	سورۃ الطلاق کا سبب نزول	2	796/5	موجودہ طریقہ انتخاب کا غیر اسلامی ہونا	1
43/12	سورۃ الطلاق کی سورۃ التغابن سے مناسبت	3		امیدوار کیلئے شرائط اہلیت نہ ہونے کے غلط نتائج	2
43/12	سورۃ الطلاق کے مشمولات	4	796/5		
96/12	سورۃ الطلاق کا اختتام	5		موجودہ طریقہ انتخاب کی اصلاح کی ایک صورت	3
	طلاق	10	796/5		
811/1	طلاق کا معنی	1		کافر یا فاسق فاجر کی طرف سے عہدہ یا منصب قبول کرنے کی تحقیق	4
811/1	طلاق کی اقسام	2	797/5		
812/1	طلاق کی مشروعیت کی وجہ	3		طعام	7
812/1	طلاق فقط ناگزیر حالات میں	4	374/3	دستر خوان اور میز پر کھانا کھانے کی شرعی حیثیت	1
812/1	طلاق کا اختیار فقط مرد کو	5	105/4	کھانے پینے میں وسعت کی گنجائش	2
813/1	طلاق میں عورت کی رضا مندی	6	107/4	کھانا کھانے کے آداب	3
814/1	تین طلاقوں کی تحدید کی وجوہات و حکمتیں	7	108/4	کھڑے ہو کر کھانا کھانا	4
815/1	احسن طریقہ سے طلاق دینے کے فوائد	8		پچھلی امتوں میں بھی کھانا کھانے سے پہلے "بسم اللہ" پڑھنے کا معمول تھا	5
	طلاق کی تدریج میں مرد اور تحدید میں عورت کی رعایت	9	590/5		
815/1			483/6	لذیذ طعام اور مشروب، کھانے پینے کا جواز	6
816/1	ایک وقت میں تین طلاقیں	10	186/8	بیماروں اور معذوروں کے ساتھ مل کر کھانا	7
	بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے حکم میں مذاہب اربعہ کے نظریات	11	187/8	وکیلوں کا اپنی موکلوں کے گھروں سے کھانا	8
816/1			188/8	اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا	9
818/1	تین طلاقوں کو ایک قرار دینا	12	270/8	اچھے کھانے کھانا	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
58/12	طلاق کی اقسام	33	818/1	تین طلاقوں کا تین ہونا	13
	جب حاملہ کو جماع کے بعد طلاق دینا جائز ہے تو غیر حاملہ کو کیوں جائز نہیں؟	34	840/1	جس عورت کو خاوند خرچ نہ دے	14
59/12			841/1	مذاق میں دی گئی طلاق میں شرعی حکم	15
60/12	ایک طہر میں تین طلاق دینے کی تحریم	35	850/1	مطلقہ غیر مدخولہ کا مہر اور متاع	16
61/12	ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاق دینا	36	851/1	مطلقہ کی متاع کی مقدار	17
	فی نفسہ طلاق کے ناپسندیدہ ہونے کے متعلق احادیث	37	852/1	مطلقہ کی متاع کا شرعی حکم	18
61/12			852/1	متاع کے وجوب پر فقہاء کے دلائل	19
66/12	تین طلاقوں کی ممانعت پر دلیل	38	871/1	مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی	20
	مطلقہ سے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے مطابق رخصت کرنے کا معنی	39	343/4	حالت غضب میں طلاق	21
67/12				بیوی کو طلاق اور اختیار دینے سے وقوع	22
68/12	طلاق اور اس سے رجوع پر گواہ بنانا	40	416/9	طلاق اور مدت خیار مذاہب فقہاء	
<u>81-86</u> 12	طلاق ثلاثہ کے بعد نفقہ اور سکنی	41	510-511	اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے میں مذاہب	23
	سورۃ الطور	11	9	ائمہ	
405/11	سورۃ کا نام	1		مطلقہ کو نصف مہر اور متاع دینے کے وجوب	24
405/11	سورۃ الطور اور سورۃ الذاریات میں مناسبت	2	513/9	کے محامل	
405/11	سورۃ الطور کے متعلق احادیث	3	514/9	مطلقات کی اقسام اور متاع کا بیان	25
406/11	سورۃ الطور کے مشمولات	4	47/12	مسئلہ طلاق کی تحقیق	26
408/11	الطور کا معنی اور مصداق	5		ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس میں دی ہوئی	27
469/11	سورۃ الطور کا اختتام	6	48-53/12	تین طلاقیں	
	طواف	12	53-57/12	ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینا	28
101/4	برہنہ طواف کی ممانعت	1	57/12	مسئلہ طلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کرنا	29
746/7	طواف کی اقسام	2	57/12	حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت	30
	سورۃ طہ	13	57/12	طلاق بر طریقہ سنت کی دو صورتیں	31
323/7	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	58/12	طلاق کا لغوی و اصطلاحی معنی	32

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
783/6	ظالموں کے لیے قرآن کا گمراہی ہونا	7	323/7	سورہ مریم اور سورہ طہ کی باہمی مناسبت	2
397/8 395/8	ظلم کو خود مٹانا	8	324/7	سورہ طہ کا زمانہ نزول	3
582/8	کیا حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کا قبلی قتل کرنا ظلم تھا؟	9	326/7	سورہ طہ کے مقاصد و مسائل	4
788/8	ظالم کی مدد کرنے کی ممانعت	10	330/7	طہ الخ کا شان نزول	5
341/9	ظلم کا لغوی و عرفی معنی	11	330/7	طہ کے معانی	6
341/9	ظلم کی سزاؤں اور عذاب کے متعلق احادیث	12	505/7	سورہ طہ کا اختتام	7
585/9	انسان کے ظالم ہونے کی توجیہ	13		طہارت	14
876/9	ظالموں کے ازواج کی تفسیر	14	249/8	طہور کا معنی اور اس کا مصداق	1
338/10	ظلم کی اقسام اور اللہ کا ظلم سے پاک ہونا	15	249/8	کسی نجس چیز کے گرنے سے پانی کا طہور	2
518/10 625/10	ظلم کی مذمت میں احادیث	16	250/8	دہ دردہ (۱۰×۱۰) کی مقدار میں پانی کا طہور	3
657/10	انسان کا ظلم اور اللہ کا کرم	17	250/8	قلبتین کی مقدار میں پانی کا طہور	4
	ظن	2	251/8	جاری پانی کا طہور ہونا	5
635/3	اتباع ظن کی مذمت	1		طیب	15
151/8	ظن کی تعریف	2	628/1	طیب کا معنی	1
	ظہار	3		ظ	
372/9	ظہار کی تعریف، حکم اور اس کا کفارہ	1		ظالم/ظلم	1
	بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں، بہن کہنے کا شرعی حکم	2	383/5	ظالموں سے فدیہ قبول نہ کیا جانا	1
373/9			384/5	ظالموں کے پشیمانی چھپانے کی توجیہ	2
767/11	ظہار کی تعریف اور اس کا حکم	3		ظالموں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کی توجیہ	3
768/11	ظہار کے الفاظ اور اس کی دیگر تفصیل	4	384/5		
768/11	بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں، بہن کہنا	5	651/5	دنیا میں ظلم کا قابل درگزر نہ ہونا	4
772/11	کفارہ ظہار کے متعلق احادیث	6	472/6	اس سوال کا جواب کہ سب لوگ ظلم کرتے ہیں	5
772-774 11	ظہار میں فقہاء اربعہ کا مؤقف	7		اس سوال کا جواب کہ غیر ظالموں کو ہلاک کرنا عدل کے خلاف ہے	6
775/11	ظہار میں غیر مقلدین کا مؤقف	8	473/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
436/9	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اصلاحی اقدام پر قرآن سے دلائل	13	775/11	مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا ضابطہ	9
				ع	
	عالمین	3		عاجزی کرنا	1
170/1	عالمین کا لغوی و عرفی معنی	1		دیکھئے ”47: تواضع“ صفحہ 97	1
171/1	عالمین کے متعلق اقوال	2		حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	2
	عالم	4	82/8	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کی تفصیل	1
380/1	بے عمل علماء کے عذاب کا بیان	1		نزول وحی سے قبل رسول اللہ ﷺ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے برأت کے متعلق علم	2
579/1	علماء سے معصیت کے صدور کا زیادہ قبیح ہونا	2	87/8		
66/2	علماء راہین	3	89/8	کسی نبی کی زوجہ نے کبھی بدکاری نہیں کی	3
89/2	علماء دین کی فضیلت	4		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت پر علماء اہل سنت کے دلائل	4
703/3	علماء کا فتنہ کے زمانے میں گوشہ نشین ہونا	5		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت پر علماء شیعہ کے دلائل	5
415/4	بد عمل اور رشوت خور عالم کی مذمت	6	90/8		
416/4	بد عمل اور رشوت خور عالم کی کتے کے ساتھ مماثلت	7	91/8 103/8	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل	6
547/6	زمانہ فترت میں علماء مبلغین کا حجت ہونا	8		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا کہ ”میں حضور ﷺ کیلئے قیام نہیں کروں گی میں صرف اللہ کی حمد کروں گی“	7
791/6	عالم خلق اور عالم امر	9	86/8		
194-197 7	علماء ظاہر اور علماء باطن	10		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کی سزا	8
423/7	بے عمل عالم کے متعلق احادیث	11	118/8		
615/8	اپنے آپ کو عالم کہنا	12	119/8	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت کی بشارت	9
616-619 8	من عرف نفسه فقد عرف ربه	13	92/8	حدیث افک سے استنباط شدہ مسائل	10
83/9	قرآن میں بیان کردہ مثالوں کی فہم صرف علماء کو حاصل ہے	14	97/8	حدیث افک پر اعتراضات کے جوابات	11
84/9	عالم دین کی تعریف اور اس کی شرائط	15	434/9	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق شیعہ کی ناگفتنی روایات	12

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
304/1	عبادت کا حکم (مومنین، کفار، منافقین)	7	86/9	عالم دین کے فرائض	16
307/1	عبادت پر غرور کرنا	8		علماء کی تعظیم و تکریم اور ان کے حقوق کے متعلق آیات	17
716/1	اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرنا	9	255/9		
486/3	اخلاص سے عبادت کرنا	10		علماء کی تعظیم و تکریم اور ان کے حقوق کے متعلق احادیث	18
	رضاء الہی کے لیے عبادت کرنے کے تین مراتب	11	258/9		
162/5			676/9	علماء دین کی فضیلت میں احادیث	19
340/5	غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلائل	12	677/9	انما یخشى الله من عباده العلماء کی تفسیر	20
620/6	عبد کا معنی	13		علماء عالمین کا ڈھلتی ہوئی عمر میں ارذل عمر کے اثرات سے محفوظ رہنا	21
	یہودیوں کا ہفتہ کو اور عیسائیوں کا اتوار کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا	14	825/9		
597/6			493/11	علماء دین کی اقسام	22
684/6	عبادت کا مستحق فقط اللہ ہے	15	786/11	علماء کی فضیلت میں آیات و احادیث	23
232/7	دکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرنا	16		سورة العادیات	5
681/7	عابدین کا معنی	17	942/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1
716/7	ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنا	18	948/12	سورة العادیات کی تکمیل	2
	یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کی عبادت کے مقامات	19		قوم عاد	6
764/7				دیکھئے "13: حضرت ہود علیہ السلام" صفحہ 282	1
	اگر عبادت قضاء ہو جائے تو اسے ادا کر لیا جائے	20		عابد/عبادت	7
264/8			178/1	عبادت کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
265/8	رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی فضیلت	21	179/1	قرآن میں عبد کے اطلاقات	2
267/8	فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت	22	180/1	عبد النبی نام رکھنا	3
145/8	عبادت میں غفلت نہ کرنا	23	181/1	عبادت کا اللہ میں منحصر ہونا	4
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے اصحاب کی عبادت کی تفتیش کرنا	24		ایک نعت میں حرف خطاب کو مقدم کرنے کی وجوہ	5
471/8			182/1		
83/9	پہلے زمانے کے نیک لوگوں کی عبادت	25	184/1	عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی وجوہ	6

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ	11	812/9	اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سیدھے راستہ کے معانی	26
	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی سوانح اور ان کے فضائل	1	189/10	طلب ثواب و رضا کے لیے عبادت کرنا	27
71/11			210/10	عبادات میں صحیح اور احسن افعال	28
	عبرت	12		عبادات کے بجائے اللہ کے فضل پر نظر رکھنی چاہیے	29
	پچھلی امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا	1	581/10		
767/7			811/10	اپنی خواہش کی عبادت	30
	عبداللہ بن ابی	13	871/11	دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کرنا	31
210/5	عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا شان نزول	1	872/11	جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنا	32
217/5				رات کو کم سونے اور زیادہ عبادت کرنے کی فضیلت	33
218/5			362/11	کفار کا اللہ کی عبادت پر بتوں کی عبادت کو ترجیح دینا	34
	رسول اللہ ﷺ کا ابن ابی کے کفن کیلئے قمیص عطا فرمانے کی وجوہ	2	788/12	تبلیغ کے بعد اللہ کی عبادت میں کوشش کرنا	35
210/5			865/12	بعض مقامات اور بعض اوقات میں عبادت کے اجر میں اضافہ	36
	اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود ابن ابی کے لیے استغفار کی وجوہات	3		عبادت میں کثرت طلب کرنا	37
211/5			890/12		
	ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام رازی کا تسامح	4	957/12		
212/5				العاص بن وائل	8
	کیا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ ہونا آپ کی محبوبیت کے منافی ہے؟	5		العاص بن وائل کی مذمت	1
220/5			312/7	عاشورہ	9
899/11	ابن ابی کا رسول اللہ ﷺ سے بدزبانی کرنا	6		عاشورہ کی فضیلت میں احادیث	1
	غزوہ احد میں ابن ابی کا اپنے ۳۰۰ ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے نکل جانا	7	724/12		
899/11				سورۃ العنکبوت	10
	ابن ابی کا نبی ﷺ کی حرم محترم پر بڑی تہمت لگانا	8	566/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
901/11			567/12	سورۃ العنکبوت کے مشمولات	2
	ابن ابی کا حضور ﷺ اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا	9	584/12	سورۃ العنکبوت کا اختتام	3
905/11					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
573/10	عجلت کی مذمت	1		رسول اللہ ﷺ کا عبد اللہ ابن ابی کی نماز	10
	عدت	17	174/12	جنازہ پڑھانا	
846/1	عدت کی تعریف اور عدت و فوات	1		عتاب	14
847/1	عدت کے مسائل اور شرعی احکام	2	543/6	عتاب کا معنی	1
867/1	عدت و فوات اور حفاظت نماز میں مناسبت	3	570-577	رسول اللہ ﷺ پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ	2
867/1	عدت و فوات کا ایک سال تک منسوخ ہونا	4	12	کی وجہ سے تیوری چڑھانے پر عتاب	
868/1	عدت و فوات کا شرعی حکم	5	123/12	رسول اللہ ﷺ پر عتاب کا حمل	3
869/1	عدت و فوات کے متعلق فقہاء کے نظریات	6		حضرت عثمان غنی رضی اللہ	15
798/1	عدت کا معنی اور اس کے احکام	7		حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی عبادت، زہد اور	1
799/1	عدت مقرر کرنے کی حکمتیں	8	429/5	خوف خدا	
800/1	قرء کے معانی	9		حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانہ خلافت میں	2
	عدت کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اس کی	10		صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست	
59/12	اقسام		391/6	کرنا	
	دوران عدت عورتوں کو گھروں سے نکالنے یا	11		اس امت کی پہلی اجماعی ناشکری، قتل حضرت	3
60/12	ان کے از خود نکلنے کی ممانعت		179/8	عثمان رضی اللہ ہے	
62-66	عدت طلاق کے دوران عورت کا گھر سے	12	579/8	حضرت عثمان رضی اللہ کا خوف خدا	4
12	باہر نکلنا			قاتلین عثمان سے قصاص نہ لینے پر سید	5
79/12	جن بوڑھی عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت	13	431/9	مودودی کا تبصرہ	
80/12	بیوہ حاملہ کی عدت میں اختلاف صحابہ	14	430/9	قاتلین عثمان کا سازش کرنا	6
80/12	نابالغہ کی عدت	15	287/11	حضرت علی رضی اللہ کے قصاص عثمان، نہ لینے	7
	عدل	18		کی وجوہ	
94/4	عدل کا معنی	1	290/11	حضرت عثمان رضی اللہ کے مشہور قاتلین	8
551/6	عدل کی تعریف	2	291/11	حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلین کا دنیا میں	9
552/6	عدل اور احسان میں فرق	3		انجام	
555/6				عجلت	16

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
188/5	عذاب مقیم کا معنی	15	789/7	سزا بقدر جرم دینا عدل ہے	4
244/5	منافقوں کو دو مرتبہ عذاب دینا	16	421/8	عدل کا لغوی و اصطلاحی معنی	5
301/5	دنیا و آخرت میں منافقین کے عذاب کی تفصیل	17	422/8	عدل کرنے کے متعلق احادیث	6
373/5	مشرکین پر جلدی عذاب نہ آنے کی وجہ	18	423/8	عدل کرنے کے متعلق آثار	7
	نزول عذاب کے بعد ایمان لانے کا فائدہ	19	424/8	عدل کرنے کے متعلق اقوال علماء	8
373/5	مند نہ ہونا		425/8	عدل عقلی اور عدل شرعی	9
382/5 384/5	عذاب کی وعید کا برحق ہونا	20	425/8	عدل اور احسان	10
519/5	کفار کو دو گنا عذاب	21	426/8	عدل اور انصاف کے فوائد	11
	گذشتہ قوموں کی برائیوں کے مرتکبین پر	22		عذاب	19
621/5	نازل ہونے والے عذاب سے ڈرنا چاہیے		753/1	عذاب کی بادلوں کے ساتھ تمثیل	1
637/5	کفار مکہ پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ	23	312/2	عذاب کا عدل ہونا	2
638/5	وعید اور وعدہ کی جامع آیت	24	445/2	عذاب کے درجات	3
	سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہونے کے دو	25	697/2 298/2	روح اور جسم دونوں کو عذاب	4
650/5	سبب		697/2	تعذیب بلا معصیت	5
	کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب	26	523/3	عذاب کی اقسام	6
117/6	نازل نہ ہونا		43/4	نزول عذاب کے وقت معذبین کا اعتراف جرم	7
	اللہ کے عذاب کے ساتھ اس کی رحمت کو بھی	27	135/4	دو گنے عذاب پر سوال و جواب	8
296/6	ملحوظ رکھنا ضروری ہے		626/4	نبی کی موجودگی میں عذاب کا نہ آنا	9
350/6	سورۃ النحل کی ابتداء عذاب کی وعید سے	28	656/4	عذاب کے مستحق کو عذاب نہ دینا بھی جائز ہے	10
	مستقبل کے عذاب کو ماضی سے تعبیر کرنے	29	656/4	اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا	11
351/6	کی وجہ		658/4	نعمت کی عذاب میں تبدیلی	12
396-401 6	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونا	30		ظالموں پر عذاب کے نزول میں صالحین کا شمول	13
401/6	کافروں کو اپنے پیروکاروں کے کفر پر عذاب	31		بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے نیکوکاروں کو بھی عذاب	14
410/6	کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ	32	608/4		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	دنیا کے کافروں کو کس کس نوع کے عذاب دیئے گئے	52	455/6	کفار مکہ کو انواع و اقسام کے عذاب سے ڈرانا	33
79/9			546/6	دوسروں کو کافر بنانے پر دو گنا عذاب	34
204/9	عذاب قبر کے متعلق احادیث	53	586/6	روح اور جسم دونوں کو عذاب	35
340/9	عذاب ادنیٰ اور عذاب اکبر کے مصادیق	54	660/6	گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب	36
639/9	نبی علیہ السلام کا ہر خاص و عام کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا	55	662-669 6	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو عذاب	37
701/9	آثار عذاب کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا	56		اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتا	38
725/9	جن کو عذاب سے ڈرانا مفید ہے	57	673/6		
779/9	سامنے اور بعد کے عذاب کے متعدد محال	58	726/6	قبر پر قرآن پڑھنے سے عذاب میں تخفیف	39
889/9	عذاب قبر پر ایک اشکال کا جواب	59	746/6	دوزخ کے عذاب سے انبیاء اور ملائکہ کا ڈرنا	40
	سابقہ امتوں پر ان کی تکذیب کی وجہ سے عذاب کا نازل ہونا	60	379/7	دامی عذاب، صرف کفار کو	41
46/10				حضور ﷺ کی تکذیب کے باوجود کفار کو عذاب نہ دینا	42
221/10	عذاب کی چہرے کے ساتھ خصوصیت کی توجیہ	61	500/7		
274/10 416/10	کفار کے آخرت میں عذاب کی تفصیل	62	500/7	نزول عذاب کی میعاد	43
365/10	عذاب قبر کے ثبوت میں قرآن کی آیات	63	734/7	مکہ میں گناہ کا عذاب	44
366/10	عذاب قبر کے ثبوت میں احادیث	64	771/7	آخرت میں عذاب کا ایک دن	45
	عذاب قبر کی نفی پر قرآن سے دلائل اور ان کے جوابات	65	437/8	مستقبل میں عذاب سے نجات کا مدار	46
374/10			454/8	اللہ کے عذاب کو جلد طلب کرنا	47
374/10	عذاب قبر کے خلاف عقلی شبہات کے جوابات	66	455/8	جرم کے بغیر بھی عذاب دینا اللہ کا ظلم نہیں	48
376/10	عذاب قبر کی مزید وضاحت	67		حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہر عام و خاص کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا	49
446/10	امت محمدی سے کون کون سا عذاب اٹھایا گیا ہے	68	462/8		
			461/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا	50
810/10	اللہ رب العزت کا کفار اور فجار کو عذاب دینا عدل ہے	69	463/8		
			62/9	عذاب کا بیان	51

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
479-487 12	کفار قریش کو عذاب سے ڈرانا	90	140/11	سابقہ امتوں پر عذاب کی کیفیت	70
363/12	لوگوں کو عذاب سے ڈرانے کے محامل	91	140/11	اس زمانہ کے کافروں کے عذاب کی کیفیت	71
349/12	کفار کے جسمانی و روحانی عذاب کی تفصیل	92	146/11	آخرت میں کفار کا عذاب	72
	رسوائی کے عذاب کا دوزخ کے عذاب سے	93	438/11	عذاب کی وعید پورا کرنے پر دلائل	73
211/12	زیادہ سخت ہونا			منافقوں اور مشرکوں کی ضرر رسائی اور ان کے عذاب کی نوعیت کا فرق	74
	کفار کو دوزخ میں ستر ہاتھ لمبی زنجیر سے جکڑ کر عذاب دینا	94	237/11		
212/12			440/11	کفار کے عذاب کے احوال	75
212/12	حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقصیر کا عذاب	95		قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے عذاب قبر کا ثبوت	76
264/12	عذاب قبر کا ثبوت	96	463/11		
	عذر	20	465/11	عذاب قبر کے اسباب	77
292/4	بندوں کے اعزاز کی آخرت مدت	1		جن صورتوں میں عذاب قبر سے نجات ملتی ہے	78
	عرش	21	466/11		
307/5	عرش کا معنی	1	977/12	کفار کے عذاب کی کیفیت	79
308/5	عرش کے متعلق احادیث و آثار	2	732/12	عذاب کے کوڑے کا معنی	80
308/5	عرش کی تفصیل میں اقا و اہل علماء	3	697/12	بڑی آگ کا مصداق	81
500/5	عرش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث	4	714/12	بہت بڑے عذاب کا محمل	82
	عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراء و نظریات	5	714/12	کفار اور مشرکین کو عذاب دینا ضروری کیوں؟	83
501/5			708/12	کفار پر شدت عذاب	84
778/6	اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کو عرش پر ساتھ بٹھانا	6	612/12	مرتب کبیرہ کو دائمی عذاب نہ ہونا	85
319/10	حاملین عرش کی صورت اور ان کی تعداد	7	517-523 12	کفار کا عذاب دائمی ہے کہ نہیں؟	86
323/10	حاملین عرش کی دعا کے احکامات	8	523/12	اہل نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث	87
208/12	عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے	9		خلو و عذاب کے منکرین کا استدلال اور اس کا جواب	88
	عرس	22	524-526/12		
203/4	صالحین کا عرس	1	527/12	مناہی زمانہ کے جرم کی غیر متناہی زمانہ تک سزا	89

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
671/3	عشر کے نصاب میں مذاہب فقہاء	7		عربی زبان	23
	عصا	30	447/4	عربی زبان کی فضیلت	1
359/7	عصار کھنے کے فوائد	1	447/4	عربی زبان کی تاریخ	2
360/7	عصا موسیٰ کی تاریخی حیثیت	2		عراف	24
360/7	عصا کوزمین پر ڈالنے کی وجوہ	3	44/11	عراف کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	1
361/7	عصا کا سانپ بن جانا	4		عزت	25
361/7	حیز، شعبان اور جان	5	660/9	تمام عزتیں اللہ کے لیے ہونے کے محامل	1
361/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سے ڈرنا	6		عزیمت	26
362/7	عصا اور ید بیضا میں سے عظیم معجزہ کون سا ہے؟	7	266/9	عزیمت کی تفصیل	1
	عصمت انبیاء	31		عزالت نشینی	27
347/1	عصمت انبیاء کا معنی	1	911/9	عزالت نشینی کی فضیلت میں احادیث	1
348/1	عصمت انبیاء پر دلائل	2		عزالت نشینی کے استحباب کے متعلق فقہاء	2
	عصمت انبیاء کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	3	912/9	اسلام کے اقوال	
350/1				حضرت عزیر علیہ السلام	28
350/1	عصمت انبیاء کے متعلق محققین کا مذہب	4		حضرت عزیر علیہ السلام کا نام و نسب، تعارف	1
350/1	عصمت انبیاء پر اعتراضات کے جوابات	5	119/5	اور ان کو ابن اللہ کہنے کا سبب	
790/5 106/6	عصمت کی تعریف	6	121/5	حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟	2
	منکرین عصمت انبیاء کے اعتراضات اور ان کے جوابات	7		عشر	29
766/6			958/1	عشر کا بیان	1
488-492 7	عصی ادم ربہ فغوی کی تفسیر	8	958/1	عشر کا نصاب	2
580/8	عصمت کی تحقیق	9	961/1	عشری اور خراجی زمین	3
640/8	انبیاء کا معصوم اور ان کے اصحاب کا محفوظ ہونا	10	962/1	خراج کی مقدار	4
787/8	عصمت انبیاء پر ایک اعتراض کا جواب	11	962/1	ارضی پاکستان کا عشری ہونا	5
			671/3	فصل کی کٹائی کے حق سے مراد عشر ہے یا عام صدقہ	6

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
426/2	منافقوں اور دیہاتیوں سے درگزر	11	122/10	عصمت انبیاء پر دلیل	12
428/2	آپ ﷺ کے عفو و درگزر کے مختلف محامل	12	123/10	عصمت کی تعریف اور معصوم و محفوظ میں فرق	13
503/4	عفو و درگزر کے متعلق قرآن کی آیات	13	150-154	واستغفر لذنبک سے حضور ﷺ کی	14
504/4	عفو و درگزر کے متعلق احادیث	14	11	عصمت پر اشکال کے جوابات	
508/4	انتقام کو ترک کرنا	15	366/12	عصمت انبیاء پر ایک اعتراض کا جواب	15
	عقیدہ	35		سورة العصر	32
273/9	عقیدہ اور تقلید میں فرق	1	967/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1
209/10	عقائد میں باطل نظریات کو رد کرنا	2	973/12	سورة العصر کی تفسیر کی تکمیل	2
	عقد	36		عطاء کرنا	33
33/3	عقد کا معنی	1		عطاء کرنے کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی	1
34/3	عقد کی اقسام	2	163/5	طرف کرنا	
703/3	فضول کے عقد میں مذاہب فقہاء	3		عفو و درگزر	34
	عقل	37		نبی کریم ﷺ کے عفو و درگزر کے متعلق قرآنی	1
420/4	عقل کا محل دل ہے یا دماغ؟	1	419/2	آیات	
422/4 770/7	عقل کی تعریف	2		نبی کریم ﷺ کے عفو و درگزر کے متعلق	2
423/4	محل عقل کے متعلق مختلف اقوال	3	419/2	احادیث	
	محل عقل کے بارے میں ائمہ مذاہب کے	4	420/2	سراقہ بن مالک کو معاف کرنا	3
770/7	اقوال		420/2	عمیر بن وہب کو معاف کرنا	4
813/9	عقل کے معانی	5	422/2	عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانا	5
814/9	عقل کی تعریفات و اقسام	6	422/2	ابوسفیان اور ہند کو معاف کرنا	6
815/9	عقل کے اجزاء اور حصص	7	423/2	صفوان بن امیہ کو معاف کرنا	7
835/9	عقل کا زندگی کا سبب ہونا	8	424/2	عکرمہ بن ابی جہل کو معاف کرنا	8
	عقل کی تعریف، اقسام اور اس کے متعلق	9	425/2	وحشی کو معاف کرنا	9
790/10	احادیث		426/2	ہبار بن الاسود کو معاف کرنا	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
452/4	اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے علم میں فرق	5	790/10	یومنون، یوقنون اور یحقلون فرمانے کی توجیہ	10
453/4	علم کی ذاتی اور عطائی میں تقسیم	6	338/11	عقل کا محل	11
292/5	حصول علم دین کا فرض کفایہ ہونا	7		علامہ قرطبی کی یہ تحقیق کہ کفار کی عقلیں نہیں ہیں	12
293/5	حصول علم دین کا فرض عین ہونا	8	455/11		
293/5	علم دین کے فضائل	9		کفار کے ہذیان کا محرک ان کی عقل ہے یا ان کی سرکشی؟	13
	جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم ضروری ہے	10	456/11		
780/5				عقیدہ	38
783/5	علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت	11		بچہ کا نام رکھنا، اس کو گھٹی دینا اور اس کی ولادت کے مسائل	1
793/6	دلوں سے علم کا نکل جانا	12	131/2		
150/8	حیوانات کے ادراک پر علم کا اطلاق	13	133/2	عقیدہ کے متعلق احادیث و آثار	2
155/8 158/8	علم کی تعریف	14	136-138	عقیدہ کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	3
152/8	علم کا ذوی العقول کے ساتھ مختص ہونا	15	2		
153/8	پرندوں اور حیوانوں کی معرفت اور علم کے شواہد	16	138/2	عقیدہ کے متعلق احکام شرعیہ	4
	جمادات، نباتات اور حیوانات کے علم کے ثبوت پر قرآن سے دلائل	17	139/2	عقیدہ کو منسوخ قرار دینا	5
154/8			158/2	بچہ کی پرورش کا حق	6
	جمادات، نباتات اور حیوانات کے علم کے ثبوت اور احادیث سے دلائل	18		سورۃ العلق	39
155/8			874/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
611/8	علم کی فضیلت	19	874/12	سورۃ العلق کے مشمولات	2
619/8	اللہ کی تمام نعمتوں میں نعمت علم کی خصوصیت	20	886/12	سورۃ العلق کی تفسیر کا اختتام	3
119/9	علم پر عمل کرنے کا فائدہ	21		علم/علم دین	40
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے حصول علم کے لیے ادب سے درخواست کرنا	22	603/1	علم اور شعور کا فرق	1
			615/1	علم چھپانے پر وعید	2
255/9			615/1	نا اہل لوگوں کے سامنے علم و حکمت بیان کرنا	3
599/9	اہل علم کا مصداق	23	510/2	علم چھپانے کی مذمت	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
437-446 12	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو تین دن بھوکا رکھ کر، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا	10	191/10	حکماء، محدثین اور متکلمین کی اصطلاح میں علم کی تعریف	24
			192/10	علم دین کی تفصیل	25
	علم جعفر	42	192/10	علم کی فضیلت میں قرآن کی آیات	26
527/8	علم جعفر کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	193/10	علم کی فضیلت میں احادیث	27
528/8	علم جعفر کا تفصیلی تعارف	2	574/10	کونسا علم باعث فضیلت ہے؟	28
530/8	علم جعفر کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء	3	149/11	علم کی فضیلت اور علم کا محمل پر مقدم ہونا	29
532/8	علم جعفر کی بنیاد پر غیب کی خبروں اور پیش گوئیوں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا تبصرہ	4	463/11	کس علم کا حصول فرض عین ہے اور کس علم کا حصول فرض کفایہ ہے؟	30
				حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ	41
532/8	حساب و کتاب اور سائنسی آلات کے ذریعے پیش گوئیاں	5	65/3 220/3 247/3	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت	1
534/8	چاند نظر آنے کی سائنسی اور تکنیکی وجوہ	6		حضور ﷺ کیلئے حضرت علی رضی اللہ عنہ منزلہ ہارون علیہ السلام ہیں	2
	علم غیب	43	294/4	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ایک روایت	4
472-475 3	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم غیب	1	430/5	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل قرار دینے کی دلیل کا جواب	5
496/3	مفتاح الغیب کی تفسیر	2	431/5	حضرت علی رضی اللہ عنہ مظهر ہارون علیہ السلام تھے	6
499/3	آپ ﷺ کو فقط غیب کی خبریں دی گئیں تھیں یا علم غیب بھی	3	51/6	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خوف خدا	7
500/3	اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے علم میں فرق	4	424/7	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قصاص عثمان نہ لینے کی وجوہ	8
236/4 471-484/4	سیدنا محمد ﷺ کا علم غیب	5	579/8	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت عائشہ، زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہم کے احترام کے متعلق احادیث و آثار	9
469/4	غیب کا معنی	6			
484/4	حضور ﷺ کا یہ فرمان کہ اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا	7	287/11		
485/4	حضور ﷺ کی طرف علم غیب کی نسبت میں علماء دیوبند کا نظریہ	8	288/11		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
307/12	کیا اللہ کا ہنوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے؟	27		حضور ﷺ کی طرف علم غیب کی نسبت میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ	9
308/12	کیا اللہ خواب کی تعبیر بتانے والوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے؟	28	486/4	علم غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث	10
309/12	کیا اللہ جادو گروں کو غیب کی خبریں دیتا ہے؟	29	561/5	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمانا	11
316/12	علم غیب اور غیبی خبروں میں فرق	30	89/7	علم غیب کی تحقیق	12
318/12	علم کلی کی تحقیق	31	721/8	رسول اللہ ﷺ کو علم غیب	13
319-323 12	علم کلی دفعۃً عطا کیے جانے کے متعلق دلائل	32	721-724 8	غیب کا لغوی و اصطلاحی	14
323/12	ماکان و مایکون کے علم کے ثبوت میں احادیث	33	725/8	رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کے متعلق آیات و احادیث	15
325/12	علم کلی تدریجاً عطا کیے جانے کے دلائل	34	726-732 8	ذاتی اور عطائی علم غیب کی تحقیق	16
326/12	علم کلی کے استدلال پر شبہات کے جوابات	35	44/11	انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے علم غیب کی تحقیق	17
	علم لدنی	44	69/11	غیب کا لغوی و اصطلاحی معنی	18
171/7	علم لدنی کی تعریف	1	834/11	لفظ علم الغیب کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا	19
	علم نجوم	45	834/11	حضور علیہ السلام کے علم غیب پر ایک دلیل	20
253/6	علم نجوم کی تعریف اور ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم	1	130/12	غیب کا لغوی و اصطلاحی معنی	21
134/7	نجومیوں کا رد	2	299/12	غیب کی اقسام	22
517/8	علم نجوم کا لغوی معنی اور اس کے اصول و مبادی	3	300/12	اللہ تعالیٰ کے غیر پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نہیں	23
518/8 310/12	علم نجوم کا اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حکم	4	300/12	سورۃ الجن آیت نمبر ۲۶ میں اظہار بہ معنی اطلاع	24
519-526 8	علم نجوم کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء	5	300-303 12	سورۃ الجن آیت نمبر ۲۶ میں اظہار بہ معنی تسلط	25
	نجومیوں کی پیش گوئیوں اور غیب کی خبروں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم کا تبصرہ	6	304/12	سورۃ الجن آیت نمبر ۲۶ میں عالم الغیب اور علیٰ غیب سے مراد ہر غیب ہے نہ کہ وقت وقوع قیامت	26
526/8	علم باری تعالیٰ	46			
88/5	اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے واقعات کا علم ہے	1	306/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
815-816 7	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کا عموم	7	337/5	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	2
862/8	بعثت سے قبل حضور ﷺ کو اپنے نبی ہونے کا علم	8	341/5	جس چیز کے وجود کا اللہ کو علم نہ ہو اس کا وجود محال ہے	3
144/10	حضور ﷺ کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام اشیاء کا علم دیا جانا	9	57/6 525/6	اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات	4
144-147 10	حضور ﷺ کو علم کلی دیا جانا	10	60/7	اللہ تعالیٰ کے علم کے حادث ہونے کا اشکال	5
85/11	بعثت سے قبل حضور ﷺ کو اپنی رسالت کا علم	11	42/9	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	6
86/11	بعثت سے قبل حضور ﷺ کو اپنی نبوت کا علم	12	265/9	ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے احاطہ علم میں ہے	7
	علاج	48	521/10	اللہ تعالیٰ کا علم غیب قطعی اور ذاتی ہے	8
228/4	دوا کرنے اور علاج کرنے کے متعلق احادیث	1	716/11	اللہ تعالیٰ کے علم پر دلائل و نظائر	9
228/4	دوا اور دم سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علاج کرانا	2		بعض مترجمین کے ترجمہ سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بے علمی کا ظاہر ہونا	10
227/4	دم کرانے پر توکل	3	739/11	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	11
387/5	قرآن مجید سے جسمانی شفاء حاصل کرنے کی تحقیق	4	947/12	اللہ تعالیٰ کے علم محیط پر دلائل	12
385/5	انبیاء کرام کا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے مبعوث ہونا	5	150/12	اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیات کا علم	13
386/5	قرآن سے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کے چار مدارج	6	529/12	اللہ تعالیٰ کے علم پر حادث ہونے کے اعتراض کے جوابات	14
389/5	قرآن مجید سے جسمانی شفاء کے حصول کے متعلق احادیث و آثار	7	331/12	علم نبوی ﷺ	47
392/5	کلمات طیبہ سے دم کرنے کا جواز	8	251/3	نبی کریم ﷺ کے علم کی اقسام	1
393-403 5	دم اور تعویذ کی ممانعت کے متعلق اقوال اور ان کے جوابات	9	252/3	کس علم کی تبلیغ میں آپ ﷺ کو اختیار ہے؟	2
			254/3	کس علم کا اخفاء واجب ہے؟	3
			645/3	علم کی مراتب	4
			329/6	رسول اللہ ﷺ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	5
			331-337 6	رسول اللہ ﷺ کو اپنے اور دوسروں کے انجام کا علم	6

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
1050/12	قرآن کی سورتوں سے دم	31	403/5 405/5	تعویذ لٹکانے کا جواز	10
	علاماتِ قیامت	49	403-405 5	دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مختلف اقوال	11
696/3	قیامت سے قبل دس نشانیوں کا ظہور	1	405/5	خواب میں ڈرنے کا تعویذ	12
424/4	علم قیامت کے متعلق سوالات و جوابات	2	406/5	بخار کا تعویذ	13
443/4 569/9 148/11	علاماتِ قیامت	3	406/5	وضع حمل میں تنگی اور مشکل کے متعلق تعویذ	14
			408/5	نکسیر کے متعلق تعویذ	15
742/8	دابۃ الارض کا محل خروج وغیرہ	4	408/5	دل یا سینہ میں درد کے لیے تعویذ	16
579/11	قیامت کے قریب آنے کے متعلق احادیث	5	408/5	میعادی بخار کے لیے تعویذ	17
477/12 207/12	قیامت کے وقوع کی علامات	6	408/5	عرق النساء کے لیے تعویذ	18
	علومِ خمسہ	50	408/5	گٹھیا کے لیے تعویذ	19
284/9	علومِ خمسہ کی نفی کی آیت	1	408/5	داڑھ کے درد کے لیے تعویذ	20
285-286 9	مخلوق سے علومِ خمسہ کی نفی	2		پھوڑے، پھنسیوں، آبلوں اور ہر قسم کی انفیکشن کے لیے تعویذ	21
286/9	بارش کے نزول کا علم	3	408/5		
287/9	ماؤں کے رحم کا علم	4		علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے متعلق احادیث	22
288/9	کل اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم	5	495/6		
289/9	مرنے کی جگہ کا علم	6	496/6	علاج کرنے کا استحباب	23
290/9	قیامت کا علم	7	497/6	صوفیاء کے نزدیک علاج کرنا	24
291-296 9	رسول اللہ ﷺ کو علومِ خمسہ کا علم دیا جانا	8	501/6	ترک علاج کو افضل کہنا	25
	عمارت	51		علاج کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے دلائل	26
	متعدد منزلہ بلڈنگیں، خوبصورت عمارات، پلازہ اور شاپنگ سنٹر بنانا	1	507/6		
390/8			782/6	تعویذ لٹکانا	27
	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ	52	781/6	مریضوں پر دم کرنا	28
820/1	حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک الزام کا جواب	1	398/7	تعویذات کے بعض احکام	29
428/5	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا	2	340/8	دوا اور علاج کے متعلق احادیث	30

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
46/4	اعمال کے وزن کے متعلق مذاہب علماء	2		حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ	3
	انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے	3	391/6	کار رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا	
255/5	ہیں		324/7	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام	4
369/5	ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے	4	578/8	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف خدا	5
186/6	نیک اعمال کا آخرت میں کام آنا	5	245/11	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت	6
314/6	اعمال کے مطابق جزاء و سزاء	6		عمران کی بیوی	53
566/6	مومن کے ہر عمل کا باعث اجر و ثواب ہونا	7	129/2	عمران کی بیوی کی نذر	1
566/6	اعمال کا ایمان سے خارج ہونا	8		عمر	54
677-680 6	نیک اعمال کا مقبول ہونا	9	729/5	پختگی کی عمر کے متعلق متعدد اقوال	1
712/6	بغیر علم کے ظن پر عمل کرنا	10	119/6	عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث	2
216/7	جن لوگوں کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں	11	513/6	انسان کی عمر میں تغیر	3
217/7	جن لوگوں کے عمل ضائع نہیں ہوتے	12	514/6	ارذل عمر کا معنی اور اس سے پناہ طلب کرنا	4
664/7	نیک اعمال کے لیے ایمان کا شرط ہونا	13		عمر میں اضافہ کر کے لوح محفوظ میں لکھے	5
662/9	نیک عمل کے محامل	14	665/9	ہوئے کو مٹانا	
663/9	کلام طیب کی وجہ سے نیک عمل کا اوپر چڑھنا	15	822/9	انسان کی عمروں کے مختلف ادوار	6
	انسان کے اچھے یا برے اعمال کا لکھا ہوا محفوظ	16	823/9	انسان کی مختلف عمروں کے متعلق احادیث	7
727/9	ہونا		824-828 9	ارذل عمر کی تحقیق	8
	نیکی اور برائی کے عمل کا مرنے کے بعد بھی	17	74/12	عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث	9
728/9	جاری رہنا			عمری	55
	نیک اعمال کے اجر حسن سے مراد آخرت کا	18	574/5	عمری کا معنی	1
197/10	اجر ہے		575/5	عمری کے متعلق احادیث	2
361/10	اعمال کے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل	19	575/5	عمری میں مذاہب ائمہ	3
	نیک اعمال کا مشکلات سے بچانا اور عذاب	20		عمل	56
390/10	سے چھڑانا			نیک عمل نزول رحمت کا جبکہ بد عمل نزول	1
			233/4	عذاب کا باعث ہیں	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
709/6	عورتوں کی آزادی کے نتائج	8		مومن کی صحت کے ایام کے نیک اعمال کا	21
369/7	عورت کا نبی نہ ہونا	9	439/10	سلسلہ مرض اور سفر میں بھی منقطع نہیں ہوتا	
424/9	عورت کو مردوں سے اپنی آواز مستور رکھنے کا حکم	10	489/10	واعظ اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وعظ پر خود بھی عمل کرے	22
	بغیر شرعی ضرورت کے خواتین کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت	11	782/12	تمام لوگوں کے اعمال کا برابر نہ ہونا	23
425/9	متبرج اور جاہلیۃ الاولیٰ کی تفسیر	12	952-953 12	مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت	24
426/9	جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلنے پر ایک اعتراض کا جواب	13	388/12	وہ نفوس جو قیامت کے دن اپنے اعمال کے عوض گروی ہوں گے	25
427/9	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اصلاح کے قصد سے بصرہ روانہ ہونا	14	395/12	لغو کاموں کی تفصیل	26
428/9	قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ان صحابہ کے تعاقب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ و بصرہ روانہ کرنا	15	129/12	ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی ضرورت	27
	قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سازش کر کے بصرہ میں مسلمانوں میں جنگ کرادینا	16		سورۃ العنکبوت	57
430/9	قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تسلط اور تغلب	17	35/9	سورۃ کا نام	1
450/9	قرآن میں خواتین کا ذکر	18	35/9	سورۃ العنکبوت کے متعلق احادیث	2
666/10	عورتوں کے ناقص ہونے کی وجوہ	19	36/9	سورۃ العنکبوت کا زمانہ نزول	3
780/10	دنیاوی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟	20	36/9	سورۃ العنکبوت کے مشمولات	4
	عہد	59	122/9	سورۃ العنکبوت کا اختتام	5
215/2	وعدہ خلافی کرنا	1		عورت	58
216/2	وعدہ خلافی کی سزا	2	809/1	عورت پر مرد کی خدمت	1
559/6	اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام	3	612/2	زمانہ جاہلیت کے مظالم سے نجات دلانا	2
560/6	ایک دوسرے سے تعاون کا معاہدہ	4	656-657 2	عورت کی حاکمیت کا عدم جواز	3
			658/2	ملکہ بلقیس کی حکمرانی	4
			814/2	وراثت و نکاح میں عورتوں کے حقوق	5
			818/2	عورتوں کا اپنے حقوق ساقط کرنا	6
			486/3	آزاد اور پاک دامن عورت	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	مائدہ کا مزمل اور اس میں شک کرنے والوں پر عذاب آنا	11	562/6	مظلوم کا بدلہ لینے کا باہمی معاہدہ	5
165/2			563/6	عہد شکنی کی مذمت	6
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے مواعظ	12	856/7	عہد کی حفاظت کرنا	7
166/2			316/7	مومنوں کا رحمان سے لیا ہوا عہد	8
170/2	انجیل کا نزول	13	803/9	عہد کا معنی اور اس کی اقسام	9
170/2	آسمانوں پر اٹھایا جانا	14	865/11	وعدہ پورا کرنے والوں پر وعید	10
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے مابین مدت	15	351/12	اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا پورا ہونا ضروری کیوں؟	11
173/2				عہد شکنی	60
175/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علوم و معجزات	16	659/4	قبیلہ بنو قریظہ کی عہد شکنی	1
179/2	آپ علیہ السلام سے یہود کی مخالفت کا سبب	17	660/4	فرقی ثانی کی عہد شکنی کی وجہ سے معاہدہ ختم	2
180/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص پر شبہ	18		مسلمانوں کے سربراہ کی عہد شکنی زیادہ مذموم ہے	3
182/2	وفات کا تعلق بمعنی موت نہیں	19	661/4		
185/2	ابن اللہ ہونے کی دلیل کا رد	20		حضرت عیسیٰ علیہ السلام	61
186/2	حضرت عیسیٰ و آدم علیہما السلام میں وجوہ مماثلت	21	446/1	عیسیٰ کا معنی	1
856-858	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا	22	37/2 59/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا یا بیٹا نہ ہونا	2
2				حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مس شیطان سے محفوظ رہنا	3
859-863	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اس کی حکمتیں	23	130/2		
2				سوانح عمری	4
885/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان	24	147/2		
885/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح من اللہ ہونا	25	150/2	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تصدیق کرنا	5
140/3 262/3 264/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا نہ ہونا	26	160/2 885/2	آپ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دینا	6
141/3 613/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا نہ ہونا	27	161/2	مسیح کا معنی	7
363/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات	28	162/2	آپ علیہ السلام کی وجاہت	8
364/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی حکمتیں	29	163/2	پختہ عمر میں کلام کرنا	9
				آپ علیہ السلام کا میلاد	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
732-736	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اٹھا کیہ میں بھیجنا	47	366/3 371/3	نزول ماندہ کا معجزہ	30
9				حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ادب سے اپنی برأت ظاہر کرنا	31
702/10	حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے تھے، خدا یا اس کے بیٹے نہ تھے	48	377/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا	32
730/10			377/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شفاعت کرنا	33
703-704	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کی تحقیق	49	378/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی غالی نصاریٰ کا رد فرمانا	34
10				حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک ہونا	35
704/10	یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کو قتل کر دینا	50	271/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ	36
			271/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کی برأت فرمانا	37
705/10	بل رفعہ اللہ الیہ پر مرزائیہ کے اعتراض کے جوابات	51	271/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا	38
			273/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا نظریہ	39
706/10	انسی متوفیک ورافعک الی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استدلال	52	275/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ	40
			259/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں	41
708/10	انسی متوفیک ورافعک الی پر مرزائیہ کے اعتراض کا جواب	53		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے متعلق احادیث	42
			660/7	اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام نافذ کرنے کی توجیہ	43
708/10	ومکرواومکر اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استدلال	54		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شریعت اسلامیہ پر مطلع ہو کر مسلمانوں میں احکام جاری فرمانا	44
			489/9	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں اجتہاد کر کے احکام جاری فرمانا	45
709/10	یکلم الناس فی المهد وکھلا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استدلال	55		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور ﷺ سے اسلام کے احکام حاصل کرنا	46
			490/9		
710/10	ایک اور آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استدلال	56			
			490/9		
710/10	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان	57			
			491/9		
711/10	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں	58			
711/10	مذکورہ استدلال پر مرزائیہ کے اعتراض کا جواب	59			
712/10	وما محمد الا رسول سے مرزائیہ کے اعتراض کا جواب	60			
			493/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
680/6	غریب و امیر کے طبقاتی فرق کی حکمتیں	1		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی عبادت کا حکم دینا	61
	غزوہ بدر	4	716/10		
	دیکھئے ”10: (معرکہ) بدر“ صفحہ 81	1		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور ﷺ کی آمد کی بشارت دینا	62
	غصہ	5	867/11		
372/2	غصہ ضبط کرنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت	1		موجودہ انجیل کے متن میں حضور ﷺ کی بشارت	63
654/6	غصہ میں بددعا کرنا	2	867/11		
507/10	غصہ نہ کرنے اور معاف کر دینے کی فضیلت	3		عیادت	62
507/10	غصہ کرنے کے دینی و دنیاوی نقصانات	4	157/7		1
615/10	حالت غضب میں معاف کرنے کی فضیلت	5		عیادت کا ثبوت	
	غفلت / غافل	6		عیب	63
684/10	اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہونے کا وبال	1	299/11		1
	مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ	7		مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے کی ممانعت	
304/10	مصنف تبیان القرآن کی والدہ کی وفات	1		عیب و عشرت	64
	مصنف تبیان القرآن کی والدہ کا قرآن و حدیث سے مقام	2	422/9		1
305/10				عیب و آرام کے حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے	2
			777/9		
				غ	
				سورۃ الغاشیہ	1
306/10	مصنف تبیان القرآن کی والدہ کی جن احادیث سے مغفرت متوقع ہے	3			
			704/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1
			704/12	سورۃ الغاشیہ کی سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ مناسبت	2
307/10	مصنف تبیان القرآن کی والدہ کا جن واقعات سے مقرب ہونے کا پتہ چلتا ہے	4	705/12	سورۃ الغاشیہ کے مشمولات	3
			715/12	سورۃ الغاشیہ کی تفسیر کی تکمیل	4
				غبن	2
855/7	اس دور میں غلام بنانا	1			
855/7	عورتوں کا غلاموں سے جنسی عمل کرنا	2	917/11	غبن فاحش کی تعریف مع شرعی حکم	1
436/8	غلاموں کے بعض احکام	3		غریب	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
493/3	غیر اللہ کو پکارنے میں مسلمانوں اور مشرکوں کا فرق	1	756/12	غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت میں احادیث	4
384-387 6	والذین یدعون من دون اللہ کا مصداق	2		غلام احمد قادیانی	9
744/6	غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھ کر پکارنا	3	475/9	مرزا غلام احمد قادیانی کا ختم نبوت پر ایمان و اصرار	1
731/10	غیر اللہ کی عبادت کا باطل ہونا	4		مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ کہ وہ تشریحی نبی ہیں	2
	غیب	15	480/9	مرزا غلام احمد قادیانی کا جہاد کو منسوخ قرار دینا	3
258/1	غیب کا معنی	1	480/9	مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات سے حیات مسیح اور نزول مسیح پر استدلال	4
258/1	مومن بالغیب کا مصداق	2	713/10	مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ مسیح موعود اور دعویٰ نبوت کا ابطال	5
259/1	مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق کرنا	3		غلو	10
57/6	غیب کا لغوی و اصطلاحی معنی	4	715/10	غلو حق اور غلو باطل	1
	غلطی کرنا	16		مال غنیمت	11
	دیکھئے ”39: سہو“ صفحہ 150	1		مال غنیمت میں خیانت کرنا	1
	غیبت	17	265/3	مال غنیمت کے چند ضروری مسائل	2
842/2	غیبت کی ممانعت کے متعلق احادیث	1		غناء	12
844/2	مظلوم کا ظالم کے ظلم کو بیان کرنا کیا غیبت ہے؟	2	441/2	سہو الحدیث کا محمل غناء کو قرار دینا	1
847/2	غیبت کرنے کی مباح صورتیں	3	442/2	غناء کی تحریم میں آیات و احادیث	2
300/11	غیبت کی تعریف	4		غناء کے متعلق اعلیٰ حضرت کی تحقیق	3
301/11	غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دینے کی وجوہ	5	219/9	غور و فکر	13
302/11	غیبت کرنے پر عذاب کی وعیدیں	6	220/9	دیکھئے ”11: مدبر“ صفحہ 90	1
302/11	غیبت کا کفارہ	7	233/9	غیر اللہ کو پکارنا	14
303/11	جن صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے	8			
	غیبت	18			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
281/11	فاسق کی روایت و شہادت کا شرعی حکم	4	107/12	غیرت کا معنی	1
296/11	فاسق معین کا فسق بیان کرنے کا جواز	5		غیظ و غضب	19
	سورة الفاطر	5	338/4	غیظ و غضب کا معنی	1
626/9	سورة کا نام	1		غیظ و غضب کو ضبط کرنے کے متعلق قرآنی آیات	2
626/9	سورة الفاطر کے مشمولات	2	339/4		
629/9	فاطر کا معنی	3		غیظ و غضب کو ضبط کرنے کے متعلق احادیث	3
702/9	سورة الفاطر کا اختتام	4	339/4	کریمہ	
	فاحشہ	6	343/4	حالت غضب میں طلاق	4
93/4	فاحشہ کا معنی اور مراد	1		ف	
	فال	7		سورة الفاتحہ	1
	دیکھئے ”24: شگون“ صفحہ 155	1	133/1	سورة الفاتحہ کے اسماء	1
	فارس	8	136/1	سورة الفاتحہ کے فضائل	2
879/11	فرزند ان فارس کا علم دین کی بلندیوں پر پہنچنا	1	139/1	سورة الفاتحہ کا مقام نزول	3
	فبای 'الاء ربکما تکذبین'	9	140/1	سورة الفاتحہ کی آیات کی تعداد مع مضامین	4
609/11	فبای 'الاء ربکما تکذبین' کے مخاطبین	1		فاتحہ خلف الامام	2
	فبای 'الاء ربکما تکذبین' کو ۳ بار مکرر	2		فاتحہ خلف الامام کے بارے میں ائمہ اربعہ کے نظریات	1
612/11	ذکر کرنے میں حکمت		219/1		
	فتح	10		حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا	3
72/2	فتح کا مدار	1	860/1	تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا	1
386/2	فتح اور شکست کی گردش	2	910/7	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب	2
652/9	فتح کی متعدد تفاسیر	3		فاسق / بد عقیدہ	4
	فتویٰ	11	533-537 3	فاسق و بد عقیدہ سے اجتناب	1
815/2	فتویٰ کا معنی، تقاضے اور مسائل	1	645/3	فساق کو مقتدر بنانے کی حکمت	2
	فتنہ	12	741/11	فاسق کا معنی	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
262/4	رب موسیٰ و ہارون کہنے کی وجہ	4	703/3	فتنہ کے زمانہ میں نیک علماء کا گوشہ نشین ہونا	1
263/4	فرعون کا عوام کو شبہات میں ڈالنا	5	636/4	فتنہ کا معنی	2
263/4	فرعون کا اپنی دھمکی پر عمل کرنا یا نہ کرنا؟	6		سورۃ الفتح	13
265/4	فرعون کے معبود کی تفسیر میں اقوال	7	182/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
270/4	قوم فرعون پر پے در پے بلائیں نازل ہونا	8	183/11	سورۃ الفتح کی پہلی دو سورتوں سے مناسبت	2
279/4	قوم فرعون پر طوفان اور ٹنڈی دل وغیرہ بھیجنے کا عذاب	9	197/11	سورۃ الفتح کا مقام نزول اور زمانہ نزول	3
282/4	ستر ہزار فرعونوں کا طاعون میں مبتلا ہونا	10	197/11	سورۃ الفتح کے مسائل و مقاصد	4
455/5	قوم فرعون کے بیان کردہ دو عذر	11	271/11	سورۃ الفتح کا اختتام	5
457/5	فرعون کے واقعہ سے نبی ﷺ کو تسلی دینا	12		فتر	14
460/5	فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کی توجیہ	13	142/3	فتر کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
462/5	فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	14		سورۃ الفجر	15
618/5	فرعون کی گمراہی اور دوزخ میں اس کا اپنی قوم کا مقتداء ہونا	15	716/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
463/5	فرعون کے منہ میں حضرت جبرائیل کا مٹی ڈالنا اور اس پر اشکال کا جواب	16	716/12	سورۃ الفجر کی سورۃ الغاشیہ سے مناسبت	2
399/7	فرعون کے جادو گروں کا ایمان لانا	17	716/12	سورۃ الفجر کے مشمولات	3
402/7	فرعون کی بیوی کا ایمان لانا	18	720/12	الفجر سے مراد معروف صبح اور اس کی فضیلت	4
400/7	فرعون کی لاف و گزاف کی توجیہ	19	712/12	سورۃ الفجر کا اختتام	5
399/7	رب العالمین کے بجائے رب موسیٰ و ہارون کہنا	20		فحش کام	16
406/7	فرعون کا سمندر میں بنے ہوئے خشک راستہ پر جانا	21	747/6	کھلم کھلا فحش کام کرنا	1
306/7	فرعون کو کلمہ پڑھنے سے روکنے پر ایک اعتراض کا جواب	22		فخر	17
				دیکھئے "36: تکبر" صفحہ 94	1
				فرعون/ قوم فرعون	18
			397/1	فرعون کا اصل نام	1
			396/1	فرعون کا بنو اسرائیل پر عذاب	2
			71/2	قوم فرعون کے ذکر کی خصوصیت	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
364/10	مرد مومن کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھنا	38		فرعون کی طرف جانے کا حکم صرف حضرت	23
	آل فرعون کو قبر اور آخرت میں عذاب پر	39	240/8	موسیٰ علیہ السلام کو تھایا ان کے بھائی کو بھی؟	
365/10	پیش کرنا		301/8	آیا فرعون موحد تھا، مشرک، یاد ہر یہ؟	24
691/10	فرعون کے قصہ کو بیان کرنے کے فوائد و مقاصد	40		فرعون کا حضرت موسیٰ کے برحق ہونے کے	25
763/10	قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالنے کی توجیہ	41	307/8	تاثر کو زائل کرنا	
730/12	قوم فرعون کا عذاب	42		فرعون اور اس کے حواریوں کی اپنی کامیابی	26
	فرقے	19	308/8	کے متعلق خوش فہمی	
496/1	اسلامی فرقوں کی تحقیق	1	773/8	فرعون کا اپنے خدشات کا شکار ہونا	27
651/5	دنیا کے مشہور فرقے	2		فرعون کی بیوی کے فضائل اور جنت میں ان	28
	اللہ تعالیٰ رسول ﷺ اور کتاب کے ایک	3	780/8	کا ہمارے نبی کے نکاح میں ہونا	
653/5	ہونے کے باوجود اسلام میں فرقے کیوں؟			فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور اس کا عبرت	29
	فرق	20	813/8	ناک انجام	
472/1	اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت میں فرق	1	814/8	فرعون کا خدا کو دیکھنے کے لیے بلند عمارت بنوانا	30
918/1	حبیب اور خلیل میں فرق	2		فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والوں کا	31
918/1	حبیب اور کلیم میں فرق	3	325/8	بیان	
165/10	انزال اور تنزیل کا فرق	4	46/10	فرعون کو میٹھوں والا کہنے کی وجہ	32
214/10	وعد اور وعید کا فرق	5	344/10	قوم فرعون کا فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام	33
223/10	حضور ﷺ اور کفار کی موت کا فرق	6	353/10	کے قتل سے باز رکھنا	
281/10 578/10	دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب کا فرق	7		قوم فرعون کے مرد مومن کا تعارف اور اس	34
	دنیا کی نعمتوں سے استفادہ میں مومن اور	8	349/10	کی فضیلت	
143/11	کافر کی نیت اور عمل کا فرق		353/10	مرد مومن کا قوم کو بار بار نصیحت کرنا	35
609/11 691/11	آلاء اور النعماء کا فرق	9		فرعون کا خدا کو دیکھنے کے لیے بلند عمارت	36
610/11	ظاہری اور باطنی نعمتوں کا فرق اور ان کی تفصیل	10	356/10	بنوانا	
677/12	کفار کے کید اور اللہ تعالیٰ کے کید کا فرق	11	360/10	آل فرعون کے مرد مومن کی قوم فرعون کو	37
				توحید اور دنیا سے بے رغبتی کی نصیحتیں	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
802/7	فرشتوں کو رسول بنانے کی آیتوں میں تعارض	11	433/12	دنیا کے کافر اور جنت کے کافر کا فرق	12
803/7	بعض فرشتوں اور انسانوں کو بیٹا بنانا	12		رب کے نام کو یاد کرنے اور رب کو یاد کرنے کا فرق	13
622/9	فرشتوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہونا	13	345/12	اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے اور اللہ میں مشغول ہونے کا فرق	14
649/9	ملائکہ کی تعریف	14		اعلیٰ حضرت کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علم کا فرق	15
858/9	فرشتوں کے زجر کرنے کی تفصیل	15	346/12		
962/9	فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں	16			
969/9	فرشتوں کا صفیں باندھ کر عبادت کرنا	17	317/12		
140-143	الملاء الاعلیٰ سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟	18		فرقہ بندی	21
10			697/3	فرقہ بندی کی مذمت	1
320-322	کیا فرشتے انبیاء سے افضل ہیں؟	19		فرشتہ	22
10					
322/10	فرشتوں کی شفاعت کرنا	20		ملائکہ کی حقیقت، خصوصیت اور ان کے فرائض منصبی	1
484/10	فرشتوں کا مؤمنین کے لیے معاون و مددگار ہونا	21	333/1		
	فرشتوں کا موت کے وقت مؤمنین کو انعامات کی بشارت دینا	22	360/1	فرشتہ اور بشر کے درمیان افضلیت کا بیان	2
485/10				فرشتوں کی کثرت عبادت سے انسان کو عبادت پر ابھارنا	3
512/10	فرشتوں کی دائمی تسبیح پر ایک اشکال کا جواب	23	521/4		
512/10	بشر اور فرشتوں میں باہمی افضلیت کی تحقیق	24		فرشتوں کی کثرت عبادت ان کی افضلیت کو مستلزم نہیں	4
542/10	فرشتوں کا تسبیح اور حمد کرنا	25	522/4		
543/10	فرشتے کن کن کے لیے استغفار کرتے ہیں؟	26		فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات و حکمتیں	5
730/10	فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں	27	60/6		
	اللہ تعالیٰ کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعاون کا جواب	28	352/6	ملائکہ سے جبریل کا مراد ہونا	6
822/10			458/6	فرشتوں کا معصوم ہونا	7
517/11	فرشتوں کے مؤنث ہونے پر دلائل	29	529/7	کیا فرشتے ہر وقت تسبیح کرتے ہیں؟	8
896/12	فرشتوں کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا	30	537/7	فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کا رد	9
898/12	فرشتوں کو زمین پر نازل کرنے کی حکمتیں	31	538/7	فرشتوں کا مکلف ہونا	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
881/11	اللہ تعالیٰ کے فضل کی مختلف تعبیریں	1	899/12	فرشتوں کا سلام	32
890/11	اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرنے کے محامل	2	668/12	فرشتوں کا اعمال نبی آدم لکھنا	33
	فضیلت	30	535/12	روح اور فرشتوں کے صحیح بات کہنے کی توجیہات	34
489/3	بعض لوگوں کی بعض پر فضیلت کا آزمائش ہونا	1	378/12	فرشتوں کو دوزخ کا محافظ بنانے کی حکمتیں	35
	حضور علیہ السلام کے تمام آباء کا اپنے زمانے میں سب سے افضل ہونا	2	378-383 12	دوزخ کے فرشتوں کی تعداد	36
559/3			115/12	اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد فرشتوں کی مدد کا ذکر	37
	فطرت	31		فریب	23
154/9	فطرت کا لغوی و شرعی معنی	1	699/9	فریب کی ممانعت	1
156/9	ہر بچہ کی فطرت پر پیدائش کی حدیث	2		سورۃ الفرقان	24
156/9	حدیث میں فطرت سے مراد	3	203/8	سورۃ کا نام وجہ تسمیہ	1
	فعل	32	206/8	سورۃ الفرقان کا زمانہ نزول	2
	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل سنت و جبریہ کے نظریات	1	207/8	سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کی باہمی مناسبت	3
72/6			208/8	سورۃ الفرقان کے مشمولات	4
	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل سنت و معتزلہ کے نظریات	2	279/8	سورۃ الفرقان کا اختتام	5
71/6				فراست	25
72/6	جبریہ کے نظریہ کا رد	3	305/6	فراست کا معنی اور اس کے مصادیق	1
72/6	معتزلہ کے نظریہ کا رد	4	306/6	فراست کے متعلق احادیث	2
73/6	نظریہ اہل سنت کی مزید وضاحت	5		فرمانبردار	26
73/6	معتزلہ کے اعتراضات کے جوابات	6		دیکھئے "58: اطاعت" صفحہ 61	1
75/6	جبریہ کے رد پر مزید دلائل	7		فساد	27
75/6	خلق اور کسب کی وضاحت	8	403/8	فساد کی اقسام	1
579/6	کام کو فعل و اسم سے تعبیر کرنا	9		فضول خرچی	28
906/9	بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے	10		دیکھئے "40: اسراف" صفحہ 59	1
972/12	افعال میں حسن اور قبح عقلی ہے یا شرعی؟	11		فضل	29

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
673/8	حدود اور قصاص کے ماسوا میں عورتوں کی قضاء	3		فقہ	33
	سورۃ الفیل	40	526/3	فقہ کا معنی	1
979/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	612/5 367/7	فقہ کا لغوی و اصطلاحی معنی	2
985/12	سورۃ الفیل کی تفسیر کی تکمیل	2	691/11	کتب فقہ کو بے وضو چھونا کیسا؟	3
	فئے	41		فقیر/فقر	34
638/4	فئے کا معنی	1	94/7	فقراء مسلمین کی مجلس میں بیٹھنا	1
809/11	فئے کا لغوی و شرعی معنی	2	95/7	فقراء کی فضیلت میں احادیث	2
	مال غنیمت اور مال فئے کو کفار کی ملکیت سے نکال کر مسلمانوں کو دینے کی وجہ	3	98/7	فقراء کو مجلس سے اٹھانا	3
810/11	مال غنیمت اور مال فئے کا فرق	4	600/10	بعض لوگوں کو فقیر بنانے کی مصلحتیں	4
810/11	قرآن و حدیث سے مال فئے کے وقف ہونے پر دلائل	5	682/10	حضور ﷺ کے لیے فقر کو پسند کرنے کی وجہ	5
811-813				فلسطین	35
11			404/4	فلسطین میں اسرائیل کا قیام	1
	ق			فلسفہ	36
	سورۃ ق	1	599/9	جزء لاجزئی کے ثبوت پر دلیل	1
311/11	سورۃ کا نام	1		سورۃ الفلق	37
311/11	سورۃ ق سے سورۃ الحجرات کی مناسبت	2	1042/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
311/11	سورۃ ق کے متعلق احادیث	3	1042-1046 12	المعوذتین کی فضیلت میں احادیث	2
353/11	سورۃ ق کا اختتام	4	1051/12	سورۃ الفلق کا خاتمہ	3
	قاضی	2		فوا کہہ	38
743/1	قاضی اور دیگر افسروں کا ہدیہ قبول کرنا	1	324/1	پھلوں کو بتدریج پیدا کرنے میں حکمت	1
744-746/1	قضاء کا ظاہر اور باطن نافذ ہونا	2		فیصلہ	39
	قائیل/ہائیل	3	224/2	حکم کا معنی	1
154/3	قائیل کا ہائیل کو قتل کرنا	1	162/8	فیصلہ کے لیے قاضی کے بلانے پر جانا	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
725/6	قبر پر کھجور کی شاخ کے ٹکڑے رکھنا	5	156/3	قاتل کے قتل کرنے کی کیفیت	2
726/6	قبر پر قرآن مجید پڑھنا	6	157/3	قاتل کا انجام	3
739/6	قبروں سے نکلنے کی کیفیت	7		قارون	4
581/11	قبر سے نکلنے والوں کی دو حالتیں	8	856/8	قارون کا نام و نسب اور اس کا مال و دولت	1
464/11	شیطان کا قبر میں آ کر مومنوں کو بہکانا	9		قارون کا اپنے مال کو فقط اپنی قابلیت کا ثمرہ سمجھنا	2
	قبلہ	7	856/8		
	دیکھئے ”8: تحویل قبلہ“ صفحہ 90	1	857/8	قارون کا اپنے مال و دولت پر اترانا اور اکرنا	3
	قبول اسلام	8	858/8	قارون کو زمین میں دھنسا دینا	4
272/8	حضرت وحشی کا قبول اسلام	1	858/8	قارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی	5
	قبح	9	858/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قارون کے خلاف دعا	6
708/6	قبح کا عقلی ہونا	1	859/8	ویکان کا معنی اور اس کی ترکیب	7
	قتل	10	78/9	قارون کا ذکر کر کے نبی علیہ السلام کو تسلی دینا	8
764/1	حضرمی کے قتل کی تاریخ	1		قارون کے ذکر کو فرعون اور ہامان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ	9
754/2	قتل خطاء	2	78/9		
755/2	قتل خطاء کا معنی و اقسام	3		سورة القارعة	5
756/2	قتل خطاء، عمد اور شبہ عمد کی دیت	4	949/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1
	قتل خطاء کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی حکمتیں	5	954/12	سورة القارعة کی تفسیر کی تکمیل	2
759/2				قبر	6
762/2	قتل عمد کی تعریف	6		دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا اور اس سے قبر پر اذان کا استدلال	1
763/2	قتل عمد پر اللہ اور رسول ﷺ کا غضب	7	221/5		
764/2	مسلمان کے قاتل کی مغفرت	8	182/6	قبر میں فرشتوں کا سوال کرنا	2
765/2	سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنا	9	184/6	قبر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے	3
686/3	قتل برحق کی اقسام	10		جو مسلمان قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے	4
688/3	قتل مومن پر وعید	11	185/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
48/1	قرآن مجید کی تعریف و اسماء	1	710/6	کسی مسلمان کو قتل کرنے کی جائز صورتیں	12
50/1	قرآن مجید کے فضائل اور اجر و ثواب	2		قدرت باری تعالیٰ	11
	قرآن کو پڑھنے اور سننے کے آداب مع ضروری مسائل	3	300/1	اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معنی	1
53/1			63/6	بجلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور	2
59-63/1	قرآن مجید کا اعجاز	4	755/6	اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	3
91/1	مکمل قرآن یکبارگی نازل نہ کرنے کی حکمتیں	5	716/11	اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل و نظائر	4
96/1	قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان	6	779-780 12 578/12 580/12	اللہ کی قدرت پر دلائل	5
103/1	قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کا حکم	7		اللہ تعالیٰ کا حیوانات کے احوال سے اپنی قدرت پر استدلال	6
104/1	قرآن مجید کا غیر محرف ہونا	8	157/12	اللہ تعالیٰ کا اپنی صفات سے اپنی قدرت پر استدلال	7
106/1	قرآن مجید کا سات حرفوں پر نازل ہونا	9		زوج کے معنی سے قدرت باری تعالیٰ پر استدلال	8
	قرآن مجید کی سورتوں، آیتوں اور حرفوں کی تعداد	10	157/12	سورة القدر	12
108/1				سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر مستشرقین کے اعتراضات مع جوابات	11	508/12	سورة القدر کی تفسیر کی تکمیل	2
109/1				قذف	13
112/1	قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ	12	887/12	قذف کا لغوی معنی	1
114/1	قرآن مجید پر رموز اوقاف لگانے کی تاریخ	13	900/12	قذف کا شرعی معنی	2
118/1	مضامین قرآن کا خاکہ	14		قرآن و حدیث کی روشنی میں قذف کا حکم	3
	قرآن مجید کی تفسیر کرنے پر اعتراضات کے جوابات	15	69/8	احصان کی شرائط	4
122/1			70/8	جس پر حد قذف لگ چکی ہو اس کی شہادت	5
123/1	قرآن مجید کی مشروعیت پر دلائل	16	70/8		
129/1	قرآن مجید کی تفسیر کے اصل مآخذ	17	71/8		
129/1	قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری علوم	18	72/8		
	قرآن مجید سب کیلئے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے	19		قرآن مجید	14
242/1					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	قرآن کو مشرکین پر اتمام حجت کے لیے نازل کرنا	41	364/1	قرآن مجید کا تورات کا مصدق ہونا	20
695/3			365/1	تعلیم قرآن پر اجرت	21
36/4	قرآن مجید کی تبلیغ	42	369/1	قرآن خوانی کا نذرانہ	22
38/4	قرآن مجید سے ڈرانا اور نصیحت کرنا	43	417/1	آسمانی کتب کے نزول کا مقصد	23
150/4	قرآن مجید کی خصوصیات	44	453/1	قرآن مجید کی صداقت	24
513/4	قرآن مجید پڑھنے کے آداب	45	484/1	قرآن مجید کی آیات منسوخہ	25
514/4	قرآن مجید سننے کا حکم	46		قرآن مجید پر مسلمانوں کا عمل نہ کرنا (لحہ فکریہ)	26
515/4	قرآن مجید سننا فرض عین ہے یا فرض کفایہ	47	451/1		
516/4	قرآن مجید سننے کے حکم میں مذاہب فقہاء	48	518/1	قرآن مجید کی تلاوت کے آداب	27
518/4	امام کے پیچھے قرآن سننے میں مذاہب اربعہ	49	38/2	قرآن مجید، کتاب حق ہے	28
338/5	قرآن مجید کو بدلنے کا مشرکین کا مطالبہ	50	706/2	قرآن مجید، اقوال صحابہ پر مقدم ہے	29
339/5	قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات	51	732/2	قرآن میں اختلاف نہیں	30
340/5	قرآن مجید کا وحی الہی ہونا	52	877/2	قرآن کو یکبارگی نازل نہ کرنا	31
365/5	قرآن مجید کی پیش گوئیاں	53	890/2	قرآن کا نور ہونا	32
366/5	قرآن مجید کی تفصیل الكتاب ہونے کا معنی	54	139/3	قرآن مجید کے فوائد و مقاصد	33
463/5	قرآن مجید کی صداقت	55		نزول قرآن کے بعد انجیل پر عمل کے حکم کی توجیہ	34
493/5	قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی	56	205/3		
512/5	قرآن مجید کا معجز ہونا	57	206/3 589/3	قرآن کا سابقہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہونا	35
664/5	قرآن مجید کا مبین ہونا	58	210/3	قرآن مجید کی آیات	36
883/5	قرآن مجید میں ہر شی کی تفصیل کا محمل	59		قرآن تمام عقائد اسلامیہ اور احکام شرعیہ کا جامع ہے	37
105/6	مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے خوش ہونا	60	454/3		
	قرآن مجید کو حکم عربی فرمانے کی وجہ اور اس کا قدیم ہونا	61	458/3	قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے	38
107/6			459/3	قرآن میں صرف ہدایت کا مذکور ہونا	39
			588/3	قرآن مجید کی خیر و برکت	40

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
275/8	قرآن کو غفلت و بے پرواہی سے سننا	84		حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کو مسلمان کرنا	62
204/8	قرآن کا سات حروف پر نازل ہونا	85	131/6		
	کیا قرآن اہل کتاب کے تعاون سے بنایا گیا ہے؟	86	227/6	قرآن مجید کا ہدایت کے لیے کافی ہونا	63
214/8			235/6	قرآن مبین اور کتاب کا معنی	64
237/8	قرآن کو تدریجاً نازل کرنے کی وجوہ	87	235/6	قرآن مبین اور کتاب میں تغایر	65
287/8	الکتاب المبین کا معنی	88	235/6	الکتاب کو قرآن مبین پر مقدم کرنے کی وجوہ	66
	قرآن کو نبی ﷺ کے قلب پر نازل کرنے کی کیفیت	89	245-247/6	قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب	67
441/8			547/6	قرآن مجید میں ہر چیز کا روشن بیان ہے	68
446/8	قرآن کا عربی زبان میں ہونا	90	767/6	قرآن کی پیش گوئی کا پورا ہونا	69
448/8	سابقہ آسمانی کتب میں قرآن کا ذکر	91		قرآن کا جسمانی و روحانی امراض کے لیے شفا ہونا	70
449/8	قرآن کو غیر عربی میں پڑھنا کیسا؟	92	780/6		
450/8	کیا ترجمہ قرآن پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے؟	93	783/6	نیکیوں اور بروں پر قرآن کے مختلف آثار	71
457/8	شیاطین قرآن کو نازل نہیں کر سکتے	94	811/6	قرآن کو حق کے ساتھ نازل کرنا	72
653/8	عربی قواعد کے خلاف قرآن کی کتابت	95	812/6	قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی وجہ	73
655/8	قواعد رسم الخط کے خلاف الفاظ	96	813/6	پست اور بلند آواز سے نماز میں قرآن پڑھنا	74
823/8	قرآن کو یکبارگی نازل نہ کرنے کی وجوہ	97	41/7	قرآن میں کجی نہ ہونا	75
213/9	قرآن کا ہدایت و رحمت ہونا	98	338/7	قرآن کا صرف ڈرنے والوں کیلئے نصیحت ہونا	76
306/9	قرآن کی مختلف النوع ہدایات	99	339/7	قرآن کریم کی عظمت	77
333/9	رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے کی ممانعت	100	431/7	قرآن پر ذکر کا اطلاق	78
	دو شہادتوں سے کسی آیت کا قرآن میں درج کرنا	101	483/7	قرآن مجید کی صفات	79
407/9			483/7	قرآن کی تلاوت میں عجلت کرنا	80
629/9	امت مسلمہ کا قرآن کا وارث ہونا	102	517/7	قرآن کے حادث ہونے کے اشکال کا جواب	81
	قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا قرآن کی ناقدری کرنا ہے	103	518/7	قرآن کو جادو قرار دینا	82
88/10			536/7	قرآن اور کتب سابقہ کے تین محامل	83

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
46/11	قرآن مجید کو کفار کا جادو کہنا	121	89/10	قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب	104
75/11	قرآن مجید پر کفار مکہ کے اعتراض کا جواب	122	158/10	قرآن کریم کا جن و انس کے لیے نصیحت ہونا	105
916/11	قرآن مجید کو نور فرمانے کی وجہ	123	219/10	قرآن سن کر خوف خدا سے روٹنے کھڑے ہونا	106
869/11	اللہ کے نور کو بھاننے کے معانی و مصادیق	124		قرآن سن کر اظہار وجد کرنے والوں کے	107
884/11	قرآن مجید کی پیشین گوئی کی صداقت	125	219/10	متعلق صحابہ و فقہاء کی آراء	
833/11	قرآن مجید کی عظمت	126	222/10	قرآن کے تین اوصاف	108
738/11	نزول قرآن کی حکمت	127		قرآن و ذکر میں مشغول ہونا افضل ہے یا	109
683/11	قرآن کریم کو کریم فرمانے کی دس وجوہ	128	410/10	دعا کرنے میں؟	
687/11	قرآن مجید کو کتاب اور مکنون فرمانے کی توجیہ	129	431/10	قرآن مجید کی دس صفات	110
987-691 11	بے وضو قرآن کو چھونا	130		قرآن مجید کے پیچھے اور سامنے سے باطل	111
691/11	کتب تفسیر اور کتب فقہ کو بے وضو چھونا	131	516/10	نہ آنے کے محال	
696/11	جنسی اور حائض کا قرآن کو چھونا	132		قرآن مجید کو غور سے نہ سننے کی وجہ سے کفار	112
700/11	قرآن مجید کو بتدریج نازل کرنے کی وجہ	133	517/10	کا ہدایت سے محروم ہونا	
605/11	کس کو رحمن نے قرآن کی تعلیم دی؟	134	523/10	قرآن مجید پر کفار کو ایمان لانے کی نصیحت	113
585/11	قرآن مجید کے آسان ہونے کے محال	135	655/10	قرآن مجید کو قرآن عربی فرمانے کی وجہ	114
236/11	القرآن ذو وجوہ کا جواب	136		کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن	115
	اس سوال کا جواب کہ قرآن مجید چونکہ حضور	137	679/10	کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا	
412/11	ﷺ کی زندگی میں جمع اور مرتب نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا وجود مشکوک ہے		687/10	نبی ﷺ اور آپ کی قوم کے لیے قرآن کا شرف عظیم ہونا	116
421/11	قرآن مجید کی جمع و ترتیب کے متعلق عیسائیوں کے اعتراض کا جواب	138	783/10	قرآن کے آسان ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	117
422/11	حضور ﷺ کو اپنی وفات سے قبل مکمل اور مرتب قرآن حفظ ہو چکا تھا	139	788/10	تنزیل قرآن کے مقاصد	118
			805/10	قرآن کا ہدایت و رحمت ہونا	119
423-429 11	صحابہ کرام کو بھی حضور ﷺ کی زندگی میں مکمل اور مرتب قرآن حفظ ہو چکا تھا	140	41/11	قرآن مجید کا انکار، استخفاف اور استحقار کفر ہے	120

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
341/12	قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھنے کے محامل	156		وفات سے قبل حضور ﷺ کے پاس مکمل قرآن کا لکھا ہوا ہونا	141
	خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء	157	430/11		
342/12				حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو ایک مصحف اور ایک جلد میں جمع کرنا	142
	قرآن مجید کے مضامین سے اس کے اثر جنون ہونے کا ابطال	158	431/11		
198/12				حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صرف لغت قریش پر قرآن کو باقی رکھنا اور باقی نسخوں کو جلا دینا	143
214/12	قرآن مجید کا سحر، شعر اور کہانت نہ ہونا	159			
216/12	قرآن مجید کی ایجابی صفات	160	434/11		
	قرض	15	435/11	جمع قرآن کے متعلق حرف آخر	144
996/1 874/1	اللہ کو قرض حسنہ دینا	1	811/12	قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت	145
997/1	مقرض کو مہلت دینا	2	816/12	قرآن مجید کی آیات اور ایک حدیث کا تعارض	146
998/1	قرض معاف کرنے پر اجر و ثواب	3	689-694	اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا اور رسول اللہ کا قرآن کو نہ بھولنا	147
1004/1	دین اور قرض کی تعریفیں اور ان میں فرق	4	12		
1005/1	آیت مداینہ کا حکم	5	661/12	قرآن مجید کی فضیلت	148
1005/1	دین پر مبنی عقود کی دستاویزات	6		قرآن مجید کا پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہونا	149
1018/1	قرض کے بعض ضروری مسائل	7	577/12		
724/11	قرض حسن کی شرائط	8		قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت	150
	اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض فرمانے کی توجیہ	9	454/12		
725/11				قرآن اور احادیث سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب	151
	قرامطہ	16	457/12		
272/2	قرامطہ کی تعریف	1		رسول اللہ ﷺ کا دوران وحی قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے عجلت کرنا	152
273/2	قرامطہ کے عقائد	2	411/12		
270/2	قرامطہ کا حجر اسود اکھاڑ کر لے جانا	3	340/12	حضور علیہ السلام کی تلاوت قرآن کا طریقہ	153
271/2	کعبہ کی بے حرمتی	4	339/12	ترتیل کا لغوی و اصطلاحی معنی	154
	قراءت خلف الامام	17	340/12	قرآن کی تلاوت کو خوش الحانی سے پڑھنا	155

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
935-938 9	قربانی کے حکم میں آئمہ مذاہب اربعہ کا نظریات	20	519/4	قراءت خلف الامام احناف کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے	1
938-939 9	قربانی کے دنوں کی تعیین و تحدید میں فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	21	519/4	قراءت خلف الامام کی ممانعت پر احادیث	2
				قربانی	18
940/9	قربانی کے منکرین کے شبہات کا ازالہ	22	737/7	مویشیوں کی قربانی کرنے کا طریقہ	1
941/9	قربانی کے جانور کا معیار	23	738/7	مسافروں اور حجاج پر قربانی	2
942/9	افضل قربانی کا بیان	24	738/7	قربانی کرنے کا وقت	3
942/9	قربانی کے گوشت کے احکام اور دیگر مسائل	25	739/7	قربانی کا گوشت خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا	4
943/9	قربانی کے اسرار و رموز	26	756/7	البدن کا معنی اور اس کا مصداق	5
258-261 11	محصر کے لیے قربانی کی جگہ کا تعیین	27	756/7	کیا البدن میں گائے شامل ہے؟	6
	قریش	19	757/7	اونٹوں کو نحر کرنے کا طریقہ	7
987/12	قریش کے فضائل	1	758/7	قربانی کی دعا کب پڑھی جائے؟	8
988/12	القریش کا الفیل کے ساتھ مربوط ہونا	2	760/7	قربانی کے جانوروں اور صدقہ فطر میں تنوع	9
988/12	قریش کو تجارتی سفر پر راغب کرنے کی توجیہ	3	237/7	قربانی کے عمل میں ریاکاری	10
988/12	قریش کی وجہ تسمیہ اور حضور ﷺ کا نسب	4	751/7	حدی کو حرم سے باہر ذبح کرنا	11
989/12	قریش پر انعام کا تقاضا	5	927/9	قربانی کے فضائل کے متعلق احادیث	12
	قریش کو کھانا کھلانے اور امن میں رکھنے کے اسباب	6	929/9	قربانی کے شرعی حکم سے متعلق احادیث	13
989/12				ایک جانور کی قربانی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟	14
	سورة القریش	20	929/9		
986/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1	931/9	قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمریں	15
987/12	سورة القریش کی تفسیر کا اختتام	2	931/9	قربانی کے جانوروں کے عیوب	16
	قرعہ اندازی	21	932/9	نماز عید پڑھنے سے قبل قربانی کرنا	17
	سفر میں بیوی کو ساتھ لے جانے کیلئے قرعہ اندازی کرنا	1	933/9	قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی کیفیت	18
87/8			934/9	قربانی کی کوئی چیز قصائی کو اجرت میں دینا	19

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
729/12	رات کی قسم کھانے کی وجوہ	19		قرض خواہ	22
475/12	جن پانچ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی	20		قرض خواہ اپنا حق مقروض کی لاعلمی میں بھی لے سکتا ہے	1
402/12	قسم سے پہلے حروف ”لا“ کے دو مجمل	21	620/10		
183/12	زیادہ قسم کھانے کی مذمت	22		قسم	23
110/12	قسم کی گرہ کھولنے کا طریقہ	23	790/1	قسم کا معنی، شرائط اور ارکان	1
	آیا رسول اللہ ﷺ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا یا نہیں؟	24		غیر اللہ کی قسم کھانا نیز مستقبل اور ماضی میں طلاق و عتاق کی قسم کھانا	2
110/12			791/1		
	قصہ	24	793/1	جھوٹی قسم کھانا	3
665/5	قصہ کا لغوی معنی	1	793/1	بلا قصد قسم	4
665/5	سورہ یوسف کو ”حسن القصص“ فرمانے کی وجوہ	2	794/1	بالقصد قسم	5
687/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں نشانیاں	3	794/1	قسم کی اقسام	6
	حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا احسن القصص ہونا	4	215/2	قسم توڑنا	7
683/5			216/2	قسم توڑنے والوں کی سزاء	8
	قصاص	25	565/6	قسم توڑنا	9
200/3	قصاص کے حکم کا شان نزول	1	166/8	منافقوں کی قسموں کا غیر معتبر ہونا	10
200/3	ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کرنا	2	309/8	غیر اللہ کی قسم کھانے کا ممنوع ہونا	11
201/3	اعضاء کے بدلے قصاص کی کیفیت	3	858/9	اللہ تعالیٰ کا من پسند فرشتوں کی قسم کھانا	12
202/3	بدلہ نہ لینے کی فضیلت	4	36/10	اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا	13
790/7	تلوار سے قصاص لینا	5	764/12	قسم اور جواب قسم	14
338/9	ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کرنا	6		نفس انسان کی قسم سے مراد انسان کامل محمد ﷺ کی قسم ہے	15
	قاتلین عثمان سے قصاص نہ لینے پر سید مودودی کا تبصرہ	7	766/12		
431/9			856/12	دن اور رات کی قسم کھانے کی توجیہات	16
	سورۃ القصص	26	872/12	شہر مکہ کی قسم کھانے کی توجیہ	17
765/8	سورۃ کا نام	1	968/12	زمانہ کی قسم کھانے کی وجوہ	18

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
574/11	سورۃ کا نام اور زمانہ نزول	1	765/8	سورۃ القصص کی سورۃ النحل سے مناسبت	2
574/11	واقعہ شق القمر کے متعلق احادیث	2	766/8	سورۃ القصص کے مشمولات	3
576/11	واقعہ شق القمر پر اعتراضات کے جوابات	3	767/8	سورۃ القصص کے اغراض	4
602/11	سورۃ القمر کا اختتام	4	770/8	سورۃ القصص کا خلاصہ	5
	قناعت	32	865/8	سورۃ القصص کے اختتامی کلمات	6
48/7	قناعت کی تعریف	1		قضاء	27
46/7	قناعت کے متعلق احادیث	2	666/2	قضاء علی الغائب کے متعلق احادیث	1
	دعائے قنوت	33	665/2	قضاء علی الغائب کے متعلق مذاہب ائمہ	2
360/2 450/9	قنوت کا معنی	1	703/2	قضاء کے آداب اور قاضی کا ظلم و عدل	3
360-362 2	قنوت کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	2		کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کی حجت پر استدلال	4
363/2	قنوت کے متعلق غیر مقلدین کا نظریہ	3	705/2		
	قوت	34	195/3	اہل ذمہ کے مابین فیصلہ	5
353/6	قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال	1	199/3	قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنا	6
561/12	قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال و فساد	2		قلب	28
528/12	قوت عملیہ کے تین شعبے	3	287/1	قلب کی تعریف	1
	قواعد فقہیہ	35		سورۃ القلم	29
330/1 125/4	اشیاء میں اباحت کا اصل ہونا	1	160/12	سورۃ کا نام	1
277/5 504/7	اشیاء میں اصل اباحت ہے	2	160/12	سورۃ القلم کے مشمولات	2
	قیاس	36	198/12	سورۃ القلم کا اختتام	3
733/2	قیاس کا حجت ہونا	1		نون اور قلم کے معانی اور ان کے متعلق احادیث	4
457/3	قیاس کی حجیت پر دلائل	2	164/12		
675/3	قیاس کی اصل	3		قمار	30
	قیاس کے حجت ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	4	209/2	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قمار کی وضاحت	1
363/5				سورۃ القمر	31

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
136/11	جنگی قیدیوں کو غلام بنانا	14	94/7	قیاس کرنے کا جواز	5
137/11	جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کے فوائد	15	552/10	مشروعیت قیاس پر دلائل	6
	قیام تعظیسی	38	551/10	نفی قیاس پر دلیل	7
864/5	قیام تعظیسی کی ممانعت کے متعلق احادیث	1		قیاس، فروع اور احکام میں جائز ہے جبکہ	8
864/5	قیام تعظیسی میں مذاہب فقہاء	2	564/10	اصول اور عقائد میں جائز نہیں	
866/5	آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا	3	68/11	قیاس کے ثبوت پر دلائل	9
621/12	مخلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی ممانعت	4		قیدی/ قیدی	37
621/12	قیام تعظیسی کی ممانعت کے محامل	5	623/2	جنگی قیدیوں کو غلام اور لونڈی بنانا	1
622-626	اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام کا	6	625/2	مالی فدیہ کے بدلے جنگی قیدی آزاد کرنا	2
12	استحسان			مسلمان قیدیوں کے بدلہ میں جنگی قیدی	3
	قیامت	39	626/2	آزاد کرنا	
173/1	یوم قیامت کی مقدار	1	627/2	جنگی قیدیوں کو احساناً آزاد کرنا	4
175/1	وقوع قیامت پر عقلی و شرعی دلائل	2		جنگی قیدیوں کو فدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے	5
433/3	منکرین قیامت کا خسارہ	3	678/4	میں مذاہب اربعہ	
696/3	قیامت سے قبل دس نشانیوں کا ظہور	4		جنگی قیدیوں کو فدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے	6
	روز قیامت کو ساعت اور اللہ سے ملاقات کا	5	679/4	کے متعلق احادیث	
433/3	دن فرمانے کی وجہ			موجودہ دور میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام	7
	قیامت کے دن رسولوں اور ان کی امتوں	6	682/4	بنانا	
43/4	سے سوالات		350/3	شک کی بناء پر ملزم یا متہم کو قید میں رکھنا	8
	قیامت کے دن مجرموں سے سوال کرنا یا نہ	7	351/3	مجرموں کو قید میں رکھنا	9
45/4	کرنا		351/3	نادہندہ مقروض کو قید میں رکھنا	10
441/4	وقوع قیامت کے وقت کو مخفی رکھنے کی حکمت	8	353/3	گواہ بنانے کیلئے بعد از نماز وقت کی خصوصیت	11
447/4	رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ اور علم روح وغیرہ	9	354/3	گواہ بنانے میں مقام کی خصوصیت	12
358/5	قیامت کے دن شرکاء کی مشرکین سے بیزاری	10	135/11	اسیران جنگ کے بارے میں اسلام کی ہدایات	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	قیامت کے دن نبی ﷺ کے نسب، نکاح اور سسرال کے رشتوں کے سوا تمام رشتوں کا منقطع ہونا	32	622/5	وقوع قیامت کی دلیل	11
908/7			219/6	وقوع قیامت پر عقلی دلیل	12
	قیامت کے دن دلوں اور آنکھوں کا الٹ پلٹ جانا	33	221/6	قیامت کے دن کفار کا کف افسوس ملنا	13
145/8			324/6	قیامت کے دن مسلمانوں سے سوال	14
	قیامت کے دن کی مومنوں پر طوالت	34	325/6	قیامت کے دن کفار سے سوال	15
233/8			544/6	قیامت کے دن بتوں اور مشرکوں کا مکالمہ	16
234/8	قیامت کے احوال	35		قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کسی صورت میں آنے کی توجیہ	17
757/8	قیامت کے دن پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا	36	544/6		
742/8	دآبۃ الارض کا محل خروج وغیرہ	37	587/6	قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کہنا	18
137/9	قیامت پر دلائل	38	656/6	قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانا	19
139/9	قیامت کے دن مشرکین کے احوال	39		ہر شخص قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ ہوگا	20
205/9	قیامت کے دن کفار کا جھوٹ بولنا	40	761/6		
	قیامت کے دن کفار کے ایمان لانے کا ثمر آور نہ ہونا	41	119/7	قیامت کے دن برہنہ حشر کرنا	21
328/9				حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنانا	22
569/9	رسول اللہ ﷺ کو قیامت کا علم تھا یا نہیں؟	42	120/7		
	علم قیامت کی نفی کے متعلق مفسرین کی توجیہات	43	120/7	قیامت کے دن اعمال نامہ	23
571/9			277/7	روز قیامت کے مشاہدہ کا عظیم ہونا	24
597/9	وقوع قیامت پر دلائل	44	278/7	روز قیامت کا یوم حسرت ہونا	25
	قیامت کے دن متکبر اور پس ماندہ کافروں کا مناظرہ	45	279/7	اس دن کا مصداق جب فیصلہ ہو چکا ہوگا	26
629/9			356/7	وقوع قیامت پر دلیل	27
783/9	قیامت کا اچانک آنا	46	435/7	قیامت کے وقوع پر کفار کا شبہ	28
	قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعضاء ان کی نیکیاں بیان کریں گے	47	437/7	قیامت کے دن پکارنے والے	29
817/9			667/7	قیامت کا خوف و دہشت	30
	قیامت کے دن مجرموں کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے	48	907/7	قیامت کے رشتوں کا ختم ہونا	31
818/9					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
726/11	قیامت کے دن منافقوں اور مؤمنوں کا معاملہ	66	819/9	مجرموں کے مونہوں پر مہر لگانے کی توجیہ	49
651/11	قیامت کا واقع ہونا اور اس کا جھوٹ نہ ہونا	67	871/9	مشرکین کا انکار قیامت پر اصرار کرنا	50
624/11	روز قیامت کی ہولناکیاں	68	249/10	قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھگڑنے والے	51
581/11	قیامت کے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کا صور پھونکنا	69	287/10	قیامت کے دن فساق کی اپنی اعمالیوں پر ندامت	52
325/11	قیامت کے دن کفار اور شیطان سے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کا کلام	70	301/10	قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت	53
439/11	قیامت کی کیفیات	71	301/10	قیامت کے دن مؤمنوں کے ثواب کی کیفیت	54
567/11	قیامت کے دن انسان کے گذشتہ اعمال دکھانے کی توجیہ	72	296/10	قیامت کے دن سب سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے امور	55
950/12	قیامت کے دن لوگوں کے احوال	73	336/10	قیامت کے دن لوگوں کی مستور چیزوں کو ظاہر کرنا	56
951/12	قیامت کے دن پہاڑوں کے احوال	74	337/10	قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی	57
737/12	قیامت کے دن کفار و فساق فجار کا کف افسوس ملنا	75	573/10	حضور ﷺ کا ایک حکمت کی وجہ سے وقوع قیامت کی خبر نہ دینا	58
737/12	قیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی توجیہات	76	775/10	قیامت کے دن کو فیصلہ کا دن فرمانے کی توجیہات	59
707/12	قیامت کے دن کو الغاشیہ فرمانے کی وجوہ	77	817/10	قیامت کے وقوع پر دلیل	60
620/12	قیامت کے دن کی گرمی کی شدت سے پسینہ آنا	78	819/10	قیامت کے دن کون کون گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے؟	61
628/12	قیامت کے دن کافروں کا اپنے رب کے دیدار سے محروم رہنا	79	824/10	قیامت کے متعلق کفار کے دو گروہ	62
627/12	روز جزاء کی تکذیب کرنے والے	80	916/11	قیامت کے دن کو عدم التغبان فرمانے کی وجہ	63
606/12	قیامت کے احوال و آثار کے ذکر سے مقصود	81	725/11	قیامت کے دن مومنوں کے نور کی مختلف مقدار	64
610/12	روز جزاء کی تکذیب کے محامل	82	726/11	قیامت کے دن منافقین کا جنت کے راستہ سے محروم ہونا	65

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
88/9	کائنات کی ہر چیز کا برحق ہونا	1	613/12	روز جزاء کے ادراک کی نفی کا محمل	83
	کاہن	2	581/12	قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم	84
861/9	کاہنوں کی اقسام	1	550/12	قیامت کے احوال	85
	کاہن کی تعریف اور اس کے پاس جانے کا شرعی حکم	2	537/12	روز قیامت کے حق ہونے کی توجیہ	86
861/9				کفار قریش کو قیامت کی دن کے عذاب سے ڈرانا	87
44/11	کاہن کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	3	478/12		
	سورۃ الکافرون	3	435/12	قیامت کے احوال کو شر کہنے کی توجیہ	88
1011/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	457/12	قیامت کے دن کو پس پشت ڈالنے کی توجیہ	89
1012/12	قل یا ایہا الکافرون کا شان نزول	2		قیامت کے دن بندہ کے نیک اعمال ملنے کے متعلق احادیث	90
1013/12	یا ایہا الکافرون سے پہلے قل لانا	3	409/12		
1016/12	سورۃ الکافرون کی آیات میں تکرار کا جواب	4	404/12	قیامت اور نفس لواہ کی مناسبت	91
1016/12	لکم دینکم ولی دین کے محال	5	406/12	قیامت کی تکذیب کرنا	92
1016/12	سورۃ الکافرون کی تکمیل	6	422-423 12	وقوع قیامت کی دلیل	93
	کامیابی	4	351/12	قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی توجیہ	94
823/10	حقیقی کامیابی کا مصداق	1	204/12	قیامت کو الحاقہ فرمانے کی وجوہ	95
	کبوتر بازی	5	207/12	قیامت کے وقوع کی علامات	96
382/8	کبوتر بازی کے متعلق احادیث	1	225/12	قیامت کے دن کی مقدار	97
385/8	کبوتر بازی کے متعلق فقہاء کی تصریحات	2	298/12	حضور ﷺ کو وقوع قیامت کا علم	98
	کتا	6		سورۃ القیامہ	40
70/7	کتوں کو رکھنے کا شرعی حکم	1	399/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	کتاب	7	399/12	سورۃ القیامہ کے مشمولات	2
240/1	کتاب کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	424/12	سورۃ القیامہ کا اختتام	3
550/1	کتاب و حکمت کی تعلیم و تزکیہ نفس	2			
418/10	کتب آسمانی کی تعداد کی تحقیق	3			
				کائنات	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	کراما کا تبین کا قضاء حاجت اور جماع کے	8	741/11	کتاب کا معنی	4
611/12	وقت انسان سے الگ ہو جانا		702/12	کتابوں کی تعداد کی تحقیق	5
	کسب	11		کذب	8
1028/1	کسب و کتاب کا معنی	1		دیکھئے "30: جھوٹ" صفحہ 107	1
1028/1	شکر و کتاب کے ساتھ مخصوص کرنا	2		کرامت	9
268/7	معاش کے حصول کے لیے کسب کرنا ضروری ہے	3	434/5	کرامت کی تعریف اور خلاف عادت کاموں کی اقسام	1
	کعبہ	12		اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات	2
545/1	تعمیر کعبہ کی تاریخ	1	435/5	اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث صحیحہ	3
567/1	کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار	2		کرامت کے اختیاری ہونے میں علماء کی تصریحات	4
569/1	کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا	3	437/5	کرامت کی تعریف	5
257/2	کعبہ کا بیت اول ہونا	4		علامہ زمخشری کا کرامات اولیاء کا انکار کرنا	6
259/2	تعمیر کعبہ کی تاریخ	5	437/5	کراما کا تبین	10
261/2	کعبہ کے فضائل	6	693/8	کراما کا تبین کی تعریف اور ان کے فرائض	1
265/2	بیت اللہ کے اسماء	7	305/12	کراما کا تبین کے متعلق قرآنی آیت	2
266/2	کعبہ کی برکت و ہدایت کا معنی	8		کراما کا تبین کے وظائف	3
267/2	کعبہ اور مقام ابراہیم کی نشانیاں	9	505/3	آیا دل کی باتوں کو کراما کا تبین لکھتے ہیں یا نہیں؟	4
271/2	کعبہ کی بے حرمتی کرنا	10	505/3		
102/4	تعمیر کعبہ کے وقت تہبند اتار کر کندھے پر رکھنے کی روایت کی تحقیق	11	506/3		
	کفر/ کفار	13	507/3		
304/1	کفار کا فروع کا مکلف ہونا	1	509/3	اعمال کو لکھوانے کی حکمتیں	5
279/1	کفر کے معانی	2	322/11	کراما کا تبین کا صحیفہ اعمال میں دیکھنا	6
620/1	کفار کے عذاب میں تخفیف و عدم تخفیف	3	611/12	کراما کا تبین کے اعمال بنی آدم لکھنے کی تفصیل	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
748/2	کفار کے ساتھ دوستی	26	938/1	کفار کو نور سے نکالنا	4
829/2	کفر پر راضی ہونا	27	939/1	کفار کی ظلمت کی مثال	5
836/2	کفار کے نابالغ بچوں پر عذاب	28	227/2	کفر ملت واحدہ ہے	6
830/2	کفار کا مسلمانوں پر غلبہ	29	103-106/2	کفار سے دوستی کی ممانعت	7
148/3	کفر اور فسق کی وجوہات	30	107/2	کفار سے مواسات	8
176/3	کیا اللہ نے کافر کے کفر کا ارادہ کیا تھا؟	31	108/2	کفار سے مجرد معاملہ	9
212-213 3	کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت	32	203/2	کفار کی نیکیوں کا مقبول یا مردود ہونا	10
224/3	ملکی و جنگی معاملات میں کفار سے خدمت	33	244/2	کفار کی اقسام	11
393/3	کفار احسان فراموش ہیں	34	322/2	آخرت میں کفار کے اعمال کا ضائع ہونا	12
396/3	کفر باللہ اور کفر بالرسول	35	324/2	کفار کو راز دار بنانا	13
400/3	کفار کے انکار کا حقیقی سبب	36	326/2	مسلمانوں کا کفار سے محبت کرنا	14
418/3	کفار کے اخروی نقصان کا معنی	37	326/2	مسلمانوں کے خلاف کفار کا غیظ و غضب	15
423/3	کفار کے کانوں پر ڈاٹ لگانا	38		متمنی مسلمانوں کا کفار کی سازشوں سے محفوظ رہنا	16
430/3	قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت	39	327/2		
448/3	کفار کو مردہ کہنے کی حکمت	40	328/2	غیر مسلموں سے دینی و دنیوی کام لینا	17
449/3	کفار کی مطلوبہ نشانیاں نازل نہ کرنے کا سبب	41	355/2	کفار پر لعنت	18
	کافروں کے عمومی عذاب میں مومن شامل ہوں گے یا نہیں؟	42	367/2	کفار کے لیے دوزخ کا تیار کیا جانا	19
470/3			400/2	دینی معاملات میں کفار کی اطاعت	20
484/3	کافروں کو ڈرانے کا محمل	43	475/2	دنیا میں کفار کی خوشحالی	21
	کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ کرنا	44	478/2	کفار کو گناہوں کے لیے ڈھیل دینا	22
495/3				کفار کی زیادتیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا	23
626/3	کفار کے دلوں کو پھیرنا	45	507/2		
644/3	کافر کے مردہ ہونے کی مثال	46	528/2	کفار کے لیے دنیا میں عیش	24
645/3	کفار کو مقتدر بنانے کی حکمت	47	676/2	قیامت کے دن کفار کے مختلف احوال	25

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	کفر کا غلبہ فقط عرب سے یا مکمل دنیا سے ختم کرنا مقصود ہے	68	137/4	کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولنا	48
636/4			140/4	کفار کی جنتوں کا مسلمانوں کو وراثت میں ملنا	49
657/4	کفار مکہ نے اللہ کی جن نعمتوں کی ناشکری کی	69	147/4	کفار کو دوزخ میں کھانے پینے سے محروم رکھنا	50
79/5	کفر کے علمبرداروں کا مصداق	70	150/4	کفار کا اخروی خسارہ	51
	کفار سے محبت کا تعلق رکھنا منع ہے جبکہ بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں	71	188/4	کافروں کی مثال	52
100/5			232/4	رنج و راحت کے نزول میں کفار کے احوال	53
156/5	زمانہ کفر میں کی ہوئی نیکیوں پر اجر و ثواب	72	235/4	کفار مکہ پر عذاب نہ بھیجنے کی وجہ	54
	زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز	73	236/4	کفار مکہ کے دلوں پر مہر لگانے کی توجیہ	55
274/5				سابقہ امتوں کے عذاب سے کفار مکہ کا سبق حاصل نہ کرنا	56
334/5	کافر کے سُرف ہونے کی وجوہ	74	236/4		
370/5	کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی ﷺ کو تسلی	75	318/4	کفار کے دلوں کو پھیرنے کی توجیہ	57
449/5	کفار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل	76	332/4	کفار کی نیکیوں کا ضائع ہونا	58
454/5	کفار کے دلوں پر مہر لگانے کی توجیہ	77	424/4	کفار کا جانوروں سے زیادہ گمراہ ہونا	59
481/5	کفر کا فطرت کے خلاف ہونا	78	437/4	جاہل کفار کا حضور ﷺ کو مجنوں کہنا	60
494/5	کفار کی دنیا میں خوشحالی	79	440/4	کفار کو گمراہی پر پیدا کرنے کا معنی	61
508/5	کفار کا مصیبت میں مایوس ہونا اور راحت میں ناشکری کرنا	80	512/4	کفار کے فرمائشی معجزات نہ دکھانے کی وجہ	62
	قیامت کے دن کفار کے خلاف گواہی دینے والوں کے مصداق	81		بعض صحابہ کے نزدیک لشکر کفار سے مقابلہ کا ناگوار ہونا	63
517/5			554/4		
518/5	کفار مکہ کی چودہ وجوہ سے مذمت	82		ابوسفیان کے قافلہ تجارت پر حملہ کو بعض صحابہ کے ترجیح دینے کا بیان	64
519/5	کفار کو دو گنا عذاب	83	556/4		
	جب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان سے گرفت کیوں ہوئی؟	84	622/4	کفار قریش کا حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنا	65
519/5			623/4	کفار کی سازش کا ناکام ہونا	66
			626/4	کفار کا استغفار	67

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
103/6 171/6 412/6 414/6	جب کفار کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تو ان کی مذمت کی وجہ	101	534/5	جب اللہ تعالیٰ کفار کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے تو پھر گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟	85
103/6	کافروں اور مسلمانوں کے مصائب کا فرق	102	620/5	کفار کو عذاب دینا عدل اور حکمت کا تقاضا ہے	86
117/6	کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نازل نہ ہوا؟	103	630/5	کفار کے عذاب کو آسمان و زمین کے قیام پر موقوف کرنا	87
159/6	کفار کے شبہات کے جوابات	104	631-634 5	کفار کے دائمی عذاب پر دلائل	88
169/6	کفار کے اعمال کی راکھ کے ساتھ وجہ مشابہت	105	637/5	توحید و رسالت کا انکار کفار کی پرانی روش ہے	89
221/6	کفار کا قیامت کے دن کف افسوس ملنا	106	44/6	کفار کا رحمت اور ثواب کے بجائے عتاب اور عذاب کو طلب کرنا	90
222/6	کفار کا مکر	107	237/6	گنہگار مسلمانوں کو دوزخ سے نکلتا ہوا دیکھ کر کفار کی حسرت و ندامت	91
325/6	کفار سے قیامت کے دن سوال	108	242/6	کفار مکہ کو زجر و توبیح	92
478/6	کفار کے مختلف نظریات کا بطلان	109	248/6	کفار کے دلوں میں نبیوں کا استہزاء پیدا کرنے کی بحث	93
546/6	دوسروں کو کافر بنانا	110	249/6	کفار کے انکار اور استہزاء کی وجوہات	94
729/6	کفار کی آنکھوں اور دلوں پر پردہ ڈالنا	111	251/6	کفار مکہ کے مطالبہ پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ	95
763/6	کفار کا دنیا و آخرت میں اندھا ہونا	112	76/6	کفر اور ایمان کی پانی اور جھاگ سے تشبیہ	96
765/6	کفار کی فرمائشوں کے متعلق اقوال	113	77/6 543/6	کفار کے اخروی احوال	97
803/6	کفار کا قیامت کے دن سر کے بل چلنا	114	89/6	کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا	98
107/7	کفار کا اپنے مال پر فخر کرنا	115	90/6	دنیا میں کفار کی خوشحالی کی وجوہ	99
117/7	کفار کے قیامت کے دن پیش ہونے کی حالتیں	116		کفار کے فرمائشی معجزات نازل نہ کرنے کا سبب	100
139/7	گذشتہ کفار اقوام کے متعلق اللہ کا دستور	117	98/6		
140/7	جن برے کاموں کی وجہ سے کفار پر عذاب ہوا	118			
286/7	کفار کے لیے مغفرت کی دعا	119			
306/7	قیامت کے دن کفار کے حشر کی کیفیت	120			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
452/8	کفار مکہ کا عناد اور ہٹ دھرمی	142	311/7	کفار کے مقام کا زیادہ برا ہونا	121
554/8	جب کفریہ کاموں کو اللہ نے مزین کیا ہے تو پھر ان کی مذمت کیوں؟	143	317/7	ان کفار کی مذمت جنہوں نے رحمان کیلئے بیٹا گھڑ لیا	122
586/8	کفار کو تنبیہ	144	495/7 497/7	کفار کی زندگی تنگ	123
836/8	کفار کا لغو اور بے ہودہ باتیں کرنا	145	496/7	کفار دنیا میں عیش و عشرت سے ہیں	124
845/8	کفار کے ایک شبہ کے جوابات	146	522/7	کفار کے فرمائی معجزات نہ بھیجنے کی وجوہ	125
848/8	کافر اور مومن کی دنیا و آخرت میں تقابل	147		”کفار حیات بعد الممات کے قائل نہیں“ پر اعتراض	126
192/9	راحت اور مصیبت میں کفار کے احوال	148	530/7		
205/9	کفار کا قیامت کے دن جھوٹ بولنا	149	589/7	دنیا میں کفار کی حفاظت	127
205/9	کفار کے مطلوبہ معجزات نہ دینے کی وجوہ	150	590/7	کفار پر زمین کے کناروں کا تنگ ہونا	128
235/9	کفار کی سزا کا ذکر	151	718/7	کفار کا ضرر پہنچانا اور نہ پہنچانا	129
347/9	کفار کے فیصلہ کے دن سے مراد	152	719/7	کافروں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزاء	130
	کفار کو اللہ تعالیٰ کا غزوہ خندق سے بے نسل	153	761/7	کفار کو قتل کرنے کی ممانعت	131
409/9	مرا م لوٹانا		762/7	کفار سے درگزر کرنا	132
509/9	کفار سے درگزر کرنے کے حکم کا منسوخ ہونا	154	882/7	کفار کو ان کے کفر کے باوجود نعمتیں عطا کرنا	133
628/9	کفار سے کیا ہوا معین وقت کا وعدہ	155		کفار کے کثرت اور ان پر نزول عذاب کی کیفیت	134
	کفار کے گھبرانے اور ان کی جائے فرار نہ ہونے کی متعدد تفاسیر	156	884/7		
643/9			900/7	کفار کا عذاب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دکھانا	135
644/9	روز حشر کفار کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	157	147/8	کفار کے اعمال بے فائدہ ہیں	136
644/9	روز حشر کفار کی خواہشات	158	244/8	کفار سے سننے اور عقل کی نفی	137
664/9	کفار کے مکر کا بیان	159	245/8	کفار کا چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہونا	138
695/9	کفار کو دائمی عذاب دینے کی وجہ	160	248/8	کفر کے اندھیروں کا ختم ہونا	139
696/9	کفار کے نقصان اٹھانے کے محامل	161	288/8	کفار کا ایمان نہ لانا	140
718/9	کفار کی گردنوں میں طوق ڈالنے کا محمل	162	289/8	کفار کا بتدریج سرکشی میں بڑھنا	141

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
656/10	کفار مکہ کی شقاوت اور ایذا رسانی	183	724/9	کفار کو ڈرانا یا نہ ڈرانا	163
732/10	کفار کو سلام کرنے کا مسئلہ	184	746/9	کافروں کے خلاف فرشتوں کو نازل کرنا	164
761/10	کفار کا اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا محض ان کا مشغلہ اور ذل لگی ہے	185	783/9	کفار قیامت کی خبر کو وعدہ کیوں کہتے تھے؟	165
772/10	کفار کے مطالبہ پر ان کے باپ دادا کو زندہ نہ کرنے کی وجہ	186	790/9	کفار کا اپنی قبروں کو خواب گاہوں سے تعبیر کرنا	166
782/10	کفار مکہ کے انتظار اور حضور ﷺ کے انتظار کے الگ الگ محمل	187	791/9	کفار کا اللہ کا ذکر رحمن کے نام سے کرنا	167
807/10	کفار کی زندگی اور موت کا مسلمانوں کے برابر نہ ہونا	188	880/9	کافر پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کا آخرت میں مکالمہ	168
812/10	کفار کے کان اور دل پر مہر لگانے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی توجیہ	189	881/9	کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وعیدات	169
814/10	کفار کے نقل کردہ قول پر ایک اعتراض کا جواب	190	38/10	کفار کا تکبر کرنا	170
816/10	کفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بلا دلیل انکار کرتے ہیں	191	39/10	کفار کا ابوطالب سے شکایت اور حضور ﷺ کا جواب	171
816/10	حشر و نشر کے انکار پر کفار کی حجت کا جواب	192	40/10	کفار کا اپنے بتوں کی عبادت پر صبر کرنے کا محمل	172
819/10	کفار کا خسارہ	193	130/10	طائفین سے مراد کفار ہیں نہ کہ اصحاب کبار	173
125/11	اللہ کی راہ سے روکنے والے کفار	194	131/10	دوزخ میں کفار اور ان کے پیروکاروں کا مناظرہ	174
140/11	کفار کے اعمال ضائع کرنے کی وجہ	195	204-206 10	کفار کا نقصان زدہ ہونا	175
146/11	کفار کا آخرت میں عذاب	196	263/10	کفار کا دھمکیاں دینا	176
914/11	کفار کے پیدا کرنے میں حکمت	197	382/10	کفار کے اعذار کا قبول نہ ہونا	177
776/11	کفار کی دنیا و آخرت میں رسوائی	198	433/10	کفار کے دلوں پر پردوں اور کانوں میں ڈاٹ کا سبب	178
793/11	کفار پر مسلمانوں کے غلبہ سے مراد	199	438/10	آیا کفار فروع کے مخاطب ہیں یا نہیں؟	179
793/11	کفار سے ان کے دین کی وجہ سے محبت کرنا	200	477/10	کفار کے جرائم اور ان کی سزا	180
			632/10	کفار قیامت کے دن بینے ہوں گے یا نابینے؟	181
			633/10	انسان کے کفر کا سبب	182

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
530/12	کفار سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توجیہ	219		کفار کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ	201
	کافر کے قول ”کاش! میں مٹی ہو جاتا“ کے متعلق روایات	220	845/11		
538/12			846/11	کفار کے لیے آزمائش کا معنی	202
<u>478-481</u> 12	کفار قریش کو عذاب سے ڈرانا	221	665/11	کفار کے لیے وعیدیں	203
	متعدد وجوہ سے کفار کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا	222	704/11	کفار کے لیے آخرت میں عذاب کی مہمانی	204
483/12			625/11	کفار کے جہنم میں گھومنے کی کیفیت	205
<u>484-487</u> 12	کفار کا قیامت کے دن باتیں کرنا یا نہ کرنا	223	360/11	ازل میں کفار کو ایمان سے پھیر دینے کی توجیہ	206
487/12	کفار کا اللہ کے سامنے مکر کرنے سے عاجز ہونا	224		حضور ﷺ سے اعراض کرنے کی وجہ سے	207
496/12	کفار کا نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا	225	461/11	کفار کی مذمت	
496/12	کفار کو نماز نہ پڑھنے پر عذاب سے ڈرانا	226	462/11	کفار کو ان کے مال پر چھوڑنے کے حکم کی توجیہ	208
497/12	کفار کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی متعدد تفاسیر	227	515/11	کفار کی تمناؤں کا پورا نہ ہونا	209
433/12	عبداللہ کا لفظ کفار کو شامل نہیں ہے	228		کفار کے باطل عقائد پر ظن کے اطلاق کی توجیہ	210
459/12	کفار کو فنا کر کے دوسری قوم کو پیدا کرنا	229	518/11		
383/12	کفار کا قرآن کو اللہ کا کلام نہ ماننا	230		کفار کی بد عقیدگی کو ان کا مبلغ علم قرار دینے کی توجیہ	211
182/12	کفار کی اپنی مہم میں ناکامی	231	520/11		
222/12	کفار کا عذاب قیامت کو طلب کرنا	232	758/12	کفار کے لیے عذاب کی وعید	212
286/12	کفار اور فجار کو ڈھیل دینا	233		کفار اہل کتاب کے عذاب کو مشرکین کے عذاب پر مقدم کرنے کی توجیہ	213
	کفارہ	14	911/12		
255/10	کفارہ کا معنی	1	157/12	کفار کے انکار عذاب کا بطلان	214
	اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ﷺ کی قسم کا کفارہ ادا کرنا	2	164/12	کفار کا رسول اللہ ﷺ کو مجنون کہنا	215
104/12				کفار کا دنیا کی خوشحالی کے بعد آخرت کی تنگی کی طرف لوٹنا	216
	کفریہ کلمات	15	637/12		
580/6	جان کے خوف سے کلمہ کفر کہنا	1	583/12	کفار کے چہروں کی آخرت میں کیفیات	217
289/10	کفریہ محاورے	2	<u>564-565</u> 12	کفار کا وقوع قیامت کا سوال کرنا	218

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
280/1	اللہ کے کلام کے قدیم ہونے پر اعتراض اور اس کا جواب	1	655/12	جان جانے کے خطرہ کے باوجود کلمہ کفر نہ کہنا	3
349/7	کلام الہی کے قدیم ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	2	656/12	جان جانے کے خطرہ سے کلمہ کفر کہنا	4
567/8	اللہ کا کلام سننا	3	308/11	کفو	16
567-570 8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا کلام سننا	4		اسلام اور اخلاق کی بناء پر رشتہ دینے کا حکم	1
803/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام اللہ سننے کی کیفیت	5	621/1	کلمہ طیبہ	17
805-809/8	شب معراج ہمارے نبی ﷺ کا اللہ سے ہم کلام ہونا	6	415/7	لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت	1
805/8	قیامت کے دن اللہ رب العزت کا مشرکین سے بطور زجر و توبیخ کلام فرمانا	7	342/7	ناپاک کلمہ اور ناپاک درخت کا مصداق اور وجہ مشابہت	2
809/8	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر دلائل	8	181/6	کلمہ پڑھنے سے پہلے عقائد کفریہ سے اظہار برأت	3
601/9	اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں	9	342/11	لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت	4
635/10	اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام ہونا	10	344/7	صرف کلمہ پڑھنے سے نجات	5
641-647 10	اللہ تعالیٰ کے دعائیہ کلام کی توجیہ	11	758/8	لا الہ الا اللہ کا سب سے بڑی نیکی ہونا	6
360/11	اللہ تعالیٰ کی خبر کے برحق ہونے کو انسان کے کلام کے برحق ہونے سے تشبیہ کی وجوہ	12	342/11	کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب	7
376/11	کم عقل	21		کلمہ حق	18
5080/2	کم عقل کو مال نہ دینا	1	96/2	ظالم حکام کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا	1
	کن فیکون	22	96/2	مصیبت سے بچنے کے لیے کلمہ حق نہ کہنا	2
511/1	کن فیکون کی تحقیق	1	661/9	الکلم الطیب کی تفسیر	3
			662/9	کلمات طیبہ کے پڑھنے کی توجیہات	4
			663/9	کلام طیب کی وجہ سے نیک عمل کا اوپر چڑھنا	5
				کلامہ	19
				دیکھئے "13: وراثت" صفحہ 278	1
				کلام باری تعالیٰ	20

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
607/3	کھجور کے خواص	2	416/6	کن فیکون پر ایک اعتراض کا جواب	2
178/6	شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے	3		کن فیکون پر خطاب بالمعدوم اور تحصیل	3
179/6	کھجور کے درخت اور مومن میں وجوہ مشابہت	4	851/9	حاصل کے اعتراض کا جواب	
263-266	کھجوروں میں پیوند کاری کی ممانعت کی	5		سورۃ الکوثر	23
6	احادیث		997/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
862/7	کھجور کے غذائی اور طبی فوائد	6	997/12	سورۃ الکوثر کا مکی یا مدنی ہونا	2
	سورۃ الکہف	28	998/12	سورۃ الکوثر کی سورۃ الماعون سے مناسبت	3
33/7	سورۃ الکہف کا زمانہ نزول	1		سورۃ الکوثر کا اس سے پہلی سورتوں کیلئے تتر	4
34/7	سورۃ الکہف کا سبب نزول	2	999/12	ہونا	
	روح کے سوال کو بنی اسرائیل میں اور بقیہ	3	1001/12	سورۃ الکوثر کا بعد کی سورتوں کے لیے مقدمہ ہونا	5
34/7	دو سوالوں کو الکہف میں ذکر کرنے کی توجیہ		1010/12	سورۃ الکوثر کی تفسیر کی تکمیل	6
35/7	سورۃ الکہف کے متعلق احادیث	4	1003/12	”انا“ اور ”اعطاء“ کے فوائد و نکات	7
36/7	سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف میں مناسبت	5	1004/12	لفظ کوثر کی تفسیر	8
37/7	سورۃ الکہف کے مشمولات	6		کوڑے	24
40/7	سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کا ارتباط	7	58/8 72/8	کوڑے مارنے کے مسائل و فقہی احکام	1
238/7	اختتامی کلمات	8		کھیل	25
	گ		306/3	کھیل اور ورزش کا شرعی حکم	1
	گدھا	1	308/3	کرکٹ میچ کا شرعی حکم	2
269/9	گدھے کی آواز کی مذمت	1	442/3	کھیل اور ورزش کے متعلق اسلامی احکام	3
	گداگری	2		کھانا کھانے کے آداب	26
650/1 972/1	سوال کرنے کی جائز حد	1		دیکھئے ”7: طعام“ صفحہ 168	1
662/1	سائلمین کو دینا	2		کھجور	27
971/1	گداگری کی مذمت اور سوال نہ کرنا	3		کھجور کے فضائل اور اس کا مومن کی صفت	1
972/1	مسجد میں سائل کو دینا	4	605/3	پر مشتمل ہونا	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
477/11	ضلال کے معانی	10		گرفت	3
478/11	انبیاء کی طرف ضلال کی نسبت کرنا	11	701/9	اللہ تعالیٰ کا بتدریج گرفت فرمانا	1
	اللہ کی طرف ضلال کی نسبت کرنے کے دو معانی	12		گروی رکھنا	4
479/11				دیکھئے ”29: رہن (گروی رکھنا)“ صفحہ 138	1
	گمان	7		گستاخ رسول ﷺ	5
	دیکھئے ”13: بدگمانی“ صفحہ 82	1		رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا شرعی حکم	1
	گنبد خضریٰ	8	283/4		
716/2	گنبد خضرا کی زیارت کے لیے سفر کرنا	1		احادیث و آثار میں غیر مسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کی تصریح	2
	گناہ	9	385/4		
628/1	گناہ کا معنی	1		غیر مسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کی تصریحات	3
	گناہ کے ارتکاب پر مواخذہ اور فقط ارادہ پر عدم مواخذہ	2	386/4		
848/1			551/9	اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات	4
99/2	مرکب کبیرہ کا بلا توبہ فوت ہونا	3	552/9	رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخانہ کلمات	5
375/2	گناہ پر نادم ہونا	4		گمراہ / گمراہی	6
378/2	گناہ پر اصرار کا معنی	5	634/3	عقیدہ اور عمل کی گمراہی	1
523/2	گناہ بخشنے میں تکرار	6	418/4	گمراہی کا اللہ کی طرف سے ہونے کا معنی	2
610/2	جہالت سے گناہ کرنے پر مقبولیت توبہ	7	135/6	بہت دور کی گمراہی کا معنی	3
646/2	صغیرہ اور کبیرہ گناہ	8	564/6	اللہ کا بعض بندوں کو گمراہ کرنا	4
649/2	اصرار سے صغیرہ کا کبیرہ ہونا	9	718/7	بہت دور کی گمراہی	5
808/2	گناہگاروں کے لیے نوید مغفرت	10	641-643	حضور ﷺ کی طرف گمراہی کی نسبت کی تحقیق	6
806/2	ہر گناہ پر سزا	11	9		
	گناہوں کے باوجود نعمتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے	12	964/9	کسی کو گمراہ کرنے کی قدرت	7
468/3			631/10	گمراہی کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے	8
491/3	جہالت کی وجہ سے گناہوں کی معافی	13		بعض بندوں کو رسول اور بعض کو گمراہ بنانے کی توجیہ	9
638/3	ظاہری اور پوشیدہ گناہ کی ممانعت	14	811/10		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
121/7	گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے متعلق مذاہب	32	638/3	اٹم کا معنی و تعریف	15
121/7	گناہوں کی صفائے اور کبار میں تقسیم	33	639/3	دل کے افعال پر مواخذہ	16
123/7	گناہ کبیرہ کی تعداد	34	128/4	تمام گناہوں کی اصل	17
124/7	گناہ کبیرہ کی تعریفات	35	132/4	گناہگار مسلمانوں کے لیے دائمی عذاب	18
301/7	گناہ کبیرہ کے مرتکب کی مغفرت	36		گناہوں پر اصرار کے ساتھ اجر و ثواب کی	19
411/7	بندہ کا بہت زیادہ گناہ کرنا	37	406/4	طمع کی مذمت	
413/7	توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کرنا	38	509/4	گناہوں کو ترک کرنے کا طریقہ	20
274/8	اللہ کا گناہوں کے بدلہ میں نیکیاں عطا فرمانا	39		کبیرہ گناہوں کے اجتناب سے صغیرہ کا	21
	ذنب کا ترجمہ گناہ کرنے کے متعلق علامہ	40	620/4	معاف ہونا	
348/8	غلام رسول سعیدی صاحب مدظلہ کا موقف		620/4	مومنوں اور کافروں کا دنیا و آخرت میں فرق	22
	قرآن میں مذکور حضور ﷺ کے ذنب کا	41	630/4	ایمان لانے سے سابقہ گناہوں کی معافی	23
474/8	ترجمہ گناہ کرنا		632/4	کافر کے سابقہ گناہ بخشنے میں اللہ کا لطف و کرم	24
583/8	عوام اور خواص کے معاصی کا فرق	42		اپنے گناہوں کو چھپانا واجب ہے اور ظاہر	25
	لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے	43	483/5	کرنا حرام ہے	
49/9	گناہوں کا بوجھ اٹھانا			پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کا معاف	26
	گناہ کے سبب بننے والے پر گناہ کا بوجھ ڈال	44	648/5	ہونا	
50/9	دیا جائے گا		649/5	نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں یا کبیرہ؟	27
701/9	بنو آدم کے گناہوں سے جانوروں کو ہلاک کرنا	45	750/5	اللہ کی عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں	28
806-809 9	کیا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہیں؟	46		اللہ تعالیٰ کا توبہ اور بغیر توبہ کے گناہوں کو	29
611/10	اٹم، کبیرہ اور فحش کا معنی	47	155/6	بخش دینا	
612/10	چند گناہ کبیرہ کا بیان	48		اس اشکال کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ ابلیس کو	30
661/11	لغو اور گناہ کی باتیں	49		گمراہ کرنے کیلئے طویل عمر نہ دیتا تو لوگ	
	گناہ کا سبب دنیا سے محبت اور آخرت سے	50	279/6	گناہ نہ کرتے	
404/11	غفلت ہے		324/6	گناہگار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال	31

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
89/4	لباس کی نعمت پر شکر ادا کرنا	1	523/11	گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تعریفات	51
116/4	لباس پہننے وقت کی دعا	2	895/12	گناہ میں اضافہ	52
116/4	لباس کی انواع و اقسام	3	608/12	اللہ تعالیٰ کا فوراً گناہوں پر سزا نہ دینا	53
117/4	لباس کے رنگ	4	247/12	بعض گناہوں کی معافی	54
118/4	اجلا، صاف اور عمدہ لباس	5		گوشت	10
119/4	قیمتی اور معمولی لباس پہننا	6	369/6	مچھلی پر گوشت کا اطلاق	1
121/4	لباس پہننے کے شرعی احکام	7	372/6	گوشت کو کمی اور زیادتی کے ساتھ بیچنا	2
355/6	اون کا لباس پہننا	8		گوہ	11
270/8	اچھا لباس پہننا	9	139/6	گوہ کا کلمہ شہادت پڑھنا	1
	کیا ایک سے زائد لباس رکھنا سرفشی اور بغاوت ہے؟	10		گواہی دینا	12
594/10				دیکھئے "29: شہادت" صفحہ 156	1
594/10	ایک سے زائد لباس رکھنے کا ثبوت	11			
510/12	لباس کا معنی اور ررات کو لباس فرمانے کی وجہ	12		ل	
365/12	لباس پاک رکھنے کے محامل	13		لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	1
	لذت	6			
403/8	جسمانی و روحانی لذتیں	1		دیکھئے "17: کلمہ طیبہ" صفحہ 217	1
884/9	دنیا کی لذتوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دینا	2		لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم	2
700/12					
	لذیذ	7	572/6	لا حول ولا قوۃ پڑھنے کی فضیلت	1
			108/7	معنی اور اس کے متعلق احادیث	2
95/11	لذیذ اور پسندیدہ چیزوں کے حصول کی اجازت	1		لا ثری	3
	لشکر	8		دیکھئے "28: جواء" صفحہ 107	1
238/11	اللہ تعالیٰ کے لشکر کا مصداق	1		لا یح	4
	لعان	9		دیکھئے "21: حرص" صفحہ 114	1
75/8	قرآن کا لغوی و شرعی معنی	1		لباس	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
699/5	لقطہ کے اعلان کی مدت میں مذاہب فقہاء	6	76/8	لعان کی وجہ تسمیہ	2
	آج کل کے دور میں لقطہ کے اعلان کا طریقہ کار	7	$\frac{76-79}{8}$	لعان کے بعد تفریق	3
700/5			79/8	لعان کی وجہ سے بچہ کے نسب کی نفی	4
701-705	اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد لقطہ کا مصرف	8		لعنت	10
5			616/1	لعنت کا معنی اور اس کا شرعی حکم	1
	لقیط	14		مردہ کافروں پر لعنت کا جواز اور زندہ کافروں پر لعنت کا عدم جواز	2
693/5	لقیط کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	619/1		
694/5	لقیط کے شرعی احکام	2	620/1	مسلمانوں پر لعنت کی ممانعت	3
	سورہ لقمان	15	686/2	لعنت کی اقسام	4
207/9	سورہ کا نام	1	686/2	کسی شخص پر لعنت کرنا	5
207/9	سورہ لقمان کا زمانہ نزول	2	160/11	لعنت کی اقسام	6
208/9	سورہ لقمان کی سورہ الروم سے مناسبت	3		لغو	11
209/9	سورہ لقمان کے مشمولات	4			
296/9	سورہ لقمان کا اختتام	5	853/7	لغو کا لغوی معنی	1
	حکیم لقمان	16	854/7	لغو کا اصطلاحی معنی	2
241/9	حکیم لقمان کا تعارف	1		لقب	12
243/9	حکیم لقمان کی حکمت آمیز باتیں	2	389/6	غوث اعظم، غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	1
250/9	حکیم لقمان کو شکر کرنے کی تلقین	3		ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنے کی ممانعت	2
251/9	حکیم لقمان کے بیٹے کا نام اور اس کا دین	4	296/11		
	لکھنا	17		لقطہ	13
382/7	لکھنے کے جواز پر قرآن کی آیات	1	695/5	لقطہ کا لغوی معنی	1
383/7	لکھنے کے جواز پر احادیث	2	695/5	لقطہ کے متعلق احادیث	2
384/7	لکھنے کی ممانعت پر دلائل	3	$\frac{696-697}{5}$	لقطہ کو اٹھانے کے حکم میں مذاہب فقہاء	3
880/12	لکھنے کی فضیلت اور اس کے متعلق احادیث	4	697/5	لقطہ کی اقسام اور ان کے احکام	4
	لوح محفوظ	18	698/5	لقطہ کا اعلان کرنے کے مقامات اور طریقہ کار	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
219/4	قوم لوط پر عذاب کی کیفیت	6		لوح محفوظ سے تمام امور کا روایت و درایت سے لکھا جانا	1
214/4	حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب	7	393/2		
214/4	حضرت لوط علیہ السلام کا مقام بعثت	8		لوح محفوظ تمام مخلوقات کے تمام احوال کی جامع ہے	2
215/4	رب کے ہاں فرشتوں کا نوخیز لڑکوں کی شکل میں مہمان ہونا	9	454/3		
216/4	حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت	10	501/3	لوح محفوظ کا بیان	3
597/5	حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا	11	798/7	لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہونا	4
598/5	حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجوہ	12		لوح محفوظ میں قرآن مجید اور مخلوق کے اعمال کا ثابت ہونا	5
598/5	حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صلیبی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا یا قوم کی بیٹیوں کو؟	13	655/10	لوح محفوظ میں لکھنے کی حکمتیں	6
599/5	قوم کی بیٹیوں کے ارادہ پر دلائل	14	736/11	لوح محفوظ کی تفسیر میں اقوال مفسرین	7
600/5	حضرت لوط علیہ السلام کا مضبوط قبیلہ کی پناہ کو طلب کرنا	15	661/12	لوح قرآنی	19
601/5	اللہ تعالیٰ کی پناہ کی بجائے مضبوط قبیلہ کی پناہ کو طلب کرنے کی توجیہات	16		دیکھئے "22: حروف مقطعات" صفحہ 114	1
602/5	حضرت لوط علیہ السلام کا نجات پانا اور بد معاش کافروں کا بھاگنا	17		لواطت	20
603/5	قوم لوط کی ہستی اٹننے کے متعلق روایات	18	606/2	لواطت کی حرمت پر آیات	1
604/5	قوم لوط کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات	19	607/2	لواطت کی حرمت پر احادیث	2
300/6	حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں آنا	20	608/2	عمل قوم لوط کی حد یا تعزیر	3
300/6	قوم لوط کا اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں (فرشتوں) پر ہجوم کرنا	21	216/4	لواطت کی عقلی قباحتیں	4
304/6	قوم لوط پر عذاب کا نزول	22	217/4	قرآن و حدیث میں لواطت کی مذمت	5
307/6	قوم لوط کے آثار	23	219/4	لواطت کی سزا	6
				حضرت لوط علیہ السلام	21
			216/4	قوم لوط کی بری عادتیں	1
			216/4	عمل قوم لوط کی عقلی قباحتیں	2
			217/4	قرآن میں عمل قوم لوط کی مذمت	3
			217/4	احادیث میں عمل قوم لوط کی مذمت	4
			217/4 219/4	عمل قوم لوط کی سزا	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	لوحا	23	582/5 614/7 953/9	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	24
738/11	لوہے کے فوائد	1			
	لہو و لعب	24		حضرت لوط علیہ السلام کی اہل سدوم کی طرف بعثت	25
435/3	دنیاوی زندگی کو لہو و لعب قرار دینا	1	409/8		
441/3 733/11	لہو و لعب کا معنی	2	412/8 703/8	عمل قوم لوط کی سزا	26
382/8	لہو و لعب کے متعلق احادیث	3	412/8	قوم لوط کی بری خصلتیں	27
383/8	محدثین کے نزدیک لہو کی تعریف	4	413/8	قوم لوط کی زبان درازی اور عذاب کا مستحق ہونا	28
385/8	لہو باطل کے نقصانات	5		حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت اور اس کا عذاب	29
	سورة اللیل	25	413/8 701/8	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	30
776/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1		قوم لوط کا بے حیائی کے کاموں میں بصیرت رکھنا	31
777/12	سورة اللیل کے مشمولات	2	701/8		
802/12	سورة اللیل کی تفسیر کا اختتام	3	702/8	قوم لوط پر زمین کا پلٹ دینا	32
	لیلة القدر	26	70/9	قوم لوط کا راستوں کو منقطع کرنا	33
889/12	لیلة القدر میں قرآن کا آسمان دنیا کی طرف نازل ہونا	1	71/9	قوم لوط کا برسر مجلس بے حیائی کے کام کرنا	34
890/12	لیلة القدر میں قدر کے معانی	2	74/9	قوم لوط پر نزول عذاب کا پس منظر و پیش منظر	35
891/12	کیا حضور ﷺ کو لیلة القدر کی تعیین کا علم تھا؟	3	75/9	آیا جنت میں عمل قوم لوط ہو گا یا نہیں؟	36
892/12	لیلة القدر کے فضائل	4	592/11	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ	37
893/12	رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلة القدر ہونے پر دلائل	5	593/11	قوم لوط پر عذاب کی کیفیت	38
894/12	لیلة القدر میں عبادت کا طریقہ	6		سورة اللہب	22
895/12	لیلة القدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں	7	1027/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1
896/12	لیلة القدر میں فرشتوں کا زمین پر نازل ہونا	8	1028/12	سورة اللہب کا شان نزول	2
			1029/12	تبت کا معنی	3
			1033/12	سورة اللہب کی تکمیل	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
544/4	مجاہدوں کو مال غنیمت سے زائد انعام دینا	2		م	
639/4	مال غنیمت کی تعریف	3		مال	1
678/4	مال غنیمت کی تقسیم کی تفصیل	4	1002/1	مال کا مذموم یا محمود ہونے کا مدار	1
694/4	بلا اجازت مال غنیمت لینا	5	70/2	مال کے ذکر میں حسن ترتیب	2
	سورۃ المائدہ	3	205/2	مخالف کا مال کھانا	3
27/3	سورۃ کانام	1	207/2	کافر اقوام کا مال کھانا	4
28/3	سورۃ المائدہ کا زمانہ نزول	2	249/2	پسندیدہ اور محبوب مال کا معیار	5
30/3	سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ میں مناسبت	3	617/4	مال کا فتنہ ہونا	6
30/3	سورۃ المائدہ کے مضامین کا خلاصہ	4	693/4	مال دنیا کی طمع کی وجہ سے بعض صحابہ پر عتاب	7
382/3	سورۃ المائدہ کا اختتام	5	158/5	مال کا سبب عذاب ہونا	8
	ماشاء اللہ	4	184/7	بقدر ضرورت مال دنیا جمع کرنا	9
109/7	معنی اور اس کے متعلق احادیث	1	108/9	مستقبل کے تحفظ کے لیے مال جمع کرنا	10
	سورۃ الماعون	5	193/9	اپنا مال قرابت داروں کو دینے کی فضیلت	11
991/12	سورۃ کانام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	633/9	مال کی محض کثرت باعث فخر نہیں	12
	سورۃ الماعون کے مکی یا مدنی ہونے میں	2	599/10	مال و دولت کی تقسیم میں مساوات کی خرابیاں	13
992/12	اختلاف		599/10	مال کی زیادتی کی خرابیاں	14
995/12	الماعون کی تعریف میں بارہ اقوال	3	44/11	مال کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	15
996/12	سورۃ الماعون کی تفسیر کی تکمیل	4	734/11	مال میں کثرت کی طلب مطلقاً مذموم نہیں ہے	16
	مباہلہ	6	945/12	مال کی محبت کے متعلق احادیث	17
189/2	مباہلہ کا معنی اور اس کا شرعی حکم	1	846/12	مال کی محبت کے اثرات	18
187/2	انصاری نجران کو دعوت مباہلہ	2	857/12	مال میں کثرت طلب کرنا کیسا؟	19
	حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا	7	286/12	مال دنیا کی خرابیاں	20
103/12	حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی سوانح	1		مال غنیمت	2
103/12	ماہور پر حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کی تہمت	2	543/4	مال غنیمت کے استحقاق میں صحابہ کا اختلاف	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
761/9	ظلمت کا اصل اور نور کا عارض ہونا	2		مباشرت	8
762/9	زمان اور مکان کے دلائل کی باہمی مناسبت	3	629/2	لوٹڈیوں سے بغیر نکاح کے مباشرت کرنا	1
528/10	آفاق اور انفس کی نشانیوں کا تجزیہ	4		مایوس ہونا	9
	لوگوں کو ان کے صحائف اور اعمال کی طرف بلانا	5	99/6	یئیس کا ترجمہ	1
821/10				اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے مایوسی کی ممانعت	2
	مٹی	13	282/10		
150/10	مٹی کا آگ سے افضل ہونا	1		متقی	10
	مجرم	14	294/6 405/6	متقین کی تحقیق	1
492/3	مجرموں کے طریقہ کو بیان کرنے کی حکمت	1		متقین کے لیے غیر مترقبہ نعمتوں کے علاوہ	2
226/6	مجرموں کے اخروی احوال	2	336/11	خصوصی مزید انعام	
801/9	مجرموں کا دوسروں سے الگ اور جدا ہونا	3	441/11	متقین کے درجات	3
	کفار کی تمام اقسام کا مجرمین کے عموم میں داخل ہونا	4	488/12	متقین کو اجر و ثواب عطا کرنا	4
802/9			489-495 12	متقین کے مصداق میں اللہ کی اطاعت و عبادت کو داخل کرنا یا نہ کرنا	5
	مجمع البحرین	15		متقین کے لیے راہ نجات کے حصول کے سلسلے میں احادیث	6
149/7	مجمع البحرین کا مصداق	1	68/12		
150/7	مجمع البحرین کی طرف سفر	2		متعہ	11
	مجدوب	16	630-632 2	جواز متعہ پر شیعہ کے دلائل	1
563/10	مجدوب کی تعریف	1	633-634 2	حرمت متعہ پر قرآن و حدیث سے دلائل	2
	مجہد	17	636/2	احادیث شیعہ سے حرمت متعہ	3
514/11	مجہدین کے ظن کا صحیح ہونا	1	636/2	بعض مفسرین کا تاسیح	4
	مجلس	18	855/7	متعہ کرنا کیسا؟	5
784/11	امیر اور منتظم کو چاہیے کہ عام لوگوں کو صف اول سے اٹھا کر اصحاب فضل کو بٹھائے	1		متفرقات	12
785/11	صاحب فضل کا کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا	2	173/6	مستقبل کے مکالمہ کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنا	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ولیاں عشر سے مراد محرم کے دس دن اور ان کی فضیلت	2	786/11	اللہ کی کسادگی کرنے کا معنی	3
723/12				مجوسی	19
	سورہ محمد	25	906/12	مجوس اہل کتاب میں شامل ہیں یا نہیں؟	1
122/11	سورہ کا نام اور وجہ تسمیہ	1		سورہ المجادلہ	20
122/11	سورہ محمد کے متعلق احادیث	2	762/11	سورہ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
123/11	سورہ محمد کے اغراض	3	762/11	سورہ المجادلہ کے متعلق احادیث	2
180/11	سورہ کا اختتام	4	763/11	سورہ المجادلہ کا زمانہ نزول	3
	محبت	26	763/11	سورہ المجادلہ کے مشمولات	4
119/2	محبت کا معنی	1	796/11	سورہ المجادلہ کا اختتام	5
119/2	محبت رسول کا معنی	2		مچھلی	21
120/2	اللہ کی محبت کا حصول	3		کڑوے پانی میں لذیذ مچھلی	1
121/2	جن افعال و عبادات سے اللہ محبت کرتا ہے	4	368/6	مچھلی پر گوشت کا اطلاق	2
	عارضی اور فانی محبت، دائمی اور باقی محبت کے مبادی و اسباب	5	369/6	پکی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو جانا	3
687/4			159/7		
688/4	صحابہ کرام کی باہمی محبت کا سبب	6		محسن	22
	باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، قریبی اعزہ، وطن، تجارت اور مال و دولت سے زیادہ اللہ و رسول اللہ ﷺ کا محبوب ہونا	7	121/9	محسنین کا معنی و مصداق	1
102/5				محراب	23
	صحابہ کرام محبت کے اس معیار کا کامل نمونہ تھے	8	257/7	محراب کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
103/5			257/7	امام کا محراب میں کھڑا ہونا	2
	اللہ اور رسول ﷺ کے مخالفوں سے محبت نہ کرنے والوں پر انعامات	9	610/9	محراب کے داخل مسجد ہونے کی تحقیق	3
795/11			612/9	محراب کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	4
827/11	صحابہ اور اخیار تابعین سے محبت کا وجوب	10		محرم الحرام	24
	سیدنا محمد عربی ﷺ	27	721/12	الفجر سے مراد ماہ محرم کی صبح اور اس کی فضیلت میں احادیث	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
100/2	روم اور فارس کی فتح کی پیش گوئی	17	314,453 457/1	حضور ﷺ کی نبوت پر دلیل	1
100/2	محمد عربی ﷺ کے نبی ہونے پر اعتراضات کے جوابات	18	358/1	حضور ﷺ کا حقیقت میں خلیفہ اعظم ہونا	2
158/2	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر دلیل	19	431/1	حضور ﷺ کی رسالت کی پتھروں، درختوں اور جانوروں کا گواہی دینا	3
158/2	آپ ﷺ کا علم غیب	20	475-480 1	رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنا	4
229/2	تمام نبیوں کا آپ ﷺ پر ایمان لانا	21	486/1	حضور ﷺ سے سوالات کی ممانعت	5
230/2	آپ ﷺ کی نبوت کا عام ہونا	22	492/1	حضور ﷺ کا درگزر کرنا	6
232/2	زمینوں، آسمانوں اور تمام مخلوق کا آپ ﷺ کی اطاعت کرنا	23	448/1	حضور ﷺ کے وسیلہ سے دعا کا قبول ہونا	7
355/2	آپ ﷺ کو کفار پر لعنت کرنے سے منع کرنا	24	514/1	حضور ﷺ کے والدین کریمین کا ایمان والا ہونا	8
356/2	آپ ﷺ کی عصمت کے خلاف نہیں	25	518/1	بعض آیات میں بظاہر حضور ﷺ سے اور حقیقت میں مسلمانوں سے خطاب	9
364/2	علم رسالت پر اعتراض کا جواب	26	571/1	حضور ﷺ پر تمام امتیوں کے افعال و احوال کا پیش کیا جانا	10
368/2	رسول اللہ ﷺ کی اطاعت، مغفرت اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے	27	884/1	حضور ﷺ کے تبرکات سے استفادہ و حصول شفاء	11
289/2	رسول اللہ ﷺ کی وفات و نماز جنازہ	28	892/1	حضور ﷺ کی رسالت پر دلیل	12
405/2	رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کے بعد مسلمانوں کا سوجانا	29	895/1	بعض کفار عرب کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے آپ ﷺ کو تسلی	13
451/2	آپ ﷺ نوع انسان اور بشر سے مبعوث ہوئے	30	896-909 1	حضور کا افضل الرسل ہونا	14
453/2	تلاوت، تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم	31	921/1	دیگر انبیاء کے معجزات پر آپ ﷺ کے معجزات کا افضل ہونا	15
474/2	آپ ﷺ سے اللہ کی محبت	32	923/1	حضور ﷺ کا اپنے آپ کو دوسرے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دینے سے منع کرنا	16
498/2	آپ ﷺ کو تسلی دینا	33			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
622/3	آپ علیہ السلام کی نبوت پر کفار کا شبہ	53		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گمشدہ ہار کے متعلق	34
623/3	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی	54	680/2	حضور ﷺ کا علم	
624/3	رسول اللہ ﷺ کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے	55	733/2	آپ ﷺ کا سب سے زیادہ شجاع ہونا	35
632/3	حضور ﷺ کی نبوت کی دلیلیں	56	790/2	آپ ﷺ کا فیصلہ کرنے کا طریقہ	36
702/3	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اول المسلمین ہونا	57	791/2	آپ ﷺ کو کفار کی حمایت سے منع کرنا	37
559/3	حضور ﷺ کے تمام آباء کا اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہونا	58		طعمہ کے معاملہ میں آپ ﷺ کو استغفار کا حکم	38
332/3	آپ ﷺ سے سوال کرنے کی ممانعت کی وجوہات	59	792/2	حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم	39
335/3	آپ ﷺ سے کیے ہوئے سوالات کے متعلق احادیث	60	799/2	آپ ﷺ کا معصوم ہونا	40
336/3	مشکل سوالات اور بھارت ڈالنا	61	880/2	ہمارے نبی ﷺ کا اللہ سے ہم کلام ہونا	41
337/3	سوالات کے جائز و ناجائز مواقع	62	881/2	رسول کے بغیر محض عقل سے ایمان لانا	42
337/3	کثرت سوالات اور مطالبات کی وجہ سے سابقہ امتوں کا ہلاک ہونا	63	884/2	آپ ﷺ کی دعوت پر دلیل	43
401/3	محمد عربی ﷺ پر طعن اور استہزاء	64	890/2	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا برہان ہونا	44
445/3	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تسلی کی آیات	65		نبی کریم کو منع کرنا دراصل امت کیلئے تعریض ہے	45
453/3	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہم مثل ہونے کا محمل	66	487/3	حضور ﷺ کی عصمت پر اعتراض کا جواب	46
486/3	مسکینوں کا حساب آپ کے ذمہ نہ ہونے کی وضاحت	67	487/3	امت کے اختلاف سے نجات کے لیے دعا سے آپ ﷺ کو اللہ کا منع فرمانا	47
129/4	رسول ﷺ کا ان کی جنس سے ہونا جن کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں	68	524/3	نبی ﷺ کا تمام صفات انبیاء کا جامع ہونا	48
			585/3	رسول اللہ ﷺ کی قدر شناسی	49
			590/3	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمومی بعثت پر یہودیوں کا اعتراض اور اس کا جواب	50
			590/3	آخرت پر ایمان حضور پر ایمان کو مستلزم ہے	51
			622/3	رسول اللہ کے ذمہ کیا چیز ہے؟	52

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمارہ	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمارہ
457/4	قرآن و حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم کا عموم	84	205/4	حضور علیہ السلام کی حضرت ہود و نوح علیہما السلام سے زیادہ عزت	69
159/5	رسول اللہ ﷺ کی تقسیم پر اعتراض کرنا	85	236/4	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت پر دلیل	70
160/5	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے کو آپ علیہ السلام کا سزا نہ دینے کی وجہ	86	359/4	رسول اللہ ﷺ کے لکھنے اور پڑھنے پر قرآن سے دلائل	71
161/5	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے کی نسل سے خارجیوں کا پیدا ہونا	87	360/4	رسول اللہ ﷺ کے لکھنے پر مودودی کے اعتراضات کے جوابات	72
197/5	حضور ﷺ کے فرمان ”میں صرف ظاہر پر حکم کرتا ہوں“ کی توضیح	88	363/4	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لکھنے کے متعلق محدثین کی تحقیق	73
278/5	نبی ﷺ کا توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنے کی توجیہ	89	368/4	تورات اور انجیل میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت	74
302/5	نبی ﷺ کی پانچ صفات	90	373/4	امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات	75
305/5	امت پر سخت احکام کا آپ ﷺ پر دشوار ہونا	91	375/4	اشیاء کو حلال و حرام کرنا حضور علیہ السلام کا منصب	76
306/5	دنیا و آخرت میں امت کی فلاح پر آپ ﷺ کا حریص ہونا	92	378/4	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر	77
307/5 102/6	آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا تسلی دینا	93	412/4	رسول اکرم ﷺ کا اصل کائنات ہونا	78
325/5	نبی کریم ﷺ کو ساحر کہنے کا جواب	94	462-468	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قیامت کے دن لوگوں کو نفع پہنچانا	79
364/5	تورات میں نبی ﷺ کی آمد کی خوشخبری	95	4	رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل کا واجب ہونا	80
409/5	رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی، آپ کی آمد اور آپ کی بعثت پر فرحت و مسرت کا اظہار	96	598/4	اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا واحد ہونا	81
108-117 6	قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ نے شادیاں کیوں کیں اور اس کے جوابات	97	394/4	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کے عموم و شمول پر دلائل	82
			447/4	رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ اور علم روح وغیرہ	83

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
128/7	نبی ﷺ کا مدد کے لیے مسلمانوں سے اپیل کرنا	114	135-136/6	سیدنا محمد ﷺ کی بعثت کا عموم	98
388/7	نبی اکرم، حضرت ابو بکر و عمر کا ایک ہی منیٰ سے مخلوق ہونا	115	137/6	نبی ﷺ کی رسالت نبانات، جمادات اور حیوانات سب کے لیے ہے	99
539/7	حضور ﷺ کی تمام نبیوں اور فرشتوں پر فضیلت	116	138/6	کفار کے علاوہ دنیا کی ہر چیز آپ ﷺ کی رسالت کو جانتی ہے	100
565/7	رسول اللہ ﷺ کا مرض الموت	117	220/6	کیا نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل سمجھتے تھے؟	101
566/7	نزع روح کے وقت رسول اللہ ﷺ کو سخت تکلیف	118	243/6	کفار کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مجنوں کہنا	102
570/7	اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی عیادت و تعزیت	119	244/6	آپ ﷺ کی تائید کے لیے فرشتہ کا نزول	103
571/7	رسول اللہ ﷺ کی وفات سے قبل اور بعد کے احوال	120	304/6	رسول اللہ ﷺ کی زندگی کی قسم	104
576/7	رسول اللہ ﷺ کی وفات کی تاریخ	121	252/6	رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی ضرورت و اہمیت	105
578/7	رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ	122	537/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضلات کریمہ کے متعلق احادیث	106
582/7	وفات کے بعد رسول اللہ ﷺ کا امت کے اعمال پر مطلع ہونا	123	539-541/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضلات کریمہ کی طہارت	107
587/7 766/7	کفار کے استہزاء پر رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا	124	682/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف عبادت غیر اللہ کی نسبت	108
643/7	حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے معجزات کے مقابلہ میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات	125	705/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حصول تبرک کا جواز	109
898/7	نبی علیہ السلام سے دعا کرانا	126	749/6	اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدد فرمانا	110
162/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا عالم میں آشکارا ہونا	127	765/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ثابت قدم رکھنا	111
166/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب سابقہ میں صفات	128	767/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آزمائشوں میں کامیابی	112
			793/6	رسول اللہ ﷺ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت	113

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفت ”کن“ کے مظاہر	144	191/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کی تاکید	129
692/8			192/8	لا تجعلوا دعاء الرسول کے محامل	130
324/8	ہمارے نبی ﷺ کی فضیلت	145		آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیغام حق نہ سنانے پر کفار کا مال کی پیش کش کرنا	131
	حضور علیہ التحیۃ والتسلیم کے کھانے پینے کے اسرار	146	215/8		
336/8				آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کفار کا اعتراض کہ آپ تو بازاروں میں چلتے ہیں	132
90/9	انبیاء سابقین کے احوال سے حضور ﷺ کو تسلی دینا	147	216/8		
653/9				آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کفار کا اعتراض کہ آپ کے پاس سونے چاندی کے محلات کیوں نہیں؟	133
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لکھنے اور پڑھنے کا ثبوت	148	216-220 8		
97/9				قریش کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مذاق اڑانا	134
	ہمارے نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کی متعدد آیات کے مصداق ہیں	149	243/8		
98/9			293/8 724/8	رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا	135
	تورات وغیرہ پڑھنے پر حضور ﷺ کا ناراض ہونا	150	537/8	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا برحق ہونا	136
100/9				دوسرے انبیاء کو مانگنے سے روکنا جبکہ ہمارے نبی کو بے مانگے عطا فرمانا	137
	حضور ﷺ اور آپ کے اصحاب کی تنگی و وسعت	151	347/8		
108/9			440/8 451/8 817/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر دلائل	138
	نبی ﷺ کے اہل کے پاس ایک سال کا مال ہونے کے باوجود تنگی	152		نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غیر اللہ کی عبادت سے روکنے کی وجہ	139
111/9			459/8		
244/9	نبی ﷺ کی حکمت آمیز احادیث	153		نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حالت قیام و ساجدین میں دیکھنے کے محامل	140
275/9	آپ ﷺ کو الحمد للہ کہنے کا حکم دینے کی وجہ	154	476/8		
	حضور ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے محامل	155		نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قمیص اور اس میں بن لکانا	141
345/9			584/8		
348/9	حضور ﷺ اور کفار کے انتظار کرنے میں فرق	156		نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حیوانوں کا باتیں کرنا	142
	حضور ﷺ کو کفار کا پیغام توحید سنانے سے روکنے کی ناکام کوشش کرنا	157	632/8		
360/9			678/8	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کفار کی طرف مکاتیب	143

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضور ﷺ کے قلب پر حجاب اور آپ کی توبہ و استغفار کا محمل	173	360/9	حضور ﷺ کو ڈرنے کا حکم دینے کی توجیہ	158
104/10				حضور ﷺ کی ذات عبادت اور معاملات کا نمونہ	159
105/10	ایک دن میں سو بار توبہ کرنے کی توجیہ	174	398/9		
108/10	حضور ﷺ کا افضل الرسل ہونا	175		حضور ﷺ کو مجوسیوں، مشرکوں اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنے کا حکم دینا	160
	ہواؤں اور جنات پر تصرف حضور ﷺ کو بھی حاصل ہے	176	361/9		
108/10				حضور ﷺ کی ذات میں سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کا نمونہ	161
157/10	حضور ﷺ کا مشقت اٹھا کر پیغام پہنچانا	177	397/9		
	حضور ﷺ کو سب سے پہلے اسلام لانے کے حکم کی توجیہ	178	460/9	رسول اکرم ﷺ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں	162
203/10				رسول اللہ ﷺ کو تقویٰ کا حکم دینے کی توجیہ	163
	حضور ﷺ کا مکمل جانفشانی سے پیغام حق سنانا	179	498/9		
266/10				رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں	164
290/10	حضور ﷺ کا خزانوں کا مالک ہونا	180	924/9		
342/10	حضور ﷺ کو تسلی دینا	181	504/9	رسول اللہ ﷺ کا امت کے حق میں شاہد ہونا	165
383/10	حضور ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت	182		رسول اللہ ﷺ کا اللہ کی توحید اور ذات و صفات پر شاہد ہونا	166
412/10	رسول اللہ ﷺ پر بڑھاپے کے آثار	183	504/9		
	حضور ﷺ کا شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنا	184	505/9	رسول اللہ ﷺ کا دنیا میں امور آخرت پر شاہد ہونا	167
506/10			506/9	رسول اللہ ﷺ کا عملاً امت پر شاہد ہونا	168
516/10	کفار کی دل آزار باتوں پر حضور ﷺ کو تسلی دینا	185	507/9	رسول اللہ ﷺ کو سراج کہنے کی توجیہ	169
518/10				رسول اللہ ﷺ کو ایذا کس بات سے پہنچی تھی؟	170
685/10					
	رسول اللہ ﷺ کے حرم محترم کا تہمت سے بری ہونا	186	529/9		
525/10				رسول اللہ ﷺ کو نبوت عطاء فرمانے میں تخصیص	171
	رسول اللہ ﷺ، اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں	187	640/9		
616/10			750/9	نبی ﷺ کے لیے غیب اور قدرت کا ثبوت	172

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
238/11	حضور ﷺ کے شاہد ہونے اور توغزوہ و توقروہ کا معنی	203	647-649 10	نزول قرآن سے قبل حضور ﷺ کو اجمالی طور پر قرآن عطا کیا جانا	188
266/11	حضور ﷺ کے سر منڈانے اور بال کتروانے کے محمل	204	686/10	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے متعلق احادیث	189
453/11	حضور ﷺ کو کاہن اور مجنون کہنے کا رد	205	729/10	حضور ﷺ کے خلاف سازش کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا انتقام لینا	190
454/11	کفار کو حضور ﷺ کی موت کا انتظار کرنے کا حکم	206	803/10	حضور ﷺ کو جاہلوں کی اتباع سے منع کرنے کا محمل	191
810/12	اللہ کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی عزت و وجاہت	207	804/10	بعض مفسرین کی محبت و ادب رسول ﷺ سے محروم تفسیریں	192
810/12	دن بہ دن رسول اللہ ﷺ کی عزت و کرامت کا زیادہ ہونا	208	47/11	حضور ﷺ سے افتراء کی تہمت کا ابطال	193
811/12	آپ ﷺ کی آخرت کا آپ ﷺ کی دنیا سے افضل ہونا	209	49/11	حضور ﷺ کی نبوت پر کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب	194
813/12	حضور ﷺ کا فرمان کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا	210	90-92 11	حضور ﷺ کا شام سفر	195
818/12	رسول اللہ ﷺ کی دنیا و آخرت میں فضیلت	211	144/11	مشرکین کے ظلم و ستم پر حضور ﷺ کو تسلی	196
818/12	آخرت میں رسول اللہ ﷺ کو عزت و کرامت عطا فرمایا جانا	212	146/11	حضور ﷺ کے ارشادات کو سننے میں منافقین کی کیفیت	197
828/12	رسول اللہ ﷺ کو غنی کرنے کے محامل	213	915/11	رسول اللہ ﷺ کو بشر کہنے کی تحقیق	198
829/12	رسول اللہ ﷺ کو یتیم بنانے کی حکمتیں	214	878/11	رسول اللہ ﷺ کی صفات	199
836/12	رسول اللہ ﷺ کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا گیا ہے؟	215	880/11	رسول اللہ ﷺ کا قیامت تک کے مسلمانوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور ان کے باطن کو صاف کرنا	200
836/12	رسول اللہ ﷺ کو ملنے والی چند نعمتیں	216	785/11	حضور ﷺ کے ہر فعل میں حسن ہے	201
854-856 12	حضور ﷺ پروردگار کے محامل	217	815/11	حضور ﷺ کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے	202

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	کفار کا حضور ﷺ کو لالچ دے کر اور دھمکا کر تبلیغ اسلام سے روکنے کی ناکام کوشش کرنا	236	858-865 12	حضور ﷺ کا ذکر بلند کرنا	218
454/12	تبلیغ اسلام سے روکنے کی ناکام کوشش کرنا		878/12	حضور ﷺ کا ابتداء نبوت میں غار حرا جانا	219
455-457 12	آپ ﷺ کو کفار کی اطاعت سے منع کرنا	237	879/12	حضور ﷺ کا فرشتہ کو پہچانا	220
366-372 12	حضور ﷺ کا احسان رکھنے کی ممانعت	238	879/12	"ماانا بقاری" کی تحقیق	221
372/12	حضور ﷺ کو صبر کا حکم دینے کی توجیہ	239	970/12	"والعصر" سے حضور ﷺ کا زمانہ مراد ہونا	222
182/12	حضور ﷺ اور کفار کے عنقریب دیکھنے سے مراد	240	1010/12	رسول اللہ ﷺ کا مقام محبوبیت	223
185/12	حضور ﷺ کو مجنون کہنے والا	241		کفار کی ایذا رسانی پر رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا	224
	حضور ﷺ پر کفار مکہ کا نظر لگانے کی ناکام کوشش کرنا	242	348/12		
197/12	حضور ﷺ کے برحق رسول ہونے پر دلیل	243		رسول اللہ ﷺ کی بعثت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے تشبیہ دینے کی توجیہ	225
215/12	اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں حضور ﷺ کو	244	350/12	حضور ﷺ کی قیامت کے دن وجاہت	226
296/12	عجز کے اظہار کا حکم		129/12	رسول اللہ ﷺ کو مہلت دینے کے حکم کی توجیہ	227
	محمد بن عبد الوہاب نجدی	28	678/12	رسول اللہ ﷺ کا درجہ بدرجہ ترقی کرنا	228
61/3	محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تکفیر	1	641/12	رسول اللہ ﷺ کا تمام فرشتوں سے افضل ہونا	229
	محکم	29	595/12	حضور ﷺ پر رسول کریم کی صفت کا منطبق ہونا	230
61/2	محکم کا معنی	1	597/12	حضور ﷺ پر ذی قوۃ کی صفت کا منطبق ہونا	231
60/2	آیات محکمات	2		حضور ﷺ پر معزز اور وجیہ کی صفت کا منطبق ہونا	232
62/2	اصولیین کے نزدیک محکم	3	598/12	حضور ﷺ پر مطاع کی صفت کا منطبق ہونا	233
	مخلوق	30		حضور ﷺ پر امین کی صفت کا منطبق ہونا	234
861/7	مخلوق کی ضروریات و مصلحتوں کی رعایت	1	598/12	حضور ﷺ کا حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا	235
179/11	مخلوق کے محتاج ہونے کی وضاحت	2	600/12		
	مد اہنت	31	600/12		
110/2	مد اہنت کی تحقیق	1	602/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مستقل مددگار بنالینا گمراہی ہے	12	111/2 701/11	مد اہنت کا معنی	2
543/10			183/12	مد اہنت کا لغوی و اصطلاحی معنی	3
115/12	مقبولان بارگاہ عزت سے مدد طلب کرنا	13		مد اہنت	32
	سورة المدثر	34		اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مد اہنت کرنا	1
358/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1	1008/12	انبیاء سابقین کا خود اپنی مد اہنت کرنا	2
358/12	سورة المدثر کے متعلق احادیث	2	1009/12	مد و حاصل کرنا	33
359/12	سورة المدثر اور سورة المزمل میں مناسبت	3		استعانت کا معنی	1
360/12	سورة المدثر کے مشمولات	4	184/1	اولیاء اللہ سے استعانت کی تحقیق	2
398/12	سورة المدثر کا اختتام	5	185/1	علامہ آلوسی، شیخ شوکانی اور نواب بھوپالی کا انبیاء اور اولیاء سے استمداد کو ناجائز قرار دینا	3
	مدینہ منورہ	35		علامہ آلوسی وغیرہ کی عبارات پر تبصرہ	4
391/9	مدینہ منورہ کو یثرب کہنے کی ممانعت	1	348/5	وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کے معاملہ میں راہ اعتدال	5
	منافقوں کے اس قول کے محامل اے اہل یثرب واپس جاؤ	2	349/5	وصال کے بعد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے استمداد اور استغاثہ کے جواز کے متعلق احادیث و آثار	6
393/9			351/5	وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کی تکفیر کا بطلان	7
	مدعی نبوت	36		مصائب و مشکلات میں صرف اللہ سے مدد حاصل کرنا افضل ہے	8
	دیکھئے "34: جھوٹی نبوت کے دعویدار" صفحہ 109	1		غیر اللہ سے استمداد کا جواز	9
	مذاق	37	378/5	مخلوق سے استمداد کی بناء پر حضرت یوسف علیہ السلام سے مواخذہ کی توجیہ	10
297/1	اللہ تعالیٰ کے استہزاء کی توجیہ	1		افضل و اولیٰ یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے	11
294/11	مذاق اڑانے کی ممانعت	2	380/5		
361/11	کفار و مشرکین سے استہزاء کی سزا	3			
	مذہب	38	773/5		
	مذہب کا لغوی و شرعی معنی	1	774/5		
176/1	حضرت مریم علیہا السلام	39	775/5		
446/1	مریم کا معنی	1			
153/2	قرآن میں فضیلت	2	66/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
768/1	مرتد کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	1	154/2	احادیث میں فضیلت	3
768/1	مرتد کو قتل کرنا	2	173/2	حمل کی کیفیت	4
769/1	مرتد کو قتل کرنا	3	264/3	حضرت مریم علیہا السلام کا نبیہ نہ ہونا	5
770/1	ارتداد سے نیک عمل ضائع ہونا	4	263/7	حضرت مریم علیہا السلام کا مشرقی جگہ جانا	6
770/1	کیا مرتد کو قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے؟	5	263/7	حضرت جبریل علیہ السلام کا بشر کی صورت میں آنا	7
247/11			264/7	فرشتہ سے ہم کلام ہونا نبوت کو مستلزم نہیں	8
239/2	مرتدوں کو ہدایت	6		حضرت مریم علیہا السلام کا بیٹے کی پیدائش پر تعجب فرمانا	9
242/2	مرتدین کے کفر میں زیادتی	7	265/7		
243/2	مرتدین کی توبہ کا قبول نہ ہونا	8	265/7	حضرت مریم علیہا السلام کے حمل کا سبب	10
309/2	مرتدین کا حوض پر وارد ہونا	9	266/7	حضرت مریم علیہا السلام کے حمل کی مدت	11
213/3	عہد رسالت اور بعد کے مرتدین	10	266/7	یوسف نجا کا تعاون	12
584/6	مرتد کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگانا	11	266/7	وضع حمل کے لیے دور جانا	13
	مرتد کو قتل کرنے کا وجوب اور اس کو تین دن کی مہلت دینے پر دلائل	12	267/7	”کاش میں پہلے مرجانی“ کہنا	14
246/11			269/7	حضرت مریم علیہا السلام کو لوگوں کا ملامت کرنا	15
	مردار	41	269/7	یا اخت ہارون کی توجیہات	16
51/3	مردار کا معنی اور اس کی اقسام	1		حضرت مریم علیہا السلام کا جواب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنا	17
	سورہ مریم	42	270/7	حضرت مریم و عیسیٰ علیہما السلام کا قصہ	18
	سورہ مریم کی وجہ تسمیہ اور اس کے متعلق احادیث	1	659/7	حضرت مریم علیہا السلام میں روح پھونکنا	19
243/7			660/7	حضرت مریم علیہا السلام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	20
244/7	سورہ مریم کا زمانہ نزول	2	660/7	حضرت مریم علیہا السلام کا جنت میں حضور ﷺ کے نکاح میں ہونا	21
247/7	سورہ الکہف اور سورہ مریم میں مناسبت	3			
247/7	سورہ مریم کے مشمولات	4	132/12		
319/7	سورہ مریم کے اختتامی کلمات و دعا	5			
	مرغ	43		مرتد	40

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
355/12	سورۃ المزل کے آخر میں زکوٰۃ کا تذکرہ	6	269/9	مرغ کی بانگ کی فضیلت	1
	مسکین	49		مردوں کو زندہ کرنا	44
443/1	مسکین کے ساتھ حسن سلوک	1	479/6	اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے پر دلیل	1
650/1	مسکین کا معنی	2		مرجہ	45
95/7	مساکین کی فضیلت میں احادیث	3	735/11	مرجہ کا رد	1
993/12	مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی وعید	4		سورۃ المرسلات	46
	مسجد	50	470/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق مذاہب	1	470/12	سورۃ المرسلات کے متعلق احادیث	2
503/1	ائمہ		471/12	سورۃ المرسلات کے مشمولات	3
	کافروں سے مسجد کیلئے چندہ لینے میں مذاہب	2	497/12	سورۃ المرسلات کا اختتام	4
92/5	فقہاء			مزارات	47
	کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علماء	3	77/7	مزارات پر گنبد بنانا	1
94/5	دیوبند کا نظریہ		749/7	اولیاء کے مزارات کا شعائر اللہ میں داخل ہونا	2
	مسجد بنانے کا جواز اور استحقاق کن امور پر	4		اولیاء کے مزارات کو بوسہ دینا، طواف کرنا	3
95/5	موقوف ہے		750/7	اور سجدہ کرنا	
	مسجد بنانے کے انحصار میں ایمان بالرسول	5		اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت اور ان سے حصول فیض	4
95/5	ذکر نہ کرنے کی توجیہ		255/11		
	مسجد بنانے کے فضائل اور مسجد کے اجر و	6		سورۃ المزل	48
95/5	ثواب کے متعلق احادیث		333/12	سورۃ کا نام	1
97/5	مسجد کے احکام کے متعلق احادیث	7	333/12	سورۃ المزل کے مشمولات	2
112-113	مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق مذاہب	8	336/12	المزل کا معنی و مصداق	3
5	اربعہ کا موقف		356/12	سورۃ المزل کا اختتام	4
256/5	مسجد ضرار کا پس منظر و پیش منظر	9		سورۃ المزل میں رسول اللہ ﷺ کی سیرت	5
258/6	مسجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت	10	351/12	کا اجمالی تذکرہ	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
384/2	مسلمانوں کا اعلیٰ وغالب ہونا	2		کس مسجد کی بنیاد یوم اول سے تقویٰ پر رکھی گئی؟	11
	فوت شدہ مسلمانوں کا اپنے اقارب کے اعمال پر مطلع ہونا	3	259/5		
470/2			260/5	مسجد نبوی کے فضائل	12
	مسلمان بھائی کی کامیابی پر زیادہ خوش ہونا	4	261/5	مسجد قبا کے فضائل	13
471/2	چاہیے			مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے فضائل	14
528/2	مسلمانوں کے لیے دنیا میں تنگدستی	5	205/6		
830/2	مسلمانوں سے غلبہ کا وعدہ	6		مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت کے متعلق فقہاء کے نظریات	15
484/3	مسلمانوں کو ڈرانے کا عمل	7	206/6		
485/3	مسکین مسلمانوں کو مجلس سے اٹھانا	8	729/7	مسجد حرام سے روکنے والوں کی مذمت	16
702/3	اول المسلمین کون؟	9	143/8	مساجد کی تعمیر و آداب اور ان میں ذکر	17
706/3	مسلمانوں کو خلیفہ بنانے کے محامل	10	697/11	جنبی اور حائض کا مسجد میں داخل ہونا	18
706/3	مسلمانوں کی آزمائش	11	289/12	مسجد میں ادا کی جانے والی عبادات و اطاعات	19
707/3	مسلمانوں کے گناہوں پر مواخذہ	12	292/12	مسجد میں برے کام کرنے کی مذمت	20
188/4	مسلمانوں کی مثال	13	293/12	مسجد میں نیک کام کرنے کی فضیلت	21
	رنج و راحت کے نزول میں مسلمانوں کے احوال	14		مسح	51
232/4			886/2	ابنیت مسح کا بطلال	1
	اللہ نیک مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے بدکاروں کی نہیں	15	62/2	مٹا ہونے کا معنی	2
596/4			62/2	اصولیین کے نزدیک مٹا ہونے کا معنی	3
	مسلمانوں کے حق میں کیا چیز حیات آفریں ہے	16	60/2 64/2	آیات مٹا ہونے کے	4
602/4			161/2	مسح کا معنی	5
650/4	مسلمانوں کے زوال کا سبب	17	190/2	الوہیت مسح کے ابطال پر ایک مناظرہ	6
	کفار سے معاہدہ کی وجہ سے دارالہرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا	18	362/3	حیات مسح اور ان کا زمین پر نزول	7
710/4				مسلمان	52
716/4	مسلمانوں کی دارالکفر میں سکونت کا حکم	19			
155/5	مسلمانوں کی دو حالتوں کا بیان	20	193/2	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
369/9	لباس میں مشابہت کی وجہ سے صرف ظاہری اور دنیاوی حکم لاگو ہوگا	3	761/5	مسلمان کی تکفیر و عدم تکفیر کے متعلق مذاہب ائمہ	21
369/9	بد عقیدگی، بدعات اور بد اعمالیوں میں مشابہت کی وجہ سے کفر، گمراہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا	4	341/5	ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر احادیث و آثار	22
			494/5	مسلمانوں کی دنیا میں بد حالی	23
	مشرق	54	90/6	دنیا میں مسلمانوں کی پس ماندگی و تنگی کی وجوہ	24
239/12	مشرق کی توجیہ	1	103/6	مسلمانوں اور کافروں کے مصائب کا فرق	25
	مشرک	55	324/6	گناہگار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال	26
512/1	مشرکین کے فرمائشی معجزات و مطالبات پورا نہ کرنے کی وجہ	1	590/7	مسلمانوں پر زمین کے گناہوں کا کم ہونا	27
802/2	مشرکین کے بتوں کا مؤنث ہونا	2	920/7	نیک مسلمانوں کو اچھی جزاء	28
420/3	روز قیامت مشرکین کی ناکامی و ناکامی	3	168/8	مسلمانوں کی تنگدستی کے بعد خوشحالی	29
610/3	مشرکین کے فرقتے	4		امیر کافروں کی خوشنودی کے لیے غریب مسلمانوں کو اٹھانا	30
666/3	مشرکین کے خود ساختہ احکام کا رد	5	375/8		
667/3	خود ساختہ شریعت سازی کا رد	6	735/8	مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سینہ صاف رکھیں	31
686/3	بیٹیوں کو قتل کرنے کی شقاوت	7	826-836	مسلمین کا لفظ ہمارے نبی ﷺ کے تبعین کے ساتھ خاص ہے	32
49/5	کن مشرکوں کو چار ماہ کی مہلت دی گئی	8	8		
70/5	مشرکین کو دارالاسلام میں آنے کی اجازت دینا	9	722/10	مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں	33
74/5	معاہدہ حدیبیہ کی پابندی اور خلاف ورزی کرنے والے	10	114/12	نیک مسلمانوں کے مصادیق	34
273/5	مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیہات	11	115/12	اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد مسلمانوں کی مدد کا ذکر کرنے کی ضرورت	35
338/5	مشرکین کا قرآن کو بدلنے کا مطالبہ	12		مشابہت	53
410/5	مشرکین کی خود ساختہ شریعت کی مذمت	13	362/9	کفار اور فساق کی مشابہت کے حکم کی تحقیق	1
46/6	مشرکین کا یہ کہنا کہ حضور ﷺ پر کوئی معجزہ نازل نہیں کیا گیا	14	363-369	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں مختلف علماء کی تحقیق	2
			9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
666/9	مشرکین کے معبودوں کی حاجت روائی نہ کرنے کے محامل	35	46/6	مشرکین کے فرمائشی معجزات پیش نہ کرنے کی وجوہ	15
382/10	مشرکین کے اعذار کا قبول نہ ہونا	36	102/6	مشرکین کے خود ساختہ شرکاء کا رد	16
438/10	زکوٰۃ نہ دینے پر مشرکین کی مذمت کی توجیہ	37		جن مذاق اڑانے والے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا	17
442/10	مشرکین کے کفر کی تفصیل	38	326/6		
472/10	مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول	39		اللہ کیلئے حصہ مقرر کرنے پر مشرکین کو زجر و توبیح	18
562/10	مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ	40	466/6		
670/11	سید مودودی کے نزدیک مشرک کی تعریف	41	520/6	مشرکین کی اونڈھی عقل	19
	مخلوق کو سمیع و بصیر، فاعل مختار اور قادر کہنے کا جواز اور ان کا شرک نہ ہونا	42	577/6	مشرکین کا افتراء	20
670/11			578/6	مشرکین کو ہدایت نہ دینے کی وجوہ	21
	سید مودودی کی تعریف سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا بھی مشرک ہونا	43	594/6	حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات سے مشرکین کے خلاف استدلال	22
671/11				مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب	23
674/11	مشرک کی صحیح تعریف	44	667/7		
674/11	شرک کرنے والوں کے متعدد گروہ	45	668/7	مشرکین کا آخرت میں بہرا ہونا	24
675/11	اسناد مجاز عقلی کی تعریف وغیرہ	46	697/7	مشرکین سے کس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا	25
	اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت نہ کرنے پر مشرکین کو ملامت	47	885/7	مشرکین کے تکبر کی وجوہ	26
458/11			889/7	مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجوہ	27
514/11	مشرکین کے ظن کا باطل ہونا	48	586/8	مشرکین کو تنبیہ	28
	مشرکین کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی وضاحت	49	819/8	مشرکین کے شبہات کے جوابات	29
515/11			864/8	مشرکین کے مددگار بننے کی ممانعت کے محمل	30
529/11	مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی حجت کی تقریر	50		مشرکین کا رد	31
	مشرکین کا نبی علیہ السلام سے متنفر ہونا اور اعراض کرنا	51	61/9		
396/12			117/9	مشرکین کی ناشکری اور ان کا ظلم	32
	مشرکین کے اس زعم کا رد کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا	52	623/9	مشرک اور موحد میں بہتر کون؟	33
238/12			635/9	فرشتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین کا رد	34

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
224/2	حکم ربانیین	22		آیا مشرکین کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لایا یا نہیں؟	53
499/2	بینات + زبر + کتاب منیر	23	239/12		
536/2	مرابطہ	24		مشکل الفاظ	56
566/2	نحلہ	25	436/1	اُمیٰ اور اُمیۃ	1
694/2	جبت + طاغوت	26	557/1	خَنِيفٌ	2
63/2	زائفین	27	882/1	سَكِينَةٌ	3
614/2	قنطار	28	629/1	سُوءٌ	4
756/2	دیت	29	938/1	طَاغُوتٌ	5
34/3	بہیمۃ الانعام	30	629/1	مُحْشَاءٌ	6
53/3	وما اهل لغير الله به	31	416/1	عَهْدُوْا مِثَاقَ	7
54/3	المنخنة	32	875/1	قَبْضٌ	8
55/3	الموقودة	33	875/1	بَسَطٌ	9
55/3	المتردية	34	752/1	بَيِّنَاتٌ	10
56/3	النطيحة	35	630/1	نَعَقٌ	11
146/3	ارض مقدسه كامصدق	36	437/1	وَيْلٌ	12
147/3	جبارين كا بيان	37	184/1	اسْتَعَانَتْ	13
194/3	سخت	38	397/1	اَلْ	14
257/3	فتنه	39	511/1	كُنْ فَيَكُوْنُ	15
338/3	البحيره + السائبه	40	551/1	مِلَّتْ	16
339/3	الوصيله + الحامى	41	560/1	صِبْغَةَ اللّٰهِ	17
398/3	قرن	42	630/1	عَنْبَرَدٌ	18
537/3	بسل	43	800/1	قُرْءٌ	19
604/3	مستقر + مستودع	44	219/2	لِيَّ	20
629/3	وحى + زخرف القول + غرور	45	222/2	بَشْرٌ	21

صفحة نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحة نمبر	عنوان	نمبر شمار
338/5	لننظر	69	632/3	لتصفي	46
388/5	تميمه + توله	70	701/3	نسك	47
485/5	و كبل	71	35/4	المص	48
497/5	تهديد + تبشير	72	52/4	معاش	49
499/5	مستقر + مستودع	73	131/4	مختار كل	50
533/5	جدال	74	135/4	ضعف	51
580/5	الخزي	75	345/4	شمايت	52
591/5	ياويلتي	76	376/4	الطيبات + الخبائث	53
603/5	سجيل	77	406/4	خلف + خلف	54
608/5	بقية الله	78	436/4	تفكر	55
629/5	سعاد + شقاوت	79	547/4	وجل	56
629/5	زفير + شهيق	80	638/4	نفل + تنفيل + سلب	57
740/5	السوء + الفحشاء + المخلصين	81	121/5	اخبار + رهبان	58
42/6	صنوان + صنو	82	127/5	كنز	59
43/6	تعجب + اغلال	83	235/5	الدوائر + دائرة السوء	60
96/6	طوبى	84	235/5	قربات + صلوات	61
118/6	محو + اثبات	85	266/5	التائبون	62
133/6	العزير الحميد	86	267/5	العابدون + الحامدون	63
165/6	جبار + عنيد	87	268/5	السائحون + الراكعون + الساجدون	64
166/6	وراء	88		الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر	65
170/6	برزوا	89	269/5		
261/6	رواسي	90	270/5	الحافظون لحدود الله	66
261/6	موزون	91	275/5	اواه	67
269/6	صلصال + الحماء + مسنون	92	324/5	قدم صدق	68

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
301/7	غی	117	272/6	الجان + نار السموم	93
319/7	لد + ركز	118	304/6	متوسمین	94
799/7	المنكر + یسطون	119	324/6	عضین	95
339/7	سر + اخفی	120	326/6	اصدع	96
391/7	یوم الزینت	121	376/6	مواخر	97
435/7	نسف	122	413/6	طاغوت	98
436/7	العوج + امت	123	477/6	مفرطون	99
778-786 7	تلك الغرائق	124	518/6	حفدة	100
597/7	فرقان	125	576/6	الحداد + عجم	101
656/7	فظن ان لن نقدر علیه كى تفسیر	126	685/6	قضی	102
669/7	الفرع الاكبر	127	695/6	اوابین	103
670/7	السجل	128	712/6	قفا	104
882/7	غمره	129	721/6	تصریف + تذكّر	105
709/7	مرید + صادر	130	769/6	دلوك	106
739/7	تفت	131	810/6	مسحور + بصائر + استفزاز + لفیف	107
755/7	منسك + منجبتین	132	62/7	فتية	108
758/7	القانع + المعتر	133	101/7	سرادقها	109
764/7	الصوامع + البیع + صلوات	134	114/7	الهشیم	110
885/7	نكوص + سمر + هجر	135	115/7 311/7	الباقيات الصالحات	111
368/7	ازر	136	135/7	موبق	112
131/8	ایامی	137	149/7	حقبا	113
146/8	سراب + البقیعه	138	796/7	منسك	114
220/8	تفیظ + زفیر	139	152/7	سرب	115
224/8	بوراً	140	184/7	تاویل	116

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
606/9	اوبی	165	231/8 253/8	حجر امحجور + مرج	141
882/9	غول بیابان	166	232/8	ہباء منشورا	142
612/9	جفان + الجواب + قدور + راسیات	167	236/8	مہجور	143
624/9	فتاح + علیم	168	241/8	الرس	144
625/9	کافہ	169	268/8	غراما + اسراف	145
630/9	اسروا	170	269/8	اقتار	146
631/9	مترفین	171	305/8 575/8	ثعبان + حیة + جان	147
643/9	تناوش	172	364/8	صدیق + حمیم	148
813/9	جبل	173	512/8	افاک + ائیم	149
693/9	نذیر	174	629/8	طیر	150
716/9	العزیز + الرحیم	175	689/8	عفریت	151
718/9	غفلت	176	782/8	اشد + استوی	152
719/9	مقمحون	177	860/8	علو + فساد	153
729/9	امام مبین	178	317/8	صلیب	154
730/9	ماکان ومایکون	179	872/9	زجرۃ	155
759/9	سبحان + تسبیح	180	190/9	مُنِیب	156
761/9	سلخ	181	267/9	لاتصمر	157
794/9	شغل + فاکھون	182	890/9	شجرۃ الزقوم	158
820/9	طمس + مسخ	183	323/9	ضَلال	159
905/9	یمین + یزفون	184	334/9	تتجافی + مضاجع	160
40/10	خُلُق + خُلُق + اختلاق	185	378/9	السط + خطاء + مغفرت + رحمت	161
49/10	فواق	186	459/9	قدراً مقدوراً	162
51/10	قط	187	576/9	وجیه	163
131/10	من شکله ازواج	188	851/9	ملکوت	164

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
189	طاغوت	207/10	213	استحوذ	793/11
190	قنوط	281/10 601/10	214	اول حشر	805/11
191	مقاليد	289/10	215	الجلاء	807/11
192	الازفة + كاظمين	338/10	216	دولة	815/11
193	صاعقة	465/10	217	الشح	826/11
194	فيض	471/10	218	الملك + القلوس + السلام + المؤمن +	
195	لاجرم	362/10		العزیز + الجبار	835/11
196	تفویض	363/10	219	المتكبر + الخالق + الباری + المصور	835/11
197	حرث	577/10	220	البيئات	738/11
198	ولى حميد	603/10	221	رجت + بست + هباء منبثا +	
199	اجتباء	563/10		السابقون	652/11
200	داحضة	571/10	222	اصحاب الميمنة + اصحاب المشئمة	652/11
201	اقترات + شكر	589/10	223	سبقت	655/11
202	غيث	601/10	224	ثلة	655/11
203	اهدى	674/10	225	موضونة	656/11
204	مستمسكون	672/10	226	ولدان + غلمان	657/11
205	بصيرت	805/10	227	اكواب + اباريق + كاس + معين	658/11
206	خليل	718/10	228	حطام + تفكهون + مفرمون +	
207	ويل + اصرار	793/10		محرومون	379/11
208	جرح + اجتراح	807/10	229	مقوين	380/11
209	اثارة	43/11	230	مواقع النجوم	682/11
210	تسألهم	139/11	231	روح + ريحان	703/11
211	ان توليتم	157/11	232	انسان + بيان	605/11
212	يحادون	776/11	233	النجم	606/11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
402/11	متین + ذنوب	257	607/11	طفیان	234
410/11	رق	258		الانام + الاکمام + الحب + العصف +	235
435/11	البيت المعمور	259	609/11	الريحان	
437/11	البحر المسجود	260	609/11	آلاء	236
453/11	ريب المنون	261	622/11	شواظ + تحاس	237
454/11	احلام	262	623/11	وردة + دهان	238
456/11	تقول	263	632/11	ذواتا افنان	239
459/11	المسيطر	264	642/11	مقصورات	240
480/11	صاحب	265	642/11	رفرف + عقرى	241
481/11	غوى	266	582/11	مهطعين	242
482/11	هوى	267	599/11	مقعد صدق	243
521/11	اللمم	268	239/11	يد الله	244
570/11	أمنى + شعرى	269	263/11	حميت	245
477/11	ضلال	270	316/11	امر مريج	246
753/12	كبد	271	318/11	اصحاب الرس	247
754/12	لبد	272	338/11	نقبوا + لغوب	248
755/12	اقتحم + العقبة	273	335/11	اواب + حفيظ	249
783/12	حسنى	274	353/11	جبر	250
787/12	تردى	275	359/11	ذات الحبک	251
784/12	يسرى	276	360/11	الخرامون	252
805/12	ضحى + سجنى	277	385/11	ايد	253
822-828 12	ضال	278	389/11	الا ليعبدون	254
828/12	عائل	279	399/11	رزق	255
869-871 12	التين + الزيتون	280	401/11	قنوت	256

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
281	طور سینین	871/12	304	انكدرت	687/12
282	طغیان	883/12	305	العشار	588/12
283	حنفاء	907/12	306	وحوش	588/12
284	العادیات صباحا	942/12	307	تسجیر	589/12
285	الموریات قدحا	943/12	308	الخنس + الكنس	593/12
286	المغیرات صباحا	944/12	309	ضنین	602/12
287	فائرن به نقعا + فوسطن به جمعا + الکنود	944/12	310	سفرة + كرام	577/12
288	بعثر	946/12	311	راجفة	550/12
289	هاویة	953/12	312	حافرة + نخرة	551/12
290	العصر	969/12	313	زجرة + ساهرة	552/12
291	الهمزة + اللمزة	976/12	314	اخرة + اولی	555/12
292	الحطمة	977/12	315	اغطش	558/12
293	مغافیر	106/12	316	دحها + مرعها	559/12
294	مسلمات + مؤمنات + قانتات و غیرها	118/12	317	ارساها + طامة	560/12
295	خناس	1054/12	318	اوتاد	507/12
296	المرعی	688/12	319	نوم + سبات	508/12
297	غشاء + احوی	689/12	320	معاش	510/12
298	مطففین	619/12	321	وهاج + ثجاج	511/12
299	سجین	626/12	322	مرصاد	516/12
300	اساطیر	627/12	323	احقاب	517/12
301	رحیق مختوم + تسنیم	630/12	324	برد	526/12
302	ابرار	612/12	325	غساق	527/12
303	کورت	586/12	326	التاویلات النجمیه	511/12
			327	ویل	479/12

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
652/12	اخذود	352	482/12	شور + قصر + جمالة + صفر	328
636/12	اذنت	353	429/12	هل	329
638/12	كادح	354	431/12	نطفه + امشاج + سبيل	330
639/12	بحور	355	446/12	عبوس + قمطير	331
640/12	شفق + وسق + اتساق	356	450/12	سندس + استبرق	332
544/12	ناشطات	357	449/12	سلسبيل	333
548/12	السابحات + السابقات	358	415/12	ناضرة	334
549/12	المديرات	359	417/12	باسرة + فاقرة	335
373/12	نقر + ناقور	360	418/12	كلا + تراقى + راق	336
342/12	قول ثقيل	361	420/12	اولى لك فاولى	337
347/12	تبتل	362	984/12	ابابيل + سجيل + عصف	338
184/12	عتل + زيم	363	1004/12	كوثر	339
191/12	ساق	364	1006/12	شانى + ابتر	340
195/12	استدراج	365	732/12	مرصاد	341
210-12	عيشة راضية	366	735/12 506/12	كلا	342
229/12	هلوعاً + جزوعاً	367	149/12	سحق	343
232/12	حق معلوم	368	165/12	خلق + خلق	344
240/12	اجداث + خصب	369	737/12	دكا دكا	345
281/12	وحى + نصر + جد	370	666/12	طارق	346
288/12	صعداً	371	667/12	النجم الثاقب	347
1048/12	نفت	372	672/12	دافق + صلب + ترائب	348
	مشوره	57	675/12	سرائر + ابتلاء	349
336/1	اللہ تعالیٰ کی طرف مشورہ کی نسبت کا شرعی حکم	1	677/12	قول فصل	350
429/2	مشورہ کا معنی	2	651/12	شاهد + مشهود	351

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
276/10	راحت اور مصیبت میں اللہ سے رابطہ رکھنا	14	429/2	مشورہ کے متعلق احادیث	3
605-610	مؤمنوں کے مصائب کا ان کیلئے کفارہ ذنوب ہونا	15	430/2	رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم	4
10			430/2	کس سے مشورہ لیا جائے؟	5
737/11	مصیبت کے وقت مسلمانوں کا طریقہ	16	685/8	مشورہ کی اہمیت	6
865/12	ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں	17	617/10	مشورہ کرنے کے متعلق احادیث	7
	مصارف زکوٰۃ	59		نبی ﷺ میں اور آپ ﷺ کے اصحاب کا	8
169/5	فقیر کا معنی	1	618/10	باہمی مشاورت سے اہم کاموں کو انجام دینا	
170/5	مسکین کا معنی	2		مصیبت	58
170/5	فقیر اور مسکین کے معنی میں مذاہب ائمہ	3	410/2	مصیبت کے متعلق ایک نظریہ	1
171/5	والعالمین علیہا کا معنی اور اس کے شرعی احکام	4	398/2	مصائب میں ثابت قدمی	2
172/5	مؤلفۃ القلوب کی تعریف اور ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ دینا	5	468/3	مصیبتیں اور تکلیفیں بندوں کو اللہ کی طرف راجع کرنے کے لیے نازل ہوتی ہیں	3
174/5	غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ میں حصہ	6	522/3	مصیبت نل جانے کے بعد اللہ کو بھول جانا	4
	غلاموں، مقروضوں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کیلئے تملیک ضروری نہیں	7	571/3	انبیاء پر مصیبتوں کے نازل ہونے کی وجوہات	5
174/5			266/4	اللہ پر ایمان کامل کی وجہ سے مصائب کا آسان ہونا	6
	تمام مصارف زکوٰۃ میں تملیک کے ضروری ہونے پر احناف کے ادلہ	8	334/5	نزول مصیبت کے وقت مسلمانوں کی فکر اور عمل کیا ہونا چاہیے	7
176/5			346/5	مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا	8
177/5	تملیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ	9	347/5	مصائب اور شدائد میں صرف اللہ کو پکارنا	9
178/5	ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ادائیگی زکوٰۃ میں تملیک کا رکن نہ ہونا	10	813/5	مصیبت میں گھر جانے کا معنی	10
179/5	آخری چار مصارف میں تملیک کا اعتبار نہ کرنے کا ثمرہ	11	366/8	انسان کا مصائب میں گھر کر اللہ کی طرف رجوع کرنا	11
179/5	زکوٰۃ میں مقروضوں کا حصہ	12	717/8	مصیبت زدہ کی دعا کا قبول ہونا	12
179/5	زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا حصہ	13	318/8	اہل معرفت پر مصائب کا آسان ہونا	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
427/2	معاف کرنے کی فضیلت میں قرآنی آیات	2	180/5	زکوٰۃ میں مسافروں کا حصہ	14
427/2	معاف کرنے کی فضیلت میں احادیث طیبہ	3		کسی ایک صنف کے ایک فرد پر زکوٰۃ تقسیم کرنے کا جواز	15
354/4	اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے معاف کرنے میں فرق	4	180/5		
	عین حال معصیت میں اللہ تعالیٰ کا معاف فرما دینا	5		مصاہرت	60
45/6			254/8	صہر کا معنی	1
411/7	اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ معاف فرمانا	6	255/8	اصہار کے مصداق	2
412/7	بار بار گناہ بخشنا	7	255-260 8	نکاح اور زنا سے حرمت مصاہرت	3
626/10	اپنے ماں کے حق اور عزت کے حق کو معاف کرنا	8		مضطر	61
	فتح مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کو رسول اللہ ﷺ کا معاف کر دینا	9	716/8	مضطر کے مصداق کے متعلق اقوال	1
175/12			717/8	مضطر کی دعا	2
	رسول اللہ ﷺ کا ہبار بن الاسود کو معاف کر دینا	10	719/8	مضطر کی فریادری	3
178/12				سورۃ المطففین	62
	فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کو رسول اللہ ﷺ کا معاف کر دینا	11	615/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1
176/12				سورۃ المطففین کی سورۃ الانقطار کے ساتھ مناسبت	2
	فتح مکہ کے بعد عکرمہ بن ابی جہل کو رسول اللہ ﷺ کا معاف کر دینا	12	615/12		
176/12			616/12	سورۃ المطففین کے مشمولات	3
	فتح مکہ کے بعد (طائف میں) وحشی کو رسول اللہ ﷺ کا معاف کر دینا	13	632/12	سورۃ المطففین کا اختتام	4
177/12				سورۃ المعارج	63
178/12	منافقوں اور دیہاتیوں سے درگزر کرنا	14			
	معجزہ	65	218/12	سورۃ کا نام	1
	معجزہ نبی کے اختیار میں ہے یا نہیں؟	1	218/12	سورۃ المعارج کے مشمولات	2
447/3			240/12	سورۃ المعارج کا اختتام	3
626/3	فرمائی معجزہ نہ دکھانے کی وجہ	2	223/12	معارج کا لغوی و عرفی معنی	4
237/4	تمام نبی حامل معجزہ ہیں	3		معاف کرنا	64
	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزہ کا دیگر انبیاء کے معجزات سے امتیاز	4			
237/4			373/2	معاف کرنے کی فضیلت	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	معذور	67	238/4	معجزہ کی تعریفات	5
224/5	معذورین کی اقسام	1	238/4	معجزہ کی شرائط	6
224/5	جہاد اور نماز میں معذورین کے متعلق احادیث	2	239/4	افعال غیر عادیہ کی اقسام	7
	معصوم	68	239-243 4	معجزات، انبیاء کے اختیار میں ہیں یا نہیں	8
122/5	نبی کے سوا، کسی بشر کا قول خطا سے معصوم نہیں	1	243/4	معجزات کے صدور میں علماء دیوبند کا مؤقف	9
	ارتکاب معصیت محبت رسول و خدا کے منافی ہے	2	244/4	معجزات کے صدور میں علماء اہل سنت کا مؤقف	10
69/7				ہر نبی کا معجزہ اس چیز کی جنس سے ہوتا ہے	11
153-157 7	مصیبت اور بیماری کو بیان کرنا	3	257/4	جس چیز کا اس زمانہ میں چرچا ہو	
	معراج النبی ﷺ	69		وہ معجزات جو حضور علیہ السلام سے صادر ہوئے اور جو آپ کی ذات مبارکہ میں ہیں	12
617-620 6	خواب میں معراج ہونا	1	396/4	معجزات کا مقدر ہونا	13
622/6	مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف	2	595/4	مشرکین کا یہ کہنا کہ آپ ﷺ پر کوئی معجزہ نازل نہیں کیا گیا	14
626/6	رسول اللہ ﷺ کو بعض نشانیاں دکھانا	3		مشرکین کے فرمائشی معجزات پیش نہ کرنے کی وجوہ	15
628/6	رات کے قلیل حصہ میں معراج	4	46/6	آپ ﷺ کو قرآن کا معجزہ کیوں دیا گیا؟	16
629/6	واقعہ معراج کی تاریخ	5	46/6 117/6	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چند دیگر معجزات	17
629/6	واقعہ معراج کی ابتداء کی جگہ	6	748/6 795/6	معجزات کے مقدر نبی ہونے کی بحث	18
630/6	معراج کی احادیث میں تعارض	7	47/6	معجزہ کا حصول نبی کے اختیار میں نہیں	19
630/6	واقعہ معراج کا مربوط بیان	8	47/6	معجزہ کا دکھانا نبی کے اختیار میں ہے	20
	شب معراج حضور ﷺ نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہ تھا	9	798/6	مشرکین کے فرمائشی معجزات عطا نہ کرنے کی وجہ	21
750/6					
488/11	دنا فتدلی کی ضمیروں کا مرجع	10	99/9		
491-495 11	فکان قاب قوسین کا معنی	11	99/9		
495/11	فاوحی الی عبدہ ما اوحی کی تفسیر	12			
496/11	شب معراج حضور ﷺ نے اپنے رب کو	13	417/10		
506-511 11	سر کی آنکھوں سے دیکھا یا قلب کی آنکھوں سے؟			معرفت	66
			595/3	معرفت کے جھوٹے دعویدار	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	مغفرت	74	499/11	سدرۃ المنتہیٰ کی تعریف وغیرہ	14
	ان مسلمانوں کی مغفرت کی صورتیں جن کی نیکیاں گناہوں سے کم یا ان کے برابر ہوں	1	500/11	جنت المآویٰ کی تعریف	15
50/4			500/11	سدرہ کوڈھا پینے والی اشیاء	16
337-342	مغفرت ذنب کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کرنا (اعتراض و جواب)	2	501/11	شب معراج حضور ﷺ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر دلیل	17
6					
364/8	مومنوں کی مغفرت اور اس پر کفار کی حسرت	3		حضور ﷺ نے شب معراج جن نشانیوں کو دیکھا	18
467/8	خطا کاروں کے لیے استغفار	4	502/11		
283/9	اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت	5	504/11	دیدار الہی میں حضور ﷺ کی خصوصیات	19
690/9	مغفرت کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہونا	6		معاذ	70
77/11	فساق مؤمنین کی مغفرت پر دلائل	7	861/8	معاذ کے متعلق مختلف اقوال	1
113/11 126/11	ایمان لانے سے سابقہ گناہوں کی مغفرت	8		معاملہ	71
	آپ ﷺ کی مغفرت کے حصول کا سبب کیا ہے؟	9	210/10	معاملات میں صحیح اور احسن افعال	1
201/11			550/10	نزاعی اور اختلافی امور کو اللہ پر چھوڑ دینا	2
203-222	رسول اللہ ﷺ کی طرف مغفرت ذنب کی نسبت کی توجیہات	10		حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ	72
11				حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دعائیہ کلمات	1
225/11	رسول اللہ ﷺ کی مغفرت کلی کے اعلان کا آپ کی عظیم خصوصیت ہونا	11	286/11	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے باوجود اسلام سے خارج نہ ہونا	2
227-230	عشرہ مبشرہ، صاحب یاسین، اصحاب حدیبیہ اور اصحاب بدر کی مغفرت سے رسول اللہ ﷺ کی مغفرت کی خصوصیت پر معارضہ کا جواب	12	284/11		
11				مغضوب	73
	گناہگار مسلمانوں کی عدم مغفرت پر معتزلہ کا استدلال اور اس کا جواب	13	214/1	مغضوب کا معنی	1
297/12			214/1	مغضوب علیہم کی تفسیر	2
	مغرب	75	214/1	مغضوب کے معنی بیان کرنے میں علماء کی لغزش	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
729-732	مکہ کی زمین اور اس کے مکانوں کو فروخت کرنا اور کرائے پر دینا	12	239/12	مغرب کی توجیہ	1
7				مفتوحہ علاقے	76
734/7	مکہ میں گناہ کا عذاب	13		ان مفتوحہ علاقوں کے محامل جہاں صحابہ نہیں پہنچے تھے	1
761/8	شہر مکہ کی اہمیت و خصوصیت	14	413/9		
104/9	کفار مکہ کے عذاب میں تاخیر کی وجہ	15		مقابلہ	77
306/9	دو اشکالات کے جوابات	16	646/4	دشمن سے مقابلہ کی تمنا کی ممانعت	1
753/9	مکہ کے کافروں کے لیے مقام عبرت	17	647/4	دشمن اسلام کے مقابلہ میں ثابت قدمی	2
47/10	اہل مکہ کو نزول عذاب سے ڈرانا	18		مقتول	78
342/10	کفار مکہ کو دنیا کے عذاب سے ڈرانا	19	711/6	مقتول کے وارث کی قوت کا بیان	1
423/10	کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت	20	711/6	ولی مقتول کا تجاوز نہ کرنا	2
544/10	مکہ کو ام القریٰ فرمانے کی توجیہ	21		مقام محمود	79
656/10	کفار مکہ کی شقاوت اور ایذا رسانی	22	775/6	مقام محمود کی تحقیق	1
677/10	کفار مکہ کی بت پرستی کے خلاف اسوۂ ابراہیم علیہ السلام سے استدلال	23		مکہ مکرمہ / اہل مکہ	80
			571/1	مکہ کب سے حرم ہے؟	1
678/10	اہل مکہ میں رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور ان کا کفر و استہزاء	24	265/2	مکہ مکرمہ کو "مکہ" اور "بکہ" کہنا	2
			589/3	مکہ المکرمہ کا ام القریٰ ہونا	3
101/11	کفار مکہ کو عبرت دلانے کے لیے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کی قوم کا حال بیان کرنا	25	189/6	اہل مکہ پر نعمتیں اور ان کی ناشکری	4
			189/6	کفار مکہ کا شرک	5
108/11	ان کو عبرت دلانا	26	195/6	مکہ کو امن والا بنانے کی دعا پر اعتراض کا جواب	6
			204/6	مکہ کو حرم قرار دینے کی وجوہ	7
360/11	سیدنا محمد ﷺ اور قرآن مجید کے متعلق کفار مکہ کے مختلف اقوال	27	242/6	کفار مکہ کو زجر و توبیح	8
			590/6	کفار مکہ پر بھوک اور خوف مسلط کرنا	9
461/11	کفار مکہ کے مطلوبہ معجزات محض ضد بازی اور کٹ جتنی کے لیے تھے	28	795/6	کفار مکہ کی رسول اللہ ﷺ کو پیشکش	10
747/12	مکہ مکرمہ کی فضیلت میں آیات و احادیث	29	528/7	کفار مکہ کو چھپی قوموں کے عذاب سنانا	11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
860/11	سورة الممتحنة کا اختتام	3	872/12	شہر مکہ کی قسم کھانے کی توجیہ	30
	منت مانگنا	88	155/12	کفار مکہ کو دنیاوی عذاب سے ڈرانا	31
	دیکھئے ”15: نذر“ صفحہ 267	1		مکس	81
	منطق	89	125/7	مکس کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
628/8	نطق و منطق کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	127/7	مکاس کی مذمت میں احادیث	2
	مناظرہ / مباحثہ	90		مکڑی	82
941/1	مناظرہ و مباحثہ کے آداب و احکام	1	80/9	مکڑی کے گھر کا سب سے کمزور ہونا	1
675/3	مناظرہ کی اصل	2	81/9	غار ثور کے منہ پر مکڑی کا جالا بنانا	2
380/7	مباحثہ میں فریق مخالف پر سختی کرنا	3	82/9	مکڑی کے جالوں کے متعلق احادیث	3
304/8	مباحثہ میں اشتعال میں نہ آنا	4		ملت	83
	اللہ کے وجود اور اس کی توحید کے متعلق	5	578/1	ملت کا معنی	1
300/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مباحثہ		578/1	ملت ابراہیم سے انحراف کا حماقت ہونا	2
	اہل کتاب کے ساتھ بحث کرنے میں سختی اور	6		ملائکہ	84
94/9	زہمی کرنے کے محل			دیکھئے ”22: فرشتہ“ صفحہ 194	1
951/9	جب دلائل متعارض ہوں تو توقف کیا جائے	7		ملحد	85
	منافق	91		دیکھئے ”71: الحاد“ صفحہ 68	1
	منافقوں کا اللہ اور رسول اللہ ﷺ کو دھوکہ	1		سورة الملک	86
285/1	دینا		134/12	سورة کا نام	1
286/1	منافقین کا مرض اور مرض کی تعریف	2	134/12	سورة الملک کی فضیلت میں احادیث و آثار	2
292/1	منافقین کا اپنے فساد کو اصلاح کہنے کی وجہ	3	135/12	سورة الملک کے مشمولات	3
293/1	عہد رسالت سے آج تک فساد کو اصلاح کہنا	4	159/12	سورة الملک کا اختتام	4
298/1	منافقین کے احوال کی امثلہ	5		سورة الممتحنة	87
	عہد رسالت کے بعد منافقین کا وجود یا عدم	6	837/11	سورة کا نام اور زمانہ نزول	1
300/1	وجود		838/11	سورة الممتحنة کے مشمولات	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	منافقین کو رسول اللہ ﷺ کا نام لے کر مسجد سے نکالنا	26	412/2	منافقوں کی حسرت	7
245/5				حضور ﷺ کا فیصلہ نہ ماننے والے منافق کو	8
292/5	منافقوں کے شک میں پڑنے کی وجوہ	27	713/2	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کرنا	9
301/5	منافقین کی قرآن سے نفرت و بیزاری	28	788/2	منافقوں کا چوری کرنا	10
497/5	منافقین کے سینہ موڑنے کے محامل	29	798/2	چوری کرنے والے منافق کا انجام	11
	منافقوں کو عذاب نہ دینے پر ایک اشکال کا	30	829/2 833/2	منافقوں کا فریب دینا	12
408/9	جواب		836/2	منافق کا مذہب ہونا	13
	منافقوں سے درگزر کرنے کے حکم کا منسوخ ہونا	31	155/5	منافقوں کی دو حالتوں کی تفصیل	14
509/9				منافقین کا نبی ﷺ کو "کان" کہنا اور اس پر اللہ کا رد کرنا	15
	منافقین کو قتل کرنے اور مدینہ بدر کرنے کی سزا کیوں نہیں دی گئی؟	32	181/5	نبی ﷺ کو منافقین کا علم عطا فرمایا جانا	16
568/9			183/5	منافقین کی پہلے زمانہ کے کفار سے مشابہت	17
	منافقوں کا حضور ﷺ سے اذیت ناک کلام کرنا	33	188/5	سابقہ قوموں کے عذاب سے منافقوں کو نصیحت فرمانا	18
573/9				منافقوں اور مومنوں میں تقابل	19
172/11	اللہ تعالیٰ کا منافقین کے نفاق کا پردہ چاک فرمانا	34	189/5	منافقوں کا کلمہ کفر	20
173/11	رسول اللہ ﷺ کو منافقین کا علم تھا یا نہیں؟	35	190/5	منافقین کو غنی کرنے کی تفصیل	21
900/11	منافقوں کا مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا	36	198/5	اللہ سے عہد کر کے اس کو توڑنے والا منافق	22
901/11	منافقوں کا مسلمانوں سے جھگڑا کرنا	37	200/5	غزوہ تبوک کے بعد منافقین کو کسی غزوہ میں شرکت سے ممانعت کی توجیہ	23
902/11	منافقین کا شعار جھوٹ بولنا ہے	38	201/5	منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت کا	24
902/11	منافقوں کا اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنانا	39	216/5	شان نزول	25
	منافقوں کے ایمان اور ان کے دلوں پر مہر لگانے کی توجیہ	40	217/5	منافقین سے ترک تعلق کا حکم	
903/11			231/5	مدینہ سے باہر کے منافقین اور ان سے متعلق	
	منافقوں کو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے شہتیر کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجوہ	41	243/5	اعتراضات کے جوابات	
903/11					
904/11	منافقوں کا طلب مغفرت سے انکار کرنا	42			
792/11	منافقین کے کرتوت اور ان کی سزا	43			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
342/8	انبیاء اور اولیاء کے حق میں موت کا نعمت ہونا	11	792/11	منافقین کی مذمت	44
735/8	موت کا قیامت صغریٰ ہونا	12	792/11	دنیا و آخرت میں منافقین کی جھوٹی قسمیں	45
324/9	اللہ تعالیٰ، ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے موت دینے کے محال	13	726/11	قیامت کے دن منافقوں کا جنت کے راستہ سے محروم ہونا	46
325/9	کیا ملک الموت تمام مخلوق پر موت طاری کرتے ہیں؟	14	242/11	منافقوں کا براگمان	47
326/9	ملک الموت پر موت آنا	15	243/11	منافقین کا غزوہ خیبر میں شرکت کیلئے اصرار کرنا	48
51/10	موت کی تمنا کی ممانعت	16		سورة المنافقون	92
52/10	اللہ سے ملاقات کے حصول کیلئے موت کی تمنا کا جواز	17	894/11	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1
223/10	حضور ﷺ اور کفار کی موت کا فرق	18	894/11	سورة المنافقون کا زمانہ نزول	2
224-227 10	حضور ﷺ کی موت قلیل وقت کے لیے ہے	19	895/11	سورة المنافقون کے مشمولات	3
328-331 10	دو موتوں اور دو حیاتوں کی تفسیر	20	908/11	سورة المنافقون کا اختتام	4
768/10	نیک آدمی کی موت پر آسمان وزمین کا رونا	21		موت	93
782/10	موت وجودی یا عدمی؟	22	328/1 139/12	موت کا معنی	1
323/11	موت کی سختیاں	23		مرکب کبیرہ کے بلا توبہ فوت ہونے والے کے لیے دائمی عذاب پر استدلال کا جواب	2
569/11	موت کی مختلف تعبیریں	24	438/1	مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا	3
	حضرت موسیٰ علیہ السلام	94	453/1	حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کرنا	4
410/1	زمین سے پانی نکالنا	1	453/1	وقت سے قبل موت آنا	5
883/1	آل موسیٰ کے باقی ماندہ تبرکات	2	873/1	موت کی تمنا کرنا	6
879/2	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا	3	477/2	موت سے مستثنیٰ رہنے والے افراد	7
	حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد عربی ﷺ تک کا زمانہ	4	499/2	موت کی دعا کرنا	8
247/4			868/5	ہر نفس کو موت	9
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پرورش، نکاح، نبوت اور فرعون کو تبلیغ	5	558/7	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی موت کی خبر	10
248/4			558/7		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے حصول علم کی درخواست کرنا	24	251/4	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات	6
174/7			252/4	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر	7
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست میں ادب کی وجوہ	25	253/4	فرعون کے دعویٰ خدائی کا رد	8
175/7				حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے تیس راتیں اور پھر دس راتیں مزید مقرر کرنے کی حکمت	9
	حضرت خضر علیہ السلام کا تعلیم دینے سے احتراز کرنا	26	291/4		
176/7			338/4	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گمراہی	10
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انصاف پسندی	27	338/4	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب	11
181/7			350/4	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے غصہ کی تلافی کرنا	12
279/7				حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرنا	13
345/7 872/7		29			
345/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین روانہ ہونا	30	354/4		
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگ کو دیکھنا	31	397/4	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے نیک لوگ	14
346/7			454/5 616/5	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	15
347/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ندا کو سننا	32			
348/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعلین اتارنے کا حکم	33	454/5	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا جادو نہ ہونا	16
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کرنا	34		حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بعض اولاد کا مصداق	17
354/7			457/5		
	فرعون کی طرف جانے کا حکم	35		حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی دعا کے دو محمل	18
363/7			458/5		
361/7	سانپ سے ڈرنا	36		فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کی توجیہ	19
366/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گہرہ وزارت کے لیے بھائی کی تخصیص	37	460/5		
367/7		38		حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالنا	20
368,369/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں	39	869/5		
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کی دریا میں سلامتی	40		حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو احکام دیئے گئے تھے یا نو معجزات	21
370/7			809/6		
370/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پہنچانا	41	143/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف	22
	فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت	42		حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات	23
371/7			160/7		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
297/8	منصب نبوت عطا فرمانا	62		حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پران کی آنکھیں	43
	سورۃ النمل کے قصص میں سے حضرت موسیٰ	63	371/7	ٹھنڈی کرنے کا احسان	
564/8	علیہ السلام کا پہلا قصہ		372/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات	44
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلی کو گھونسا مار کر	64	373/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں	45
582/8	ہلاک کرنا		373/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں پناہ	46
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے علاوہ دیگر	65	374/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت دینا	47
583/8	معجزات		375/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا دیا جانا	48
774/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی	66	375/7	فرعون کے ساتھ نرمی سے کلام کرنا	49
774/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے	67	377/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے خوفزدہ ہونا	50
777/8	میں ارشادات			حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل سے فرعون کا	51
776/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام	68		پریشان ہونا	
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے	69	381/7		
778/8	خالی ہونے کے محامل		395/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کا غالب آنا	52
779/8	دوسری عورتوں کا دودھ نہ پینے کی وجوہ	70	405,406	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رات کے وقت بنی	53
779/8	اکثر لوگوں کے نہ جاننے کے محامل	71	7	اسرائیل کو لے کر روانہ ہونا	
786/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور علم دینے کا معنی	72	410/7	طور کی دائیں جانب جانا	54
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے فضائل اور	73	415/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عجلت کے ساتھ جانا	55
	ان کا جنت میں ہمارے نبی ﷺ کے نکاح			حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بچھڑے کی	56
780/8	میں ہونا		417/7	عبادت کرنا	
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر میں دخول کے	74	293/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے کی حکمت	57
787/8	وقت لوگوں کا غافل ہونا			حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا زیادہ قوی	58
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول "میں مجرموں	75	293/8	ہونا	
789/8	کا مددگار نہیں بنوں گا" کی تشریح		294/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا	59
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اسرائیلی کو کھلا	76	296/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ذنب کی نسبت	60
790/8	ہوا گمراہ کہنے کی وجہ		296/8 298/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناشکری کا الزام	61

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
352/10	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے بعض حصہ کا پورا نہ ہونا	92	790/8	اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبار کیوں کہا؟	77
354/10	حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے کافروں میں مماثلت	93	792/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنا	78
382/10	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی دنیا میں نصرت	94	793/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر جانا	79
691/10	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرنے کے مقاصد و فوائد	95	799/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جانا	80
765/10	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ماجرہ	96	803/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام اللہ سننے کی کیفیت	81
866/11	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی اذیتوں کی تفصیل	97	804/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہنے کی خصوصیت	82
595/11	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر قصہ	98	810/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے	83
382/11	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ کی نشانیاں	99	811/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے تسلی دے کر فرعون کی طرف بھیجنا	84
553/12	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ معرکہ کا قصہ	100	812/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچانا	85
	مواخذہ	95	309/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کو رسیاں اور لائٹھیاں پہلے ڈالنے کا حکم دینا	86
1024/1	دل کے افعال پر مواخذہ	1	309/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہونا	87
1027/1	تکلیف مالا یطاق	2	324/8	سمندر پر عصا مارنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات	88
1030/1	خطا، نسیان اور جو کام جبراً کرائے جائیں ان پر مواخذہ	3	949/9	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	89
1023/1	ہم اور عزم کی تحقیق	4	967/9	حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت آدم علیہ السلام کا مباحثہ	90
1022/1	خواطر قلب کی تکلیف کا منسوخ ہونا	5			
333/4	فرائض و واجبات کے ترک پر مواخذہ	6			
	موشی	96	345/10	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اسرار و رموز	91

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
571-578 2	مہر کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف	7		دیکھئے "1: جانور" صفحہ 100	1
614/2	مہر کی اکثر مقدار	8		مولوی	97
614/2	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زیادہ مہر رکھنے سے منع کرنا	9	115/12	مولیٰ کا معنی	1
616/2	خلوت صحیحہ کی وجہ سے کامل مہر کا وجوب	10	116/12	لفظ مولوی کا معنی اور اس کے مواضع استعمال	2
617-619 2	باپ کی منکوحہ سے بیٹا کا نکاح	11		موالات	98
630/2	مہر کا مال ہونا	12		کفار سے موالات کی ممانعت میں قرآن	1
797/8	خدمت اور کسی کام کو مہر قرار دینا	13	843/11	کی آیات	
511/9	خلوت صحیح سے مہر کا واجب ہونا	14		کفار سے موالات صوری اور مجرد معاملہ	2
513/9	خلوت صحیحہ کی تعریف	15	843/11	کرنے کا شرعی حکم	
	بغیر مہر کے محض ہبہ سے کوئی خاتون عام	16	843/11	موالات ہر کافر سے حرام ہے	3
516/9	مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے		843/11 850/11	موالات صوریہ کے احکام	4
515/9	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج کا مہر	17	844/11	مجرد معاملات کا حکم	5
	مہمان نوازی	100	849/11	موالات کی تقسیم اور اس کے احکام	6
586/5	اسلام میں مہمان نوازی کی حیثیت	1	849/11	میل طبعی کا حکم	7
587/5	مہمان نوازی کے متعلق احادیث	2		حربی غیر معاهد سے موالات کی حالی صورت	8
587/5	مہمان نوازی کے متعلق مذاہب فقہاء	3	851/11	بھی حرام ہے	
588/5	مہمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث	4	860/11	یہود کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت	9
	مہمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے	5		مہر	99
588/5	جوابات		567/2	مہر مقرر کرنا اسلام کی خصوصیت ہے	1
	مؤمن	101	568/2	مہر ادا کرنا یا نہ کرنا	2
937/1	مومنوں کو ظلمات سے نکالنا	1	568/2	رسول اللہ ﷺ کی ازواج کا مہر	3
939/1	مومن کے نور کی مثال	2	569/2	رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیوں کا مہر	4
625/1	مومن کے نزدیک محبوبین کے مدارج	3	570/2	قرآن اور مہر	5
644/3	مومن کے زندہ ہونے کی مثال	4	570/2	حدیث اور مہر	6

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
682-690 9	ظالم، مقتصد اور سابق کی تفسیر	23	707/4	عہد رسالت میں مؤمنین کی چار قسمیں	5
690/9	آخرت میں مومنوں سے غم دور کرنا	24	551-553	میں یقیناً مومن ہوں یا میں انشاء اللہ مومن ہوں کہنا	6
881/9	مومنوں کے متعلق اللہ کی بشارتیں	25	4		
886/9	مومن کا اپنے واقف کافر کو دوزخ میں دیکھنا	26	509/5	مومن کیلئے مصیبت اور راحت دونوں کا خیر ہونا	7
490/10	”میں انشاء اللہ مومن ہوں“ یا ”میں بالیقین مومن ہوں“ کہنا	27	530/5	شریعت میں مومن کی تکریم اور کافر کی تذلیل مطلوب ہے	8
607/10	مومنوں کے مصائب کا ان کیلئے کفارہ ذنوب ہونا	28	77/6	مومنوں کے اخروی احوال	9
906/11	مومنوں کی عزت کا معنی	29	100/6	بعض عصاۃ مؤمنین کا آیات و وعید کے عموم سے مخصوص ہونا	10
872/11	مومنوں کو دین کی مدد کرنے کا حکم دینا	30	179/6	مومن اور کھجور کے درخت میں وجوہ مشابہت	11
833/11	مومنوں کو ہدایت اور تقویٰ کی ترغیب	31	567/6	مومن کی پاکیزہ زندگی	12
725/11	قیامت کے دن مومنوں کے نور کی مختلف مقدار	32	569/6	مومن کی دنیا کی زندگی	13
726/11	قیامت کے دن مومنوں اور منافقوں کا معاملہ	33	803/7	یا ایہا الذین کا خطاب صرف مومنوں کو شامل ہے	14
728/11	ہر مومن کا صدیق اور شہید ہونا	34	883/7	مومنوں کی تحسین کی وجوہ	15
728/11	ہر مومن کے شہید ہونے کی وجوہ	35	551/8	ہدایت و بشارت کو مومنوں کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ	16
665/11	مومنوں کے لیے بشارتیں	36	771/8	مومنوں پر قرآن کو تلاوت کرنے کی تخصیص کی وجہ	17
291/11	مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں	37	823-826 8	کن مؤمنین اہل کتاب کو دو گنا اجر ملے گا؟	18
798/12	مؤمنین صالحین کے لیے بشارت	38	192/9	راحت و مصیبت میں مومن کے احوال	19
790/12	فساق مؤمنین کے متعلق اہل سنت کا موقف	39	235/9	مومنوں کی جزاء کا ذکر	20
872/12	کامل مؤمنین کا ارذل عمر سے محفوظ رہنا	40		مومنوں کی جانوں اور مالوں پر حضور ﷺ کو تصرف کا زیادہ اختیار ہے	21
911-916 12	مؤمنین صالحین کی فرشتوں پر فضیلت	41	379/9	مومنوں کی جانوں اور مالوں پر حضور ﷺ کو تصرف کا زیادہ اختیار ہے	22
919/12	مؤمنین صالحین کو جزاء میں دائمی جنت عطا کرنا	42	380/9	مومنوں کی جانوں اور مالوں پر حضور ﷺ کو تصرف کا زیادہ اختیار ہے	22
920/12	مؤمنین صالحین اور مؤمنین تائبین کو ایک سے زائد جنت عطا فرمانا	43			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	میثاق	106	709/12	مؤمنین کا آخرت میں اجر و ثواب	44
410/4	بنو آدم سے میثاق لینا	1		قیامت کے دن مومنوں کا اپنی رب کے دیدار سے شاد کام ہونا	45
411/4	میثاق لینے کا مقام	2	628/12		
412/4	کیا یہ میثاق کسی کو یاد ہے؟	3	583/12	مؤمنوں کے چہروں کی آخرت میں کیفیات	46
717/11	میثاق کے محال	4		سورۃ المؤمنون	102
	میزان	107	835/7	سورۃ کا نام، وجہ تسمیہ اور اس کی فضیلت	1
46/4	اعمال کے وزن کے متعلق مذاہب علماء	1	836/7	سورۃ المؤمنون کا زمانہ نزول	2
47/4	قرآن سے میزان کا ثبوت	2	837/7	سورۃ المؤمنون اور سورۃ الحج کی باہمی مناسبت	3
47/4	احادیث و آثار سے میزان کا ثبوت	3	838/7	سورۃ المؤمنون کے اہداف و مقاصد	4
	آیا صرف مسلمانوں کا اعمال کا وزن ہوگا یا کافروں کے اعمال کا بھی؟	4	921/7	سورۃ المؤمنون کی ابتداء و انتہاء میں مناسبت	5
50/4			922/7	اختتامی کلمات	6
591/7	میزان میں اعمال کا وزن کرنا	5		سورۃ المؤمن	103
592/7	میزان میں وزن کرنے کے متعلق احادیث	6	311/10	سورۃ کا نام مع وجہ تسمیہ	1
593/7	میزان میں وزن کرنے کی حکمتیں	7	311/10	المؤمن اور دیگر الحوامیم کے متعلق احادیث	2
594/7	میزان کے خطرہ سے حقوق العباد کی ادائیگی	8	312/10	سورۃ المؤمن کی سورۃ الزمر سے مناسبت	3
595/7	وزن کیے جانے والوں کی تین اقسام	9	312/10	سورۃ المؤمن کے مشمولات	4
914/7	موازن کے محال	10	426/10	سورۃ المؤمن کا اختتام	5
572/10	میزان کا لغوی و شرعی معنی	11		میت	104
607/11	میزان کے متعلق مفسرین کے اقوال	12		دفن سے پہلے اور دفن کے بعد میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا	1
607/11	وزن صحیح کرنے کے حکم کے تکرار کی توجیہ	13	872/5		
608/11	اعمال اور ان کی کیفیات کی وزن پر ایک اشکال کا جواب	14	660/6	گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب	2
				میقات	105
952-953 12	کفار اور مؤمنین کے اعمال کے وزن کی کیفیت	15	292/4	میقات کا معنی اور کسی کام کی مدت مقرر کرنا	1
	میلا و رسول ﷺ	108	293/4	شمسی اور قمری تاریخ مقرر کرنے کا ضابطہ	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے متعلق احادیث	2	369/3	محفل میلاد ایک بدعت حسنه ہے	1
619/12			67/3	یوم میلاد انبی صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کا عید ہونا	2
620/12	ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ملامت	3		میانہ روی	109
	سورۃ النبأ	4	275/3	عبادات و معاملات میں میانہ روی	1
499/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	703/6	میانہ روی کے متعلق احادیث	2
499/12	سورۃ المرسلات اور سورۃ النبأ میں مناسبت	2	271/8	اسلام میں میانہ روی کی تاکید	3
500/12	سورۃ النبأ کے مشمولات	3	283/9	معتدل لوگوں کا بیان	4
539/12	سورۃ النبأ کا اختتام	4			
502/12	عم یتساء لون کی لفظی تحقیق	5		ن	
503-505 12	عظیم خبر سے مراد	6		نام	1
506/12	کلاسہ علموں کو دوبار ذکر کرنے کے فوائد	7	492/4	غلط طریقہ سے نام لینا اور نام بگاڑنے کی مذمت	1
	نبوت/نبی	5	492/4	بچوں کا نام رکھنے کی تحقیق	2
587/1	نبی اور رسول کی تعریف	1	492/4	پسندیدہ اور ناپسندیدہ نام	3
588/1	نبی اور رسول کو مبعوث کرنے کی حکمتیں	2	493/4 131/8	عبدالنبی نام رکھنا	4
589/1	نبی کی شرائط	3		قیامت کے دن انسان کو ماں، باپ میں سے کس کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا؟	5
589/1	ہر نبی کا پیدائشی نبی ہونا یا نہ ہونا	4	495/4	محمد نام رکھنے کی فضیلت	6
590/1	نبیوں، رسولوں، کتابوں اور صحیفوں کی تعداد	5	497/4	منہ بولے جیٹوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارنے کا حکم	7
701/2	نبوت کا وہی ہونا	6		سورۃ الناس	2
719/2	نبی کی تعریف	7	375/9	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
879/2	علم نبوت پر اعتراض اور اس کا جواب	8		سورۃ الناس کی تکمیل	2
883/2	آپ علیہ السلام کی نبوت پر اللہ کی شہادت	9	1052/12		
646/3	حصول نبوت کا معیار	10	1055/12		
	حکماء کے نزدیک استحقاق نبوت کی صلات اور ان کا رد	11		ناپ تول	3
646/3				ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت	1
647/3	اہل حق کے نزدیک ثبوت نبوت کا منشاء	12	606/5		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
279/7	نبی کا لغوی و اصطلاحی معنی	33	647/3	نبی کی صفات لازمہ	13
517/7	بشر ہونا نبوت کے منافی نہیں	34	356/4	نبی کا معنی	14
521/7	آپ ﷺ کی نبوت پر کفار مکہ کے چھ اعتراضات	35	356/4	قرآن و سنت میں نبی پر امی کا اطلاق	15
818/8	نبیوں اور رسولوں کی تعداد	36	364/5, 342/5, 322/5, 339/5, 125/5, 144/5	آپ ﷺ کی نبوت کے صدق پر دلائل	16
783-786 8	نبی کو نبوت کب ملتی ہے؟	37		آپ ﷺ کی نبوت پر مشرکین کا تعجب اور اس کا ازالہ	17
817/8	حضور ﷺ کی نبوت پر دلائل	38	323/5	نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا ازالہ	18
356/9	نبی ﷺ کو ندا کرنے کی توجیہ	39	878/5	نبی کے بشر ہونے کی حقیقت	19
357/9	نبی کا لغوی و اصطلاحی معنی	40	524/5	نبی کی خصوصیات	20
357/9	نبی ﷺ کو نام کے بجائے صفات کے ساتھ ندا کرنا	41	525/5	قوت باصرہ	21
358/9	علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے نزدیک نبی ﷺ نام اور صفات دونوں کے ساتھ ندا کرنے کا جواز	42	525/5	قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ	22
418/10	نبیوں کی تعداد کی تحقیق	43	527/5	قوت لامسہ	23
420/10	جن نبیوں کا قرآن میں اشارنا اور صراحتاً نام موجود ہے	44	527/5	فرشتہ کو نبی نہ بنانے کی وجوہ	24
590/10	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر ایک اعتراض کا جواب	45	767/5	نبی کو شیطان کے بھلانے کی توجیہ	25
86/11	عالم ارواح میں آپ ﷺ کی نبوت کا معنی	46	768/5	نبی ﷺ کے نسیان کی تحقیق	26
86/11	بعثت سے قلب حضور ﷺ کو اپنی نبوت کا علم	47	768/5	نسیان اور سہو کا فرق	27
741/11	نبی کا معنی	48		افعال تبلیغیہ میں سہو اور نسیان کا جواز اور اقوال تبلیغیہ میں سہو اور نسیان کا عدم جواز	28
456/11	حضور ﷺ کی نبوت کے ثبوت میں ۱۸۰۰۰ سے زائد معجزات ہیں	49	769/5	جن خصوصیات کی بناء پر انبیاء نبی بنائے گئے	29
			158/6	انبیاء کی نبوت میں کفار کے شبہات	30
			42/7	نبی کا منصب ایمان کا راستہ دکھانا ہے	31
			283/7	نبی کی اتباع تقلید نہیں	32

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	نجاشی	9	842/12	رسول اللہ ﷺ کو بچپن میں نبوت عطا کیا	50
269/3	نجاشی کا قبول اسلام	1	851/12	جانا	
269/3	مسلمانوں کا حبشہ ہجرت کرنا	2		رسول اللہ ﷺ کا اعلان نبوت سے قبل ولی ہونا	51
	حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا نجاشی کے دربار میں اسلام کا تعارف کرانا	3	845/12		
270/3			847-851/12	رسول اللہ ﷺ کو عالم ارواح میں نبوت ملنا	52
	نجومی	10	702/12	نبیوں کی تعداد کی تحقیق	53
57/3	غیب کی باتیں دریافت کرنا	1		نجات	6
57/3	ازلام کا معنی	2		نجات کا مدار اللہ کے فضل پر ہے نہ کہ اعمال پر	1
60/3	قرآن کی بناء پر مستقبل کے ظنی ادراک	3	317/1		
513/8	کاہن کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	4		نجات کے لیے فقط کسی دین کی طرف منسوب ہونا	2
513/8	کاہنوں کی اقسام	5	415/1		
514/8	نجومیوں سے سوال کی ممانعت	6		نجات از جہنم طلب کرنا	7
	سورۃ النجم	11	414/2	امام رازی کا نظریہ	1
470/11	سورۃ کا نام اور اس کے متعلق احادیث	1	415/2	امام غزالی کا نظریہ	2
472/11	سورۃ النجم کے اہداف و اغراض	2	416/2	مصنف تبیان القرآن کا نظریہ	3
475/11	النجم کے معانی و محامل	3	416/2	قرآن مجید کی آیات	4
573/11	سورۃ النجم کا اختتام	4	416/2	احادیث طیبہ	5
	سورۃ النحل	12		دوزخ سے نجات اور جنت کا حصول طلب کرنا اخلاص کی منافی نہیں	6
347/6	سورۃ کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول	1	418/2		
347/6	سورۃ النحل کے متعلق احادیث	2		سورۃ النزلت	8
348/6	سورۃ النحل کے مضامین و مقاصد	3	540/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
350/6	سورۃ النحل کی ابتداء عذاب کی وعید سے	4	540/12	سورۃ النزلت اور سورۃ النبأ میں مناسبت	2
607/6	سورۃ النحل کے اختتامی کلمات	5	540/12	سورۃ النزلت کے مشمولات	3
	نخواست	13	565/12	سورۃ النزلت کا اختتام	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
422/1	تسخ اور تمسخ	10		دیکھئے "24: شکون" صفحہ 155	1
481/1	نسخ اور بداء کا فرق	11		ندائے یا رسول اللہ ﷺ	14
483/1	نسخ اور تخصیص	12	193/8	ندائے یا محمد ﷺ پر اعتراض کے جوابات	1
483/1	نسخ اور تقیید	13	194-496 8	ندائے یا محمد ﷺ کا ثبوت	2
482/1	خبر کا منسوخ ہونا یا نہ ہونا	14		نذر (منت)	15
484/1	عرف اور تعامل کا بدلنا نسخ نہیں ہے	15	965/1	نذر کا معنی و اقسام	1
575/6	نسخ کی وجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب	16	966/1	نذر صحیح اور نذر باطل	2
575/6	سنت سے قرآن کا منسوخ نہ ہونا	17	741/7	نذر کے احکام	3
222/11	نسخ کا لغوی و اصطلاحی معنی	18		نذر کا لغوی و اصطلاحی معنی اس کی شرائط اور اس کا شرعی حکم	4
	سورۃ النساء	17	740/7		
541/2	زمانہ نزول اور وجہ تسمیہ	1	741/7	نذر کے احکام کے متعلق احادیث	5
541/2	سورۃ النساء کے فضائل	2	865/11	نذر پورا نہ کرنے والوں پر وعید	6
542/2	سورۃ النساء کی سورۃ البقرہ کے ساتھ مناسبت	3	434/12	نذر کا لغوی و اصطلاحی معنی	7
543/2	سورۃ النساء کے مضامین کا خلاصہ	4	434/12	نذر کے شرعی احکام	8
894/2	سورۃ النساء کے اول و آخر میں مناسبت	5		نسخ	16
894/2	سورۃ النساء کے اختتامی کلمات اور دعا	6	79/1 504/1	نسخ کی تحقیق مع لغوی و شرعی معنی	1
	نسیان	18	70/1	نسخ کے بارے میں مذاہب	2
	شیطان کے لیے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نسیان میں مبتلا کرنا ناممکن ہے	1	74/1	نسخ کے وقوع پر قرآن سے استدلال	3
529/3	انبیاء علیہم السلام کا نسیان	2	74/1	ثبوت نسخ کے ذرائع	4
530/3	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سہو اور نسیان	3	74/1, 484/1	قرآن مجید کی منسوخ آیات	5
531/3	نسیان کا لغوی و اصطلاحی معنی	4	79/1	احکام شرعیہ کو منسوخ کرنے کی حکمتیں	6
90/7	رسول اللہ ﷺ کی طرف نسیان کی نسبت	5	80/1	نسخ القرآن بالسنہ	7
91/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسیان کی نسبت	6	84/1	نسخ السنہ بالقرآن	8
152/7			85/1	نسخ السنہ بالسنہ	9

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
1026/12	سورۃ النصر کی تفسیر کی تکمیل	4	179/7	بھول کی وجہ سے مواخذہ	7
1019/12	فتح سے مراد فتح مکہ	5	331/9	نسیان کے دو معنی	8
	نصاری	24		نسب	19
873/11	نصاری کے تین فرقے	1	87/6	نیک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا	1
	نصیحت	25	153/6	حضرت آدم علیہ السلام تک نسب بیان کرنا	2
226/5	اللہ کے لیے نصیحت کا معنی	1	254/8	نسب کا معنی اور اس کی تحقیق	3
226/5	کتاب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی	2	467/8	نسب پر اعتماد کرنا	4
226/5	رسول اللہ ﷺ کے لیے نصیحت کا معنی	3	378/9	خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنا	5
226/5	ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کا معنی	4		نسبت	20
227/5	عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی	5	192/7	حسن اور عیب کی نسبت	1
655/5	حق، نصیحت اور عبرت میں فرق	6		مسلمانوں اور کافروں کے درمیان عددی نسبت	2
	توحید، رسالت اور آخرت کی نصیحت کا باہمی رابطہ	7	709/7		
639/9			339/8	عیب اور حسن کی نسبت	3
972/12	حق اور صبر کی نصیحت کے محامل	8		نشانی	21
695-696 12	رسول اللہ ﷺ کا لوگوں کو نصیحت کرنا	9		سمندر میں رواں دواں کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی نشانیاں	1
701/12	کوئی نصیحت سابقہ صحیفوں میں مذکور ہے؟	10	610/10		
	نطفہ	26	554/12	سب سے بڑی نشانی کے متعلق متعدد اقوال	2
431/12 423/12	نطفہ کا معنی	1		نصب	22
431/12	نطفہ کے اختلاط میں متعدد اقوال	2	57/3	نصب کا معنی اور اس کا شرعی حکم	1
	نظر لگنا	27		سورۃ النصر	23
			1018/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
814/5	نظر لگنے کے متعلق احادیث	1		اذا جاء نصر اللہ سے رسول اللہ ﷺ کی	2
815/5	نظر بد میں مذاہب اور اس کے متعلق شرعی احکام	2	1019/12	مدت حیات پوری ہونے پر استدلال	
816/5	نظر بد کی تاثیرات کی تحقیق	3		سورۃ النصر کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ کا بلثرت حمد اور تسبیح واستغفار کرنا	3
	نعمت	28	1021/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
777/9	انسانوں کو کشتی کے ذریعے سفر کی سہولت عطا کرنے کی نعمت	20	84/2	آخرت کی نعمتوں کا دنیوی نعمتوں سے افضل ہونا	1
836/9	اللہ کی نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ	21	560/5	وصولِ نعمت میں عوام و خواص کا فرق	2
409/10	اللہ تعالیٰ کی انسان پر تین قسم کی نعمتیں	22	568/5	نعمتیں عطاء فرمانے کے بعد ان سے استفادہ کی توفیق عطاء کرنا	3
658/10	زمین کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے نعمتیں	23	61/6	نعمت کی ناقدری کرنے والوں سے اللہ کا نعمت واپس لینا	4
797/10	بحری جہازوں کا سمندر میں چلنا اللہ کی کن نعمتوں پر موقوف ہے؟	24	192/6	اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتیں	5
797/10	آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	25	366/6	سورج، چاند اور دن رات کے تواتر میں اللہ کی نعمتیں	6
798/10	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے متعلق احادیث	26	368/6	سمندر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	7
800/10	بنو اسرائیل کو دی گئی نعمتیں	27	381/6 526/6	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عموم	8
138/11	شہداء اور صالحین کے لیے آخرت میں نعمتیں	28	381/6	اللہ تعالیٰ کا کافروں کو بھی نعمتیں عطا کرنا	9
660/11	آخرت کی تمام نعمتوں کا حقیقی سبب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے	29	566/6	اخروی نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے موازنہ	10
614/11	انسان اور جنت کی تخلیق کے اعتبار سے ان پر نعمت	30	892/7	اللہ کی عظیم نعمتیں	11
615/11	دو مشرق اور دو مغرب بنانے میں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت	31	223/8	نعمتوں کے بہتات کی وجہ سے کفر و شرک کرنا	12
615/11	دو سمندروں کو ملانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	32	727/8	اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا	13
616/11	موتی اور مونگے نکالنے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	33	645/8	والدین کی نعمتوں کا بھی نعمت ہونا	14
616/11	سطح سمندر پر جہاز چلانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	34	335/8	کھلانے پلانے کی نعمت میں لپٹی ہوئی بے شمار نعمتیں	15
618-623 11	اللہ رب العزت کی دیگر کئی نعمتیں	35	272/9	اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے اور پرورش کرنے کی نعمت کا بیان	16
			653/9	ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل	17
			774/9	اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا	18
				بنیادی ضروریات اور سہولت و تعیش کی نعمتیں	19

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
741-742	نفس مطمئنہ کا اپنے رب کی طرف لوٹنا اور جنت میں داخل ہونا	11	754/12	اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں	36
12			834/12	رب کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے	37
403/12	نفس لوامہ کے مصداق میں متعدد اقوال	12		رسول اللہ ﷺ کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا گیا؟	38
404/12	قیامت اور نفس لوامہ کی مناسبت	13	836/12		
404/12	نفس انسان کی تین قسمیں	14	838/12	رسول اللہ ﷺ کو ملنے والی چند نعمتیں	39
405/12	نفس کی تعریف اور اس کا مصداق	15	964-966	نعمتوں کے متعلق کس کس سے سوال کیا جائے گا؟	40
	نفل	30	12		
373/1	نوافل کی جماعت کا شرعی حکم	1		زمین کو نرم اور مسخر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	41
	مسلمان کا کسی مرض کی وجہ سے مقررہ نفل عبادت نہ کر سکتا	2	153/12		
792/9			159/12	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا	42
	تہجد اور رات کے نوافل پڑھنے کی فضیلت	3	700/12	دنیا کی لذتوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دینا	43
335/9	اور ان کی رکعات کی تعداد میں احادیث		701/12	اخروی نعمتوں کا افضل ہونا	44
	نفاق	31	510/12	معاش کا نعمت ہونا	45
837/2	نفاق کی علامات	1		نفس	29
839/2	نفاق کے عذاب سے نجات	2	285/3	نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا	1
899/11	نفاق کا لغوی و اصطلاحی معنی	3	791/5	نفس مطمئنہ و نفس امارہ	2
	نفع و ضرر	32	790/6	نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ	3
	وہابی علماء کا نبی ﷺ کی ذات سے ضرر اور نفع پہچاننے کی مطلقاً نفی کرنا	1	192/9	نفس کے تقاضے	4
374/5			270/10	نفس کا معنی	5
	آپ ﷺ سے نفع اور ضرر بالذات پہچاننے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً	2	270-274 10	نفس اور روح کا ایک یا مغائر ہونا	6
375/5			299/10	ہر نفس کے مکمل حساب کی وضاحت	7
	اللہ تعالیٰ کی عطاء سے نبی ﷺ کی نفع رسانی کے متعلق قرآن مجید کی آیات	3	739/12	نفس مطمئنہ کو نڈا کرنے والوں کے مصداق	8
376/5			740/12	نفس انسان کی اقسام	9
	اللہ تعالیٰ کی عطاء سے نبی ﷺ کی نفع رسانی کے متعلق احادیث	4	741/12	نفس مطمئنہ کا مصداق	10
377/5					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
556/2	قبل از اسلام چار سے زیادہ کی ہوئی بیویاں	12		لوگوں کو نقصان نہ پہنچانے اور فساد نہ کرنے کے محال	5
578/2	ٹیلی فون پر نکاح	13	607/5		
578/2	بیویوں کے درمیان عدل	14		نفع رسائی	33
621/2	محرمات نکاح	15		آخرت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اہل بیت و دیگر قرابت داروں کو نفع پہنچانا	1
638/2	غیر سید کا سیدہ فاطمیہ سے نکاح	16	364/8		
638/2	باندیوں سے نکاح	17	465-466	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نفع و ضرر کی نفی کی روایات	2
	شوہر کا بیوی کو خرچ اور طلاق نہ دینے پر عدالت کا اس کا نکاح فسخ کرنا	18	8		
662/2				نقصان	34
663/2	عدالت کے فسخ نکاح پر اعتراض کا جواب	19		زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے کم نقصان برداشت کرنا	1
855/7	بغیر نکاح کے باندیوں سے جنسی عمل کرنا	20	185/7		
131/8	نکاح کا لغوی و اصطلاحی معنی	21	623-626 7	مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی	2
132/8	نکاح کی فضیلت میں احادیث	22		نکاح	35
134/8	نکاح کے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء	23	842/1	بغیر ولی عورت کا کیا ہوا نکاح	1
136/8	جو شخص مجرد ہو وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھے	24	853/1	نکاح کی گرہ کا مالک	2
661-662 8	جن اور انسان کا آپس میں نکاح	25	783/1	اہل کتاب سے نکاح	3
	لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو نکاح کی پیشکش کرنا	26	853/1	شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت	4
794/8				مشرک عورتوں اور مردوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح	5
796/8	منکوحہ کے تعین کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا	27	782/1		
	بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہے	28	548/2	نکاح کی ترغیب و فضیلت	6
796/8			550/2	نکاح کی حکمتیں اور فوائد	7
452/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش کا غیر کفو میں نکاح ہونا	29	552/2	غیر کفو میں نکاح	8
452/9	نکاح غیر کفو میں مذاہب ائمہ	30	554/2	کفو میں نکاح کی شرط	9
453/9	نکاح غیر کفو سے متعلق احادیث	31	554/2	تعدد ازدواج پر اعتراض و جواب	10
454/9	غیر ہاشمی اور غیر سید کا ہاشمیہ یا سیدہ سے نکاح	32	556/2	چار بیویوں پر اقتصار کی وجہ	11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
551/8	سورۃ النمل کو قرآن اور کتاب مبین فرمانے کی وجہ	4	509/9	اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی تفصیل	33
762/8	سورۃ النمل کا خاتمہ	5	514/9	حضرت ام ہانی کو حضور ﷺ کا نکاح کا پیغام دینا	34
	حضرت نوح علیہ السلام	40			
125/2	حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت و خاص ذکر	1	515/9	نکاح کی اجازت کے رشتوں میں اسلام کا متوسط حکم	35
	حضرت نوح علیہ السلام کا نام و نسب اور تاریخ ولادت	2	515/9	جن خواتین نے اپنے آپ کو نبی ﷺ سے نکاح کیلئے پیش کیا	36
190/4					
	حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کا اول الرسل ہونا	3	515/9	نکاح سے پہلے عورت کے چہرے کو دیکھنے کا جواز	37
191/4			522/9		
192/4	حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ	4			
193/4	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب	5	855-859	ہجرت کر کے دارالسلام میں آنے والی مسلمان خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں مذاہب ائمہ	38
194/4	طوفان نوح اور کشتی کی بعض تفصیل	6	11		
194/4	حضرت نوح علیہ السلام کی عمر	7		نگاہ	36
195/4	قصہ نوح علیہ السلام نازل کرنے کے فوائد	8	127/8	مردوں کو نیچی نگاہ رکھنے کے متعلق احادیث	1
	حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر قوم نوح کا تعجب	9	128/8	عورتوں کو نیچی نگاہ رکھنے کے متعلق احادیث	2
196/4				نماز	37
451/5 523/5	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	10		دیکھئے '19: صلوٰۃ (درود و سلام)' صفحہ 163	1
452/5	حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو مقدم کرنے کی وجہ	11		نمرود	38
	حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی ناگواری	12	612/7	نمرود اور اس کی قوم کا عذاب سے ہلاک ہونا	1
452/5	کی وجہ			سورۃ النمل	39
	حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین میں کفار کا کوئی خوف تھا نہ ان سے کسی نفع کی توقع تھی	13	547/8	سورۃ کا نام مع وجہ تسمیہ	1
452/5			547/8	سورۃ النمل اور سورۃ الشعراء کی باہمی مناسبت	2
453/5	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کا انجام	14	547/8	سورۃ النمل کے مضامین و مقاصد	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
555/5	حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق امام رازی کی تقریر	30	523/5	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات	15
556/5	حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید مودودی کا تبصرہ	31	530/5	تبلیغ دین پر اجر طلب نہ کرنے سے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی نبوت پر استدلال	16
557/5	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جمہور مفسرین کی توجیہ	32	530/5	مومنوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی وجوہ	17
618/7 865/7	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	33	533/5	حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات	18
865/7	حضرت نوح علیہ السلام کا قوم کو پیغام پہنچانا	34		حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی ذات سے اللہ کے خزانے اور علم غیب کی نفی کرنا اور اس کی توجیہ	19
866/7	حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے اہم نکات	35	532/5		
866/7	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنا	36		کشتی بنانے کی کیفیت، اس کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت	20
241/8	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ان کی تکذیب کرنا	37	544/5		
370/8	حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر دلیل	38	545/5	کشتی بنانے کا مذاق اڑانے کی وجوہ	21
376/8	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف دعا کی توجیہ	39	545/5	حضرت نوح علیہ السلام کا جواباً مذاق اڑانے کا محمل	22
377/8	قصہ نوح کے بعض اسرار	40	546/5	تور کا معنی اور اس کے مصداق کی تفصیل	23
53/9	حضرت نوح علیہ السلام کی حیات کا اجمالی خاکہ	41		حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل	24
55-60/9	طوفان نوح کس کس جگہ آیا تھا؟	42	546/5		
896/9	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	43	548/5	حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو کافر ہونے کے باوجود کشتی کی طرف بلانے کی وجہ	25
897/9	حضرت نوح علیہ السلام کے بعض فضائل اور آپ کی اولاد	44	551/5	جو دی پہاڑ پر کشتی کا ٹھہرنا	26
583/11	حضرت نوح علیہ السلام کو ہمارا بندہ کہنے کی وجہ	45		ان بچوں اور جانوروں کا کیا قصور تھا جنہیں طوفان میں غرق کیا گیا؟	27
583/11	حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے آپ کو مغلوب فرمانے کی توجیہ	46	552/5		
584/11	طوفان اور کشتی کی بناوٹ کی کیفیت	47	553/5	حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل	28
			554/5	منکرین عصمت کا حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض اور اس کا جواب	29

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
31/8	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1		حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے متعلق	48
31/8	سورۃ النور کی فضیلت میں احادیث و آثار	2		ایک سوال اور آپ کی بیوی کی خیانت پر	
32/8	سورۃ النور اور سورۃ المؤمنون کی باہمی مناسبت	3	131/12	ملحدین کے ایک اعتراض کا جواب	
33/8	سورۃ النور کا زمانہ نزول	4	245/12	حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم عنوانات	49
37/8	سورۃ النور کے مسائل و مقاصد	5		کیا حضرت نوح علیہ السلام تمام لوگوں کے رسول	50
41/8	سورۃ کا معنی	6	246/12	تھے؟	
199/8	سورۃ النور کا اختتام	7	247/12	حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ	51
	نوح کرنا	44		اللہ کی عبادت اور اس سے ڈرنے کے حکم کے	52
660/6	گھر والوں کے نوحہ کرنے سے میت کو عذاب	1		بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کے حکم	
	نیت	45	247/12	کی توجیہ	
396/2	نیت کا بیان	1		کفار نوح کی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف	53
	نیند	46	260/12	سازشیں	
502/3	نیند کا وقت صغریٰ ہونا	1	263/12		
58/7	نیند کا کانوں کے ساتھ تعلق	2	266/12	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی توجیہات	54
362/11	رات کو کم سونا	3			
364/11	صبح تک سونے والے کی مذمت	4			
508/12	نیند کو سبات فرمانے کی توجیہ	5			
	نیک اعمال	47			
246/2	بر کا معنی	1	132/3	رسول اللہ ﷺ کا نور ہونا	1
	صحابہ کائیک کے لیے محبوب چیزوں کو صدقہ	2	134/3	رسول اللہ ﷺ کا نور حسی	2
247/2	کرنا	2	137/3	رسول اللہ ﷺ کا نور ہدایت	3
513/2	نیکی کی تعریف چاہنا	3	140/8	نور کا لغوی و اصطلاحی معنی	4
670/2	ماں باپ کے ساتھ نیکی	4	140-141/8	اللہ پر نور کا اطلاق	5
672/2	غلاموں اور خادموں کے ساتھ نیکی	5	298/10	رب کے نور سے کیا مراد ہے؟	6
				سورۃ النور	43

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
79-83/7	صالحین کی قبروں کے پاس مسجد بنانا	17	671/2	پڑوسیوں کے ساتھ نیکی	6
110/7	صالحین پر مصائب کا آنا	18	698/2	اخروی نعمتوں کے لیے نیک اعمال	7
	نیکی	49	168/11	نیک اعمال کو آخر عمر تک ملتوی کرنا	8
	تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت پیدا نہ کرنے کی وجہ	1	170/11	بغیر ایمان کے نیک اعمال کا غیر مفید ہونا	9
150/5			175/11	مسلمانوں کے اعمال ضائع ہونے کی توجیہات	10
291/5	اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چھوٹی بڑی نیکی مقبول ہے	2		نیک لوگ	48
496/5	زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر	3		نیک لوگوں کی وجہ سے گناہ گاروں کے عذاب کا خاتمہ	1
	نیکیوں کے اازما قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے	4	890/1		
520/5			444/2	نیوکاروں کا بدکاروں کی مثل نہ ہونا	2
659/6	پیر و کاروں کی نیکیوں کا ثواب پیر و کاروں کو بھی	5	730/2	بھلائی اللہ کی طرف سے	3
513/7	نیکیاں، موت یا قیامت آنے سے قبل	6		نیک لوگ، اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے مقرب ہیں	4
759/8	نیکی کے اجر کا نیک کام سے افضل ہونا	7	502/4		
	دشمنوں اور مخالفوں سے بدلہ لینے کی بجائے نیکی کرنے کا افضل ہونا	8	574/5	نیوکاروں کے لیے دنیا کا ظرف ہونا	5
744/9			407/6	نیوکاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صورتیں	6
503/10	نیکی کے متعلق مفسرین کے اقوال	9	409/6	نیوکاروں کا آخرت میں اجر و ثواب	7
	مرض اور سفر کی وجہ سے بندہ جو نیکیاں نہ کر سکے وہ بھی لکھی جاتی ہیں	10	409/6	قبض روح کے وقت نیوکاروں کی کیفیت	8
322/11			676/6	نیوکاروں کے لیے بشارت	9
323/11	صحیفہ اعمال میں لکھی ہوئی نیکیوں کی برکات	11	373/8	اللہ کے نزدیک عزت والا کون؟	10
	نیکی کا حکم دینا	50	447/12	جنت میں ابراہر کو ملنے والی نعمتیں	11
	دیکھیے "79: امر بالمعروف ونہی عن المنکر" صفحہ 69	1	448/12	ابراہر کو دو قسم کی جنتیں ملنا	12
	و		451/12	ابراہر کا جنت میں کلمات تحسین سے استقبال	13
	والدین (ماں + باپ)	1	524/2	صالحین کے جوار میں دفن ہونا	14
439/1	والدین کی اطاعت پر ثواب	1	719/2	صالح کی تعریف	15
442/1	والدین کی نافرمانی پر عذاب	2	68/7	صالحین کی مجلس کے ثمرات	16

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
480/8	والدین کریمین کے ایمان پر امام فخر الدین رازی کے دلائل	5	957/1	اولاد کے مال سے کھانا	3
481/8	والدین کریمین کے ایمان پر علامہ قرطبی کے دلائل	6	140/2	ماں کی اولاد پر ولایت	4
483/8	والدین کریمین کے ایمان پر علامہ سہیلی کے دلائل	7	670/2	ماں، باپ کے حقوق	5
483/8	والدین کریمین کے ایمان پر علامہ ابی مالکی کے دلائل	8		اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متصل والدین کی اطاعت کا حکم	6
483/8	والدین کریمین کے ایمان پر حافظ سیوطی کے دلائل	9	686/6	والدین کے اولاد پر احسان کی توجیہ	7
485-510	آپ علیہ السلام کے والدین کو دوبارہ زندہ کرنا اور ان کا ایمان لانا وغیرہ	10	687/6	ماں باپ کے حقوق	8
8			688/6	ماں باپ سے نیک سلوک	9
	وادئ حجر	3	690/6	ماں باپ کو جھڑکنا اور آف کہنا	10
310/6	الحجر کا معنی اور مصداق	1	691/6	رحم دلی سے باز و جھکانا	11
310/6	وادئ حجر کے متعلق احادیث	2	691/6	مشرک ماں باپ کے لیے دعا کرنا	12
311/6	وادئ حجر کے متعلق احادیث کے احکام	3	692/6	ماں باپ کی اطاعت و نافرمانی کے ثمرات	13
311/6	وادئ حجر اور دیگر ممنوعہ جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء	4	252/9	ماں کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی وجوہ	14
	وادئ طوی	4	254/9	والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجوہ	15
354/7	وادئ طوی کا مصداق	1	264/9	کافر ماں باپ کی خدمت کرنے کا استحسان	16
	واعظ	5	283/9	اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت	17
423/7	بے عمل واعظ کے متعلق احادیث	1	78/11	ماں باپ کے حقوق	18
865/11	بے عمل واعظوں پر وعید	2		والدین کریمین (رضی اللہ عنہما)	2
	وارث	6		سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر استدلال	1
814/11	نبی کا وارث نہ بنانے کی حدیث پر شکالات کے جوابات	1	222/5	سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر اعتراض کا جواب	2
			272/5	حضور ﷺ کے والدین کریمین کا دوبارہ زندہ ہو کر ایمان لانا	3
			861/5	والدین کریمین کے ایمان کے ثبوت میں احادیث	4
			477/8		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
608/3	پھلوں کی ابتدائی حالت اور ان کے پکنے سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	4		کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کا وارث نہ بنانے کی روایت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما و عہد شکن، خائن اور گنہگار گمان کیا تھا؟	2
670/3	وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ پر دلیل	5	813/11		
154/4	اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل	6		سورة الواقعة	7
36/6	سورج و چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	7	646/11	سورة کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول	1
			646/11	سورة الواقعة کے متعلق احادیث	2
39/6	زمینوں، درختوں اور پھلوں سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	8	647/11	سورة الواقعة کے مشمولات	3
			650/11	سورة الواقعة اور سورة الرحمن کی باہمی مناسبت	4
41/6	زمین کے مختلف طبقات سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	9		وجاہت	8
42/6	مختلف ذائقوں سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	10	449/7	رسول اللہ ﷺ کی وجاہت کے متعلق قرآن کی آیات	1
525/6	پرنندوں کی پرواز سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	11	450/7	رسول اللہ ﷺ کی وجاہت کے متعلق احادیث	2
300/8	اللہ تعالیٰ کے وجود پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین مباحثہ	12	452/7	رسول اللہ ﷺ کی وجاہت کے متعلق علماء کی تصریحات	3
762/9	دن اور رات کے توارد میں وجود باری تعالیٰ پر دلائل	13		وجد	9
610/10 817/10	وجود باری تعالیٰ پر ایک دلیل	14	217/10	قرآن سن کر اظہار وجد کرنا	1
788/10	آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	15	220/10	مترنم آواز اور سازوں کے ساتھ اشعار سن کر اظہار وجد کرنا	2
568/11	اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل	16		وجود باری تعالیٰ	10
	حضرت وحشی رضی اللہ عنہ	11	601/3	زمین کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل	1
280/10	حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا	1	602/3	آسمان کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل	2
	وحی	12	603/3	انسان کے نفس سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
592/2	وراثت کے تفصیلی احکام	8	43/1	وحی کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
593/2	اولاد کے احوال	9	45/1	ضرورت و ثبوت وحی	2
594/2	مرد کو عورت سے دگنا دینے کی وجہ	10	46/1	وحی کی اقسام	3
594/2	والدین کے احوال	11	636/9	انکار وحی کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب آنا	4
595/2	قرض کو وصیت پر مقدم کرنا	12		حضور ﷺ پر نزول وحی کے متعلق کفار کے	5
596/2	حادثہ اعمور کے ضعف کا بیان	13	43/10	شکوہ کا ازالہ	
597/2	زوجین کے احوال	14		حضور ﷺ کو وحی رسالت کیلئے منتخب کرنے	6
598/2	کلام کا معنی	15	41/10	کی وجہ	
600/2	احکام وراثت کی اطاعت	16	539/10	وحی کا لغوی و اصطلاحی معنی	7
601/2	احکام وراثت کی نافرمانی	17	636/10	وحی کے متعلق احادیث	8
	ذوی الارحام کی تعریف اور ان کی وراثت کا	18	540/10	ضرورت وحی اور ثبوت وحی	9
618/4	ثبوت		637/10	وحی کی اقسام	10
	مہاجرین و انصار کے مابین وراثت کا منسوخ	19	639/10	وحی کا لغوی و شرعی معنی	11
709/4	ہونا		877/12	نزول وحی کی صورتیں اور اقسام	12
	دو مختلف ملتوں کے ماننے والوں کے مابین	20	877/12	وحی خفی کا ثبوت	13
712/4	دوستی و وراثت		114/12		
620/8	وراثت کا لغوی و اصطلاحی معنی	21		وراثت	13
	مہاجروں اور بنائے ہوئے بھائیوں کی	22	892/2	کلام کا معنی	1
382/9	باہمی وراثت کا منسوخ ہونا		893/2	کلام کے متعلق حدیث جابر	2
	مسلمانوں اور کافروں کا ایک دوسرے کا	23	894/2	کلام کی وراثت کے چار احوال	3
382/9	وارث نہ ہونا			زمانہ جاہلیت میں بچوں اور عورتوں کو وارث	4
	وزیر / وزارت	14	585/2	نہ بنانا	
367/7	وزیر کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	1	586/2	تقسیم وراثت میں معیار	5
367/7	حضرت موسیٰ کی وزارت کیلئے بھائی کی تخصیص	2	587/2	ورثاء کے ترکہ کی تقسیم	6
	وسیلہ	15		رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینا احسان	7
			588/2	نہیں	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
109/3	وضو توڑنے والے امور	13		دیکھئے ”43: تو سل“ صفحہ 95	1
	وضو میں نیت کی فرضیت کی دلیل اور اس کا	14		وسوسہ	16
909/12	جواب		1054/12	وسوسہ کا معنی	1
	وعدہ/ وعید	19		وصیت	17
68/2	خلف وعدہ کا محال ہونا	1	663/1	وصیت کا معنی	1
117/2	وعدہ کا معنی	2	663/1	وصیت کی اقسام	2
	اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کا معنی اور اس کی	3	664/1	وصیت کی شرائط و رکن	3
133/9	خلاف ورزی کی تحقیق		664/1	وصیت کا لزوم	4
	وعدہ	20	665/1	ورثاء کے لیے وصیت کا منسوخ ہونا	5
	دیکھئے ”59: عہد“ صفحہ 186	1	665/1	وصیت کے احکام	6
	وکیل	21	346/3	سفر میں وصیت کرنا اور غیر مسلموں کو گواہ بنانا	7
643/6	اللہ کے سوا کسی کو وکیل بنانا	1		وضو	18
71/7	وکیل بنانے کے متعلق قرآن کی آیات	2	93/3	آیت وضو	1
71/7	وکیل بنانے کے متعلق احادیث	3	94/3	آیت وضو کا شان نزول	2
74/7	وکالت کا لغوی و شرعی معنی	4	95/3	آیت وضو کے نزول سے قبل فرضیت وضو	3
74/7	وکالت کے ارکان	5	96/3	شرائع سابقہ اور کئی دور میں وضو	4
75/7	موکل کے اعتبار سے شرائط	6	98/3	وضو کا اجر و ثواب	5
75/7	وکیل کے اعتبار سے شرائط	7	99/3	ایک وضو سے کئی نمازیں	6
	ولایت	22	100/3 104/3	وضو کے فرائض	7
709/4	ولایت کا معنی	1	100/3	سر کے مسح کی مقدار	8
	ولی	23	102/3	پیروں کا دھونا	9
596/1	اولیاء کی جسمانی حیات	1	105/3	وضو کی سنتیں	10
416/5	ولی کا معنی	2	108/3	وضو کے مستجاب	11
	ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق	3	109/3	وضو کے آداب	12
417/5	احادیث و آثار				

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ووٹ	26		اللہ کا اپنے محبوب بندے کے کان اور آنکھیں ہونا	4
120/3	نااہل کو ووٹ دینا	1	418/5		
122/3	طلب منصب کی تحقیق	2	419/5	اللہ تعالیٰ کے تردد کرنے کی توجیہ	5
123/3	موجودہ طریقہ انتخاب	3	420/5	ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث	6
123/3	امیدوار کے لیے شرائط اہلیت	4	425/5	ولی کی صفات	7
	وہم	27	441/5	ولی کے لیے دنیا میں غم اور خوف کا ثبوت	8
151/8	وہم کی تعریف	1	443-444 5	ولی کے لیے آخرت کا غم اور خوف کی توجیہ	9
	وہ		445/5	ولی کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت	10
	حضرت ہارون علیہ السلام	1	190/6	اولیاء اللہ سے محبت کا آخرت میں کام آنا	11
293/4	حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانا	1	318/7	اولیائے کرام کی ولایت	12
	حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا جانا	2	693/8	ولی اور اس کی کرامت کی تعریفات	13
322/4	پکڑ کر کھینچا جانا		740/9	ولی کے مزار کی زیارت کے لیے دور سے آنا	14
425/7	حضرت ہارون علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ	3	749/9	من عادل ولیا کی تشریح	15
425/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناراض ہونا	4		اولیاء کا ذہلی ہوئی عمر میں ارذل عمر کے اثرات سے محفوظ رہنا	16
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سر اور داڑھی کے بال پکڑنا	5	825/9		
426/7	پکڑنا		139/10	اولیاء کرام کی وجاہت	17
	حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت کا سوال	6	236/10	اولیاء کرام کا آن واحد میں متعدد جگہ موجود ہونا	18
294/8	سوال				
946/9	حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ	7		ولید بن عتبہ	24
	ہاروت و ماروت	2	280/11	ولید بن عتبہ کا جھوٹی خبر دینا	1
469/1	ہاروت ماروت کی معصیت	1		ولید بن مغیرہ	25
468/1	ہاروت ماروت پر سحر	2	374/12	ولید بن مغیرہ کی مذمت میں آیات	1
	ہجرت / مہاجرین	3	185/12	ولید بن مغیرہ کے قرآن میں دس عیوب	2
748/2	ہجرت کی تعریف و اقسام	1	186/12	ولید بن مغیرہ کی ناک کو سونڈ فرمانے کی توجیہ	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
419/6	ہجرت کی وجہ سے اسلام کی تقویت	22	749/2	قیامت تک ہجرت کا مشروع ہونا	2
420/6	ہجرت کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام	23	749/2	اصل ہجرت گناہوں کو ترک کرنا ہے	3
423/6	ہجرت منقطع ہونے کے متعلق احادیث	24	750/2	ہجرت کے متعلق اقوال فقہاء	4
425/6	ہجرت باقی رہنے کے متعلق احادیث	25	770/2	فرضیت ہجرت کی آیات	5
425/6	ہجرت کی متعارض احادیث میں تطبیق	26	772/2	ہجرت کا شرعی حکم	6
768/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہے	27	772/2	مدینہ منورہ کی طرف ہجرت	7
106/9	کفار کے ملک سے ہجرت کرنا	28	773/2	دفع ضرر کے لیے ہجرت کی اقسام	8
854/11	مہاجر خواتین سے امتحان لینے کی کیفیت وغیرہ	29	774/2	حصول نفع کے لیے ہجرت کی اقسام	9
	ہدیٰ	4	707/4	مہاجرین اولین کی فضیلت	10
750/7	ہدی کا معنی اور اس پر سواری کرنا	1	712/4	ہجرت کی تعریف اور اس کے متعلق مختلف النوع احادیث	11
751/7	حرم سے باہر ہدی کو ذبح کرنا	2	714/4	ہجرت کے معانی	12
	ہد ہد	5		ہجرت کے متعلق مختلف النوع احادیث میں تطبیق	13
653/8	ہد ہد کی سزا کے متعلق اقوال	1	715/4	فتح مکہ کے بعد ہجرت کے منسوخ ہونے کی وجوہات	14
651/8	ہد ہد کی گمشدگی کا سوال	2	715/4	ہجرت کی اقسام	15
658/8	ہد ہد کا ملک سبا کی سیر کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آنا	3	717/4	ہجرت الی اللہ کی توضیح	16
568-660	ہد ہد کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنا	4	717/4	مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تفصیل	17
8			239/5	مہاجرین کے فضائل	18
679/8	ہد ہد کا بلیقہ کو خط پہنچانا	5	241/5	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہجرت فرمانا کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا	19
	ہدایت / ہادی	6	447/5	مہاجرین کی تعریف و تحسین	20
209/1	ہدایت کا معنی اور اس کی اقسام	1	418/6	حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت	21
210/1	اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایت میں فرق	2	419/6		
211/1	ہدایت کا معنی	3			
100/4	ابتداء فطرت میں ہر انسان کا ہدایت یافتہ ہونا	4			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
530/6	ہڈی کا نجس ہونا	1	418/4	ہدایت کا اللہ کی طرف سے ہونے کا معنی	5
534/6	ہڈی کا پاک ہونا	2		لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے	6
	ہلاکت	8	363/6		
205-207 12	قوم عاد و ثمود اور دیگر امتوں کی ہلاکت	1		دنیا و آخرت میں انسان کی ہدایت کے انتظامات	7
	سورۃ الہمزہ	9	379/6		
974/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	578/6	مشرکین کو ہدایت نہ دینے کی وجوہ	8
975/12	سورۃ الہمزہ کا شان نزول	2	794/6	قرآن کا متعدد اسالیب سے ہدایت دینا	9
978/12	سورۃ الہمزہ کی تفسیر کی تکمیل	3		توبہ کرنے، ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کے بعد ہدایت	10
	ہم جنس پرستی	10	414/7		
	ہم جنس پرستی کرنا کیسا؟	1	720/7	ہدایت دینے کے محامل	11
855/7	ہنسنا/تبسم/قہقہہ	11		حضور ﷺ کے ہدایت دینے اور نہ دینے کے محامل	12
215/5	کم ہنسنے کی تلقین	1	218/9	ہدایت پر قائم رہنے کا معنی	13
591/5	حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجوہ (جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے)	2	329/9	تمام انسانوں اور جنوں کو ہدایت یافتہ نہ بنانے کی توجیہ	14
644/8	تبسم، ضحک اور قہقہہ کے معانی	3	346/9	ہدایت کے پانی سے مردہ دلوں کو زندہ کرنا	15
	سورۃ ہود	12		حضور علیہ السلام کا تمام مخلوق کی ہدایت کیلئے مبعوث ہونا	16
490/5	سورۃ ہود کی آیات، زمانہ نزول اور نزول کا مقام	1	717/9		
490/5	سورۃ ہود کی سورۃ یونس کے ساتھ مناسبت	2	631/10	ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے	17
490/5	سورۃ ہود کے متعلق احادیث	3	147/11	ہادی اور ہدایت کے مصداق	18
491/5	سورۃ ہود کے مضامین	4	788/12	کیا اللہ پر ہدایت دینا واجب ہے؟	19
656/5	سورۃ ہود کا اختتام	5	149/12	رسولوں کی ہدایت کا عقل پر مقدم ہونا	20
	حضرت ہود علیہ السلام	13	687/12	اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کے متعدد معانی	21
199/4	حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب	1	431/12	کیا سبیل سے ہدایت کا راستہ مراد ہے؟	22
				ہڈی	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
449/10	رتح صرصر کا معنی	20	200/4	حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف بعثت	2
449-452 10	قوم عاد پر آندھی کا عذاب بھیجنے کی وجہ	21	202/4	قوم عاد کے وطن کی تاریخی حیثیت	3
102/11	قوم عاد کی جہالت کی وجہ	22		حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام	4
103/11	قوم عاد پر آندھی کے عذاب کی کیفیت	23	204/4	کے قصہ کے مابین فرق۔	
103/11	قوم عاد پر عذاب کی تفصیل	24		حضرت نوح و ہود علیہ السلام کے مقابلہ میں	5
104/11	آندھیوں کے متعلق احادیث	25	205/4	حضرت محمد عربی ﷺ کی زیادہ عزت	
586/11	قوم عاد پر آندھی کا عذاب	26	200/4	قوم عاد کی قوت اور ان پر عذاب نازل ہونا	6
318/11	عاد کا معنی اور مصداق	27		حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہنے کی	7
318/11	ایکہ والوں کا مصداق	28	563/5	توجیہ	
319/11	تبع کا معنی اور مصداق	29		امتی کیلئے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر	8
730/12	قوم عاد کا عذاب	30	564/5	بعض علماء کے دلائل	
731/12	قوم عاد کا تعارف	31		نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھائی کہنے کے عدم	9
205/12	قوم عاد کی عذاب سے ہلاکت	32	564/5	جواز پر دلائل	
				بڑے بھائی جتنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی	10
			566/5	تعظیم کی تلقین کرنا غلط ہے	
207/7	یاجوج و ماجوج کے متعلق احادیث	1	569/5	حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ	11
208/7	یاجوج و ماجوج کے متعلق علماء کی آراء	2	570/5	قوم عاد پر نزول عذاب کا پس منظر و پیش منظر	12
	یاجوج و ماجوج کے متعلق علامہ غلام رسول	3	867/7	حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ	13
212/7	سعیدی کا نظریہ			حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آنے والے دیگر	14
666/7	یاجوج و ماجوج کا تذکرہ	4	871/7	انبیاء کا قصہ	
	یاد	2	380/8	قوم عاد کا مختصر تعارف	15
	اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں	1	381/8	قوم عاد کا عبث لہو و لعب	16
779/6	کو توڑنے کا وجوب		400/8	قوم ہود کا تکبر اور اس کا ہلاک ہونا	17
	یتیم	3	447/10	قوم عاد کی طرف متعدد رسول آنے کے محامل	18
443/1	یتیم کے ساتھ حسن سلوک	1	448/10	قوم عاد کا تکبر	19

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
259/7	حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت	5	650/1	یتیم کا معنی	2
260/7	حضرت یحییٰ علیہ السلام پر تین بار سلام	6	780/1	زیر کفالت یتیم کے ساتھ طرز معاشرت	3
658/7	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ	7	547/2	یتیم کا مال ادا کرنا	4
	یزید	5	547/2 583/2	یتیم کا مال کھانا اور اس سے بدسلوکی کرنا	5
162-167 11	یزید پر لعنت کرنے کی بحث	1	580/2	یتیم کے مال کو ولی کا مال کہنے کی وجہ	6
168/11	یزید کی تکفیر	2	588/2	یتیم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا	7
	سورہ یس	6	817/2	یتیم لڑکیوں کے حقوق	8
707/9	سورہ کا نام	1	187/7	یتیم کا معنی اور اس کے شرعی احکام	9
707/9	سورہ یس کے فضائل میں احادیث	2	188/7	یتیم کے ساتھ نیکی کرنا	10
709/9	سورہ یس کے مشمولات	3	189,190/7	یتیم لڑکے اور ان کے شہر کا نام	11
708/9	سورہ یس کے بعض اسماء	4	758/12	یتیم کا معنی	12
713/9 720/9	سورہ یس کا اختتام	5	758/12	تیموں کو صدقہ دینے کی فضیلت	13
	حضرت یعقوب علیہ السلام	7	821/12	رسول اللہ ﷺ کے یتیم ہونے کی کیفیت	14
253/2	اونٹ کے گوشت کو حرام کرنا	1	829/12	رسول اللہ ﷺ کو یتیم بنانے کی حکمتیں	15
660/5	حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ	2	830/12	یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث	16
	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف	3	993/12	یتیم کی پرورش پر بشارت	17
688/5	علیہ السلام سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ		736/12	یتیم کی تکریم کی وجوہ	18
	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف	4	736/12	یتیم کی دلداری نہ کرنے کی مذمت	19
	علیہ السلام کی سر بلندی اور ان کے بھائیوں			حضرت یحییٰ علیہ السلام	4
678/5	کے حسد کا پیشگی علم ہونا		147/2	سوانح عمری	1
	حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھانے	5	150/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنا	2
705/5	کا خطرہ ہونے کی وجہ			حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کو مستعد سمجھا	3
	حضرت یعقوب علیہ السلام کے بنیامین کو بھیجنے	6	151/2	جانا	
812/5	کی وجوہ		254/7	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھنے کی وجہ	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
659/5	سورۃ یوسف کا نام، مقام نزول اور زمانہ نزول	1		حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہائے افسوس!	7
661/5	سورۃ یوسف کے مقاصد اور اہداف	2	844/5	کہنے کی توجیہ	
883/5	سورۃ یوسف کا اختتام	3		جن قرآن کی بناء پر حضرت یعقوب علیہ السلام	8
	حضرت یوسف علیہ السلام	11		کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا یقین	
660/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ	1	845/5	تھا	
662/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق احادیث	2		حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس	9
	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں ستاروں،	3	857/5	لوٹ آنا	
666/5	چاند اور سورج دیکھنا	3	858/5	بیٹوں کے لیے استغفار کو مؤخر کرنے کی وجوہ	10
	خواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام	4	860/5	حضرت یعقوب علیہ السلام کا مصر روانہ ہونا	11
667/5	کی عمر	4		یقین	8
	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے	5	278/1	یقین کا معنی	1
679/5	انبیاء ہونے کے دلائل	5	327/6 328/6	یقین کا لغوی و اصطلاحی معنی	2
	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے	6	151/8	عین الیقین اور حق الیقین کی تعریف	3
681/5	انبیاء نہ ہونے کے دلائل	6		ایمان والوں کے ذکر کے بعد آخرت پر	4
	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت	7	552/8	یقین رکھنے والوں کا ذکر	
684/5	کے متعلق علامہ غلام رسول سعیدی صاحب	7		علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی	5
	کا موقف	7	963/12	تعریفات	
684/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح	8	396/12	یقینی چیز کی وضاحت	6
685/5	تاویل الاحادیث کے محامل	9		حضرت یوشع بن نون علیہ السلام	9
685/5	تکمیل نعمت کا بیان	10	149/3	حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کو ٹھہرانا	1
	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ان	11	144/7	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تعارف	2
687/5	سے نفرت کا سبب	11	148/7	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو فتی فرمانا	3
687/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں نشانیاں	12		حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام	4
	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انہیں	13	192/7	کے واقعہ میں حضرت یوشع علیہ السلام کا کردار	
692/5	قتل یا شہر بدر کرنے کا منصوبہ	13		سورۃ یوسف	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
732/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے جوابات کی وضاحت	27	707/5	حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا راستہ میں زد و کوب کرنا	14
733/5	وہم بہا کے ترجمہ کے دو محمل	28	708/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی سے مراد وحی نبوت ہے یا الہام؟	15
734/5	حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ صادر ہوا یا نہیں؟	29	708/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خبر نہ ہونے کے محامل	16
737/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ کی تہمت کا رد اور ابطال	30	708/5	والد سے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت	17
738/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکدامن ہونے پر متعدد شہادتیں	31	709/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر دینا	18
735/5 739-740/5	لولا ان را برہان ربہ کی تفسیر	32	719/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خبر کے من گھڑت ہونے کی وجوہ	19
741/5	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا	33	722/5	قافلہ والوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا	20
742/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی تہمت سے برأت	34	725/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کے متعلق متعدد روایات	21
743/5	عزیز مصر کی بیوی کو معافی مانگنے کی تلقین	35	726/5	کنعان سے مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچنے کی تفصیل	22
744/5	عورتوں کے مکر کا عظیم ہونا	36	727/5	عزیز مصر کی فراست	23
746/5	مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی اور ان کا منشاء	37	730/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پارسائی کا کمال	24
747/5	مصر کی عورتوں کی دعوت کا اہتمام	38	731/5	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا	25
748/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن کے متعلق احادیث و آثار	39	732/5	مخلوق کی بہ نسبت خالق سے حیا کرنا لائق ستائش ہے	26
749/5	مصری خواتین کا پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا	40			
749/5	حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کہنے کی توجیہ	41			
750/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت آزمائش	42			
751/5	حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا سبب	43			
752/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکبازی کی علامات	44			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
780/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق	61	752/5 776/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت	45
782/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا	62		حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانہ میں ساتی	46
	ہمارے نبی ﷺ کا حضرت یوسف علیہ السلام کی	63	754/5	اور نانبائی سے ملاقات	
784/5	تحسین کرنا			ساتی اور نانبائی کے بیان کردہ خواب سچے	47
	رہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توقف	64	755/5	تھے یا جھوٹے	
784/5	کرنے کی وجوہات			قید خانہ میں کھانا آنے سے قبل حضرت	48
785/5	”جیل بھرو تحریک“ کا عدم جواز	65	755/5	یوسف علیہ السلام کا کھانے کی خبر دینا	
	حضرت یوسف علیہ السلام کا تہمت لگانے والیوں	66		خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کھانے کے	49
785/5	کی تعیین نہ کرنا		756/5	متعلق پیش گوئی کی توجیہ	
785/5	مصر کی عورتوں کی سازش کی وجوہ	67		حضرت یوسف علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے	50
786/5	عزیز مصر کی بیوی کا اعتراف اور حصص کا معنی	68	758/5	اشارات	
	حضرت یوسف علیہ السلام نے پس پشت کسی کی	69	758/5	کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ	51
787/5	خیانت نہیں کی		759/5	مبداء اور معاد کے اقرار کی اہمیت	52
787/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی پر دلائل	70	760/5	اللہ کی نعمتوں کے اظہار کا جواز	53
	حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول کہ ”میں اپنے	71		حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں توحید باری	54
789/5	نفس کو بے قصور نہیں کہتا“		761/5	کی تقاریر	
	بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس	72		ساتی اور نانبائی کے خواب کی تعبیر	55
791/5	بلانا		765/5	خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت یوسف	56
	حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے متاثر	73	765/5	علیہ السلام کے ظن کی توجیہ	
792/5	ہونے کی وجوہات			حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلانے کے متعلق	57
	حضرت یوسف علیہ السلام کا رہا ہو کر بادشاہ کے	74	766-7667	روایات	
792/5	دربار میں جانا		5		
	حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے	75	778/5	مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا	58
793/5	خواب اور اس کی تعبیر بیان کرنا		778/5	اضغاث احلام کا لغوی و اصطلاحی معنی	59
	بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو صاحب	76		مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام	60
794/5	اقتدار اور امانت دار قرار دینا		779/5	کا ذکر کرنے کی توجیہ	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
820/5	بے قصور قافلہ والوں کو چور کہنا	89		طلب منصب کا عدم جواز اور حضرت یوسف علیہ السلام کے طلب منصب کی توجیہ	77
823/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا چور نہ ہونا	90	794/5	موجودہ طریق انتخاب پر حضرت یوسف علیہ السلام کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے جوابات	78
823/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا	91	795/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے حفیظ اور عظیم ہونے کے محامل	79
823/5	بھائیوں سے چور کی سزا معلوم کرنے کی وجہ	92	798/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی تعریف کرنے کا جائز ہونا	80
824-825 5	بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری کا الزام لگانا	93	799/5	ایام قحط میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انتظام	81
833/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی چوری	94	800/5	عزیز مصر کی بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح	82
835/5	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام سے فدیہ لینے کی درخواست کرنا	95	801/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت و نزاہت پر دلائل	83
838/5	بڑے بھائی کا واپس جانے سے انکار کرنا	96	803/5	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا اور اس کی وجوہ	84
839/5	بھائیوں کا واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ	97	807/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلہ لینے مصر پہنچنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انہیں پہچان لینا	85
841/5	غیب کے نگہبان نہ ہونے کے محامل	98		حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بلوا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید غم میں کیوں مبتلا کیا؟	86
841/5	بستی سے پوچھنے کے معانی	99	819/5	بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی تھیلی رکھنے کی وجوہ	87
842/5	بنیامین کے متعلق بات گھڑنے کی توجیہ	100	806/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا بنیامین کو یہ بتانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں	88
813/5	بھائیوں کا بنیامین کو ساتھ بھیجنے میں باپ کو تیار کرنا	101	808/5		
	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی بجائے غلہ کا سوال کیوں کیا؟	102	809/5		
847/5					
848/5	بھائیوں سے ان کے مظالم پوچھنے کی وجوہ	103			
850/5	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لینا	104	819/5		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
71/3	یوم فاروق اعظم نہ منانے پر سپاہ صحابہ کا احتجاج	4		حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا	105
71/3	عشرہ حکیم الامت منانے کا اعلان	5	850/5		
141/6	ایام اللہ کا معنی	6		حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اعتراف	106
786/7	یوم عقلمیہ کا معنی	7		خطا کرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انہیں معاف کر دینا	
452-456 10	بعض ایام کا منحوس ہونا	8	850/5		
	یوم حساب	13		حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا روشن ہونا	107
517/7	یوم حساب اگر قریب ہے تو آچکا ہوتا	1	851/5		
	یوم حشر	14		بہت فاصلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو پہنچنے کی توجیہ	108
331/1	حشر اجساد پر دلیل	1	856/5		
	قیامت کے دن گمراہ کرنے والے متبوعین کا اپنے تابعین سے بری ہونا	2		حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنا	109
627/1			860/5		
309/2	قیامت کے دن مومن و کفار کی علامات	3		حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی وفات کے باوجود ان کے والدین کو تخت پر بٹھانے کی توجیہ	110
	یوم عرفہ	15			
725/12	الوتر سے مراد یوم عرفہ اور اس کی فضیلت	1	860/5		
	یوم میلاد	16		حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہونے کی مدت میں متعدد اقوال	111
67/3	یوم میلاد النبی ﷺ کا عید ہونا	1	863/5		
	یوم میلاد پر خوشی منانے اور یوم وفات پر غم نہ منانے کا جواب	2		حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سجدہ کی توجیہات	112
260/7			863/5		
	یوم نحر	17		حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین	113
	والفجر سے مراد یوم نحر کی صبح اور اس کی فضیلت	1		حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑھیا کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالنا	114
720/12			869/5		
725/12	الشفع سے مراد یوم نحر ہے	2			
	سورہ یونس	18		یوم	12
			173/1	یوم کا عرفی و شرعی معنی	1
317/5	سورہ کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ	1	173/1	یوم قیامت کی مقدار	2
318/5	سورہ یونس کا زمانہ نزول	2	278/1	یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضرت یونس علیہ السلام کا غضب ناک ہو کر چلا جانا	13	318/5	سورۃ التوبہ اور سورۃ یونس کی آپس میں مناسبت	3
958/9			319/5	سورۃ یونس کے مسائل و مقاصد	4
	حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا	14	486/5	سورۃ یونس کے اختتامی کلمات و دعا	5
959/9				حضرت یونس علیہ السلام	19
	حضرت یونس علیہ السلام کا واپس اپنی قوم کی طرف جانا	15	469/5	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	1
960/9			469/5	حضرت یونس علیہ السلام کا نام و نسب	2
961/9	حضرت یونس علیہ السلام کے فضائل میں احادیث	16		حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن	3
	حضرت یونس علیہ السلام پر نعمت کے تدارک کی تفصیل	17	469/5	مجید کی آیات	
196/12			470/5	حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں احادیث	4
	یہود و نصاریٰ	20	470/5	حضرت یونس علیہ السلام کی سوانح	5
	یہود کی تلبیس اور کتمان حق	1		آثار عذاب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کرنا	6
370/1			474/5		
411/1	یہود کا انبیاء کو قتل کرنا	2		حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرنے اور فرعون کی توبہ قبول نہ کرنے کی وجہ	7
412/1	یہود پر ذلت کے باوجود اسرائیل کی حکومت	3			
	کیا موجودہ یہودیوں اور عیسائیوں کی فقط اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے سے نجات ہو جائے گی؟	4	474/5		
414/1				حضرت یونس علیہ السلام پر گرفت کی توجیہ اور نگاہ رسالت میں ان کا بلند مقام	8
436/1	یہود کا نفاق	5	475/5		
438/1	عذاب یہود کے مزعومہ چند دن	6		حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش پر سید مودودی کی تنقید	9
445/1	یہود مدینہ کا ایک دوسرے کو قتل کرنا	7		مودودی کی تنقید پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا تبصرہ	10
446/1	یہود کا انبیاء سے عناد رکھنا	8	476/5		
450/1	تورات پر یہود کا دعویٰ ایمان کا رد	9		حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	11
	یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ جنت کے فقط وہ مستحق ہیں	10	477/5		
452/1			956/9		
455/1	یہود کا جبرائیل کو اپنا دشمن کہنا	11		حضرت یونس علیہ السلام کا اہل نبیوی کی طرف مبعوث کیا جانا	12
	یہود کا آپ ﷺ پر ایمان لانے کے عہد کو توڑنا	12	957/9		
458/1					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
255/3	یہودیوں کے کسی عمل کا لائق شمار نہ ہونا	34	596/1	یہود و نصاریٰ کافروں میں تقسیم ہونا	13
	نزول قرآن سے ان کے کفر اور سرکشی کا زیادہ ہونا	35	517/1	یہود و نصاریٰ کی عدم اطاعت کی خبر	14
256/3				یہودیوں اور عیسائیوں نے کس شہادت کو چھپایا	15
257/3	صرف نیک عمل کرنے سے یہودیوں کی نجات	36	562/1		
420/3	یہودیوں کے لگائے ہوئے بہتانوں کی تفصیل	37	879/1	یہود کو سرزنش	16
405/4	یہودیوں میں نیکو کار اور بدکار	38	97/2	یہود کے جرائم پر سزائیں	17
645/6	یہودیوں کی دوبارہ سرکشی	39	179/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت	18
647/6	یہودیوں کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا	40	193/2	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت	19
736/8	یہودیوں کا کن امور میں اختلاف تھا؟	41	204/2	غیر یہودیوں کے مال کو جلال سمجھنا	20
	احکام تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے	42	317/2	مدینہ کے یہودیوں کی ذلت و خواری	21
882/11	یہود کی مذمت		317/2	یہودیوں کا ریاست قائم کرنا	22
884/11	یہود کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ	43	493/2	یہودیوں کا اسلام کے نظام زکوٰۃ پر اعتراض	23
	یہودیوں کا نبی ﷺ کو سلام کی صورت میں	44	498/2	کا جواب	
780/11	بد عادتینا اور آپ ﷺ کا جواب		686/2	یہود کی تحریف	24
	یہودیوں کی گستاخیوں کے باوجود ان پر فوراً	45	695/2	یہود کا بخل	25
782/11	عذاب نازل نہ کرنا		695/2	یہود کا حسد	26
860/11	یہود کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت	46	850/2	یہود کی نبی کریم ﷺ کے ساتھ سرکشی و عناد	27
			851/2	یہود کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی و عناد	28
			851-855 2	چار وجوہ سے یہود کا کفر	29
			876/2	سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر یہود کے اعتراض کا جواب	30
			191/3	نبی کریم ﷺ کا یہودی زانی کو رجم کرانا	31
			192/3	یہودیوں کا نبی کریم ﷺ پر ایمان نہ لانا	32
			223/3	یہودیوں کے متعلق قرآن کی اصطلاح	33



تفسیر تبیان القرآن کی بارہ جلدوں میں تکمیل کے بعد فریدنگ سٹال کی جانب سے باذوق قارئین کی سہولت کیلئے
مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی کی مبسوط و مفصل تفسیر اور ترجمہ و تشریح کی ایک جلد میں جامع تلخیص

بہ نام

انوار تبیان القرآن

ترجمہ قرآن بہ نام

نور الفتوح

تلخیص و مرتب: مولانا حافظ محمد عبد اللہ قادری نورانی زید علمہ

چند خصوصیات

- ☆ متن قرآن مجید کا سلیس رواں زبان میں مکمل ترجمہ،
 - ☆ قرآنی آیات سے مستنبط فقہی مسائل کا مختصر اور جامع تذکرہ،
 - ☆ عقائد اہل سنت و جماعت کی تائید اور ترجیح پر جامع دلائل،
 - ☆ مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی (مدظلہ العالی) کے علمی تحقیقات کا بہترین نچوڑ،
 - ☆ آیات قرآنیہ کی تفسیر میں احادیث و آثار کا مستند تذکرہ،
 - ☆ کتب تفاسیر و احادیث کے باضابطہ حوالہ جات،
 - ☆ قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے میں بہترین معاون اور مددگار،
 - ☆ مدرسین، مقررین، طلبہ اور عوام الناس کی ضرورت کے عین مطابق،
 - ☆ مسرت اور خوشی کے مواقع پر علمی تعاون اور محبت کے اظہار کے لیے خوب صورت تحفہ،
- یہ ایک ایسی تفسیر ہوگی جس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت صدیوں تک باقی رہے گی۔ انشاء اللہ العزیز

فون: 092-42-7312173

فیکس: 092-42-7224899

پیش کش: فریدنگ سٹال (رجسٹرڈ) ۳۸- اردو بازار لاہور



